

# إنْعَامُ الْبَارِي

دُرُوسٌ بخاري شريف

أفاد أثر

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب خطبہ انبعاث

جامعة دارالعلوم کراچی میں درس بخاری حضرت روان  
حضرت شیخ انصاری شاہ عین الدین فروزان و زین پور تقاریر

صحیح البخاری:الجزء الثاني  
کتاب المغازی (حصہ دوم)

(۲۷) باب فضیل و عربۃ (۴۰) باب کم غرایتی

رقم الحديث: ۳۱۴۲-۳۱۴۳

جلد - ۱

ضبط و ترتیب قریعہ و مراجعت  
محمد الفرجی سیر عقیقہ  
فاضل و متخصص جامعة دارالعلوم کراچی ۱۴

مکتبہ المحرر

Ph: 021-35046223, 35159291, Cell: 0300-3360816

E-mail: maktabahera@yahoo.com

website: www.deeneislam.com

## جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

العام الباری دروس صحیح البخاری کی طباعت و اشاعت کے جملہ حقوق زیر قانون کاپی رائٹ ایکٹ 1962ء۔

حکومت پاکستان بذریعہ نوٹیفیکیشن نمبر Copr F.21-2672/2006

رجسٹریشن نمبر Copr 17927-17927 (مکتبۃ الحرام) محفوظ ہیں۔

العام الباری دروس صحیح البخاری جلد ۱۰	نام کتاب
شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ	افادات
محمد انور حسین (فاضل و متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳۲)	ضبط و ترتیب تحریج و مراجعت
مکتبۃ الحرام، ۸، ۸، ڈبل روم "K" ای بی کورنگی، کراچی، پاکستان	ناشر
حراء کپوزنگ سینٹر فون نمبر: 35046223 21 0092	کپوزنگ
محمد انور حسین عفی عن	باہتمام

## ناشر: مکتبۃ الحرام

سکریٹریٹ 36A ڈبل روم، "K" ای بی کورنگی، کراچی، پاکستان۔

فون: 35046223 موبائل: 03003360816

E-Mail: maktabahera@yahoo.com & info@deeneislam.com

website: www.deeneislam.com

..... ﴿ ملنے کے پتے ﴾ .....

مکتبۃ الحرام فون: 35159291، 35046223، 03003360816 موبائل:

E-Mail: maktabahera@yahoo.com

- |     |   |
|-----|---|
| ۱۱۱ | ادارہ اسلامیات، موہن روڈ، چوک اردو بازار کراچی۔ فون 021 32722401    |
| ۱۱۲ | ادارہ اسلامیات، ۱۹۰، اناکلی، لاہور۔ پاکستان۔ فون 042 3753255        |
| ۱۱۳ | مکتبۃ معارف القرآن، جامعہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳۔ فون 021 35031565 |
| ۱۱۴ | ادارۃ المعارف، جامعہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳۔ فون 021 35032020      |
| ۱۱۵ | دارالاشاعت، اردو بازار کراچی۔ فون 021 32631861                      |



## افتتاحیہ

از: شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی

شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا و مولانا  
محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و قائد الفر المھجلین ، وعلى آلہ و اصحابہ  
اجمعین ، وعلى كل من تبعهم بیا حسان إلى يوم الدین .

اما بعد :

۲۹ ربیعی الحجہ ۱۴۱۹ھ بروز ہفتہ کو بندے کے استاذ معظم حضرت مولانا "سحبار محمد" صاحب قدس سرہ کا حادثہ وفات پیش آیا تو دارالعلوم کراچی کے لئے یہ ایک عظیم سانحہ تھا۔ دوسرے بہت سے مسائل کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ صحیح بخاری کا درس جو سالہاں سے حضرتؐ کے پروردہ تھا، کس کے حوالہ کیا جائے؟ بالآخر یہ طے پایا کہ یہ ذمہ داری بندے کو سونپی جائے۔ میں جب اس گرانبار ذمہ داری کا تصور کرتا تو وہ ایک پہاڑ معلوم ہوتی۔ کہاں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی یہ پور کتاب، اور کہاں مجھے جیسا مغلس علم اور تھی دست عمل؟ دور دور بھی اپنے اندر صحیح بخاریؓ پڑھانے کی صلاحیت معلوم نہ ہوتی تھی۔ لیکن بزرگوں سے سنی ہوئی یہ بات یاد آئی کہ جب کوئی ذمہ داری بڑوں کی طرف سے حکماً ذاتی جائے تو اللہ ﷺ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ اس لئے اللہ ﷺ کے بھروسے پر یہ درس شروع کیا۔

عزیز گرامی مولانا محمد انور حسین صاحب سلہ مالک مکتبہ الحراء، فاضل و متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے یہ تقریر ضبط کی، اور پچھلے چند سالوں میں ہر سال درس کے دوران اس کے مسودے میری نظر سے گزرتے ہیں اور کہیں کہیں بندے نے ترمیم و اضافہ بھی کیا ہے۔ طلبہ کی ضرورت کے پیش نظر مولانا محمد انور حسین صاحب نے اس کے "کتاب بدء الوحی" سے "کتاب النکاح" آخر تک کے حصوں کو نہ صرف کپیوٹر پر کپوڑ کرالیا، بلکہ اس کے حوالوں کی تحریج کا کام بھی کیا جس پر ان کے بہت سے اوقات، محنت اور مالی وسائل صرف ہوئے۔

دوسری طرف مجھے بھی بحیثیت مجموعی اتنا اطمینان ہو گیا کہ ان شاء اللہ اس کی اشاعت فائدے سے خالی نہ ہوگی، اور اگر کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں گی تو ان کی صحیح جاری رہ سکتی ہے۔ اس لئے میں نے اس کی اشاعت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ لیکن چونکہ یہ نہ کوئی باقاعدہ تصنیف ہے، نہ میں اس کی نظر ثانی کا اتنا اہتمام کر سکا ہوں جتنا کرنا چاہئے تھا، اس لئے اس میں قابل اصلاح امور ضرور ہے گے ہوں گے۔ اہل علم اور طلبہ مطالعے کے دوران جو ایسی بات محسوس کریں، برآہ کرم بندے کو یا مولانا محمد انور حسین صاحب کو مطلع فرمادیں تاکہ اس کی اصلاح کر دی جائے۔

تدریس کے سلسلے میں بندے کا ذوق یہ ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پر اکتفا کرنے کے بجائے سبق شروع سے آخر تک توازن سے چلے۔ بندے نے تدریس کے دوران اس اسلوب پر عمل کی حتی الوع کوشش کی ہے۔ نیز جو خالص کلامی اور نظریاتی مسائل ماضی کے ان فرقوں سے متعلق ہیں جواب موجود نہیں رہے، ان پر بندے نے اختصار سے کام لیا ہے، تاکہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہو جائے، لیکن ان پر طویل بحثوں کے نتیجے میں دوسرے اہم مسائل کا حق تلف نہ ہو۔ اسی طرح بندے نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ جو مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہو جائے، اور احادیث سے اصلاح اعمال و اخلاق کے بارے میں جو عظیم روایات ملتی ہیں اور جو احادیث پڑھنے کا اصل مقصد ہوئی چاہئیں، ان کی عملی تفصیلات پر بقدر ضرورت کلام ہو جائے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ بندہ ناکارہ اور اس تقریر کے مرتب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں۔ جزاً احمد اللہ تعالیٰ۔

مولانا محمد انور حسین صاحب سلمہ نے اس تقریر کو ضبط کرنے سے لیکر اس کی ترتیب، تحریج اور اشاعت میں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی بہترین جزاً انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائیں، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائ کر اسے طلبہ کے لئے نافع بنائیں، اور اس ناکارہ کے لئے بھی اپنے فضل خاص سے مغفرت و رحمت کا وسیلہ بنادے۔ آمین۔

جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۴۲۷ھ

کاربب الرجب ۹۳۲ھ

بہ طابق ۲۰۱۸ء برداشت

بندہ محمد تقی عثمانی

جامعہ دارالعلوم کراچی

## عرض ناشر

**نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم**

اما بعد۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کا درس سالہ ماں سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولانا سحابان محمود صاحب قدس سرہ کے پروردہ ۲۹ ربیعہ ۱۴۱۹ھ بروز ہفتہ کو شیخ الحدیث کا سانحہ ارتحال پیش آیا تو صحیح بخاری شریف کا یہ درس موئرخہ ۲ رمح�م الحرام ۱۴۲۰ھ بروز بده سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے پروردہوا۔ اسی روز صبح ۸ بجے سے مسلسل ۲ سالوں کے دروس (کتاب بدء الورحی) سے کتاب رد الجهمیۃ علی التوحید، ۷ و ۹ کتب) نیپریکارڈ کی مدد سے ضبط کئے گئے۔ یہ سب کچھ احقر نے اپنی ذاتی وجہ پس اور شوق سے کیا، استاد محترم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ مواد کتابی شکل میں آجائے تو بہتر ہوگا، اس بناء پر احقر کو ارشاد فرمایا کہ اس مواد کو تحریری شکل میں لا کر مجھے دیا جائے تاکہ میں اس میں سبقاً سبقاً نظر ڈال سکوں، چنانچہ ان دروس کو تحریر میں لانے کا بامباری تعالیٰ آغاز ہوا اور اب بحمد اللہ تعالیٰ ۱۲ جلدیں ”انعام الباری شرح صحیح البخاری“ کے نام سے طبع ہو چکی ہیں۔

یہ کتاب ”انعام الباری شرح صحیح البخاری“ جواب کے ہاتھوں میں ہے: یہ بڑا قیمتی علمی ذخیرہ ہے، استاد موصوف کو اللہ ﷺ نے جس تحریر علمی سے نوازا ہے اس کی مثال کم ملتی ہے، حضرت جب بات شروع فرماتے ہیں تو علوم کے دریا بہنا شروع ہو جاتے ہیں، علوم و معارف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد خلاصہ عطر ہے وہ ”انعام الباری شرح صحیح البخاری“ میں دستیاب ہے، آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف تفقہ علمی و تشریحات، ائمہ اربعہ کے فقہی اختلافات پر محققانہ مدلل تبصرے علم و تحقیق کی جان ہیں۔

صاحبان علم کو اگر اس کتاب میں کوئی ایسی بات محسوس ہو جوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہو اور ضبط و نقل میں ایسا ہونا ممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور از راہ عنایت اس پر مطلع بھی فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ ﷺ اسلاف کے ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے، اور ”انعام الباری شرح صحیح البخاری“ کے بقیہ جلدوں کی تکمیل کی بآسانی اور توفیق عطا فرمائے تاکہ حدیث و علوم حدیث کی یہ امانت اپنے اہل سکن پہنچ سکے۔

آمين یا رب العالمین۔ و ما ذلک علی اللہ بعزیز

بندہ: محمد انور سعید عفی عنہ

فاضل و مخصوص جامعہ دارالعلوم کراچی

۷ اربیوبالرب ۹۳۴ھ ب طابق ۲ رابریل ۱۴۱۸ھ بروز بده

# خالد بن القيسر



تسلسل	كتاب	رقم الترميٹ	صفة
٦٤	كتاب المغازي	٤٤٧٣ - ٤١٩٢	٣١
	قصة عكل وعرينة - غزوة ذى قرد	٤١٩٤ - ٤١٩٢	٣١
	غزوة خيبر	٤٢٤٩ - ٤١٩٥	٤١
	غزوة زيد بن حارثة - عمرة القضاء	٤٢٥٩ - ٤٢٥٠	١٣١
	غزوة موتة من ارض الشام - بعث النبي		١٤٧
	أُسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة	٤٢٧٣ - ٤٢٦٠	
	غزوة الفتح	٤٣١٣ - ٤٢٧٤	١٧١
	غزوة حنين - غزوة أوطاس - غزوة الطائف	٤٣٣٧ - ٤٣١٤	٢٥١
	السرية التي قبل نجد - الى حجج ألى بكر الناس	٤٣٦٤ - ٤٣٣٨	٢١١
	وفد بنى تميم - الى قصة وفد طوى	٤٣٩٤ - ٤٣٦٥	٢٧٩
	حجة الوداع	٤٤١٤ - ٤٣٩٥	٤٥٣
	باب غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة	٤٤٢٧ - ٤٤١٥	٤٧١
	باب مرض النبي ووفاته	٤٤٧٠ - ٤٤٢٩	٥٣٥
	باب كم غزا النبي ؟	٤٤٧٣ - ٤٤٧١	٥٨٩

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۳	خیبر کی پیشگوئی	۳	افتتاحیہ
۵۳	گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت	۵	عرض ناشر
۵۵	ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا واقعہ	۲۱	عرض مرتب
۵۶	حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا خواب	۳۳	(۷۳) باب قصہ عکل و عربیۃ
۵۷	آزادی بطور مہر	۳۳	عقل و عربیۃ قبائل کا قصہ
۵۸	آہستہ آواز سے ذکر کی تلقین	۳۴	تسامت کا مسئلہ
۶۱	عمل بالجاترہ کا اعتبار	۳۶	(۷۸) باب غزوۃ ذات قرود
۶۲	ترجیح	۳۶	غزوۃ ذات قرود کا بیان
۶۶	خلاصہ کلام	۳۶	وجہ تسلیہ
۶۶	ترجیح	۳۶	غزوۃ ذات القرد کب پیش آیا؟
۶۸	یہود کی مشابہت سے ممانعت	۳۶	سلمہ بن اکوئی رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہادری
۶۹	ترجیح	۳۸	
۷۰	فارج قلعہ تووص	۳۸	
۷۱	جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت پہنچانے کا حکم	۳۹	(۳۹) باب غزوۃ خیبر
۷۲	حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ولیہ کا واقعہ	۳۹	غزوۃ خیبر کا بیان
۷۵	قیدی سے ام المؤمنین ہونے کا اعزاز	۳۹	غزوۃ خیبر کا پس منظر
۷۵	مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے استعمال کا حکم	۴۵	خیبر پر حملہ
۷۶	لہسن کھانے کی ممانعت	۴۵	ترجیح
۷۷	ترجیح	۴۸	ترجیح
۷۷	متعہ کا مفہوم	۴۸	عرب میں شاعری کا آغاز
۷۸	حرمت متعہ	۴۹	اشکال اور جواب
۷۹	حرمت متعہ کی آہت متدل پر اشکال	۵۰	رسول اللہ ﷺ کی طرف سے شہادت کی بشارت
۷۹	اشکال کا جواب	۵۲	ترجیح

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۱	مفتودار ارضی کے بارے میں فاروقی	۸۱	رخصت ہے حلت نہیں
۸۲	اعظم ﷺ کا فیصلہ	۸۲	رفع تعارض
۸۳	حضرت عمر ﷺ کی پالیسی	۸۳	گھوڑے کا گوشت کھانے کا مسئلہ
۸۴	بعض صحابہ ﷺ کا حضرت عمر ﷺ کی پالیسی	۸۴	تحریک
۸۵	سے اختلاف	۸۵	تحریک
۸۶	حضرت عمر ﷺ کی تقریر	۸۶	مال غنیمت میں گھر سوار کا حصہ
۸۷	متفق علیہ مسئلہ	۸۷	جمہور کا مسلک
۸۸	مختلف فیہ مسئلہ	۸۸	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک
۸۸	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا موقف	۸۸	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال
۸۹	امام شافعی رحمہ اللہ کا قول	۸۹	حدیث میں تقطیق
۸۹	امام مالک رحمہ اللہ کا قول	۸۹	امام مالک کا اختیار حاصل ہے
۹۰	امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے اقوال میں فرق	۹۰	نصرت و مدد و کو قرابت پر فوقیت
۹۳	قویٰ طکیت میں لینے پر استدلال درست نہیں	۹۳	اشعرین کا یمن سے جہش چکنے کا واقعہ
۹۳	مصلحت عامہ کے تحت زمینیں لینے پر استدلال	۹۳	جزیرہ العرب کی جغرافیائی حدود
۹۴	تحدید طکیت کے جائز و ناجائز طریقے	۹۴	جہش سے مدینہ منورہ کی جانب اجرا
۹۵	واقعی کی تفصیل	۹۵	اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا
۹۶	واقعہ ندک کی حقیقت	۹۶	ahl سفینہ کی قدر دانی اور ان سے قرابت
۹۶	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۹۶	ابوموسی اشعری ﷺ کی اس حدیث کی ساعت
۹۷	میرا موقف	۹۷	کیلئے بیتابی
۹۸	(۳۰) باب استعمال النبی ﷺ علی	۹۸	نبی کریم ﷺ کی اشعرین سے الفت و محبت
۹۹	أهل خیر	۹۹	کڑائی کے بعد شریک ہونے والوں کیلئے مال غنیمت کا حکم
۱۰۰	آنحضرت ﷺ کا اہل خیر پر عامل مقرر کرنے	۱۰۰	تحریک
۱۰۱		۱۰۱	تقسیم سے قبل مال غنیمت سے اٹھانا بھی حرام

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۲	رجب میں عمرہ	۱۲۶	کاہیان
۱۲۳	طواف کے دوران رمل کا حکم	۱۲۶	بٹائی کا معاملہ
۱۲۵	حالت احرام میں نکاح		
			(۳۱) باب : معاملۃ النبی ﷺ اہل
			خبر
	(۳۵) باب غزوۃ موتہ من ارض	۱۲۷	الخیر کے ساتھ نبی ﷺ کے معاملہ کاہیان
۱۲۹	الشام	۱۲۷	
۱۲۹	غزوۃ موتہ کاہیان، جو ملک شام میں ہے		(۳۲) باب : الشاة التي سمّت للنبي ﷺ
۱۳۰	غزوۃ موتہ کا پس منظر		بخبر
	یکے بعد دیگرے تین امیروں کو مقرر کرنا	۱۲۸	خبر میں نبی ﷺ کیلئے زہر آلو و بکری کاہیان
	صحابہ ﷺ کا مشورہ اور عبد اللہ بن رواحہ ﷺ کی	۱۲۸	بھنی ہوئی بکری میں زہر دینے کا واقعہ
۱۵۲	ولولہ انگریز تقریر	۱۲۸	
۱۵۲	حضرت جعفر ﷺ کے جسم پر زخم		
۱۵۷	تعارض اور اس کا جواب	۱۳۳	(۳۳) باب : غزوۃ زید بن حارثة
۱۵۸	نوح کرنے سے ممانعت	۱۳۳	زید بن حارثہ ﷺ کے غزوۃ کاہیان
۱۶۰	نوح اور بیان کرنے پر عذاب	۱۳۳	سری ہنوفزارہ
			زید بن حارث اور ان کے بیٹے اسامہ سے
	(۳۶) باب : بعث النبی ﷺ اسامة بن	۱۳۵	مجت
۱۶۳	زید الی العرقات من جهينة		
	نبی کریم ﷺ کا حضرت اسامة بن زید ﷺ کو	۱۳۶	(۳۴) باب : عمرۃ القضاۃ
۱۶۳	قبیلہ جہینہ کی قوم حرقات کی طرف بھینے کاہیان	۱۳۶	عمرۃ قضاۃ کاہیان
	زبان سے کہہ بھی دیا لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَوَبْحِي قتل	۱۳۷	ایک اٹکال اور اس کا جواب
۱۶۴	کیا؟		صحابہ ﷺ کا جوش اور عبد اللہ بن رواحہ ﷺ کے
۱۶۶	اسامة ﷺ کے امیر ہونے کی غلط بھی کا ازالہ	۱۳۸	اشعار
۱۶۶	کلمہ گو مسلمان کی تکفیر جائز نہیں	۱۳۹	حضرت عمرۃ ﷺ کی بیٹی کے ساتھ آنے کا واقعہ

عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
یوم الفتح؟	۱۶۷	مکر و معلم کا حکم	۱۹۱
فتح کے دن نبی ﷺ نے پر جم کھاں نصب فرمایا؟	۱۶۸	قادر یا نبیوں کی اپنے آپ کو مسلم کہنے پر دلیل ضابطہ تکفیر	۱۹۱
ابوسفیان کی گرفتاری اور قبول اسلام	۱۷۳	(۲۷) باب: غزوۃ الفتح	۱۹۳
ابوسفیان پر مسلمانوں کی اظہار شوکت کا حکم	۱۷۳	غزوۃ فتح یعنی فتح کے ہمارے میں بیان	۱۹۵
”ذمار“ کے معنی	۱۷۳	پس منظر	۱۹۶
کعبہ کی عظمت کی واپسی کا دن	۱۷۳	بنو بکر کا بنو خزاعہ پر حملہ اور قریش کی معاونت	۲۰۰
نبی کریم ﷺ دشمن پر بھی سایہ رحمت	۱۷۳	بنو خزاعہ کی نبی کریم ﷺ سے مدد کی درخواست	۲۰۱
ترجع کا مطلب	۱۷۳	تجدد معاہدہ کیلئے ابوسفیان کی مدینہ آمد	۲۰۲
کہ کے گھروں میں میراث اور تبعیق و شراء کا بیان	۱۷۵	غزوۃ فتح کی تیاری کا حکم	۲۰۲
امام بن حارثیؓ کا استدلال	۱۷۷	تحریخ	۲۰۳
مدار اخلاف	۱۷۹	یہ انتہائی کارروائی تھی	۲۰۴
سلک امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ	۱۸۰	بے کسی کی وجہ سے خط لکھا	۲۰۴
تباعین دارین اور اخلاف فودین سے میراث پر اثر	۱۸۲	کفار سے دوستی کی حدود	۲۰۴
روایات کے درمیان اخلاف	۱۸۵	(۲۸) باب غزوۃ الفتح فی رمضان	۲۰۵
خف میں قیام	۱۸۵	غزوۃ فتح کا بیان جو رمضان میں ہیں آیا	۲۰۶
تحریخ	۱۸۶	جہاد میں روزہ کا حکم	۲۰۷
ابن خطل کا قتل	۱۸۷	آخری عمل کا دار و مدار	۲۰۸
حرم کے اندر قتل کرنے کا حکم	۱۸۹	تحریخ	۲۰۹
سارے بت گئے	۱۹۰	دوران سفر روزہ رکھنے کا اختیار	۲۱۱
تحریخ		(۲۹) باب: آہن رکز النبی ﷺ الرایہ	۲۱۲
تیروں کے ذریعے فال نکالنا			۲۱۳

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۶	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک	۲۱۳	(۵۰) باب دخول النبی ﷺ من اعلیٰ مکہ
۲۲۷	(۵۳) باب مقام النبی ﷺ بمکہ (من الفتح)	۲۱۴	نبی کریم ﷺ کا اعلیٰ مکہ کی جانب سے داخل ہونے کا بیان روایات میں تلقین
۲۲۸	نبی کریم ﷺ کا لمحہ کے وقت مکہ میں شہرنے کا بیان روایات میں تعارض کا جواب	۲۱۵	بیت اللہ کی پاسبانی بنو شیرہ کا اعزاز
۲۲۸	(۵۳) باب	۲۱۸	(۵۱) باب منزل النبی ﷺ یوم الفتح
۲۲۸	یہ باب ترجمۃ الباب سے خالی ہے	۲۱۸	فتح مکہ کے دن نبی کریم ﷺ کے اتر نے کی جگہ کا بیان
۲۳۰	شودھ کے متلاشی	۲۱۸	عارضی اور مستقل قیام کی وضاحت
۲۳۲	نا بالغ کی امامت کا مسئلہ	۲۱۹	(۵۲) باب
۲۳۳	نشایع بخاری	۲۱۹	یہ باب بلا عنوان ہے
۲۳۳	عبد بن زمعہ کا قصہ جو فتح مکہ میں پیش آیا	۲۱۹	تمکیل نہت پر حمد و استغفار کا حکم
۲۳۵	نشایع حدیث	۲۲۰	نزول سورت: فتح کی علامت یا وفات کی خبر؟
۲۳۷	فتح مکہ کی اہمیت و حیثیت	۲۲۰	تشریع
۲۳۸	ہجرت ختم ہونے کا نکتہ نظر	۲۲۱	ابو شریع ﷺ کی نصیحت کا اپس منظر
۲۳۹	تشریع	۲۲۲	سلطان یا جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کا انداز
۲۳۹	ہجرت تو ختم، لیکن جہاد باقی	۲۲۳	دعوت، تبلیغ کا اسلوب و انداز
۲۴۰	واعظ مکہ	۲۲۶	دعوت میں موڑ حکم بالغ
۲۴۱	ہجرت کا مقصد	۲۲۶	حرم میں پناہ کا مسئلہ اور اختلاف ائمہ
۲۴۱	ہجرت کی نیت	۲۲۶	امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک
۲۴۱	خلاصہ کلام		
۲۴۵	فتح مکہ کے روز نبی کریم ﷺ کا خطبہ		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۶۰	روایتوں میں تبیق غینیمت کی تقسیم کا واقعہ اور قبلہ ہوازن کا قبول	۲۳۵	لقطہ کا حکم نبی کریم ﷺ کی طرف حلہ و حرمت کی نسبت
۲۶۲	اسلام	۲۳۶	(۵۵) باب قول اللہ تعالیٰ:
۲۶۳	اسلام میں ایثار و قربانی کی بنیظیر مثال	۲۴۰	﴿وَيَوْمَ حُنِينٍ إِذَا أَغْجَبَتْكُمْ كُفْرُكُمْ لَكُمْ لُفْنٌ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ لُمْ وَلَيْثُمْ مُذَبِّرِينَ﴾ الی قوله: ﴿غَفُورٌ رِّحِيمٌ﴾
۲۶۴	حدیث کی تشرع	۲۴۱	ارشاد پاری تعالیٰ ہے:
۲۶۵	مجمع میں اجتماعی منظوری کافی نہیں	۲۴۲	﴿وَأَوْرَادُ خَنِینٍ كُثُرٌ تَهَارِي تَعْدَادُكِي كُثُرٌ كَرْدِيَا تَهَا، مَكْرُوهٌ كُثُرٌ تَعْدَادُ تَهَارِي كَرْدِيَا كَامٌ نَدَآئِي، اُور زَمِنِ اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر بخک ہو گئی، پھر تم نے پیش وکھا کرمیدان سے زخم موڑ لیا ہے یہاں سے آگے اس آہت تک ﴿اورا اللہ بہت بخشنے والا، بِرَاہِیان ہے﴾
۲۶۶	اسلامی سوشل ایڈم اور اس کی حقیقت	۲۴۳	غزوہ خنین کا پس منظر
۲۶۷	زمانہ جاہلیت کی نذر کا حکم	۲۴۴	تشرع
۲۶۸	حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ	۲۴۵	تشرع
۲۶۹	مقتول کے سلب کا حکم	۲۴۶	واقعہ غزوہ خنین
۲۷۰	سلب کے بارے میں کس وقت اعلان کیا جائے گا؟	۲۴۷	ایک اشکال کا ازالہ
۲۷۱	لنظر "لا ها اللہ الا ذا" پر بحث	۲۴۸	حسب حال و حقیقت حال کا بیان تفاخر نہیں
۲۷۲	تشرع	۲۴۹	دین اور نبی ﷺ پر کوئی عار نہیں
۲۷۳	(۵۶) باب غزوہ او طاس	۲۵۰	
۲۷۴	غزوہ او طاس کا بیان	۲۵۱	
۲۷۵	ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی شہادت	۲۵۲	
۲۷۶	(۵۷) باب غزوہ الطائف فی شوال	۲۵۳	
۲۷۷	سنہ لیان	۲۵۴	
۲۷۸	غزوہ طائف کا بیان، جو شوال ۸ھ میں ہوا	۲۵۵	
۲۷۹	طائف کا محاصرہ	۲۵۶	
۲۸۰	شهر طائف کا محل و موقع	۲۵۷	

صفہ	عنوان	صفہ	عنوان
۲۸۶	(۶۰) باب سریۃ عبد اللہ بن حذافہ	۲۸۷	طاںف سے واپسی
۲۸۸	السہمی، وعلقمة بن مجزز المدلجمی.	۲۸۸	مخت کو عورتوں کے پاس آنے کی ممانعت
۲۹۰	ویقال: إِنَّهَا سریۃ الْأَنْصاری	۹۰	نبی کرم ﷺ کا واپسی کا ارادہ
۲۹۱	عبد اللہ بن حذافہ کہی ﷺ اور علقمہ بن	۲۹۱	نشاء امام بخاری
۲۹۲	مجزز مدحی ﷺ کے سریۃ کا بیان اور اس کو سریۃ	۲۹۲	ابو بکرۃ ﷺ کا قلعہ طائف کی فصل پھاند کر آنا
۲۹۳	انصاری بھی کہا جاتا ہے	۲۹۳	بادپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت
۲۹۴	سریۃ انصاری کا پس منظر	۲۹۴	بھرا نہ کی حدود
۲۹۵	آگ میں داخل ہونے کا حکم	۲۹۵	تبرک مال وزر سے بہتر ہے
۲۹۶	امیر اور حاکم کی اطاعت واجب ہے	۲۹۶	نزولی وحی کی کیفیت کا مشاہدہ
۲۹۷	حاکومت پر دباؤ دانے کا موجودہ طریقہ	۲۹۷	حالتِ احرام میں خوشبو کا حکم
۲۹۸	موجودہ ہر تالوں کا شرعی حکم	۲۹۸	مؤلفۃ القلوب کو نوازنے کی حکمت
۲۹۹	حاکومت پر دباؤ دانے کا صحیح طریقہ	۲۹۹	جپ مال پر حضور ﷺ کی صبر و اصلاح کی تلقین
۳۰۰	حدیث الباب اور آگ میں کو دنے کا حکم	۳۰۰	طلقاء سے مراد
۳۰۱	حضرت عبد اللہ بن حذافہ کہی ﷺ کی عزیمت	۳۰۱	(۵۸) باب السریۃ النبی ﷺ قبل نجد
۳۰۲		۳۰۲	نبی ﷺ کا نجد کی طرف سریۃ بھیجنے کا بیان
۳۰۳	(۶۱) باب بعث ابی موسی و معاذ	۳۰۳	سریۃ نجد
۳۰۴	الی الیمن قبل حجۃ الوداع	۳۰۴	(۵۹) باب بعث النبی ﷺ خالد بن
۳۰۵	حجۃ الوداع سے پہلے ابو موسیٰ اور معاذ کو میں	۳۰۵	الولید الی بنی جذیمة
۳۰۶	روانہ کرنے کا بیان	۳۰۶	نبی جذیرہ کی طرف نبی ﷺ کا خالد بن ولید کو
۳۰۷	یمن بھیجنے کا مقصد	۳۰۷	روانہ کرنے کا بیان
۳۰۸	حدود اللہ کے نفاذ میں جلدی	۳۰۸	سریۃ بخوجذیرہ
۳۰۹	صحابہ کرام ﷺ کا اعمال کے بارے آپس میں	۳۰۹	اجتہادی غلطی کے سبب قتل
۳۱۰	محاسبہ	۳۱۰	
۳۱۱	تشريع	۳۱۱	

عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
زبردستی اسلام قبول کروانا مقصود نہیں	۳۵۲	تفریغ	۳۳۵
(۶۲) باب هزوہ ذات السلام	۳۵۵	(۶۲) باب بعث علی بن ابی طالب و خالد بن الولید رضی اللہ عنہما الی الیمن قبل حجۃ الوداع	۳۲۸
غزوہ ذات السلام کا بیان	۳۵۵	علی بن ابی طالب اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حجۃ الوداع سے پہلے یمن روائی کا بیان	۳۲۷
غزوہ ذات السلام کا پس منظر	۳۵۵	حضرت علی اور حضرت خالد رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجنے کا مقصد	۳۲۷
وجہ تسبیہ	۳۵۶	حضرت علیؑ کو خس میں اختیار تھا	۳۲۹
حضرت عمرو بن العاص ﷺ کی مد برانہ حکمت	۳۵۷	ایک اشکال اور اس کے جوابات	۳۲۱
عملی	۳۵۷	اشکال دور کرنے کی آسان صورت رسول امین ﷺ پر سور والرام؟	۳۲۲
سوال پوچھنے سے عمرو بن العاص ﷺ کا مقصد	۳۵۸	ظاہری حالت پر اعتبار	۳۲۳
عائشہ رضی اللہ عنہا محبوب ترین بنتی	۳۵۹	خوارج کے خروج کی پیش گوئی	۳۲۵
(۶۵) باب ذهاب جریر الی الیمن	۳۶۱	قرآن کا حکم	۳۲۶
حضرت جریرؓ کا یمن کی طرف جانے کا بیان	۳۶۱	(۶۲) هزوہ ذی الخلصہ	۳۲۹
جریرؓ کی تبلیغ اسلام کیلئے یمن روائی	۳۶۲	غزوہ ذی الخلصہ کا بیان	۳۲۹
نبی کریمؓ کی وفات کے بارے میں خبر	۳۶۳	پس منظر	۳۲۹
خلافت و مشاورت کی برکت و فضیلت	۳۶۵	کعبہ شامیہ کہنے پر اشکال و جواب	۳۵۰
(۶۶) باب غزوہ سيف البحر، وهم يتلقون عیور القریش، وأمیرهم أبو عبدة بن الجراحؓ	۳۶۷	حضرت جریرؓ کے لئے دعاء	۳۵۲
غزوہ سيف البحر کا بیان، مسلمان اس میں قاتلہ قریش کے مفتر تھے، اُنکے امیر ابو عبدة بن جراحؓ تھے	۳۶۷	تفریغ	۳۵۲

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۸۷	(۷۰) باب ولد عبد القیس وقد عبد القیس کا بیان	۳۶۷	پس منظر
۳۸۷	بخرین کا محل و موقع	۳۶۹	سری سیف البحر کا قصہ
۳۸۷	وقد عبد القیس کی حاضری کا پس منظر	۳۷۱	حدیث عنبر
۳۹۰	نبیذ کے معاملے میں احتیاط	۳۵۶	قطع کے وقت حکومت کو اختیار
۳۹۳	بعد عصر نماز پڑھنے کا مسئلہ	۳۷۲	قیس بن سعد <small>رض</small> کی سخاوت
۳۹۵	روایات میں تعارض اور اس کا حل	۳۷۳	شرع
۳۹۷	شرع	۳۷۴	(۷۱) باب حج ابی بکر بالناس فی سنۃ تسع
۴۰۱	(۷۲) باب ولد بنی حنیفة، و حدیث لعمامة بن ائمہ	۳۷۵	۷۹ میں حضرت ابو بکر <small>رض</small> کا لوگوں کو حج کرانے کا بیان
۴۰۹	وقد بنو حنیفة اور شامہ بن ائمہ کے قصہ کا بیان	۳۷۵	ابو بکر صدیق <small>رض</small> کی امارت میں فریضہ حج کی ادائیگی
۴۰۹	شامہ بن ائمہ <small>رض</small> کے قبول اسلام کا واقعہ	۳۷۵	ادائیگی
۴۱۱	اہل عرب کی بلاغت اور جرأت	۳۷۷	شرع
۴۱۳	قبائل عرب کے وفوڈ کی حاضری کا سال	۳۸۱	(۷۲) باب ولد بنی تمیم
۴۱۳	وقد بنو حنیفہ کے ہمراہ مسلمہ کذاب کی مدینہ آمد	۳۸۱	بنو تمیم کے وفد کا بیان
۴۱۶	خواب کی تعبیر	۳۸۱	قبول بشارت اور مراج شناسی
۴۱۸	زمانہ جاہلیت کے احوال	۳۸۲	(۷۳) باب
۴۲۱	(۷۴) باب لصۃ الاسود العنی	۳۸۲	یہ باب ترجمۃ الباب سے خالی ہے
۴۲۱	اسود عنی کے قصہ کا بیان	۳۸۲	بنو تمیم کی خصوصیات
۴۲۲	اسود عنی کا دعویٰ نبوت اور خاتمه	۳۸۲	حقوق کی ادائیگی میں حدود و ادب کا تقاضہ
۴۲۳	نشاء امام بخاری	۳۸۳	
۴۲۳	سند کے بارے میں تحقیق		

عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
آمد	۳۲۱	مسیلمہ کذاب کا مدینہ میں قیام	۳۲۳
حضرت عبد اللہ بن مسعود <small>رض</small> کی فضیلت	۳۲۲	(۷۳) باب قصہ اہل نجران	۳۲۷
مرغی اور طبی ذوق	۳۲۳	اہل نجران کے قصہ کا بیان	۳۲۷
کفارہ بیٹن	۳۲۸	مباهلہ کی تعریف	۳۱۸
یمن؛ ایمان و حکمت کی سرز میں	۳۲۷	نبی کریم <small>صلی اللہ علیہ و آله و سلم</small> اور اہل نجران کے درمیان مکالمہ	۳۱۸
اوٹ اور اہل چلانے والے خخت دل	۳۲۷	اس امت کے ایمین ابو عبیدہ بن جراح <small>رض</small>	۳۱۹
مشرق؛ فتوں کی سرز میں	۳۲۸	حضرت ابو عبیدہ بن جراح <small>رض</small> کا تعارف	۳۲۰
فردواد پر اطلاق درست نہیں	۳۲۹	کفر و اسلام کی کشمکش؛ بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل	۳۲۰
حضرت ابن مسعود <small>رض</small> کا قرأت قرآن میں	۳۲۰	مقرب و محبوب صحابی رسول <small>صلی اللہ علیہ و آله و سلم</small>	۳۲۱
مرتبہ و مقام	۳۲۰	کبار صحابہ <small>رض</small> کی نظر میں آپ کا مقام	۳۲۱
علقہ رحمہ اللہ کی فضیلت	۳۲۲	فائز شام ابو عبیدہ بن جراح <small>رض</small>	۳۲۲
(۷۴) باب قصہ دوس والطفیل بن	۳۲۲	زہد و تقویٰ کے دائی	۳۲۳
عمرو الدوسی	۳۲۵	طاغون سے نصیب شہادت	۳۲۳
قبیلہ دوس اور طفیل بن عمرو دوسی کے قصہ کا بیان	۳۲۵	(۷۴) باب قصہ عمان والبحرين	۳۲۷
نبی کریم <small>صلی اللہ علیہ و آله و سلم</small> کی قبیلہ دوس کے لئے ہدایت کی	۳۲۵	عمان اور بحرین کے قصہ کا بیان	۳۲۷
دعاء	۳۲۵	حدیث کی تشرع	۳۲۸
ابو ہریرہ <small>رض</small> کی نبی کریم <small>صلی اللہ علیہ و آله و سلم</small> کی خدمت میں	۳۲۷	(۷۵) باب قدوم الأشعرین و اهل	۳۲۹
حاضری	۳۲۶	الیمن	۳۳۱
(۷۵) باب قدوم الأشعرین و اهل	۳۲۹	اشعریوں اور اہل بیٹن کی آمد کا بیان	۳۳۱
عدی بن حاتم	۳۲۹	ابو موسی اشعری <small>رض</small> اور اشعریین کی مدینہ منورہ	۳۳۱
وفدنی طے اور عدی بن حاتم <small>رض</small> کے قصہ کا	۳۲۹		
بیان	۳۲۹		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۳	قربانیاں	۳۲۹	جل آجائے وسلمی کی وجہ تسلیہ
۳۲۷	ابوموسی اشعریؑ کا سواریوں کا مطالبہ	۳۵۰	فاروقی اعظمؑ کی مردم شناسی
۳۲۹	روانش کا غلط استدلال اور اس کا جواب	۳۵۰	عدی بن حاتم اور ان کی بہن کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ
۳۸۱	مشائے بخاریؓ	۳۵۱	
۳۸۲	حق دفاع کی صورت میں ہدر ضرورت سے زیادہ تجاوز جائز نہیں	۳۵۵	(۷۸) باب حجۃ الوداع
۳۸۲		۳۵۵	حجۃ الوداع کا بیان
۳۸۳	(۸۰) باب حدیث کعب بن مالک	۳۵۵	حجۃ الوداع کو مغایزی میں ذکر کرنے کی وجہ
۳۸۳	کعب بن مالکؓ کی حدیث کا بیان	۳۵۵	حجۃ الوداع کی وجہ تسلیہ
۳۹۲	حدیث کعب ابن مالکؓ کی تشریع مرارہ بن ریبع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما	۳۵۸	ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مسلک واقعہ کا پس منظر
۵۰۱	کا واقعہ	۳۶۲	ہجرت سے قبل حج
۵۱۲	حدیث کعب بن مالکؓ ادب کا شاہکار	۳۶۳	تشریع حضرت سعدؓ کی بیماری اور آنحضرت ﷺ کی
	حدیث کعب بن مالکؓ سے حاصل ہونے		دعاء
۵۱۳	والے اسباق و رموز	۳۶۷	حج کے موقع پر آپ ﷺ کے چلنے کی کیفیت
۵۱۳	صحابہؓ کا عزم واستقامت	۳۶۹	
۵۱۳	دین کا مقصود اتباع ہے		(۷۹) باب غزوۃ تبوک، وہی غزوۃ
۵۱۳	عمل مقصود ہے، نماج نہیں!		العسرة
۵۱۵	حقوقی واجبہ کی رعایت	۳۷۳	جگ جبوک کا بیان، جسے غزوۃ عصرۃ (مشقت
۵۱۸	ایک اشکال اور اس کا جواب	۳۷۳	کاغذہ) بھی کہتے ہیں
۵۱۹	(۸۱) باب نزول النبی ﷺ الحجر	۳۷۳	غزوۃ تبوک کا پس منظر
	آنحضرت ﷺ کا مقام حجر میں قیام فرمانے کا		سخت ترین حالات
۵۱۹	بیان		نبی کریم ﷺ کا حوصلہ اور صحابہؓ کی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۲۷	مرض الوفات کی ابتداء	۵۱۹	ایک اشکال اور اس کا جواب
۵۲۷	تاریخ وفات کے بارے میں اقوال	۵۲۰	قوم خود و صالح کے مقامات سے گزر
۵۲۸	خبر میں دئے گئے زہر کا اثر	۵۲۱	مقام عبرت ہے کہ نہ مقام سیاحت
۵۲۹	نبی کریم ﷺ کی امامت میں آخری نماز	۵۲۱	اصحاب حجر سے مراد
۵۳۰	ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرآن فہمی	۵۲۲	(۸۲) باب
۵۳۱	رسول اللہ ﷺ کی وصیت	۵۲۲	یہ باب ترجمۃ الباب سے خالی ہے۔
۵۳۲	داقعہ قرطاس کا خلاصہ	۵۲۲	محجور آیچھے رہ جانے والے صحابہ ﷺ کے لئے
۵۳۲	پہلا طعن	۵۲۳	بشارت
۵۳۳	دوسرा طعن	۵۲۳	
۵۳۴	جوابات	۵۲۵	(۸۳) باب کتاب النبی ﷺ الی
۵۳۵	ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے	۵۲۵	کسری و قیصر
۵۳۶	لطیف نکتہ کی طرف اشارہ	۵۲۵	نبی ﷺ کے ان خطوط کا ذکر جو کسری اور قیصر کو
۵۳۷	فاطمہ رضی اللہ عنہما کا غم وحزن	۵۲۵	لکھے گئے
۵۳۸	اجیاء علیہم السلام کو موت سے پہلے اختیار	۵۲۵	کسری کے نام خط بھیجنے کا واقعہ
۵۳۹	طلائع اعلیٰ اور قرب خداوندی کی دعا	۵۲۶	سلطنت کسری کی تباہی
۵۴۰	دارِ فانی سے کوچ	۵۲۶	ابو بکرۃ ﷺ کی جنگ جمل سے علیحدگی کا واقعہ
۵۴۲	معوذات سے دم	۵۲۸	خلاصہ جنگ جمل
۵۴۳	قبور پر مزارات بنانے پر ممانعت	۵۲۹	سکوت اختیار کرنے کی صورت
۵۴۵	مرض الوفات کے احوال	۵۳۰	تبوک سے واپسی پر شدید الوداع میں استقبال
۵۴۵	مرض کی ابتداء اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا	۵۳۲	اس باب کا غزوہ جبوک کے ساتھ ربط
۵۴۵	کے مجرہ میں منتقلی	۵۳۳	
۵۴۸	حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو امامت کا حکم	۵۳۴	(۸۴) باب مرض النبی ﷺ و ولاته،
۵۶۰	حضرت عباس ﷺ کی فہم و فراست	۵۳۴	آنحضرت ﷺ کی پیاری اور وفات کا بیان
۵۶۱	مقصد دنیا نہیں بلکہ دین ہے!	۵۳۴	

عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
(۸۷) باب	۵۲۲	وصال کے دن مسجد میں تشریف آوری	۵۸۳
یہ باب ترجمۃ الباب سے خالی ہے	۵۶۵	آخری عمل	۵۸۳
فقیر کو نین ۴۰ نہ در ہم چھوڑا نہ دینار	۵۶۷	یار غار کار حلت کے بعد آخری دیدار	۵۸۳
(۸۸) باب بعث النبی ﷺ	۵۶۷	دوا مواد کی نفی سے مراد	
اسامة بن زید رضی اللہ عنہما فی مرضہ الدی	۵۶۹	صحابہ ﷺ کا اضطراب اور صدیق اکبر ﷺ	
تو فی لیہ	۵۷۱	کا صبر و حوصلہ	
آنحضرت ﷺ کا مرض وفات میں حضرت	۵۷۳	صدیق اکبر ﷺ کا خطبہ	
اسامة بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغرض	۵۷۶	لدوو کے پلانے کا واقعہ	
چہار امیر لکھر بنا کر روانہ فرمانے کا بیان	۵۷۷	علی ﷺ کو وصی بنانے کے شہر کا ازالہ	
سریہ اسامة بن زید رضی اللہ عنہما	۵۷۹	وصیت نبوی ﷺ؛ قرآن پر عمل	
(۸۹) باب		صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی	
یہ باب ترجمۃ الباب سے خالی ہے		حالت	
ضابھی رحمہ اللہ کی مدینہ بھرت	۵۸۰		
(۹۰) باب کم غزا النبی ﷺ؟	۵۸۰	(۸۵) باب آخر ما تکلم به تکلم به	
آنحضرت ﷺ کے چہار اور اس کی تعداد کا	۵۸۰	النبی ﷺ	
بیان	۵۸۱	آنحضرت ﷺ کے وفات سے قبل آخری کلام کا	
		بیان	
		نبی کریم ﷺ کے آخری کلمات	
		و فیق الأعلى	
	۵۸۲	(۸۶) باب وفاة النبی ﷺ	
	۵۸۳	آنحضرت ﷺ کی عمر مبارک اور وفات کا تذکرہ	
	۵۸۳	نزول قرآن کا زمانہ	
	۵۸۳	رسول اللہ ﷺ کی عمر مبارک	

### فصل المحتويات

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين أصطفى.

## عرض مرتقب

اساتذہ گرام کی درسی تقاریر کو ضبط تحریر میں لانے کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آرہا ہے اب تک دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں فیض الباری، فضل الباری، انوار الباری، لامع الدراری، الکوکب الدری، الحل المفہوم لصحیح مسلم، کشف الباری، تقریر بخاری شریف اور درس بخاری جیسی تصنیف اکابر کی ان درسی تقاریر ہی کی زندہ مثالیں ہیں اور علوم نبوت کے طالبین ہر دور میں ان تقاریر دل پذیر سے استفادہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کی مندرجہ تریں پر رونق آراء شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم (سابق جمیش شریعت اپیلیٹ بنیج پریم کورٹ آف پاکستان) علمی وسعت، فقیہانہ بصیرت، فہم دین اور شکافۃ طرز تفہیم میں اپنی مثال آپ ہیں، درس حدیث کے طلبہ اس بھرپے کنار کی وسعتوں میں کھو جاتے ہیں اور بحث و نظر کے نئے نئے افق ان کے نگاہوں کو خیرہ کر دیتے ہیں، خاص طور پر جب جدید تدن کے پیدا کردہ مسائل سامنے آتے ہیں تو شرعی نصوص کی روشنی میں ان کا جائزہ، حضرت شیخ الاسلام کا وہ میدان بحث و نظر ہے جس میں ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔

آپ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیوبند کی دعاوں اور تمباوں کا مظہر بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آخر عمر میں اس تمنا کا اظہار فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں انگریزی پڑھوں اور یورپ پہنچ کر ان دانیاں فرنگ کو بتاؤں کہ حکمت وہ نہیں جسے تم حکمت سمجھ رہے ہو بلکہ حکمت وہ ہے جو انسانوں کے دل و دماغ کو حکیم بنانے کے لئے حضرت خاتم النبیین ﷺ کے مبارک واسطے سے خدا کی طرف سے دنیا کو عطا کی گئی۔

افسوں کے حضرت ”کی عمر نے وفائد کی اور یہ تمنا تکمیل رہی، لیکن اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی تمناوں اور دعاوں کو روئیں فرماتے، اللہ تعالیٰ نے جمیع الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی تمنا کو دور حاضر میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حضرة اللہ کی صورت میں پورا کر دیا کہ آپ کی علمی و عملی کاوشوں کو دنیا بھر کے مشاہیر اہل علم و فن میں سراہا جاتا ہے خصوصاً اقتصادیات کے شعبہ میں اپنی مثال آپ ہیں کہ قرآن و حدیث، فقہ و تصوف اور تدبیں و تقویٰ کی جامعیت کے ساتھ ساتھ قدیم اور جدید علوم پر دسترس اور ان کو دور حاضر کی زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کو من جانب اللہ عطا ہوئی ہے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا ساجبان محمود صاحب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب یہ میرے پاس پڑھنے کے لئے آئے تو بہشکل ان کی عمر گیارہ بارہ سال تھی مگر اسی وقت سے ان پر آہر ولایت محسوس ہونے لگے اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترقی و برکت ہوتی رہی، یہ مجھ سے استفادہ کرنے رہے اور میں ان سے استفادہ کرتا رہا۔

سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا ساجبان محمود صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے مجھ سے مجلس خاص میں مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کا ذکر آنے پر کہا کہ تم محمد تقی کو یہ سمجھتے ہو، یہ مجھ سے بھی بہت اوپر ہیں اور یہ حقیقت ہے۔

ان کی ایک کتاب ”علوم القرآن“ ہے اس کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی حیات میں شتمل ہوئی اور چھپی اس پر مفتی محمد شفیع صاحب نے غیر معمولی تقدیر لکھی ہے۔ اکابرین کی عادت ہے کہ جب کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو جائز تول کر بہت بچھے میں کرتے ہیں کہ کہیں مبالغہ نہ ہو مگر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ، لکھتے ہیں کہ:

یہ مکمل کتاب ماشاء اللہ ایسی ہے کہ اگر میں خود بھی اپنی تندروتی کے زمانے میں لکھتا تو ایسی نہ لکھ سکتا تھا، جس کی دو وجہ ظاہر ہیں:

پہلی وجہ تو یہ کہ عزیز موصوف نے اس کی تصنیف میں جس تحقیق و تنقید اور متعلقہ کتابوں کے عظیم ذخیرہ کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میرے بس کی بات نہ تھی، جن کتابوں سے یہ مفہامیں لئے گئے ہیں ان سب مآخذوں کے حوالے بقید ابواب و صفات حاشیہ میں درج ہیں، انہی پر سرسری نظرڈالنے سے ان کی تحقیقی کاوش کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

اور دوسری وجہ جو اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے وہ یہ کہ میں انگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بناء پر مستشرقین یورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہر آلوں تسلیمات سے کام لیا ہے، برخوردار عزیز نے چونکہ انگریزی میں بھی ایم۔ اے، ایل۔ ایل۔ بی اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا، انہوں نے ان تسلیمات کی حقیقت کھول کر وقت کی اہم ضرورت پوری کر دی۔

ای طرح شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ نے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے بارے میں

نحر کیا:

لقد من الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الفاتحة الكريمة ،  
وطبع هذا الكتاب الحديثي الفقهي العجاب ، في مدينة  
کراچی من باکستان ، مترجمًا بخدمة علمية ممتازة ، من  
العلامة المحقق المحدث الفقيه الأریب الأدیب فضیلۃ  
الشیخ محمد تقی العثماني ، نجل سماحة شیخنا المفتی  
الأکبر مولانا محمد شفیع مد ظله العالی لی عالیہ وسرور .

**لقام ذاک النجل الوارث الألمعی بتحقيق هذا**  
الكتاب والتعليق عليه، بما یستکمل خایاته ومقاصده، ويتم  
لرأده ولوائده : لی ذوق علمی رفیع، وتنسيق فنی طباعی  
بديع، مع أبهی حلۃ من جمال الطباعة الحديثة الرائیة فجاء  
المجلد الأول منه تحفة علمیة رائعة. تجلی فیها خدمات  
**المحقق اللوذعی** تفاحة باکستان فاستحق بهذا الصنیع  
العلمی الرائع: شکر طلبة العلم والعلماء.

کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی کتاب شرح صحیح مسلم جس کا نام فتح الملهم  
بشرح صحیح مسلم اس کی تحریکیں سے قل، ہی اپنے ماں ک حقیقی سے  
جائیں۔ تو ضروری تھا کہ آپ کے کام اور اس حسن کا رکروگی کو پایہ تحریکیں  
تک پہنچائیں اسی بنا پر ہمارے شیخ، علامہ مفتی اعظم حضرت مولانا محمد شفیع  
رحمہ اللہ نے ذہین و ذکری فرزند، محدث جلیل، فہمیہ، ادیب و اریب مولانا  
محمد تقی عثمانی کی اس سلسلہ میں ہمت و کوشش کو ابھارا کہ فتح الملهم  
شرح مسلم کی تحریک کرے، کیونکہ آپ "حضرت شیخ شارح شبیر احمد عثمانی"  
کے مقام اور حق کو خوب جانتے تھے اور پھر اس کو بھی بخوبی جانتے تھے کہ  
اس باکمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ یہ خدمت کما حقہ انجام کو پہنچے گی۔

اسی طرح عالم اسلام کی مشہور فقہی شخصیت ڈاکٹر علامہ یوسف القرضاوی "نکملۃ فتح الملهم" پر  
تبرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وقد ادخل القدر فضل اکمالہ وإنما مه - إن شاء الله - عالم

جملل من أمره علم وفضل "لزمه بعضها من بعض" هو  
الفقيه ابن الفقيه، صديقنا العلامة الشيخ محمد تقى  
العثمانى، بن الفقيه العلامة المفتى مولانا محمد شفيع  
رحمه الله وأجزل مشورته، وتقبله فى الصالحين .  
وقد أباحث لى الأنصار أن أعرف عن كتب على الأخ  
الفاضل الشيخ محمد تقى، لقد التقى به فى بعض  
جلسات الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف  
الإسلامية، لم فى جلسات مجمع الفقه الإسلامي العالمى ،  
وهو يمثل فيه دولة باكستان، لم عرفه أكثر فأكثر ، حين سعدت  
به معى عضواً فى الهيئة الشرعية لمصرف ليصل الإسلامي  
باليمن ، والذى له فروع عددة فى باكستان .

وقد لمست فيه عقلية الفقيه المطلع على  
المصادر، المتتمكن من النظر والاستباط، القادر على الاختيار  
والترجيح ، والواعى لما يدور حوله من أفكار و  
مشكلات - أتجهها

هذا العصر الحريص على أن تسود شريعة الإسلام  
وتحكم فى ديار المسلمين .

ولا ريب أن هذه الخصائص تجلت فى شرحه ل صحيح  
مسلم ، وبعبارة أخرى : فى تكملته لفتح الملمهم .

لقد وجدت فى هذا الشرح : حسن المحدث ،  
وملكة الفقيه ، وعقلية المعلم ، وأناة القاضى ، ورؤية  
العالم المعاصر ، جنباً إلى جنب .

ومما يذكر له هنا : أنه لم يلتزم بـأن يسير على  
نفس طريقة شيخه العلامة شبير أحمد ، كما نصّعه  
 بذلك بعض أصحابه ، وذلك لوجوه وجيهة ذكرها فى  
مقدمة .

ولارب أن لكل شيخ طريقة وأسلوبه الخاص ، الذي يعاني بمكانه وزمانه وثقافته ، وتيارات الحياة من حوله . ومن العكوف الذي لا يحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره ، وقد خلقه الله مستقلاً .

لقد رأيت شروحاً عدة لصحيح مسلم ، قديمة وحديثة ، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقى هو أول أها بالتنوير ، وأولها بالفوالد والفرائد ، وأحقها بأن يكون هو (شرح العصر) لل صحيح الثاني .

فهو موسوعة بحق ، تتضمن بحوثاً وتحقيقات حديثية ، وفقهية ودعوية وتربيوية . وقد هيأت له معرفته بأكفر من لغة ، ومنها الإنجليزية ، وكذلك قراءته لثقافة العصر ، واطلاعه على كثير من تياراته الفكرية ، أن يعقد مقارنات شئي بين أحكام الإسلام وتعاليمه من ناحية ، وبين الديانات والفلسفات والنظريات المخالفه من ناحية أخرى وأن يبين هنا أصالحة الإسلام وتميزه الخ .

انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایسے موقع میر ہوئے کہ میں برادر فاضل شیخ محمد تقی کو قریب سے پہچانوں۔ بعض فتوؤں کی مجالس اور اسلامی مکھموں کے انگریز شعبوں میں آپ سے ملاقات ہوئی پھر مجمع الفقهاء اسلامی کے جلسوں میں بھی ملاقات کے موقع آتے رہے، آپ اس مجمع میں پاکستان کی نمائندگی فرماتے ہیں۔ الغرض اس طرح میں آپ کو قریب سے جانتا رہا اور پھر یہ تعارف بڑھتا ہی چلا گیا جب میں آپ کی ہمراہی سے فیصل اسلامی پینک (بھرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں بمیر منتخب ہوئے تھے جس کی پاکستان میں بھی کئی شاخصیں ہیں۔

تو میں نے آپ میں نقیبی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصادر و مأخذ فقہیہ پر بھر پور اطلاع اور فقہ میں نظر و فکر اور استنباط کا ملکہ اور ترجیح و اختیار پر خوب قدرت محسوس کی۔

اس کے ساتھ آپ کے اردو گرد جو خیالات و نظریات اور مشکلات منڈل ارہی ہیں جو اس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوچ سمجھ رکھنے والا پایا اور آپ ماشاء اللہ اس بات پر حریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بالادستی قائم ہو اور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکیت کا دور دوڑہ ہو اور بلاشبہ آپ کی یہ خصوصیاً ہدآپ کی شرح صحیح مسلم (عجملہ فتح الملبم) میں خوب نمایاں اور روشن ہے۔

میں نے اس شرح کے اندر ایک محدث کا شعور، فقیہہ کا ملکہ، ایک معلم کی ذکاوت، ایک قاضی کا مذہب اور ایک عالم کی بصیرت محسوس کی۔ میں نے صحیح مسلم کی قدیم وجديد بہت سی شروح دیکھی ہیں لیکن یہ شرح تمام شروح میں سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل استفادہ ہے، یہ وجديہ سائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کا فقیہی انسائکلو پیڈیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ حق دار ہے کہ اس کو صحیح مسلم کی اس زمانے میں سب سے عظیم شرح قرار دی جائے۔

یہ شرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل ابحاث اور جدید تحقیقات اور فقیہی، دعویٰ، تربیتی مباحث کو خوب شامل ہے۔ اس کی تصنیف میں حضرت مؤلف کوئی زبانوں سے ہم آہنگی خصوصاً انگریزی سے معرفت کام آئی ہے اسی طرح زمانے کی تہذیب و ثقافت پر آپ کا مطالعہ اور بہت سی فکری رسمحاتات پر اطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کر دی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور فلسفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقامات پر اسلام کی خصوصیات اور امتیاز کو اجاگر کریں۔

احقر بھی جامعہ دار العلوم کراچی کا خوشہ چین ہے اور محمد اللہ اساتذہ کرام کے علمی دروس اور اصلاحی ہمکاری سے استفادے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور ان مجالس کی افادیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے نئے گذشتہ چیزیں (۲۵) سالوں سے ان دروس و مجالس کو آڑ یو پیسٹس میں ریکارڈ بھی کر رہا ہے۔ اس وقت سعی کتبیہ اکابر کے بیانات اور دروس کا ایک بڑا ذخیرہ احقر کے پاس جمع ہے، جس سے ملک و بیرون ملک وسیع پانے؟

استفادہ ہو رہا ہے؛ خاص طور پر درس بخاری کے سلسلے میں احقر کے پاس اپنے دو اساتذہ کے دروس موجود ہیں۔ استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا احسان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس بخاری جو دو سو سیشیں میں محفوظ ہے اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ کا درس حدیث تقریباً تین سو سیشیں میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔

انہیں کتابی صورت میں لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ کیسٹ سے استفادہ عام مشکل ہوتا ہے، خصوصاً طلباء کرام کے لئے وسائل و سہولت نہ ہونے کی بنا پر سمعی بیانات کو خریدنا اور پھر حفاظت سے رکھنا ایک الگ مشکل ہے جب کہ کتابی مشکل میں ہونے سے استفادہ ہر خاص و عام کے لئے سہل ہے۔

چونکہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کا درس سالہ سال سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولانا سعیان محمود صاحب قدس سرہ کے پر درہا۔ ۲۹ ربیع الاول ۱۴۲۹ھ بروز ہفتہ کو شیخ الحدیث کا حادثہ وفات پیش آیا تو صحیح بخاری شریف کا یہ درس موئرخہ ۲۰ محرم الحرام ۱۴۳۰ھ بروز بدھ سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مظلوم کے پر درہوا۔ اسی روز صبح ۸ بجے سے مسلسل ۲ سالوں کے دروس شیپریکارڈر کی مدد سے ضبط کئے۔ انہی لمحات سے استاذ محترم کی مومناتہ نگاہوں نے تاک لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ مواد کتابی مشکل میں موجود ہونا چاہئے، اس بنا پر احقر کو ارشاد فرمایا کہ اس مواد کو تحریری مشکل میں لا کر مجھے دیا جائے تاکہ میں اس میں سبقاً سبقاً نظر ڈال سکوں، جس پر اس کام (انعام الباری) کے ضبط و تحریر میں لانے کا آغاز ہوا۔

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کیسٹ میں بات منہ سے نکلی اور ریکارڈ ہو گئی اور یہاں اوقات سبقت لسانی کی بنا پر عبارت آگے چیچھے ہو جاتی ہے (فالبشری خطی) جن کی صحیح کا ازالہ کیسٹ میں ممکن نہیں۔ لہذا اس وجہ سے بھی اسے کتابی مشکل دی گئی تاکہ حقی المقدور غلطی کا مدارک ہو سکے۔ آپ کا یہ ارشاد اس حزم و احتیاط کا آئینہ دار ہے جو سلف سے منقول ہے ”کہ سعید بن جبیرؓ کا بیان ہے کہ شروع میں سیدنا حضرت ابن عباسؓ نے مجھ سے آموختہ سننا چاہا تو میں گھبرا یا، میری اس کیفیت کو دیکھ کر ابن عباسؓ نے فرمایا کہ:

أَوْ لِمَنْ لَعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ تَحْدُثَ وَ أَنَا شَاهِدٌ فِيْنَ  
اَصْبَتَ لَذَاكَ وَ إِنَّ اخْطَأَتْ اَعْلَمْكَ.

(طبقات ابن سعد: ص: ۱۷۹، ج: ۲، تدوین حدیث: ص: ۱۵۷)

کیا حق تعالیٰ کی یہ نعمت نہیں ہے کہ تم حدیث بیان کرو اور میں موجود ہوں،  
اگر صحیح طور پر بیان کرو گے تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے اور اگر غلطی  
کرو گے تو میں تم کو بتاؤں گا۔

اس کے علاوہ بعض بزرگان دین اور بعض احباب نے سمعی مکتبہ کے اس علمی اثنائے کو دیکھ کر اس خواہش

کا اظہار کیا کہ درس بخاری کو تحریری شکل میں بھی پیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید سہل ہو گا ”درس بخاری“ کی یہ کتاب بیان ”النعم الباری“، جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اسی کا دل کا شمرہ ہے۔

حضرت شیخ الاسلام حظۃ اللہ کو بھی احقر کی اس محنت کا علم اور احساس ہے اور احقر سمجھتا ہے کہ بہت سی مشکلات کے باوجود اس درس کی سمی و نظری بھی تحریر میں پیش رفت حضرت ہی کی دعاؤں کا شمرہ ہے۔ احقر کو اپنی تھی دامنی کا احساس ہے یہ مشغله بہت بڑا علمی کام ہے، جس کے لئے وسیع مطالعہ، علمی پیچھی اور استحضار کی ضرورت ہے، جبکہ احقر ان تمام امور سے عاری ہے، اس کے باوجود اسی علمی خدمت کے لئے کربستہ ہونا صرف فضل الہی، اپنے مشق استاذ مذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پر موصوف استاد محترم دامت برکاتہم کی نظر عنایت، اعتماد، توجہ، حوصلہ افزائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

ناچیز مرتب کو مرافق ترتیب میں جن مشکلات و مشقت سے واسطہ پڑا وہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے اور ان مشکلات کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ کسی موضوع پر مضمون و تصنیف لکھنے والے کو یہ سہولت رہتی ہے کہ لکھنے والا اپنے ذہن کے مطابق بنائے ہوئے خاکہ پر چلتا ہے، لیکن کسی دوسرے بڑے عالم اور خصوصاً اسی علمی شخصیت جس کے علمی تبحرو برتی کا معاصر مثاہیر اہل علم و فن نے اعتراف کیا ہوان کے افادات اور دقيق فقہی نکات کی ترتیب و مراجعت اور تعین عنوانات مذکورہ مرحلہ سے کہیں دشوار کٹھن ہے۔ اس عظیم علمی اور تحقیقی کام کی مشکلات مجھے جیسے طفل کتب کے لئے کم نہ تھیں، اپنی بے مائیگی، نااہلی اور کم علمی کی بناء پر اس کے لئے جس قدر دماغ سوزی اور عرق ریزی ہوئی اور جو محنت و کاوش کرنا پڑی مجھے جیسے نااہل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایزدی ہر مقام پر شامل حال رہا۔

یہ کتاب ”النعم الباری“ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے: یہ سارا مجموعہ بھی بڑا قیمتی ہے، اس لئے کہ حضرت استاذ موصوف کو اللہ تعالیٰ نے جو تبحر علمی عطا فرمایا وہ ایک دریائے ناپید کنارہ ہے، جب بات شروع فرماتے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہو جاتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت مطالعہ اور عمق فہم دونوں سے نوازا ہے، اس کے نتیجے میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم و معارف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد خلاصہ و عطر ہے وہ اس مجموعہ انعام الباری میں دستیاب ہے، اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آراء و تشریحات، انہے اربعہ کی موافقات و مخالفات پر محققانہ مدلل تبصرے علم و تحقیق کی جان ہیں۔

یہ کتاب (صحیح بخاری) ”کتاب بدء الوجی سے کتاب التوحید“ تک مجموعی کتب ۹۷، احادیث ”۳۹۳۰“، ”۵۶۳“ اور ابواب ”۷“ پر مشتمل ہے، اسی طرح ہر حدیث پر نمبر لگا کر احادیث کے مواضع و متکررہ کی نشان دہی کا بھی التزام کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں [النظر] نمبر دل کے ساتھ اور اگر حدیث گزری ہے تو [راجع] نمبروں کے ساتھ نشان لگادیے ہیں۔

بخاری شریف کی احادیث کی تخریج الحکم التسعة (بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داود، ابن ماجہ، موطاء مالک، سنن الدارمی اور منداحمد) کی حد تک کردی گئی ہے، کیونکہ بسا اوقات ایک ہی حدیث کے الفاظ میں جو تفاوت ہوتا ہے ان کے فوائد سے حضرات اہل علم خوب واقف ہیں، اس طرح انہیں آسانی ہو گی۔

قرآن کریم کی جہاں جہاں آیات آئی ہیں ان کے حوالہ معہ ترجمہ، سورۃ کا نام اور آیتوں کے نمبر ساتھ ساتھ دیدے گئے ہیں۔ شروح بخاری کے سلسلے میں کسی ایک شرح کو مرکز نہیں بنایا بلکہ حتی المقدور بخاری کی مستند اور مشہور شروح کو پیش نظر رکھا گیا، البته مجھے جیسے مبتدی کے لئے عمدة القاری اور تکملة فتح الملهم کا حوالہ بہت آسان ثابت ہوا۔ اس لئے جہاں تکملہ فتح الملهم کا کوئی حوالہ مل گیا تو اسی کو حتی سمجھا گیا۔

رب تعالیٰ حضرت شیخ الاسلام کا سایہ عاطفت عافیت وسلامت کے ساتھ عمر دار ز عطا فرمائے، جن کا وجود مسعود بلاشبہ اس وقت ملت اسلامیہ کے لئے نعمت خداوندی کی حیثیت رکھتا ہے اور امت کا عظیم سرمایہ ہے اور جن کی زبان و قلم سے اللہ جل جلالہ نے قرآن و حدیث اور اجماع امت کی صحیح تعبیر و تشریع کا، ہم تجدیدی کام لیا ہے۔

رب کریم اس کاوش کو قبول فرمایا اور اس کے والدین اور جملہ اساتذہ کرام کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے، جن حضرات اور احباب نے اس کام میں مشوروں، دعاوں یا کسی بھی طرح سے تعاون فرمایا ہے، مولائے کریم اس محنت کو ان کے لئے فلاج دارین کا ذریعہ بنائے اور خاص طور پر استاد محترم شیخ القراء حافظ قاری مولانا عبد الملک صاحب حفظہ اللہ کو فلاج دارین سے نوازے جنہوں نے ہمہ وقت کتاب اور حل عبارات کے دشوار گزر اور مراحل کو احتراق کے لئے سہل بنایا کہ لا بحری سے بے نیاز رکھا۔

صاحبان علم کو اگر اس درس میں کوئی ایسی بات محسوس ہو جوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہو اور ضبط و نقل میں ایسا ہونا ممکن بھی ہے تو اس نقش کی نسبت احترق کی طرف کریں اور از را عنایت اس پر مطلع بھی فرمائیں۔

دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ اسلاف کی ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے، اور ”العام الباری شرح صحیح البخاری“ کے باقی ماندہ حصوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ علم حدیث کی یہ امانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔

آمین یا رب العالمین . وما ذلک على الله بعزيز

بندہ: محمد انور حسین عنہ

فلاضل و متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۳

۷ ارجب ربیع و سی اہ بھطابن ۲۰۱۸ء پریل ۲۰۱۸ء بروز بدھ

بَاب

قَصْةُ عَكْلٍ وَعَرِينَةٍ  
وَبَابُ غَزْوَةِ ذِي قَرْدٍ

## (۷۳) باب قصہ عکل و عربینہ

## عقل و عربینہ قبل کا قصہ

٣١٩٢ - حدیثی عبد الأعلى بن حماد: حدثنا يزید بن ذریع: حدثنا سعید، عن قتادة: أن أنسا رض حدثهم: أن ناسا من عکل و عربینہ قدموا المدينة على النبي ﷺ وتکلموا بالاسلام فقالوا يا نبی اللہ، إنا کنا أهل ضرع ولم نکن أهل ریف واسعو خموماً المدينة فامر لهم رسول الله ﷺ بذود وراغ، وأمرهم أن يخرجوا إليه ليشربوا من البالها وأبوالها، فانطلقو حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا الذود، فبلغ النبي ﷺ ببعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم، وقطعوا أيديهم وأرجلهم، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. [راجع: ۲۳۳]

قال قتادة: وبلغنا أن النبي ﷺ بعد ذلك كان يبحث على الصدقة وينهى عن المثلة. وقال شعبة وأبان وحماد، عن قتادة: من عربینہ، قال يحيى بن أبي كثیر وأیوب، عن أبي قلابة عن أنس: لدم لفر من عکل.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رض فرماتے ہیں کہ عکل اور عربینہ کے کچھ لوگ مدینہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول! ہم دودھ دینے والے جانور رکھنے والے لوگ ہیں، ہم کھیتی باڑی کرتے والے لوگ نہیں ہیں، ہم کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں ہے تو رسول اللہ ﷺ نے چند اونٹ اور ایک چڑواہا ان کے ساتھ کرو دیا اور ان لوگوں کو حکم دیا ان کو لیکر جنگل پلے جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشتاب پیا کرو (علاج کی غرض سے) تو وہ لوگ جنگل کی طرف پلے گئے، یہاں تک کہ جب حرہ کے مقام پر پہنچے تو مرد ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ کے چڑواہے کے قتل کردیا اور اونٹوں کو ہالا کر لے گئے، جب رسول اللہ ﷺ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے صحابہ رض کے ایک گروہ کو ان کے پیچھے گرفتار کرنے کے لئے بھیجا، چنانچہ جب ان کو گرفتار کر کے مدینہ لا یا گیا تو آپ ﷺ نے حکم دیا کہ ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جائیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو حرہ کے مقام پر چھوڑ دیا جائے، آخر کار وہ اسی حالت میں مر گئے۔

قادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم کو یہ بات بھی پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس کے بعد صدقہ کی ترغیب دیتے اور مسئلہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اور شعبہ، ابان اور حماد نے قتادة سے روایت کرتے ہوئے صرف عربینہ کا ذکر کیا

اور عکی بن ابی کثیر اور ایوب نے ابو قلابہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت انس رض نے فرمایا کہ عقل کے کچھ لوگ آئے تھے۔

۳۱۹۳ - حدیثی محمد بن عبد الرحیم: حدیثنا حفص بن عمر أبو عمر العوینی: حدیثنا حماد بن زید: حدیثنا ایوب والحجاج الصراوف قالا: حدیثی أبو رجاء مولیٰ ابی قلابة و كان معه بالشام: ان عمر بن عبد العزیز استشار الناس يوما، قال: ما تقولون لی هذا الفسامة؟ فقالوا: حق قضی بہا رسول الله ﷺ وقضت بہا الخلفاء قبلک. قال: وأبو قلابة خلف سریره. فقال عنیسہ بن سعید: فلاین حدیث انس لی العربین؟ قال أبو قلابة: ایاں حدیث انس بن مالک، قال عبد العزیز بن صہیب، عن انس: من عربینة، وقال أبو قلابة، عن انس: من عکل، وذکر القصة. [راجع: ۲۳۳]

ترجمہ: ابو رجاء روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم قسامت کے متعلق کیا جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ قسامت برحق ہے، رسول اکرم ﷺ اور آپ کے خلفاء رض نے بھی اس کا حکم دیا ہے، جو کہ آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، - ابو رجاء کہتے ہیں کہ اس وقت ابو قلابہ، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے تحت کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں عنیسہ بن سعید بولے کہ حضرت انس رض کی روایت کردہ حدیث عربین کہاں ہے؟ ابو قلابہ نے کہا کہ یہ حدیث تو حضرت انس بن مالک رض نے مجھ سے یعنی حدیث بیان کی تھی، اور اس کو عبد العزیز بن صہیب نے بھی حضرت انس رض سے روایت کیا ہے، اس میں صرف عربینہ کا ذکر ہے، مگر ابو قلابہ کی روایت میں حضرت انس رض سے عقل کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، جو اس قصہ میں ہے۔

## قسامت کا مسئلہ

ابو رجاء ابو قلابہ کے مولیٰ ہیں، وہ شام میں ان کے ساتھ تھے اور خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ایک دن لوگوں سے قسامت کے بارے میں مشورہ کیا کہ قسامت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا حق ہے جس پر رسول کریم ﷺ نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا اور خدا نے بھی، اس کے مطابق فیصلہ کیا یعنی یہ قسامت ایک شرعی حکم ہے۔

”اللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَنْبُغِي لَهُ شَيْءٌ“ ابو قلابہ رحمہ اللہ تعالیٰ میں سے ہیں، جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے پیچھے بیٹھے تھے تو عنیسہ بن سعید نے عربین کے بارے میں پوچھا کہ ان کا کیا ہوا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض لوگ قسامت کو حکم شرعی ماننے کا انکار کرتے تھے اسی سیاق میں ابو قلابہ

اور عمر بن عبد العزیز رحمہما اللہ کی یہ گفتگو آئی ہے۔

یہاں پر صرف اتنی بات ہے کہ بعض لوگ قسامت کو حکم شرعی ماننے سے انکار کرتے تھے، جب ان سے کہا گیا کہ قسامت کے مطابق حضور ﷺ نے فصلہ کیا ہے تو عبیسہ بن سعید نے اشکال کیا کہ اگر قسامت برحق ہوتی تو عربین کے معاملہ میں آپ قسامت کرواتے، اس لئے کہ حضور ﷺ کے رائی (چڑواہا) حضرت یسار ﷺ جن کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا وہ اسی طرح مقتول پایا گیا تھا، اور بینہ کوئی نہیں تھا تو قسامت ایسی صورت میں ہوتی ہے کہ مقتول پایا جائے اور بینہ کوئی نہ ہو

اگر قسامت حکم شرعی ہوتی تو رسول کرم ﷺ عربین کے سلسلہ میں قسامت کے مسئلہ پر عمل فرماتے، لیکن آپ ﷺ نے قسامت پر عمل نہیں فرمایا، تو اس لئے پوچھا کہ اگر قسامت برحق ہے تو عربین کی حدیث کہاں گئی؟ ابو قلابہ نے کہا حضرت انس بن مالک ﷺ نے مجھے ہی سنائی تھی۔ پھر وہ حدیث تفصیل سے سنائی۔

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قسامت واجب ہوئی کیونکہ وہاں تو عربین نے کئی جرائم کا رجکاب کیا تھا، مرتد ہو گئے تھے، قتل کیا، ذاکرہ لا ایعنی اونٹ بھگا کر لے گئے، تو ان سب کے بارے میں نص آئی ہے:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الْمُنَافِقِينَ يُخَارِبُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادُهُمْ أَنْ يُقْتَلُوْا  
أَوْ يُصْلَبُوْا أَوْ يُنْقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافِ  
أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ فِي الدُّنْيَا  
وَلَهُمْ لَمَّا الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

ترجمہ: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا ہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دئے جائیں، یا انہیں زمین سے دُور کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسائی ہے، اور آخرت میں ان کے لئے زبردست عذاب ہے۔

یہاں قسامت کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی اور قسامت تو وہاں پر ہوتی ہے جہاں کسی کے قتل کے سلسلہ میں کوئی نص موجود نہ ہو، نہ کوئی بینہ موجود ہو، لہذا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ان شاء اللہ کتاب الحدود میں تفصیل آئے گی۔

## (۳۸) باب غزوة ذى قرد

## غزوہ ذات القرد کا بیان

"وَهِيَ الْغَزْوَةُ الَّتِي أَخْلَقُوا عَلَى لِفَاحِ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ خَيْرِ بَلَاتِ".

ترجمہ: وہ غزوہ جس میں کچھ کافروں نے نبی ﷺ کے اونٹوں کو لوٹ لیا تھا اور یہ واقعہ غزوہ خیر سے تین روز پہلے پیش آیا۔

## وجہ تسمیہ

یہ غزوہ ذات القرد ہے اور ذات القرد ایک چشمہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر مدینہ اور خیر کے درمیان شام جانے والے راستے پر واقع تھا۔ یہاں رسول کریم ﷺ کے اونٹ چھرتے تھے، قبیلہ غطفان کے لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور اونٹوں کو بھاگ کر لے جانے کی کوشش کی، تو اس کے جواب میں حضرت سلمہ بن اکوئیؓ ایک ہی آدمی نے پورا اصر کہ سر کیا۔ اس کو غزوہ ذات القرد کہتے ہیں، جس کی تفصیل اس حدیث میں آئی ہے۔

## غزوہ ذات القرد کب پیش آیا؟

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ غزوہ ہے جس کے اندر نبی کریم ﷺ کے اونٹوں کے اوپر کفار نے یلغار کی تھی۔ اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ واقعہ خیر سے تین دن پہلے پیش آیا تھا جس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ غزوہ حدیبیہ کے بعد اور خیر سے تین دن پہلے پیش آیا۔  
صحیح مسلم کی روایت سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔

لیکن تمام اہل سیر و مغازی کہتے ہیں ذات القرد کا واقعہ حدیبیہ سے پہلے سن چھ ہجری میں پیش آیا اور واقعہ حدیبیہ سن چھ ہجری ذی القعدہ میں ہوا۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ شعبان میں ہوا۔  
بعض کہتے ہیں کہ ربيع الاول میں ہوا لیکن حدیبیہ سے پہلے کا ہے۔

لیکن زیادہ صحیح بات وہی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ خبر سے تین دن پہلے پیش آیا۔  
اس واسطے کے غزوہ ذات القرد کا واقعہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔  
اس میں سلمہ بن اکوع ھبھ نے اس واقعہ کی بہت تفصیل بتائی ہے، اسی کے آخر میں انہوں نے کہا  
کہ "لَمَّا لَبَثَا بِالْمَدِينَةِ إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَيْهِ خَبْرُهُ" جب یہ واقعہ ہوا تو پھر تین دن کے  
بعد خبر کی طرف روانہ ہوئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ ۵

۳۱۹۲ - حدیثنا قتيبة بن سعید: حدیثنا حاتم، عن یزید بن أبي عبید قال: سمعت  
سلمة بن الأکوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله ﷺ ترعى  
بذر قرد، للقمي غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت القاح رسول الله ﷺ، قلت:  
من أخذها؟ قال: عطفان، قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباهاه، قال فسمعت ما بين  
لابني المدينة، ثم الدلفت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يسوقون من الماء فجعلت  
أرميهم بنبلی، وكنت راميا وأول: أنا ابن الأکوع، واليوم يوم الرضيع، وأرتجز حتى  
استنقذت اللقاهم واستلبت منهم ثلاثة بردۃ، قال: وجاء النبي ﷺ والناس فقلت:  
يالبی الله، قد حمیت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة فقال: ((يا ابن الأکوع  
ملکت فاسجح)), قال: لم رجعنا ويردلنی رسول الله ﷺ على ناقه حتى دخلنا المدينة.

[راجع: ۳۰۳۱]

ترجمہ: حضرت سلمہ بن اکوع ھبھ فرماتے ہیں کہ میں صحیح کی اذان سے پہلے (جنگل کی طرف) نکلا، مقام  
ذی قرد میں نبی اکرم ﷺ کی دودھ والی اونٹیاں چڑھی تھیں، مجھ سے عبد الرحمن بن عوف ھبھ کا غلام ملا اور بتایا کہ  
آنحضرت ﷺ کی اونٹیاں پکڑی گئیں، میں نے پوچھا کس نے پکڑا؟ اس نے جواب دیا کہ قبیلہ عطفان کے  
لوگوں نے۔ تو میں نے تین آوازیں یا صباهاہ (یہ کلمہ دشمن کی آمد کی اطلاع پر لوگوں کو جمع کرنے کے لئے بولا جاتا  
ہے) کہہ کر لگائیں۔ جس سے الی مدینہ کو خبر ہو گئی، پھر میں فوراً سیدھا چلا، حتیٰ کہ ان کافروں کو جا پکڑا، وہ ان  
اونٹیوں کو پانی پلانے لگے تو میں ان پر تیر چلانے لگا، اور میں تیر انداز تھا، میں یہ رجز پڑھتا رہا کہ میں ابن اکوع

ہوں، آج کا دن کینوں کی ہلاکت کا دن ہے، حتیٰ کہ میں نے ان سے اونٹیوں کو چھڑا لیا اور میں نے ان سے تمیں جادو میں بھی چھین لیں۔ سلمہ بن اکوع رض کہتے ہیں کہ پھر آپ ﷺ اور دوسرے لوگ بھی آگئے، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے ان کو پانی بھی نہیں پینے دیا، حالانکہ وہ پیاسے تھے، لہذا فوراً ان کے تعاقب میں لوگوں کو بھیج دیجئے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابن اکوع! تم نے انہیں بھگا دیا ہے، لہذا اب چھوڑو، سلمہ بن اکوع رض کہتے ہیں کہ پھر ہم واپس آگئے، اور رسول اللہ ﷺ اپنی اونٹی پر مجھے پہچھے بٹھا کر لائے، حتیٰ کہ ہم مدینہ میں داخل ہو گے۔

## سلمہ بن اکوع رض کی شجاعت و بہادری

حضرت سلمہ بن اکوع رض فرماتے ہیں کہ "خروجت قبل آن یوذن الخ" میں مدینہ منورہ سے فجر کی اذان سے بھی پہلے جنگل کی طرف نکلا، ذی القرد کے مقام پر آپ ﷺ کی دودھ والی اونٹیناں چہ رہی تھیں۔

"للّٰهُمَّ طَلَامْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَ" راستے میں عبد الرحمن بن عوف رض کے خلام مجھے ملے۔

بعض روایتوں میں حضور اکرم ﷺ کا غلام کہا گیا ہے اور اس غلام کا نام رباح تھا۔ عین ممکن ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رض کے اصل غلام ہوں اور حضور ﷺ کی بھی خدمت کرتے ہوں تو اس واسطے دونوں کی طرف نسبت کی گئی ہے۔

"فَقَالَ أَخْدَتِ الْخَ" انہوں نے مجھے بتایا کہ رسول کریم ﷺ کی اونٹیناں اٹھائی گئی، "قَلْتَ مِنْ أَخْدَهَا الْخَ" میں نے ان سے پوچھا کہ کون لے گئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ قبیلہ غطفان کے لوگ لے کر گئے، "قَالَ فَصَرَخَتِ الْخَ" تو میں تین مرتبہ زور سے چینا۔

"بِاَصْبَاحَا" اہلی عرب کا طریقہ تھا کہ جب دشمن حملہ آور ہوتا تو اپنے لوگوں کو اس حملہ سے باخبر کرنے کے لئے یہ جملہ بولا کرتے تھے، اس واسطے کہ عام طور پر حملہ صبح کے وقت میں ہوا کرتا تھا۔

"قَالَ فَأَسْمَعْتَ مَا هِيَنِ الْخَ" مدینہ کی دو تروں کے درمیان جو جگہ تھی سب جگہ میری آواز پہنچ گئی۔ یعنی میری آواز سارے علاقوں میں پھیل گئی اور صبح کا وقت خاموشی کا ہوتا ہے اور خاموشی کے نتیجہ میں جو آواز دی جائے تو وہ کوئی بھی اور پھیلتی بھی ہے۔

<sup>۱</sup> لم الف حلی اسدہ، و بحمل ان یکون هورہاج خلام رسول اللہ ﷺ کمالی روایۃ مسلم، فتح الباری، ج: ۷، ص: ۳۶۱

<sup>۲</sup> قوله: ((بِاَصْبَاحَا)) کلمة تعالیٰ عند الفاراۃ، عمدة الفاراۃ، ج: ۷، ا، ص: ۳۳۳

”لَمْ الدَّفَعْتُ النَّخْ“ کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے چہرے کی سیدھہ میں بھاگ کر کھڑا ہوا دیکھیں باہمیں متوجہ ہوئے بغیر، یعنی ایک طرف حضور ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ کو آواز دے کر آگاہ کیا تاکہ وہ آجائیں اور دوسری طرف میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے اکیلا ہی نکل کھڑا ہوا۔

”حَتَّىٰ ادْرِكْتُهُمُ النَّخْ“ یہاں تک کہ میں نے ان کو پالیا اور وہ پانی پینے ہی والے تھے یعنی قرب تھے کہ پانی پی لیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے اونٹوں کو لوٹا تھا میں ان تک پہنچ گیا۔

”لَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمُ النَّخْ“ حضرت سلمہ بن اکوع رض فرماتے ہیں جب میں دیکھا کہ وہ لوگ پانی پینے اور ستانے کی غرض سے رکے ہیں تو میں نے ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔

”وَكُنْتُ رَامِيَهَا النَّخْ“ اور میں بڑا تیر انداز تھا اور ساتھ میں یہ رجز بھی پڑھتا جا رہا تھا:-

أَنَا أَبْنَى الْأَكْوَعَ  
مِنْ أَكْوَعَ كَابِيَّا هُوَ  
وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضْعَ

”رُضْعٌ“ ”رَاضِعٌ“ کی جمع ہے اس کے معنی لعین اور کمینہ کے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ جو کمینے لوگ ہیں وہ بکری کے تھن سے منہ لگا کر دودھ پیتے ہیں، اس واسطے کہ اگر دودھ ہر تن میں نکالیں گے تو اس کی آواز سن کر شاید کوئی آجائے اور ماگ لے اور پھر اس کو دینا پڑے تو اس سے احتراز کے طور پر وہ تھن سے منہ لگا کر پی لیتے تھے۔ ۵

”وَأَرْتَجَزْتُ حَتَّىٰ اسْتَقْدَتِ اللَّقَاحَ النَّخْ“ یہاں تک کہ میں نے ساری اونٹیاں ان سے چھڑا لی۔ اور صرف اونٹیاں ہی نہیں بلکہ میں نے ان سے تمیں چادریں بھی چھین لیں یعنی وہ لوگ جب بدحواسی کی حالت میں بھاگے تو اپنی چادریں بھی چھوڑ گئے۔

”لَالٌ: وَجَاءَ الْبَنِيَّ النَّخْ“ حضرت سلمہ بن اکوع رض فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان لوگوں سے جھینی گئیں اونٹیاں واپس لے لیں اور حملہ آور فرار ہو گئے تو اس کے بعد حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رض تشریف لائے۔

”لَقْلَتْ يَا بَنِيَ اللَّهِ الْأَكْرَمِ حَمِيتَ النَّخْ“ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اس قوم سے پانی بھی نہیں پینے نہیں دیا یعنی وہ اس چشمہ میں سے پانی نہیں پی سکے وہ اب بھی پیا سے ہیں ابھی فوراً آپ ﷺ ان کے پیچے لشکر پہنچ دیجئے تاکہ ان سب کو ختم کر دیں۔

**”لَقَالَ: يَا أَبْنَى الْأَكْوَعِ امْلَكْتُ النَّحْ“** تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابن اکوع! اب تم نے قابو پالیا ہے تو اب زمی سے کام لو یعنی گرے ہوئے دمکن پر وار کرنا کوئی اچھی بات نہیں، یہ جملہ سرکار دو عالم ﷺ کے ارشاد کے بعد محاورہ بن گیا، یہیلی بار آپ ﷺ نے استعمال کیا اس کے بعد ضرب المثل بن گیا۔

**”قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيَرْدَفْنِي النَّحْ“** حضرت سلمہ بن اکوعؑ فرماتے ہیں کہ تم لوگ مدینہ واہیں لوئے اس حالات میں کہ آپ نے مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا کہ یعنی آپ ﷺ نے ان کے کارناۓ کے اعتراض کے طور پر ان کو اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھایا۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذات القرد کے واقعہ کو مختصر روایت کیا ہے اور امام سلم رحمہ اللہ نے بہت تفصیل سے اس واقعہ کو بیان کیا ہے اس لئے وہاں پر دیکھ لیا جائے، جس کا حوالہ پیچھے گز رکیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَابُ

غُزوَةُ خَيْرٍ

## (۳۹) باب غزوہ خیبر

## غزوہ خیبر کا بیان

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے غزوہ خیبر کے متعلق احادیث روایت فرمائے ہیں۔ یہ متفق علیہ ہے کہ غزوہ خیبر سن سات بھری میں حدیبیہ کے بعد ہوا۔ واقعہ حدیبیہ میں آپ ﷺ کو ایک طرح سے خیبر کی فتح کی بشارت دی گئی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَعَذْلُنَّ  
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْبَيْنَ مُحَلِّقِينَ  
رُثُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَالُونَ لَعِلْمَ مَا لَمْ  
تَعْلَمُوا فَاجْعَلْ مِنْ ذُونِ ذَلِكَ لَفْحًا قَرِيبًا﴾

ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دیکھایا ہے جو واقعہ کے مطابق ہے۔ تم لوگ ان شاء اللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہو گے کہ تم (میں سے کچھ) نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈ دایا ہوگا اور (کچھ نہیں) بال تراشے ہوں گے۔ اللہ وہ باقی جانتا ہے جو تمہیں نہیں معلوم ہیں۔ چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے۔

تو اس فتح قریب سے مراد ہی غزوہ خیبر ہے۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَعَدَنَاكُمُ اللَّهُ مَعَافِيمَ كَبِيزَةَ تَأْخُذُنَاهَا لَعَجَلَ

لَكُمْ هُدًى وَسَكِّفَ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ آتَيْتُمْ  
لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

ترجمہ: اللہ نے تم سے بہت سے مال نیمت کا وعدہ کر رکھا ہے جو تم حاصل کر دے گے، اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی ہے، اور لوگوں کے ہاتھوں سے تم کو روک دیا، تاکہ یہ مومنوں کے لئے ایک نشانی بن جائے، اور تمہیں اللہ سید ہے راستے پر ڈال دے۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بہت سے مال نیمت کا جو وعدہ فرمایا ہے تو یہ جلدی دے بھی دے، یعنی غزوہ خیر کے مقام۔

### غزوہ خیر کا پس منظر

اس کا واقعہ معروف ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے بونصیر اور بنوقیق اس کے یہودیوں کو جلاوطن کر دیا تھا تو ان کی بڑی تعداد خیر میں آباد ہو گئی تھی اور وہ کمی بستیوں کا مجموعہ تھا اس لئے بعض مرتبہ اسے خیاپر بھی کہتے ہیں کیونکہ کمی بستیاں تھیں اور کمی قلعے تھے۔ یہودیوں کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنا قلعہ بنارکھا تھا اور بعض مشترک شہر کی شکل میں تھے۔ یہاں بینہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے، خیر کی ہربستی مسلمانوں کے خلاف ایک مستقل سازش کا مرکز تھی کبھی قریش کو حملہ کرنے پر اکسار ہے ہیں، کبھی مدینہ منورہ کے منافقین کی پیشہ تھکر رہے ہیں۔ غرض مسلمانوں کو پریشان کرنے کا کوئی دلیل چھوڑتے نہیں تھے۔ دوسری طرف جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ ایک لحاظ سے چکل کے دو پاؤں کے درمیان تھے اس لئے کہ مدینہ کے شمال میں یہودی تھے اور جنوب میں قریش مکہ تھے اور دونوں طرف سے حملوں اور سازشوں کا خطرہ۔

جب صلح حدیبیہ کی وجہ سے آپ کو جنوب کی طرف سے فی الجملہ الطینان ہو گیا کہ اب یہ کوئی حملہ نہیں کریں گے تو آپ ﷺ نے مناسب سمجھا کہ اب شمال کی طرف پیش قدمی کی جائے، کیونکہ شمال کی طرف خیر کا علاقہ تھا جو یہودیوں کا مرکز تھا۔

## خیبر پر حملہ

اہذا آپ ﷺ نے سات بھری میں حدیبیہ کے بعد چہلی پیش قدی خیبر کی طرف فرمائی۔ اس کے متفرق واقعات یہاں پر آنے والے ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خیبر کی قلعوں پر مشتمل تھا اس واسطے غزوہ خیبر بھی کافی طویل عرصہ تک جاری رہا اور یکے بعد دیگرے آپ ﷺ نے خیبر کے مختلف قلعے فتح فرمائے، ان میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ آباد قلعہ قوص تھا۔ یہی وہ قلعہ ہے جس میں حضرت علیؓ کا مقابلہ مرحبا سے ہوا اور اس کو حضرت علیؓ نے قتل کیا تھا۔ یہ قلعہ میں دیکھا ہے، اب تک موجود ہے اگرچہ بہت بوسیدہ ہو چکا ہے۔ اسی قلعہ کے نیچے وہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ جب صحابہ کرام ﷺ گدھوں کا گوشت پکار ہے تھے اور اس کی حرمت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کو منع فرمایا، چنانچہ جن دیگوں میں وہ گوشت پکایا گیا تھا وہ دیگریں الٹ دی گئی۔ یہ سب قلعہ قوص کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد خیبر کے باقی دوسرے قلعے بھی فتح فرمائے، لیکن سب سے بڑا معرکہ قوص کے اوپر ہوا تھا اور اسی کو فتح کرنے میں زیادہ دن لگے تھے۔ یہاں اتنا تعارف کافی ہے۔ روایتوں کے اندر مختلف واقعات آرہے ہیں ان میں انشاء اللہ تفصیل آجائے گی۔

٣١٩٥ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن معبد، عن بشير بن يسار: أن سعيد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي ﷺ عام خيبر حتى إذا كنا بالصهاباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد للزم يؤت إلا بالسوق، فامر به فشري فاكمل وأكلنا ثم قام إلى المغرب لمضمض ومضمضا ثم صلى ولم يتوضأ. [راجع: ۲۰۹]

ترجمہ: حضرت سوید بن نعمانؓ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر کے سال نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ (جنگ کے ارادہ سے) لکھے، جب مقام صہباء میں پہنچے جو خیبر کے قریب ہے تو آپ ﷺ نے نماز عصر پڑھی، پھر آپ ﷺ نے توشہ سفر (جو کسی کے پاس تھا) طلب فرمایا، تو بجزستو کے اور کچھ بھی نہ آیا، تو آپ ﷺ کے حکم کے مطابق اس کو پانی میں گھول دیا گیا، اور ہم سب نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ مل کر کھایا، پھر آنحضرت ﷺ مغرب کی نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تو آپ ﷺ نے اور ہم نے کلی کی، اور بغیر وضو کے اعادہ کے آپ ﷺ نے نماز پڑھ لی۔

## شرح

حضرت سوید بن نعمانؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ہمراہ خیبر پر حملہ کرنے کی غرض سے نکلے،

”حنی إذا كنا بالصهباء الخ“ یہاں تک کہ ہم جب صہباء کے مقام پر پہنچ اور یہ خبر کے قریب تین جگہ تھی، پہاڑ کے نیچے ایک وادی ہے جس کو صہباء کہتے ہیں وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا جس کو حضرت سوید بن نعمان ﷺ بیان فرمائے ہیں۔

اگر مدینہ طیبہ سے خبر جائیں تو خبر آنے سے کچھ پہلے پہاڑ کے دامن میں ایک جگہ ہے اس کو صہباء کہتے ہیں اور میں نے بھی اس کی زیارت کی ہے۔ ۷

آپ ﷺ نے وہاں عصر کی نماز پڑھی، ”لِمْ دُعَاءٌ بِالْأَزْوَادِ الْخَ“ پھر آپ ﷺ نے تو شے منگوائے جو لوگ اپنے ساتھ کھانا وغیرہ لائے تھے کہا کہ سب لے آؤ، ”لِمْ يَؤْتُ الْخَ“ آپ ﷺ کے پاس نہیں لا بایا گیا مگر ستون یعنی تمام لوگ ستولے کر آگئے۔

”فَأَمْرَ بِهِ فَتْرَى الْخَ“ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ اس کو پانی میں بھگولیا جائے، پھر آپ ﷺ نے وہ تناول فرمایا اور ہم نے بھی کھایا۔

”لِمْ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ الْخَ“ پھر آنحضرت ﷺ مغرب کی نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تو آپ ﷺ نے اور ہم نے کلی کی، اور بغیر وضو کے اعادہ کے آپ ﷺ نے نماز پڑھلی۔  
یہ حدیث کتاب الطہارت میں بھی گزر چکی ہے۔

۳۱۹۶ - حدیث عبد الله بن مسلم: حدثنا حاتم بن أسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيدة، عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي ﷺ إلى خيبر، فسرنا ليلاً، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنؤها؟ - وكان عامر رجلاً شاعراً - فنزل بحدو بالقوم يقول:

وَلَا تَصِدَّقَا وَلَا صَلِّنَا	اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا أَهْدَيْنَا
وَالْقَيْنَ سَكِينَةٌ عَلَيْنَا	لَا غَلَرْ فَدَاءٌ لَكَ مَا أَفْقَيْنَا
إِنَّا إِذَا صَمِحْ بَنَا أَلْتَيْنَا	وَلَبْتَ الْأَقْدَمَ إِنْ لَاقَنَا

وبالصیاح عولوا علينا

فقال رسول الله ﷺ: ((من هذا السائق؟)) قالوا: عامر بن الأكوع، قال: ((يرحمه الله)), قال رجل من القوم: وجئت يا نبی الله لو امتعتنا به، فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابنا مخمة هديدة، ثم إن الله تعالى لسعها عليهم. فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي

لتحت علمہم أولىدوا لهم اکثیر، فقال النبي ﷺ: ((ما هذه النيران؟ على أى شئ ترقدون؟)) قالوا: على لحم، قال: ((على أى لحم؟)) قال لحم حمر الإنسية، قال النبي ﷺ: ((أهريقوها واسروها)), فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقوها ونسلوها؟ قال: ((اوداك)), فلم يتصاف القوم كان سيف عامر لصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضر به ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه، قال: للما قفلوا قال سلمة: رأى رسول الله ﷺ وهو آخذ يدی، قال: ((مالك؟)) قلت له: للدال آبی وأمى، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي ﷺ: ((كذب من قاله، إن له أجرين - وجمع بين إصبعيه - إله لجاهد مجاهد، قل عربی مشی بها مثله)). حدثنا حاتم قال: ((لشأ بها)).

[راجع: ۲۷۴]

ترجمہ: حضرت سلمہ بن اکوعؓ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ہمراہ خبر کی جانب (جنگ کے ارادہ سے) چلے، ہم رات میں جا رہے تھے کہ ایک شخص نے حضرت عامر بن اکوعؓ سے کہا کہ تم ہمیں اپنے اشعار کیوں نہیں سناتے؟ عامر بن اکوعؓ ایک شاعر آدمی تھے (یہ سن کر) وہ نیچے اترے اور اس طرح حدی خوانی کرنے لگی

اے اللہ! اگر آپ ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ کوئی صدقہ ادا کرتے، نہ کوئی نماز پڑھتے بخش و بخیر جو گناہ ہم نے کے ہیں ہم آپ پر سکینت اور اطمینان ڈال دیجئے اوآپ ہم پر فداء ہوں ہم کو جب جہاد کیلئے پکارا جاتا ہے تو دوڑ کر پہنچتے ہیں اور بلند آواز سے (ایک دوسرے سے) ہمارے خلاف انہوں نے مد و طلب کی ہے

نبی کریم ﷺ نے فرمایا یہ حدی خواں کون ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ عامر بن اکوع ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا اللہ اس پر حرم کرے، تو جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! اب یہ جنت یا شہادت کا مستحق ہو گئے ہیں، آپ ﷺ نے ہمیں اس سے مشق ہونے دیا ہوتا، پھر ہم خیر پہنچ گئے تو ہم نے یہودیوں کا محاصرہ کر لیا، حتیٰ کہ ہمیں سخت بھوک لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے خبر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، فتح کے دن مسلمانوں نے شام کو خوب آگ سلاکی، تو نبی ﷺ نے فرمایا، یہ کیسی آگ ہے؟ اور تم لوگ اس پر کیا چیز پکار رہے ہو؟ عرض کیا گیا کہ گوشت، دریافت فرمایا کس کا گوشت؟ عرض کیا پالتو گدوں کا گوشت، آپ ﷺ نے فرمایا پھینک دو، اور ہانڈیوں کو توڑ دو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم (گوشت) پھینک کر ہانڈی دھو ڈالیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں، یا ایسا کرو۔ جب قوم کی صفائی ہوئی (اور لڑائی شروع ہوئی تو چونکہ) عامر ﷺ کی تکوار چھوٹی تھی، انہوں نے ایک یہودی کی پیٹھی پر تکوار ماری لیکن اس کی دھار پلٹ کر ان کے گھنٹے کی

چکتی میں لگی، اور اسی سے ان کی وفات ہو گئی، حضرت سلمہ بن اکوع رض کہتے ہیں کہ جب والوںی ہوئی تو نبی نے جو میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے مجھے کچھ مغموم دیکھ کر، فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عامر بن اکوع کے عمل اکارت گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلّم نے فرمایا جو ایسا کہنا ہے وہ جھوٹا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلّم نے اپنی دنوں انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اسے دو گناہ جری ملے گا، اور یہ کہ وہ کوشش کرنے والا مجاہد تھا، بہت کم مدینہ میں چلنے والے عربی اس جیسے ہیں، قتبیہ نے بواسطہ حاتم یہ الفاظ روایت کئے ہیں نشاپها۔

## شرح

حضرت سلمہ بن اکوع رض فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ و آله و سلّم کے ساتھ جب خیر کی طرف جنگ کرنے کیلئے نکلے، ہم نے ایک رات سفر کیا، ”لقالِ رجل من القوم الخ“ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے عامر سے کہا، عامر سلمہ بن اکوع کے بھائی تھے، اور یہ شاعر آدمی تھے سفر میں رات کو جاری ہے تھے، تو کسی نے ان سے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلّم اپنے اشعار میں سے کچھ نہیں سناتے؟ چنانچہ حضرت عامر بن اکوع رض اپنی سواری سے پیچے اترے اور انہوں نے حدی پڑھنی شروع کی جس سے اوونٹ تیز چلتا ہے۔

## عرب میں شاعری کا آغاز

عرب میں شاعری کا آغاز یوں ہوا۔ اس کا آغاز یوں ہوا کہ مضر بن نزار اوونٹ پر جارہا تھا کہ ”اوونٹ سے گرا اور ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اوونٹ میں چونکہ دھکے لگتے ہیں تو اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اس کو بہت تکلیف ہوئی تو جب اوونٹ کا دھکا لگتا تو وہ کہتا، ”وابدأه“ پھر لگتا تو کہتا ”هابدأه، وابدأه“ وہ یہ کہتا جا رہا تھا تو اوونٹ اور تیز بھاگ پڑا۔

لوگوں نے یہ سمجھا کہ اوونٹ کے سامنے اگر کلام موزون پڑھا جائے تو یہ خوش ہوتے ہیں اور تیز بھائے ہیں، اس واسطے لوگوں نے حدی بنانی شروع کر دی، عربوں کی سب سے پہلی شاعری حدی سے شروع ہوئی۔

ل لولہ: ((يَحْدُو بِالْقَوْمِ)), من الحدواد، وهو سوق الابل والفناء لها، يقال: حدوت الابل حدواً وحداء، وبهال للشمال: حدواه لأنها تحدو السحاب، والابل تحب الحداء، ولا يكُون الحداء إلا فرعاً أو رجزاً، وأول من من حداء الابل مضر بن نزار لعما سقط عن بعيره لكررت بده لبلى يقول: وابدأه وابدأه، عمدة القاري، ج: ۷، ص: ۱، ۳۳۶

حضرت عامر بن اکو ع رض بھی حدی پڑھنی شروع کی اور یہ اشعار پڑھنے لگے کہ:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا أَهْدِنَا  
وَلَا تَصْدِقُنَا وَلَا صَلِّنَا

اے اللہ! اگر آپ ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ کوئی صدقہ ادا کرتے، نہ کوئی نماز پڑھتے

فَاغْفِرْ لِذَاءَ لَكَ مَا أَقْبَلْنَا  
وَالْقَيْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا

بخش دیجئے جو گناہ ہم نے کئے ہیں ہم آپ پر فداء ہوں اور آپ ہم پر سکینت اور اطمینان ڈال دیجئے

## اشکال اور جواب

”فداء لک“ عام طور سے اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا جاتا کہ اے اللہ ہم آپ پر فدائوں کیونکہ آدمی اس چیز پر فدائوں کا ہے کہ جس کی ہلاکت کا تصور ہو کہ آپ نج جائیں اور میں آپ کی جگہ قربان ہو جاؤں، فدائوں کا مطلب ہوتا ہے۔

جب کہ اللہ تعالیٰ سے تو ہلاکت کا تصور ہے ہی نہیں، لہذا وہاں پر تقدیر یہ بھی نہیں اس لئے جواب یہ ہے کہ لیکن یہاں تقدیر سے مراد تقدیر یہ معروف نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں لہذا کوئی اشکال کی بات نہیں۔ ۵

وَلِبْتَ الْأَلْدَمَ إِنْ لَا تَبْلِغُ  
إِنَّا إِذَا صَبَحَ بَنَا أَتَيْنَا

اور ہمارے قدم جماد یتا، اگر ہماری مدد بھیر ہو جائے ہم کو جب جہاد کیلئے پکارا جاتا ہے تو دوڑ کر پہنچتے ہیں یعنی جب کوئی مصیبت زدہ آدمی اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لئے ہم کو پکارتا ہے تو ہم اس کی مدد کو آجاتے ہیں اور بعض شخصوں میں ”أتینا“ کے بجائے ”ابینا“ آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم کو اگر ناحق کام کی طرف بلا یا جائے تو پھر ہم انکار کر دیتے ہیں۔

وَبِالصَّيْحَةِ عَوْلَوْا عَلَيْنَا

اس کی دو مختلف تشریع بھی ہو سکتی ہے:

ایک: اگر پہلا مصرعہ یوں پڑھیں کہ جب ہم سے فریاد کی جاتی ہے تو ہم آجاتے ہیں تو اس مصرعہ کے معنی یہ ہوں گے:

فَرِيَادَ كَنَّےَ كَذِرِيَّعَةَ اَنْهُوْنَ نَےَ ہَمَ پَرْ بَھَرَوْسَهَ كَيَا

”عولوا علینا“ کے معنی ہے اس پر بھروسہ کیا۔ تو جو لوگ ہم سے فریاد کر کے ہم کو پکارتے ہیں وہ فریاد کے ذریعہ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اگر ہم فریاد کریں گے تو ضرور یہ مدد کو پہنچ جائیں گے۔ دوسرا: مخفی یہ ہے کہ ”عولوا علینا عول یعول تعویلا“ کے معنی قصد کرنے کے بھی آتے ہیں تو اگر ہم پہلے مصرعہ یوں پڑھیں ”ان اذا صحينا بنا ابینا“ یعنی اگر ہمیں ناحق کی طرف پکارا جائے تو ہم انکار کر دیتے ہیں تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے:

پکارنے کے ذریعہ وہ ہمارا قصد کرتے ہیں

یعنی ہمارے دشمن ایسے ناحق پکار کا جواب دے کر ہمارا قصد کرتے ہیں۔

لیکن پہلے معنی زیادہ واضح ہے اور وہ زیادہ قریب ہے کہ جب ہم کو پکارا جاتا ہے، ہم سے فریاد کی جاتی ہے تو ہم آجاتے ہیں اور پکار کے ذریعہ ہی پکارنے والے ہم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ۷

”فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْأَكْرَمُ الْمُحَمَّدُ الْأَكْرَمُ“ جب آپ ﷺ نے حضرت عامر بن اکوع ؓ کے یہ اشعار سے تو پوچھا کہ یہ کون ہے، جو ایسے اشعار پڑھ پڑھ کے اذنیجوں کو چڑھا رہا ہے؟ ”قالوا عامر الا کوع“ تو صحابہ کرام ؓ نے جوب دیا یہ عامر بن اکوع ؓ ہیں، ”قال: يو حمد اللہ“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔

## رسول اللہ ﷺ کی طرف سے شہادت کی بشارت

جب نبی کریم ﷺ کسی شخص کے بارے میں جہاد کو جاتے ہوئے یہ فقرہ ”یو حمد اللہ“ ارشاد فرماتے تھے تو یہ عام طور پر اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ صاحب جہاد میں شہید ہو جائیں گے۔

”فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ الْخَٰنِ“ جب آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تو قوم میں سے ایک شخص نے کہا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ شخص حضرت عمر ؓ تھے، یا رسول اللہ! ان کے لئے جنت واجب ہو گئی کہ آپ ﷺ نے شہادت دے دی کہ یہ اس غزوہ میں شہید ہونے والے ہیں۔

”لَوْا مَعْتَنَابَهُ“ کیوں نہ آپ نے ان کے ذریعے مزید ہم کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہوتا، یعنی ابھی اتنی جلدی شہید نہ ہوتے بلکہ اس سے اور کچھ فائدہ اٹھاتے۔

”فَإِنَّهَا خَيْرٌ الْخَٰنِ“ اس کے بعد ہم خیر پہنچے، اور خیر کے قلعوں میں موجود یہود یوں کا محاصرہ کیا۔

”حتی اصحابنا الخ“ یہاں تک کہ ہمیں بہت سخت بھوک لگنے لگی، ”لِمَ إِنَّ اللَّهَ عَالَىٰ فِتْحَهَا  
الخ“ پھر اللہ تعالیٰ نے خبر میں مسلمانوں کو فتح نوازا۔

”لِلَّمَاءِ مُسَمِّيِ النَّاسِ الخ“ جس دن خبر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور شام کا وقت ہوا تو لشکر کے  
لوگوں نے کھانا پکانے کی غرض سے بہت ساری آگ جلائی اور ان پر دیکھیں چڑھائی گئیں۔

”فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا هَذِهِ النَّيْرَانُ الخ“ یہ دیکھ کر نبی کریم ﷺ نے دریافت کیا کہ یہ کیسی آگ ہے  
اور کس لئے جلا رہے ہیں، ”فَالْوَاعْلَى لِحْمُ الْخ“ تو لوگوں نے نے بتایا کہ گوشت پکایا جا رہا ہے پھر آنحضرت  
نے دریافت کیا کہ کس چیز کا گوشت بنارہے ہو؟ بتایا گیا کہ پا تو گدھوں کا گوشت پکارہے ہیں۔

”قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْرِيقُوا هَاوَا كَسْرُو هَا الْخ“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ سب دیکھیں بہادر و اور یہ  
سب دیکھیں تو زد و یعنی دیگوں میں جو گدھوں کا گوشت پکایا جا رہا ہے اس کو ضائع کر دو اور ان دیگوں کو بھی توڑو والو،  
”فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ أَوْ لَهُرِيقُوهَا الْخ“ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! اگر ہم اس سال  
کو بہادریں اور دیگوں کو دھوڈیں یعنی ان دیگوں کو توڑنے کے بجائیں دھوڈیں تاکہ وہ پاک ہو جائیں تو آپ ﷺ  
نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا ہی کرو۔

”لِلَّمَاءِ تِصَافُ الْقَوْمُ الْخ“ جب لوگوں نے صفت بندی کی تو حضرت عامر بن اکوع ﷺ کی تکوار ذرا  
چھوٹی تھی، آپ ﷺ نے ایک یہودی کے پنڈلی پر اس تکوار کے ذریعہ حملہ کیا تاکہ اس یہودی کو ماریں تو ان کی  
تکوار کی وہ لوت آئی۔

”لِأَصَابُ عَيْنَ رَكْبَةِ الْخ“ لوت کرنے والی تکوار حضرت عامر بن اکوع ﷺ کے اپنے گھنٹے پر لگی  
جس سے وہ زخمی ہو گئے یعنی وہ تکوار حملے کے وقت اچک گئی اور اچک کر اس کا اگلا حصہ واپس آیا اور ان کے گھنٹے  
پر جا کر لگ گیا، ”لِمَاتُ مِنْهُ الْخ“ اسی زخم کے نتیجے میں حضرت عامر بن اکوع ﷺ کی شہادت واقع ہوئی۔  
حضرت عامر بن اکوع ﷺ کے یہودی سردار مرحب سے لڑتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا پہلے مرحب سے  
انہی کا مقابلہ ہوا تھا اور پھر بعد میں حضرت علیؓ کے ہاتھوں قتل ہوا۔

”لَالِ: لِلَّمَاءِ قَلُوْلُ الْخ“ حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ غزوہ خیر سے واپس  
مدینہ واپس آنے لگے، ”رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ الْخ“ حضور اکرم ﷺ نے مجھے مغموم دیکھا، اس وقت رسول  
اللہ ﷺ نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ”قَالَ: مَا لَكَ؟“ پوچھنے لگے کیا بات ہے کیوں مغموم ہو؟

”قَلَتْ لَهُ لَدَاكَ أَبِي وَأَمِي الْخ“ میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں، لوگ یہ کہہ رہے  
ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت عامر ﷺ کا عمل خط ہو گیا یعنی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ عامر سے خود کشی ہوئی۔

”قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلْبٌ مِنْ قَالَهِ“ آپ ﷺ نے فرمایا جو یہ کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔

"والله اجرين - وجمع بين اصبعيه" اور آپ ﷺ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اسے دو گناہ اجر ملے گا، "انه لجاهد لجاهد الخ" اور یہ کہہ کوشش کرنے والا مجاهد تھا یعنی وہ جہاد کرنے والے تھے۔ "قل عربی مشی / لشائہا مثله" کہ کوئی عربی صفات و کمال میں ان کے برابر و مشاربہ نہیں ہے یا یہ معنی ہو گا کہ کوئی عربی ایسا نہیں ہے جو ان کی طرح زمین پر چلا ہو، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یہ ان کی بڑی تعریف کی۔ یعنی عبارت اصل میں اس طرح ہے "قل عربیہ مشی بھا مثله ای مثل هذا الرجل"۔

اور تیسری روایت حافظ ابن القیم سے مردی ہے "لشائہا" کہا۔

"قل عربیہ لشائہا مثله" کوئی عربی زمین کے اوپر کم ہی ہے جس نے زمین کے اوپر یا مدینہ میں عامر بن اکوع ﷺ کی طرح نشوونما پائی ہو۔

۲۱۹۔ حدیثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس  
ﷺ: أن رسول الله ﷺ أتى خير ليلاً و كان إذا أتى قوماً بليل لم يغرس لهم حتى يصبح. فلما  
أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكالاتهم. للهارأوه قالوا: محمد والله، محمد ر  
الخميس. فقال النبي ﷺ: ((خربت خير، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فسأء صباح  
المندرين)). [راجع: ۳۷۱]

ترجمہ: حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ رات کے وقت خیر پہنچے اور آپ ﷺ کی عادت یہ تھی کہ جب آپ ﷺ رات کو پہنچتے تو ان پر صبح تک حمل نہیں کرتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو یہودی اپنے کلہاڑے اور زنبیلیں (کھیتی باڑی کا سامان) لیکر لگئے، جب انہوں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگے، یہ تو محمد ہیں اور اللہ کی قسم محمد بع شکر کے موجود ہیں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا، خیر بر باد ہو گیا، جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑیں تو ان ڈرانے ہوؤں کی صبح بُری ہوتی ہے۔

## شرح

اس روایت میں حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کے وقت خیر میں تشریف لائے، "وكان اذا ليلاً الخ" جب کسی قوم کے پاس آپ ﷺ رات کو آتے تو آپ ان کے قریب نہیں جاتے تھے جب تک کہ صبح نہ ہو جائے یعنی رات کے وقت کسی پر حمل نہیں کرتے تھے۔

"فلما أصبح خرجت الخ" توجہ صبح کا وقت ہوا تو یہودی نکلے اپنے پھاڑے اور ٹوکریاں لیکر چونکہ خیر کے لوگ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے اس واسطے کھیتی باڑی کی چیزیں لے کر نکلے، "فلما رأوه

**قالوا: أَلْخَ** "جب انہوں نے نکل کر حضور ﷺ کو اور مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو محمد آگئے ہیں اور اللہ کی قسم محمد بڑے لشکر لے کر آئے ہیں۔

## خیر کی فتح کی پیشگوئی

"**لَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: خَرَبَتْ خَيْرٌ**" تو نبی کریم ﷺ نے خیر کے لفظ سے تفاعل فرمایا کہ خیر برباد ہو گیا یعنی اب یہ ہمارے مقابلہ پر نہیں سکیں گے، "إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا الْخَ" جب ہم کسی قوم کے میدان پر جا کر اترتے ہیں تو جن لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا ان کی صبح ہو رہی ہوتی ہے یعنی بالآخر ان کو لکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

یہ حدیث امام بخاری و حسن البخاری صحیح میں جگہ جگہ لائے ہیں۔

۳۱۹۸ - **أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنَا أَبْنَ عَيْنَةَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ أَبْنِ سَرِينِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ** ﷺ قَالَ: صَبَحَنَا خَيْرٌ بَكْرَةً فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالْمَسَاجِي فَلَمَّا بَصَرُوكُمْ بِالنَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهُ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ، لَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرَبَتْ خَيْرٌ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحَ الْمُنْذَرِينَ)). فَأَصْبَنَا مِنْ لَحُومِ الْحَمْرَ.

**لَنَادَى مَنَادِي النَّبِيُّ ﷺ:** إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَنْهِيَانَكُمْ عَنْ لَحُومِ الْحَمْرَ فَلَمَّا رَأَيْهُ

ترجمہ: حضرت انس بن مالک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ خیر میں صبح سورے موجود تھے کہ الہ خیر اپنے کلبہ اڑے لیکر نکلے، جب انہوں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو محمد ہیں، بخدا محمد مع لشکر کے موجود ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، خیر برباد ہو گیا، جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بُری ہوتی ہے۔ حضرت انس ﷺ کہتے ہیں کہ ہمیں گدھوں کا گوشت ملا، تو آنحضرت ﷺ کے منادی نے یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔

۳۱۹۹ - **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّهَابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهَابِ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ** ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءَهُ فَقَالَ: أَكْلَتِ الْحَمْرَ، فَسَكَتَ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ: أَكْلَتِ الْحَمْرَ، فَسَكَتَ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ: أَنْبَتِ الْحَمْرَ.

**فَأَمَرَ مَنَادِيَ لِنَاسٍ**: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَنْهِيَانَكُمْ عَنْ لَحُومِ الْحَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأَكْفَتَ الْقَدُورَ وَإِلَهًا لِتَفُورَ بِاللَّحْمِ. [راجع: ۱۷]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! گدھے کھانے گئے، آپ ﷺ خاموش رہے، پھر اس نے آکر دوبارہ عرض کیا کہ گدھے کھانے گئے، آپ ﷺ نے جواب نہ دیا، پھر اس نے تیسری مرتبہ آکر عرض کیا کہ (اب تو) گدھے ختم ہو گئے تو آپ ﷺ نے ایک منادی کو حکم دیا جس نے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول! تمہیں پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں، تو ہاذیاں الٹ دی گئیں، حالانکہ ان میں گوشت خوب پک رہا تھا۔

## گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت

حضرت انس بن مالک رض کی اس روایت میں آیا ہے کہ آپ کو گدھوں کے گوشت کے کھانے کے متعلق بتایا گیا، "فقال: اكلت الحمر، فسكت الخ" یہاں تین مرتبہ آپ ﷺ کو اطلاع دی گئی، پہلے دو مرتبہ میں آپ ﷺ خاموش رہے، تیسری مرتبہ میں منادی کو اعلان کا حکم فرمایا۔

"ان الله و رسوله الخ" اللہ اور اس کا رسول! تمہیں پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت تک حرمت کا حکم نہیں آیا تھا اور وہی بعد میں نازل ہوئی اس کی بنا پر آپ ﷺ نے پہلی دو مرتبہ سکوت فرمایا اور تیسری مرتبہ وہی آنبے کے بعد منادی کے ذریعے اعلان فرمایا۔

حریعنی گدھے کی دو قسمیں ہیں:

ایک "حمر الاہلیہ او السبیہ" یعنی پالتو گدھا۔

دوسرा "حمر الوحشی" یعنی جنگلی گدھا۔

پالتو گدھے کا گوشت بالاتفاق جمہور صحابہ کرام رض اور فقہائے کرام حبہم اللہ کے نزدیک حرام ہے، جبکہ حروشیہ یعنی جنگلی گدھے کا گوشت بالاتفاق جائز ہے۔

پالتو گدھے کے گوشت کی حرمت کے بارے میں مختلف علمیں بیان کی گئی ہیں۔

کسی نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ یہ بار برداری کا جانور ہے، اگر اس کا گوشت کھانا شروع کر دیا جائے گا تو سواری اور بار برداری کے کام میں مشکل پیش آئے گی، کسی نے کہا کہ وہ گندگی کھاتا ہے اس وجہ سے حرام قرار دیا گیا لیکن اصل علت وہی ہے جو بچھلی حدیث میں بیان کی گئی ہے "فَاللهار جس" کہ یہ بخس ہے، اس وجہ سے حرام ہے۔

یہ لام لحوم الحمر ((رجس)) ای: للدر و لعن، واللیل: الرجش العذاب، لیحصل ان یمرید: انها تلید الى العذاب،

والنهی عن لحوم الحمر الأهلية للتعزير عند الجمهور، عصدة المقارى، ج: ۷، ص: ۳۲۰

٢٢٠ - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رض قال: صلى النبي ﷺ الصبح قريباً من خيبر بفلس ثم قال: ((الله أكبير خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فناء صباح المندرين)). فخرجوا يسعون في السكك. فقتل النبي ﷺ المقاتلية ونبي المدرية، وكان في النبي صفيه فصارات إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي ﷺ لجعل عنقها صداقها. فقال عبد العزيز بن صحيب ثابت: يا أبا محمد، أنت قلت لآنس: ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقاً له. [راجع: ۳۷۱]

ترجمہ: حضرت انس رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیر کے قریب اندر میں صبح کی نماز پڑھی، پھر فرمایا اللہ اکبر! خیر بر باد ہو گیا، جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑیں تو ان ڈرانے ہوئے لوگوں کی صبح بُری ہوتی ہے۔ اہل خیر نکل کر گلی کو چوں میں بھاگنے لگے، آنحضرت ﷺ نے مقابلہ کرنے والوں کو قتل کر دیا، اور بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا، قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں (پہلے) وہ حضرت دحیہ کلبی رض کے حصہ میں آئیں تھیں، پھر آنحضرت ﷺ کے حصہ میں چل گئیں، آپ ﷺ نے ان سے نکاح کر لیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کامہر، ان کی آزادی کو مقرر فرمایا۔

عبد العزیز بن صحیب نے ثابت سے کہا کہ اے ابو محمد! کیا تم نے انس سے کہا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے ان کا یامہر مقرر فرمایا تھا، تو انہوں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا۔

## ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا واقعہ

اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے لڑنے والوں کو قتل کیا، عورتوں، بچوں کو قیدی بنا یا۔

ان قیدیوں میں ایک حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں یہ حمی بن الخطب کی بیٹی تھیں اور حضرت ہارون رض کی نسل میں سے تھیں، ان کا باپ یہود کا سردار تھا اور شروع میں یہ سلام بن مشکم کے نکاح میں تھیں اور بعد میں کنانہ بن ربع کے نکاح میں تھیں، جب نبی کریم ﷺ خیر پر حملہ آور ہوئے تو اس وقت بھی کنانہ بن ربع کے نکاح میں تھیں۔ ۵

٨ صلی اللہ علیہ وسالم و آله وآلہ واصفیہ، من ذریة ہارون بن عمران علیہ السلام، وأمها برة بنت ھمروال من ائمۃ فریطۃ، واتت تحت سلام بن مشکم الفرطی نم فارفها لتزوجها کنانہ بن الربيع بن ابی الحقیق النضری. فتح الباری،

## حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا خواب

محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے اپنی سیرت میں روایت کیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے حملہ سے ذرا پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آگیا اور یہ جنوب کی طرف سے آیا تھا تو صبح کو نیند سے اٹھ کر انہوں نے اس خواب کا اپنے شوہر کنانہ بن رفیع سے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے تو کنانہ بن رفیع نے ایک طمانچہ مارا اور کہا کہ تو مدینہ کے بادشاہ کی بیوی بننے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ خواب کا یہ واقعہ پیش آچکا تھا اس کے بعد رسول کریم ﷺ نے خبر پر حملہ آور ہوئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اگر فقار ہو گئیں۔ ۹

جب خیر میں مسلمانوں کو فتح طی تو اسی دوران حضرت دیجہ کلبی ﷺ حضور ﷺ کی خدمت میں آئے اور آگر عرض کیا کہ مجھے کوئی کنیز عطا فرمادیجے آپ ﷺ نے کہا کہ جا کر لے لو چنانچہ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب کیا۔ چونکہ یہ سردار کی بیٹی تھیں، سردار کی بیوی تھیں اور وہ سردار کنانہ بن رفیع اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایہ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ سردار کی بیٹی اس کے پاس جائے یہ آپ ہی کے پاس ہوئی چاہئے اور اس واسطے بھی کہ یہ اگر آپ کے پاس ہو گی تو کسی کو بھی اعتراض نہ ہو گا اور اگر کسی اور کے پاس گئی تو ترجیح بلا مرنج کا اعتراض لازم آئے گا اس واسطے آپ ہی کے مناسب ہے۔

چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت دیجہ کلبی ﷺ سے فرمایا کہ ان کے بدله میں کوئی دوسرا جاریہ لے لو انہی کی ایک چیاز ادا بہن تھی کو دی گئی لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس پر اطمینان نہ ہوا تو پھر آپ ﷺ نے پھر چند اور کنیزیں بھی ان کو دی اور حضرت صفیہ حضور ﷺ کے حصہ میں آئیں۔ ۱۰

حضرت صفیہ کا اصل نام زنب ہے، ان کو صفائی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صفائی اس حصہ کو کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے کوئی چیز حضور ﷺ کے لئے خاص کر دی جائے، تو ان کو صفیہ اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ بطور حصہ حضور ﷺ کے پاس آئی تھیں۔ ۱۱

۱۰ سیرۃ ابن ہشام، ج: ۲، ص: ۳۳۶

۱۱ فتح الہاری، ج: ۷، ص: ۳۷۰-۳۶۹

۱۱ کان للنبی ﷺ اذا اهزما کان له سهم صالح باعده من حيث شاء، وكانت صلبة من ذلك السهم، ولعل ان صلبة كان

اسمها قليل ان تسبی ریبب، فلم اصوات من الصلب سميت صلبة. فتح الہاری، ج: ۷، ص: ۳۸۰

جب حضرت صفیہ بنت حبی رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کی ملکیت میں آگئی تو مسند احمد بن جنبل کی روایت میں ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ان سے پیش کی کہ اگر تم چاہو تو تمہیں آزاد کر کے تھارے گھروں کے پاس بھج دوں اور اگر تم چاہو تو پھر میں تم سے نکاح کرلوں تو انہوں نے دوسری صورت یعنی رسول کریم ﷺ سے نکاح کرنے کو ترجیح دی، چنانچہ رسول کریم ﷺ نے ان سے نکاح فرمایا۔

”لجعل عتقها صداقها الخ“ تو آپ ﷺ نے ان سے نکاح کر لیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا مہران کی آزادی کو مقرر فرمایا۔ ۲۲

### آزادی بطور مہر

اسی واقعہ سے امام احمد بن جنبل رحمہ اللہ وغیرہ استدلال فرماتے ہیں کہ مال ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ آزادی کو بھی مہر بنا یا جا سکتا ہے۔ لیکن حنفیہ کی طرف سے اس کے دو جواب دئے گئے ہیں:

ایک یہ رسول کریم ﷺ کی خصوصیت ہے کہ آزادی کو مہر بنا لیا۔

دوسری یہ ”لجعل عتقها صداقها“ آپ ﷺ نے ان کو آزاد کیا ”عشق علی مال“ پھر اس مال کو ان کو مہر بنا دیا۔ تو یہ آزادی کو مہر نہیں بنا یا بلکہ آزادی جس مال پر ہوئی تھا اس مال کو مہر بنا یا۔ ۲۳

”لقال عبد العزیز الخ“ عبد العزیز اس حدیث کو ثابت سے روایت کر رہے ہیں تو انہوں نے ثابت سے کہا ”یا ابا محمد، الت قلت لائس الخ“ یعنی آپ نے حضرت انس ﷺ سے سوال کیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو کیا مہر دیا تھا یعنی یہ سوال کیا تھا کہ جس کے جواب میں کہا؟

”لحرک ثابت و اسه الخ“ تو ثابت رحمہ اللہ نے سر ہلا کر اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں میں نے پوچھا تھا کہ حضور ﷺ نے کیا مہر دیا تھا تو اسکے جواب میں انہوں نے کہا۔

۱۳۲۰ - حدیثنا آدم: حدیثنا شعبة، عن عبد العزیز بن صحیب قال: سمعت أنس ابن مالک يقول: سبی النبی ﷺ صفیہ فاعتقها وتزوجها، لقال ثابت لائس ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فاعتقها. [راجع: ۱۳۷]

۲۲ واصطافی: رسول الله صفیہ بنت حبی، فانخدعا بالنفس، وخبرها ان يعتقها وتكون زوجته، او تلحق بأهلها، فاعتخارت ان يعتقها وتكون زوجته ..... الى آخره، رقم: ۱۲۳۶، مسند احمد بن جنبل

ترجمہ: عبد العزیز بن صحیب کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک ﷺ سے سنا کہ نبی کریم ﷺ نے صفیہ کو قیدی بنا یا پھر ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، تو ثابت نے حضرت انس ﷺ سے دریافت کیا کہ ان کا مہر کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خود ان کو ہی ان کا مہر مقرر فرمایا پھر ان کو آزاد کر دیا۔

۳۲۰۲ - حدیثنا موسی بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي موسى الاشعري قال: لما غزا رسول الله ﷺ خبير أو قال: لما توجه رسول الله ﷺ أشرف الناس على وادٍ فلعلوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فقال رسول الله ﷺ: ((اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا. إنكم تدعون سماعًا فربها وهو معكم))، وألا خلف دابة رسول الله ﷺ فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: ((يا عبد الله بن قيس))، قلت: ليك رسول الله، قال: ((ألا أدلّك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟)) قلت: بلى يا رسول الله فلذاك أبي وأمي. قال: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)). [راجع: ۲۹۹۲]

ترجمہ: حضرت ابو موسی اشعری ﷺ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نے خیر پر حملہ کیا یا یہ فرمایا کہ جب آپ ﷺ خیر کی طرف چلے تو لوگ ایک وادی پر پہنچ کر بلند آواز سے عجیب پڑھنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله اکبر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے آپ پر زمی کرو (یعنی زور سے نہ چیخو) کیونکہ تم کسی بھرے یا غیر موجود ذات کو نہیں پکار رہے ہو، تم جسے پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سنتے والا ہے اور وہ تمہارے قریب ہے۔ اور میں آنحضرت ﷺ کی سواری کے پیچھے تھا تو آپ ﷺ نے مجھے لا حول ولا قوة إلا بالله کہتے ہوئے ساتھ آپ ﷺ نے فرمایا اے عبد اللہ بن قيس! میں نے عرض کیا لبیک اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان! ضرور بتائیے، آپ ﷺ نے فرمایا وہ کلمہ لا حول ولا قوة إلا بالله ہے۔

## آہستہ آواز سے ذکر کی تلقین

حضرت ابو موسی اشعری ﷺ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ نے خیر کی جگ لڑی یا یہ کہا کہ جب آپ ﷺ روائے ہوئے۔

اس کے ظاہر سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ خیر کو جانے کے وقت کا واقعہ ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابو موسی اشعری ﷺ اس وقت ساتھ نہیں تھے بلکہ یہ واپسی کا واقعہ ہے۔

”لَمَّا اشْرَفَ النَّاسُ النَّحْ“ لوگ ایک وادی کے پاس پہنچے تو زور زور سے تجھیں کہنے لگے، ”اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ پر نزدیکی کرو یعنی آہستہ آواز سے پڑھو، ”الْكَمْ تَدْعُو النَّحْ“ تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے ہو جو بھری ہو اور غائب ہو، ”الْكَمْ تَدْعُونَ النَّحْ“ تم تو ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو قریب دیکھنے سننے والی ہے اور آپ کے ساتھ ہے۔

اس سے پتہ چلا کہ ذکر میں جہر مفرط طھیک نہیں ہے۔ تحوزہ بہت جہر ہو تو جائز ہے اور طھیک ہے، اگرچہ افضل اس میں بھی خفی ذکر ہے، لیکن جہر مفرط جائز نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے

﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِفْفَةً  
وَذُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْفُدُورِ وَالْأَصَالِ وَلَا يُكَنْ  
مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [۱]

ترجمہ: اور اپنے رتب کا صحیح و شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی، عاجزی اور خوف کے (جدبات کے) ساتھ، اور زبان سے بھی، آواز بہت بلند کئے بغیر! اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ۱

”وَأَاخْلَفَ دَاهِبَةً وَسُولَ النَّحْ“ تو ابو موسی اشعری ﷺ کہتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی سوار کے پیچے تھا تو آپ ﷺ نے مجھے سنا کہ میں لا حول ولا قوۃ إلا بالله پڑھ رہا تھا۔

”لَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ النَّحْ“ آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا اے عبد اللہ بن قيس! یہ حضرت ابو موسی اشعری ﷺ کا نام ہے، تو میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول! یعنی میں آپ کا حکم سننے کیلئے حاضر ہوں۔

”قَالَ أَلَا أَدْلِكَ عَلَى كَلْمَةِ النَّحْ“ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟

### [۲۰۵] الاعراف:

۱) [ذکر اللہ کی اصل روح یہ ہے کہ جو زبان سے کہے دل سے اُس کی طرف دھیان رکھے ہا کہ ذکر کا ہر اتفاق ظاہر ہو اور زبان دل دنوں عضو خدا کی یا اوں مشغول ہوں۔ ذکر کرتے وقت دل میں وقت ہونی چاہئے، سچی ریبیت درہ بھٹ سے خدا کو پکارے جیسے کوئی خوشاب کرنے والا ذرا ہوا آدمی کی کو پکارتا ہے۔ ذا کر کے لبھ میں، آواز میں اور بیت میں تصریع و خوف کا ریگ محسوس ہونا چاہئے۔ ذکر و ذکر کی عظمت و جلال سے آواز کا پت ہونا قادر تی چیز ہے۔ ﴿وَخَشَقَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرُّحْمَنِ لَلَّا تَشْمَعُ بِالْأَفْسَادِ﴾ اسی لئے زیادہ چلانے کی مانعت آئی ہے۔ جسکی آواز سے سرا باہر اخذ کا ذکر کرے تو خدا اس کا ذکر کر لے۔ پھر اس سے زیادہ عاشق کی خوش بخشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ فائدہ نمبر: ۳۔ (الاعراف: ۲۰۵، تفسیر عثمانی)]

”قلت: هلی یا رسول اللہ الخ“ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان! مجھے ضرور وہ کلمہ بتائیے جو جنت کے خزانوں میں سے ہے، آپ نے فرمایا وہ کلمہ لا حول ولا قوّة الا باللّه ہے۔

۳۲۰۳۔ حدثنا قتيبة: حدثنا یعقوب، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي  
نَبَّهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْتَّقِيُّ هُوَ الْمُشْرِكُ كُونَ فَالْمُتَتَلِّوا، لِلْمَا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى عَسْكُرِهِ  
وَمَا الْآخِرُونَ إِلَى عَسْكُرِهِمْ وَلِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ رَجُلٌ لَا يَدْعُ لَهُمْ شَادَّةً وَلَا فَادِّةً  
إِلَّا ابْعَهَا يَضْرِبُهَا بِسِيفِهِ، فَقَالَ: مَا أَجْزَأَ مِنَ الْيَوْمِ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فَلَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
نَبَّهَ ((أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ))، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ، قَالَ: فَخُرُجْ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ  
وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ: فَجُرُوحُ الرَّجُلِ جُرُوحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتُ فَوْرَ اسْتِرْجَاهُ  
سِيفُهُ بِالْأَرْضِ وَذَبَابُهُ بَيْنَ لَدِيهِ لَمْ تَحَامِلْ عَلَى سِيفِهِ لِفَتْلِ نَفْسِهِ، فَخُرُجْ الرَّجُلِ إِلَى رَسُولِ  
اللَّهِ فَقَالَ: أَشْهِدُ أَنِّكَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ أَنَّهُ أَنَّهُ  
مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمُ النَّاسَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخُرُجْتِ فِي طَلَبِهِ لَمْ جُرُوحُ  
شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتُ فَوْرَ اسْتِرْجَاهُ سِيفُهُ لَى الْأَرْضِ وَذَبَابُهُ بَيْنَ لَدِيهِ لَمْ تَحَامِلْ عَلَى  
لِفَتْلِ نَفْسِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَ ذَلِكَ: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلَ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو  
لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلَ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ  
الْجَنَّةِ)). [راجع: ۲۸۹۸]

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد ساعدی نبھے سے روایت ہے کہ رسول اللہ نبھے اور مشرکین صرف آرا ہو کر  
خوب لڑے، پھر رسول اللہ نبھے اور دوسرا لوگ اپنے اپنے لشکروں کی طرف واپس آئے، اور اصحاب نبی  
نبھے کے لشکر میں ایک ایسا بھی آدمی تھا جو کسی اکیلے یہودی کو بغیر تلوار سے قتل کئے بغیر نہ چھوڑتا تھا، مسلمانوں میں  
سے کسی نے کہا کہ ہماری طرف سے جتنا کام آج فلاں شخص نے کیا، کسی نے نہیں کیا، تو رسول اللہ نبھے نے فرمایا سن  
لو کہ وہ جتنی ہے، تو قوم میں سے کسی نے کہا کہ میں اب اسکے ساتھ رہوں گا، چنانچہ وہ اس کے پیچھے ہو گیا کہ جب  
وہ شہرت اتویہ بھی ٹھہر جاتا، اور جب وہ تیزی سے چلتا تو یہ بھی چلنے لگتا، وہ کہتا ہے کہ پھر اس شخص کے ایک سخت زخم کا  
جس کی وجہ اس نے جلدی سے مرتا چاہا تو اس نے اپنی تکوارز میں پر ٹیک کر اس کی نوک اپنے سینے کے درمیان  
رکھی، پھر اس پر اپنا بوجہ ڈال کر جھوٹ لگیا اور خود کشی کر لی، تو یہ آدمی آپ نبھے کے پاس آیا اور کہا میں گواہی دیتا  
ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا ابھی آپ نے جو ایک شخص  
کے دوزخی ہونے کے متعلق فرمایا تھا تو لوگوں کو یہ چیز دشواری معلوم ہوئی، تو میں نے کہا اس کی حقیقت معلوم کرنے

کا ذمہ دار میں ہوں، چنانچہ میں اس کی تلاش میں چلا، پھر وہ سخت زخی ہوا، جلدی مرنے کے لئے اپنی تکواز کو زمین پر ٹیک کر اس کی نوک اپنے سینہ کے درمیان رکھ لی، پھر اس پر اپنا بوجھ ڈال کر خود کشی کر لی۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انسان لوگوں کی نظر میں جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ دوزخیوں میں سے ہوتا ہے اور کوئی شخص لوگوں کی نظر میں اہل دوزخ جیسے عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔

## عمل بالنجات ممکن کا اعتبار

حضرت سہل بن سعد رض فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ اور مشرکین یعنی یہودیوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس روایت میں یہ صراحت نہیں ہے کہ جو واقعہ آگے بیان کیا جا رہا ہے یہ غزوہ خبر کا ہے یا کسی اور غزوہ کا لیکن اسی واقعہ سے ملتا جلتا ایک واقعہ اُگلی روایت میں آرہا ہے اس میں صراحت ہے کہ یہ خبر کا واقعہ ہے۔

بظاہر امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو یہاں پر اس لئے لائے ہیں کہ ان کے خیال میں اُگلی روایت میں جو واقعہ آرہا ہے وہ اور یہ ایک ہی ہیں اور چونکہ دوسری روایت میں خبر کا ذکر ہے تو اس لئے اس کو بھی غزوہ خبر کا واقعہ قرار دیدیا۔

شارح صحیح بخاری علامہ بدرا الدین اعلیٰ رحمہ اللہ اس بات پر بہت ناراض ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھنا بہت غلط ہے کیونکہ دونوں واقعے بالکل جدا ہیں اور دونوں کو ایک ہی غزوہ کا یا ایک ہی آدمی کا واقعہ قرار دینا مشکل ہے، لہذا امام بخاری جو روایت یہاں پر لائے ہیں یہ روایت بالکل بے مناسب لائے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ اُگلی روایت کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ الگ ہے۔ ۱۱

”فِلَمَا مَأْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ پھر رسول اللہ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور کفار اپنے اپنے شکروں کی طرف واپس آئے یعنی لڑائی میں وقفہ ہوا تو دونوں شکروں کے لوگ اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے اور رسول کریم صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے صحابہ میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جو کسی تھاہیا الگ تھلک آدمی کو نہیں چھوڑتا تھا مگر اس کے پیچھے لگ جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ بڑی بہادری اور بے جگری سے لڑ رہا تھا اگر کوئی آدمی الگ تھلک بھی ہوا اور تھا بھی ہو تو اس کو بھی نہیں چھوڑتا تھا اس کے پیچھے لگ جاتا تھا اور یہاں تک کہ اس کو مار کے چھوڑ دیتا تھا۔

إِنَّا لَوَجَدْ لِذِكْرِهِ هَذَا الْحَدِيثُ مِنَ الْأَنْوَافِ لِمَنْ لَمْ يُطِقْ مَا يَبْذُرُهُ خَيْرٌ ظَاهِرًا، وَقَدْ تَعْسَفُ بِعِصْبِهِمْ، فَقَالَ: يَتَحَدَّهُ هَذَا الْحَدِيثُ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي يَلْهُ فِي الْفَصْحَةِ، وَصَرَحَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِخَيْرٍ، لِمَنْ يَهْمَسُ بَعْدَ فِي الْفَاظِ الْمُتَنَّ، يَعْرُفُ ذَلِكَ مَنْ يَقْفَ عَلَيْهِمَا، عَمَّلَةُ الْقَارِئِ، ج: ۱، ص: ۳۲۲

**”سادہ ولا فادہ۔ شادہ“** اصل میں کہتے ہیں بکری کے غلے میں سے بکری کہیں الگ ہٹ جائیں۔ اور ”شادہ“ کے معنی وہی ہے منفرد۔

”فَقَالَ مَا أَجْزَاءُ مَنَا الْخَ“ تو کسی نے کہا ”قال“ کافا علی یہاں پر مذکور نہیں ہے، مراد ہے کہ صحابہؓ میں سے کسی نے کہا کہ ہم سے آج کے دن کوئی بھی کافی نہ ہوا جیسے کہ فلاں شخص کافی ہوا، یعنی جس طرح کی بہترین لڑائی کا اس نے مظاہرہ کیا ایسا اور کسی نے آج کے دن نہیں کیا۔

”لِقَالِ رَسُولُ اللَّهِ: أَمَا أَنَّهُ الْخَ“ آپؐ نے فرمایا کہ سن لو کہ یہ آدمی الہ جہنم میں سے ہے۔

”فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ الْخَ“ تو مسلمانوں کے لکھر میں سے کسی نے کہا کہ اب میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ ساتھ رہنے کا کیا مطلب؟

مطلوب یہ ہے کہ بظاہر تو یہ اتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، تو یہ الہ جنت میں سے ہونا چاہیے تھا لیکن حضور اکرمؐ نے اس کو جہنمیوں میں سے قرار دیا توب بمحبھے دیکھنا ہو گا کہ یہ ایسا کو نا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے یہاں دوزخ میں سے شمار کیا گیا۔

حضور اقدسؐ کو بذریعہ وحی اس (بہادر شخص) کا (جس کا نام روایات میں قzman آیا ہے) انجمام معلوم ہو گیا تھا کہ جیسا آنحضرتؐ نے فرمایا ویسا ہی ہوا اور وہ شخص خود کشی کر کے حرام موت مر گیا۔ علی

”قَالَ لِخُرُوجِ الْخَ“ تو یہ کہنے والے بھی اس شخص کے ساتھ نہ لے، ”کلمًا وَقَفَ مَعَهُ الْخَ“ وہ دوڑتا تو یہ بھی دوڑتے وہ رکتا تو یہ بھی رکتے۔

”قَالَ: لِجُرْحِ الرَّجُلِ الْخَ“ یہ پیچھا کرنے والے کہتے ہیں وہ آدمی کچھ دیر کے بعد بہت بخت زخمی ہو گیا، تو زخموں کی تکلیف کی وجہ سے اس نے موت کو اپنے اوپر جلدی طلب کر لیا کہ زمین کے اوپر اپنی تکوار کھی او راس کی نوک سینے کے درمیان رکھی، ”لَمْ تَحَمِلْ عَلَيْهِ الْخَ“ پھر جھک کر اس تکوار کے اوپر گر گیا اور اس طرح اپنے آپ کو قتل کر ڈالا یعنی خود کشی کر لی۔

”لِخُرُجِ رَجُلِ الْخَ“ وہ صاحب جو پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ صاحب نبی کریمؐ کے پاس واپس آئے، ”قَالَ الْخَ“ اور آکر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپؐ ہی اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ نے دریافت فرمایا کہ کیا ہوا ہے؟

”قَالَ: الرَّجُلُ الدُّلِيُّ الْخَ“ تو کہنے لگے کہ آپؐ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ الہ نامیں سے ہے۔

”فَاعظِمُ النَّاسِ ذَلِكَ الْخَ“ تلوگوں کو یہ بات بہت بڑی لگی تھی تو میں نے کہا کہ میں تمہارا کفیل ہوں اور تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں اس کے بارے میں کہ میں مستقل اس کے ساتھ رہوں گا یعنی اس شخص کو دیکھتا رہوں گا کہ اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اُسکو رسول اللہ ﷺ نے چھپی قرار دیا۔

”فَخَرَجَتْ لِي الْخَ“ چنانچہ میں شخص کی میں تلاش میں گیا اور اس کا یچھا کرتا رہا یہاں تک کہ وہ سخت رُخی ہوا، اپنے زخموں کی تکلیف و شدت کی وجہ سے جلدی مرنے کی آرزو کرنے لگا، پھر جلدی مرنے کیلئے تاکہ تکلیف سے نجات ملے، اس نے اپنی توارکو زمین پر ٹیک کر اس کی نوک اپنے سینہ کے درمیان رکھ لی، اس پر اپنا بوجہ ڈال کر خود کشی کر لی۔

**لَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْدَ ذَلِكَ الْخَ** ”تو یہ بات سن رسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے ظاہر پر ہمیشہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اعمال سے ایسا لگتا ہے کہ جنتی ہے لیکن ہوتا جنمی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری عمل دوزخ کے لوگوں کی طرح ہوتا ہے مگر وہ جنتی لوگوں میں سے ہوتا ہے۔

بِسْ الْتَّهِ تَعَالَى بِحَمْدِهِ اُور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔

یہ واقعہ ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ ایک جنگ کے دوران ایسا واقعہ پیش آیا، وہ جنگ کون سی تھی یہ پتہ نہیں لگا رہا، انگلی روایت بھی اس سے ملتی جلتی ہے اور جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔

٣٢٠٣ - حدثنا أبو اليمن: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خوير لقال رسول الله ﷺ لرجل ممن معه يدعى الإسلام: ((هذا من أهل النار)). للما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحه فكاد بعض الناس يرتاب، لوجد الرجل ألم الجراحه فاھوى بيده إلى كناله فاستخرج منها أسهما النحر بها نفسه. فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله صدقى الله حديثك، التحر فلان فقتل نفسه. فقال: ((قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. إن الله يزيد الدين بالرجل الفاجر))، تابعه معمر، عن الزهرى. [راجع: ٣٠٦٢]

٣٢٠٥ - قال ثبيب، عن يويس، عن ابن شهاب: أخبرنى ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة قال: شهدنا مع النبي ﷺ حنينا. وقال ابن المبارك، عن يويس، عن الزهرى، عن سعيد عن النبي ﷺ، تابعه صالح، عن الزهرى. وقال الزبيدي، أخبرنى الزهرى: أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبد الله بن كعب قال: أخبرنى من شهد مع النبي ﷺ خوير، قال: الزهرى، وأخبرنى عبد الله بن عبد الله

و معید عن النبی ﷺ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں کہ ہم خیر میں حاضر تھے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کے بارے میں جو خود کو مسلمان کہتا تھا اور آپ ﷺ کے امراہ تھا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ شخص اہل جہنم میں سے ہے، لیکن جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے زبردست لڑائی کی یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا، قریب تھا کہ بعض لوگ شک میں پڑ جاتے (آپ ﷺ کے فرمان کے بارے میں) کہ نہ جانے آپ ﷺ کے اس فرمان سے کیا مقصد ہے، جسے ہم سمجھنا سکے، جب اس زخمی شخص کو اپنوں زخموں کی تکلیف زیادہ محسوس ہوئی تو اس نے اپنا ہاتھ ترکش میں ڈال کر کچھ تیر لکالے اور پھر اس سے خود کو ذبح کر لیا، تو کچھ مسلمان تیزی سے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ! اللہ نے آپ کی بات کو صحیح کر دکھایا کہ فلاں شخص نے خود کو تیر مار کر خود کشی کر لی ہے، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے فلاں شخص کھڑے ہو کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں مومن کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، اور اللہ بد کار شخص کے ذریعہ بھی اپنے دین کی مدد فرماتا ہے۔ عمر نے زہری رحمہ اللہ سے اس حدیث کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

اور شبیب کہتے ہیں کہ انہوں نے یوس سے، اور انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی ہے کہ مجھے ابن میتب اور عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رض نے یہ الفاظ فرمائے ہے مدعی النبی ﷺ خیبو اور ابن مبارک نے روایت کی یوس سے، انہوں نے زہری سے، اور سعید نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے، صالح نے زہری کے واسطے سے اس روایت کی متابعت کی ہے۔ زبیدی کہتے ہیں کہ مجھے زہری نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن کعب نے بیان کیا عبد اللہ بن عبد اللہ بن کعب یہ الفاظ کہے اخباری من شهد مع النبی ﷺ خیبو، زہری کہتے ہیں کہ مجھے عبد اللہ بن عبد اللہ اور سعید بن میتب نے نبی ﷺ سے روایت بیان کی ہے۔ ۱۵

## تشريع

یہاں صراحة ہے کہ یہ واقع غزوہ خیبر کا ہے۔

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ الْخَ“ آپ ﷺ نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کے بارے میں فرمایا جو کہ اسلام کا دعویٰ کرتا تھا یعنی خود کو مسلمان کہتا تھا، ”هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ لِلْمَا إِلَيْهِ“ یہ شخص جنہیوں سے ہے، جب قیال کا وقت آیا تو وہ بہت بے جگری سے لڑا۔

یعنی اتنی زبردست طریقہ سے لڑائی کی کہ اسکو خم بہت لگے یہاں تک کہ بعض لوگوں کے دل میں شکوہ پیدا ہونے لگے کہ آپ ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اہل نار میں سے ہے حالانکہ یہ اتنی بہادری سے جہاد کر رہا ہے تو یہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟

”لَوْجِدَ الرَّجُلُ الْخَ“ رُخی ہونے کے بعد اس شخص کو زخمیوں کی تکلیف پہنچی، تو اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے تیرکش کی طرف لے گیا اور اس میں سے کچھ تیر نکالے اور اس سے اپنے آپ کو ذبح کر لیا۔ اس لئے علامہ عینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے اس لئے کہ پہلے واقعہ میں آیا ہے کہ تکوار سے آپ کو قتل کیا تھا اور یہاں پر یہ ہے کہ تیروں سے قتل کیا۔ لیکن ان کو الگ الگ واقعہ قرار دینے کے لئے تھا اتنی بات کافی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو کہ اس نے پہلے تیر سے بھی کوشش کی پھر تکوار سے بھی۔

”لَقَالَ: قَمْ يَا فَلَانَ أَنْهُ الْخَ“ آپ ﷺ نے جب یہ واقعہ سنات تو فرمایا اے فلاں شخص کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کر دو، ”لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ أَنَّ اللَّهَ يُوَيْدُ الْخَ“ جنت میں مومن کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے دین کی ایک فاجر شخص سے تائید فرماتے ہیں۔

محض یہ سمجھنا کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو ضرور نجات ہوگی، کچھ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کیونکہ بعض اوقات دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بھی کر لیتے ہیں جو ظاہر میں فاجر ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ دین کا کام اور دین کی خدمت تھانجات کے لئے کافی نہیں جب تک کہ دوسرے اعمال بھی درست نہ ہوں۔

”فَابْعَدْ مَعْمَرَ عَنِ الزَّهْرِيِّ الْخَ“ کہتے ہیں کہ یہی روایت معمر نے بھی زہری سے روایت کی ہے اوپر جو روایت آئی ہے وہ زہری سے شعیب بن أبي حمزہ روایت کر رہے ہیں، اسی طرح جیسے اوپر ہے۔

”وَقَالَ هَبِيبٌ، عَنْ يَوْنِسَ الْخَ“ دوسرے نئمتوں میں خیبر کی جگہ خین میں ہے اور وہ نئے زیادہ صحیح ہیں، تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ هبیب نے یہ حدیث یونس بن یزید سے روایت کی ہے اور انہوں نے امام زہری رحمہ اللہ سے، گویا امام زہری کے دوشاگرداوپ گذرے ایک هبیب بن أبي حمزہ اور دوسرے معمر بن راشد، ان دونوں نے تو اس کو خیبر کا واقعہ قرار دیا۔

لیکن هبیب نے جو روایت کی ہے یونس سے، یونس روایت کر رہے ہیں علامہ زہری رحمہ اللہ سے تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ غزوہ خین میں شامل ہوئے تو گویا انہوں نے یہ غزوہ خین کا قرار دیا۔

”قَالَ أَبْنَ الْمَبَارِكَ الْخَ“ عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بھی یونس سے اسی طرح روایت کیا ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ وہ سعید سے مرسل اور روایت کر رہے ہیں، درمیان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ نہیں ہے عن النبی ﷺ۔

”تابعه صالح عن الزہری“ اور صالح بن کیمان نے بھی زہری سے اسی طرح روایت کیا ہے  
یعنی سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے مرسلاروایت کیا ہے۔

”وقال الزہری اخبرنا الحنف“ اور زہری نے جوزہ زہری سے روایت کی ہے اس میں یہ بات ہے  
کہ عبد اللہ بن کعب کہتے ہیں کہ مجھے ایسے شخص نے خبر دی جو نبی کریم ﷺ کے ساتھ خبر میں شامل تھا، تو یہاں  
پر عبد اللہ بن کعب نے کسی ایسے صحابی کے ذریعہ نقل کیا جو خبر میں شامل تھے تو گویا انہوں نے معمراً و رشیب کی  
تائید کی۔ ”وقال الزہری الحنف“ اور زہری نے یہ بھی کہا کہ مجھے سعید نے مرسل اخبار دی ہے۔

### خلاصہ کلام

تو خلاصہ یہ لکلا کہ خبر والی روایت مرسلابھی مروی ہے اور موصولابھی مروی ہے اور حسن والی روایت  
محض موصولاً روایت ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مجموعہ کولانے سے ترجیح اس بات کو دینا چاہتے ہیں کہ  
پھر خبر والی روایت کو زیادہ تر راوی خبر کا واقعہ قرار دیتے ہیں۔

۳۲۰۶ - حدثنا المکی بن ابراہیم: حدثنا یزید بن ابی عبید قال رأیت أثر ضربة فی  
سوق سلمة فقلت يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتها يوم خبر. فقال الناس:  
أصيـب سلمـة، فـلـقـت النـبـي ﷺ فـنـفـت لـه لـلـاث نـفـات لـمـا اـشـكـيـتـهـاـ حـتـىـ السـاعـةـ . ۱۹

ترجمہ: یزید بن ابی عبید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ ﷺ کی پنڈلی میں تکوار کی چوت کا نشان دیکھا  
تو میں نے پوچھا اے ابو مسلم! یہ چوت کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا میرے یہ چوت خبر کے دن لگی تھی، لوگوں  
نے تو یہ کہا کہ سلمہ مر گیا میں آپ ﷺ کی خدمت میں آیا تو آپ ﷺ نے اس پر تین مرتبہ دم فرمادیا تو مجھے اس وقت  
سے اب تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

### شرح

حضرت یزید بن ابی عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ کی پنڈلی میں تکوار کے  
ایک ضرب کا نشان دیکھا تو میں نے پوچھا کہ ”یا ابا مسلم الحنف“ یہ کس چیز کا نشان ہے؟

"ابا مسلم" یہ حضرت سلمہ بن اکوئے کی کنیت ہے۔

"قال: هذه ضربة الخ" تو فرمایا کہ یہ تکوار کا وہ نشان ہے جو اس پنڈلی کو خبر کے دن کو لگا تھا، تو لوگوں نے کہا تھا کہ سلمہ بن اکوئے کو بہت چوت لگ گئی ہے۔ "لأئیت النبی ﷺ لفت الخ" تو میں آپ ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ نے تین مرتبہ پھونک ماری تو آج تک مجھے اس پاؤں میں کوئی شکایت نہ ہوئی۔

۷- ۳۲۰۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل قال:  
العقى النبي ﷺ والمشركون لى بعض مجازية لاقتلوا العمال كل قوم الى عسكراهم ولى  
المسلمين رجل لا يدع من المشركون شاذة ولا فاذة الا اتبعها لضربها بسيفه. فقيل:  
يا رسول الله، ما اجزأ احد ما اجزأ للان، فقال: ((الله من أهل النار)), فقالوا: اينا من أهل  
الجنة ان كان هذا من اهل النار؟ فقال رجل من القوم: لا تبعنه فاذ اسرع وأبطأ كنت معه  
حتى جرح فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه بالارض وذبابة بين ثدييه ثم تعامل عليه  
فعيل نفسه، فجاء الرجل الى النبي ﷺ فقال: اشهد انك رسول الله، فقال: ((وما  
ذاك؟)) فأخبره فقال: ((ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يbedo للناس واله من اهل  
النار. وبعمل اهل النار فيما يbedo للناس وهو من اهل الجنة)). [راجع: ۲۸۹۸]

ترجمہ: ابن ابی حازم رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان کے والد، حضرت سہل ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوہ یعنی خیر میں رسول اللہ ﷺ اور مشرکین مقابل ہو کر خوب لڑے، پھر ہر قوم اپنے اپنے لشکر کی طرف واپس ہوئی، مسلمانوں کے لشکر میں ایک شخص تھا جو اسکیلے مشرک کو نہ چھوڑتا تھا، بلکہ اس کے پیچھے سے آ کر اس کے تکوار مارتا، آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! جتنا کام فلاں نے کیا کسی نے نہیں کیا، آپ ﷺ نے فرمایا وہ شخص تو دوزخی ہے۔ صحابہ کرام ﷺ نے دل میں کہا اگر وہ دوزخی ہے تو پھر ہم میں جنتی کون ہوگا، اتنے میں مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اس کے پیچھے رہوں گا تاکہ اس کا امتحان کروں، جب وہ تیز چلتا یا آہستہ، تو میں اس کے ساتھ رہتا، حتیٰ کہ وہ زخمی ہوا اور زخموں کی تکلیف سے بے تاب ہو کر جلدی مرننا چاہا، چنانچہ اس نے تکوار کا بضرر میں سے لگا کر اس کی نوک کو اپنے سینہ کے درمیان رکھا، پھر اس پر اپنا بوجہ ڈال کر خود کشی کر لی، اب وہ شخص نبی ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کیا بات ہوئی، تو اس نے وہ واقعہ آپ ﷺ کو سنادیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی آدمی لوگوں کی نظر میں جنتیوں جیسا عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، اور کوئی لوگوں کی نظر میں دوزخیوں جیسا عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔

۸- ۳۲۰۔ حدثنا محمد بن سعید الخزاعی: حدثنا زیاد بن الربيع، عن أبي عمران،

قال: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال: كالمهم الساعة يهود خبیر. ترجمہ: ابو عمران رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت انس ﷺ نے جمعہ کے دن لوگوں پر ایسی چادریں دیکھیں، جو یہود خبیر کی چادریوں کی طرح نمکین تھیں، تو فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت خبیر کے یہودیوں کی طرح معلوم ہو رہے ہیں۔

### یہود کی مشابہت سے ممانعت

حضرت ابو عمران رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ﷺ نے "نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة" شہر بصرہ میں لوگوں کو جمعہ کے دن دیکھا کہ لوگ بڑی بڑی چادریں پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک ﷺ نے دیکھ کر کہا "كالمهم الساعة يهود خبیر" ایسا لگ رہا ہے کہ خبیر کے یہودی ہیں یعنی خبیر کے یہودی اسی طرح کی بڑی بڑی چادریں پہننا کرتے تھے تو جن لوگوں کو پہننا ہوا دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ مجھے یاد آگیا ہے کہ خبیر کے یہودی اس طرح کی چادر پہننا کرتے تھے۔

طيالسة - "طیلسان" کی جمع ہے، چادر کو کہتے ہیں، چونکہ یہ مخصوص قسم کی سیاہ چادر تھی جو یہودی استعمال کرتے تھے۔

اس نے حضرت انس بن مالک ﷺ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی مشابہت سے پرہیز کرنا چاہئے۔ ۱

۳۲۰۹ - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا حاتم، عن يزيد بن أبي عبيدة، عن سلمة  
قال: كان على ﷺ تخلف عن النبي ﷺ في خبیر وكان رد المقال: أنا أخلف عن النبي ﷺ فلحق به فلما بتنا الليلة التي فتحت قال: ((لاعطي الرأي أو لياخذلن الرأي غداً رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه)), فنحن نرجوها لقيل: هذا على، فأعطاه ففتح عليه. [راجع:

[۲۹۷۶]

من المرد به البخاري.

ابن کان هولا، الناس الذين رأى عليهم الطيالسة يهود خبیر، وهذا انكار عليهم لأن الشبه بهم منزع، وادى  
الدرجات فيه الكراهة، وقد روى ابن خزيمة وأبو عميم: أن أسأل: ما شبه الناس اليوم في المسجد وكثرة الطيالسة  
الا يهود خبير. عمدة القاري، ج: ۱، ص: ۳۳۷

ترجمہ: یزید بن ابی عبد حضرت سلمہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علیؓ آشوب چشم میں بٹلا تھے تو وہ غرزاہ خیر میں رسولؓ کے ساتھ نہیں آئے تھے، پھر حضرت علیؓ نے کہا کہ میں آنحضرتؓ سے پیچھے رہ جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا وہ بھی آگئے، جب وہ رات آئی جس کی صبح کو خیر فتح ہوا ہے تو آنحضرتؓ نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو جہنم کو دوں گایا فرمایا کہ کل ایسا شخص جہنم کے گا جس سے اللہ اور رسول محبت رکھتے ہیں، اسی کے ہاتھ پر فتح بھی حاصل ہوگی، لہذا ہم اس جہنم کے امیدوار تھے کہ کہا گیا، علیؓ آگئے ہیں، لہذا آپؓ نے انہیں جہنم کو دیا اور انکے ہاتھ پر فتح ہوئی۔

## شرح

حضرت سلمہ بن اکوعؓ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ بیماری کی وجہ سے نبی کریمؓ سے خیر میں پیچھے رہ گئے تھے، یعنی جب آپؓ خیر کیلئے روانہ ہوئے تو حضرت علیؓ آپؓ کے ساتھ روانہ ہو سکے۔ "وَكَانَ رَمَدًا" اس روز حضرت علیؓ کی آنکھیں دکھر رہی تھیں آشوب چشم کی بیماری تھی۔ "رَمَدٌ" آنکھ کے دکھنے کی بیماری کو کہتے ہیں۔

"لِقَالَ: أَنَا أَنْخَلَفُ إِلَيْكُمْ" جب وہ پیچھے رہ گئے اور حضور اکرمؓ خیر تشریف لے گئے تو بعد میں ان کے دل میں خیال آیا کہ میں حضورؓ سے پیچھے رہ جاؤں یا اچھا نہیں معلوم ہوتا، چنانچہ حضرت علیؓ پیچھے سے حضور اکرمؓ کے ساتھ جاتے۔ اب اس میں دونوں احتمال ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ملے یا عین اس وقت جب قوس کا قلعہ فتح ہونے والا تھا اس وقت جاتے۔

حضرت سلمہ بن اکوعؓ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ رات گذاری جس رات کے اگلے دن قلعہ قوس فتح ہوا تو آپؓ نے فرمایا کہ کل میں جہنم ایک ایسے شخص کو دوں گایا یہ فرمایا کہ کل جہنم ایک ایسا شخص لے گا، "رَجُلٌ يَحْبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِلَيْكُمْ" اس سے پہلے صدقیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کو بھی جہنم کو دیا گیا تھا مگر فتح نہیں ہو پایا تھا تو فرمایا کہ میں کل جہنم ایسے شخص کو دوں گا کہ جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ فتح ہو جائے گا۔

"لَنْعَنَنَّ نَرْجُو الْخَ" تو ہمیں کچھ امید ہو گئی کہ شاید ہمیں مل جائے اور یہ سعادت ہم میں سے کسی کے حصہ میں آجائے، "لِقِيلٍ هَذَا عَلَى الْخَ" تو اتنے میں آپؓ سے کہا گیا کہ علیؓ آگئے ہیں تو آپؓ نے جہنم کو دیا اور ان کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو گیا۔ آگے اس واقعہ کی تفصیل آرہی ہے۔

جہنم ان کو دیا اور ان کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو گیا۔ آگے اس واقعہ کی تفصیل آرہی ہے۔

آخرینی سهل بن سعد رض: ان رسول الله ﷺ قال یوم خبر: ((لاعطيں هذہ الرایہ غدا رجلا بیفعح اللہ علی یدیه، بیحب اللہ ورسوله، ویحبیه اللہ ورسوله)). قال: فیات الناس یہ دو کون لیلهم آیہم یعطیاها للما اصبع الناس غدوا علی رسول اللہ ﷺ کلهم یرجو ان یعطیاها لقال: ((این علی بن ابی طالب؟)) فقیل: هو یا رسول اللہ یشکی عینہ، قال: فارسلوا الیہ، فائی بہ فیصلی عینہ و دعا له فبرا حتی کان لم یکن بہ وجع فاعطاہ الرایہ لقال علی: یا رسول اللہ، الاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ لقال: ((انفذ علی رسک حتی تنزل بساحتھم ثم ادعیمہم إلى الاسلام وآخرھم بما یجب علیھم من حق اللہ فیہ . فو اللہ لأن یهدی اللہ بک رجالا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم)). [راجع: ۲۹۳۲]

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خبر کے دن فرمایا میں کلن یہ پرچم ایسے شخص کو دوں گا، جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ سہل رض کہتے ہیں کہ لوگوں نے وہ رات بڑی بے چینی سے گزاری کر دیکھیں کہ کل پرچم کس کو عطا ہوتا ہے، جب صحیح ہوئی تو لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ گئے، اور ہر ایک اس پرچم کے ملنے کا خواہ شنید تھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا علی بن ابو طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! ان کی آنکھیں دھکتی ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا ان کے پاس آدمی صحیح کر انہیں بلا و، چنانچہ انہیں بلا یا گیا تو آنحضرت ﷺ نے اپنا العاب وہ ان ان کی آنکھوں میں لگا کر ان کے لئے دعا کی تو وہ ایسے تند رست ہو گئے گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں پرچم دیدیا، حضرت علی رض نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں ان سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم سید ہے جا کر ان کے میدان میں اتر پڑو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوں وہ بتاؤ، اللہ کی قسم! تمہارے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہدایت فرمادیں اسے تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

## فتح قلعۃ قوص

یہ قلعہ خیر کے قلعوں میں نہایت مشکم و مضبوط قلعہ تھا۔

اس قلعہ کو فتح کرنے کے لئے حضور اقدس ﷺ نے پہلے دن جھنڈا دیکر حضرت ابو بکر صدیق رض کو بھیجا، باوجود پوری تو انائی اور جدو جہد کے قلعہ فتح نہ ہو سکا وہ واپس آگئے، دوسرے روز حضور اقدس ﷺ نے حضرت

عمر فاروق رض کو جھنڈا دیکھ روانہ فرمایا، حضرت عمر فاروق رض نے بھی پوری طرح سے جدوجہد و تعالیٰ کیا لیکن قلعہ لٹھ کئے بغیر واپس آگئے۔ ۲۲

حضرت سہل بن سعد رض فرماتے ہیں کہ اس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلّم نے فرمایا کہ کل نشانِ رجھنڈ اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو اور اللہ اور اس کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہوں اور اس کے ہاتھ پر اس قلعہ کو لٹھ فرمائے۔

حضرت سہل بن سعد رض فرماتے ہیں کہ ہیں کہ لوگوں نے وہ رات بڑی تمنا اور اشتیاق میں گزاری کی دیکھیں کہ یہ سعادت مندی کس کے حصے میں آتی ہے اور کل پرچم کس کو عطا ہوتا ہے، چنانچہ جب صبح ہوئی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم کی خدمت میں پہنچ گئے، اور ہر ایک اس پرچم کے ملنے کا خواہ شمند تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلّم نے حضرت علی کو بلایا، ان کی آنکھیں اس وقت آشوبِ جسم کی بیماری میں بستلاء تھیں، حضرت علی رض کی آنکھ میں آپ صلی اللہ علیہ و سلّم نے اپنا العاب وہن ڈالا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹھیک کر دیا اور آنکھ ایسی ہو گئی جیسے کہ کچھ درد تھا ہی نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلّم نے جھنڈا ان کو عطا فرمایا۔

”لَا عطاء الرؤاۃ“ جب ان کو پرچم عطا کیا گیا تو پھر حضرت علی رض نے عرض کیا ”أَفَايُّهُمْ حتّیٰ يَكُونُوا مُعْلَمًا؟“ اے اللہ کے رسول! کیا میں ان سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں جب تک وہ ہماری طرح نہ ہو جائیں؟ یعنی مسلمان نہ ہو جائیں۔

## جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت پہنچانے کا حکم

تو آپ صلی اللہ علیہ و سلّم نے فرمایا ”الْفَدْعَةُ عَلَى رَسُولِكَ“ تم چلوا پنے طریقہ کے مطابق یعنی جو طریقہ کار تھا را ہے اس کے مطابق یا جیسے حالت میں تم ہو اسی حالت میں آگے بڑھو ”حتّیٰ نَزَلَ بِسَاحِقِهِمْ لَمْ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبَرُهُمُ الْخَ“ یہاں تک کہ جب ان کے میدان میں اتر پڑو تو ان کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوں وہ بتاؤ۔

”لَوْا للّٰهِ لَأَنْ يَهْدِي الْخَ“ اگر اللہ تعالیٰ تھا رے ذریعہ کسی ایک کو بھی ہدایت دے دیں تو تھا رے لئے بہتر ہے جیسیت اس بات سے کہ تمہیں سرخ اوٹ میں، لہذا بھلایا اسلام کی دعوت دو، دعوت دینے کے بعد اگر وہ قبول نہ کریں پھر جہاد کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ قاتل سے پہلے دعوت مستحب ہے اگر کفار کو پہلے دعوت نہیں پہنچی ہو تو توبہ واجب ہے اور اگر دعوت پہلے پہنچ چکی ہے تو پھر مستحب ہے کہ پہلے دعوت دی جائے پھر اس کے بعد قاتل کیا جائے۔<sup>۳۲۱۱</sup>

**۳۲۱۱ - حدیث عبد المغارب بن داؤد:** حدیثنا یعقوب بن عبد الرحمن ح. وحدتی احمد: حدیثنا ابن وهب قال: أخبرنى یعقوب بن عبد الرحمن الزهرى، عن عمر ومولى المطلب، عن أنس بن مالك رض قال: قدمنا خوير فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حمیی بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسًا فاصطفاها النبي ﷺ لنفسه فخرج بها حتى بلغ بهاء الصباء حللت لبني بها رسول الله ﷺ، لم صنع حمیی في نفع صغير ثم قال لها: ((آذن من حولك)), فلما تلقت ذلك وليتها على صفية، لم يخرجنا إلى المدينة فرأيت النبي ﷺ يحوي لها وراءه بعاءة لم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. [راجع: ۲۷۱]

**ترجمہ:** حضرت انس بن مالک رض فرماتے ہیں کہ ہم خیر آئے جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت رض کو قلعہ خیر میں فتح عنايت فرمادی تو آپ رض سے صفیہ بنت حمیی رضی اللہ عنہا کے حسن و جمال کا ذکر کیا گیا، وہ نمیں دہنی ہی تھیں کہ ان کا شوہر مارا گیا تھا تو آنحضرت رض نے ان کو اپنے لئے منتخب فرمایا، آنحضرت رض انہیں اپنے ہمراہ لے کر چلے، یہاں تک کہ جب ہم مقام سد صباء میں پہنچے تو صفیہ رضی اللہ عنہا حلال ہو گئیں تو آپ رض نے ان کے ساتھ خلوت فرمائی، پھر آپ رض نے مالیدہ بنا کر چھوٹے سے دستخوان پر رکھ کر مجھ سے فرمایا اپنے آس پاس کے لوگوں کو جا کر بتا دو چنانچہ یہی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا ولیمہ تھا، اور ہم مدینہ کی طرف چلے تو میں نے نبی کریم رض کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لئے اپنے پیچھے ایک چادر بچھاتے ہوئے دیکھا، پھر آپ رض اپنے اونٹ کے قریب بیٹھتے اور اپنا زانوئے مبارک لکا دیتے، حضرت صفیہ آپ رض کے زانوئے مبارک پر اپنا پاؤں رکھ کر سوار ہو جاتی۔

## حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ولیمہ کا واقعہ

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ پہلے تفصیل گزر چکا ہے۔

اس روایت میں حضرت انس رض فرماتے ہیں کہ جب ہم خیر آئے تو اللہ تعالیٰ نے قلعہ فتح کر دیا تو اس

کے بعد آپ کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے حسن و جمال اور ان کے مرتبہ کا ذکر کیا گیا، ”وَقَدْ قُتلَ زوجها الْخَ“ اور ان کے شوہر کو خیر کی لڑائی میں قتل کر دیا گیا تھا ”وَكَاتَ عَرْوَسًا“ اور وہ نبی دہن تھی یعنی ان کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔

مراد یہ ہے کہ پہلے تو ان کی شادی سلام بن مشتم سے ہوئی تھی بعد میں کنانہ بن ربیع سے غنی نبی شادی ہوئی تھی تو آنحضرت ﷺ نے اپنے لئے ان کا انتخاب کیا جس کی مکمل تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

”فَخَرَجَ بِهَا الْخَ“ اس کے بعد جب خیر سے مدینہ واپسی کا سفر ہوا تو اس بات کا حضرت انس ﷺ ذکر فرمائے ہیں کہ آپ ﷺ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ہمراہ لے کر چلے، یہاں تک کہ ہم سد صہباء کے مقام پر پہنچے اور وہاں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حیض سے پاک ہوئیں تو آپ ﷺ نے بناء فرمائی۔

اس سے پہلے آیا تھا کہ جب آپ ﷺ خیر سے نکلے اور صفیہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں تو انہوں نے خود ہی انتخاب کیا تھا کہ ان سے نکاح کریں۔

بعد میں نبی کریم ﷺ ان کے پاس جاتے تو یہ گویا تھوڑا سا اعراض کرتیں اور پھر جب ایک دو مرتبہ ایسا واقعہ ہیش آیا تو انہوں نے پھر اس کی وجہ یہ بیان کی کہ مجھے رسول کریم ﷺ پر یہ اندیشہ ہے کہ اگر یہودی آپ کو میرے ساتھ دیکھیں گے تو ان کے اوپر اچاک غیرت سوار نہ ہو جائے اور وہ آنحضرت ﷺ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اس واسطے میں ذرا احتیاط کر رہی ہوں کہ خیر کی حدود سے نکل جائیں۔

چنانچہ مدینہ واپسی پر خیر کی حدود سے جب سب نکل گئے اور سد الصہباء کے مقام پر پہنچے تو پھر آپ ﷺ نے بناء فرمائی۔ ۲۷

”لَمْ صُنِعْ حِسَاسَ الْخَ“ پھر آپ نے طوہ بنایا اور ایک چھوٹے سے دستِ خوان پر اس کو رکھا گیا۔

”حِسَسٌ“ ایک طوہ کی طرح کی چیز ہوتی تھی، جس میں کچھ نیز، کچھ بھی اور کچھ شہد ملا کر بناتے تھے اور اہل عرب کے ہاں یہ اچھا شمار ہوتا تھا۔

”لَمْ لَالَّى: آذَنَ الْخَ“ پھر آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا جو تمہارے آس پاس لوگ ہیں ان کو بلا لو آنحضرت ﷺ کی طرف حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا ولیمہ یہی تھا یعنی باہر لوگوں میں اعلان کر دوتا کہ وہ ولیمہ کیلئے آجائیں۔

٢٧) لَالَّى ام سَنَانُ الْمُسْلِمَةُ: وَكَانَتْ مِنْ أَهْرَواً مَا يَكُونُ مِنَ النَّاسِ، لِدُخُلِّ عَلَى أَهْلِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ سَالِتَهَا عَمَّا قَالَ لَهَا لَقَالَتْ: لَالَّى (ما حملك على الامتناع من النزول أولاً) فَلَقَلَتْ: خشيت عليك من قرب اليهود، فزادها ذلك عنده. الإصابة في تميز الصحابة، كتاب النساء: ١١٣٠ - صفة بنت حبي، ج: ٨، ص: ٢١٠

”لَمْ يُخْرِجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَّا حَفِظَنَا اللَّهُ عَنْهَا“ حضرت انس رض فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ جانے کے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و آله و سلم کو دیکھا کہ آپ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لئے چادر تیار کر رہے تھے یعنی اپنے پیچھے بٹھانے کیلئے چادر کو درست کر رہے تھے تاکہ اس کے اوپر وہ بیٹھیں۔

”لَمْ يَجْلِسْ عَنْدَ بَعِيرَةٍ فِي ضَعْدِ الْحَجَّ“ پھر آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم اپنے اونٹ کے پاس بیٹھے اور اپنا گھٹنا مبارک رکھ دیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کے گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو گئیں۔

۳۲۱۲ - حدثنا اسماعيل قال: حدثنا أخي، عن سليمان، عن يحيى، عن حميد الطويل؛ سمع أنس بن مالك رض أن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أقام على صفية بنت حبي بطريق خيبر لليلة أيام حتى أعرس بها. وكانت ليمتن ضرب عليها الحجاب. [راجع: ۳۷۱]

ترجمہ: حمید بن طویل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رض سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خیر کے راستے میں صفیہ بن حبی رضی اللہ عنہا کے لئے تین دن قیام فرمایا یہاں تک کہ ان سے خلوت فرمائی اور وہ ان ازواج مطہرات میں سے تھیں جن پر پردہ فرض ہوا۔

۳۲۱۳ - حدثنا سعید بن أبي مریم: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثیر: أخبرنى حمید أنه سمع أنسا رض يقول: أقام النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خيبر والمدينة ثلاث ليالٍ يبني عليه بصفية، لدعوت المسلمين إلى وليمة وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا لأن أمر بلالاً بالأنطاع لبسكت فالقى عليها التمر والأقط والسمن. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها لهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها لهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. [راجع: ۳۷۱]

ترجمہ: حمید بن طویل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رض سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مدینہ منورہ اور خیر کے راستے میں تین دن فروش رہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے خلوت فرمائی، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کے دیمہ میں مسلمانوں کو بلا یا، اور اس دیمہ میں نہ روئی تھی نہ گوشت، اس میں صرف یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے بلال رض کو دستر خوان بچانے کا حکم دیا، چنانچہ دستر خوان بچا دیئے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے اس پر چھوہا رے، پسیا اور گھنی رکھ دیا۔ تو مسلمان آپس میں کہنے لگے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا أمہات المؤمنین میں سے ہیں یا آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله و سلم کی کنیت ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله و سلم ان کا پردہ کرائیں گے، تو أمہات المؤمنین میں سے ہوں گی، اور اگر پردہ نہ کرایا تو پھر کنیت ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے کوچ کیا تو ان کے لئے اپنے پیچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور پردہ کھینچ دیا۔

## قیدی سے ام المؤمنین ہونے کا اعزاز

جب یہ تمام واقعہ ہوا تو مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا یا تو "احدی امہات المؤمنین" یعنی امہات المؤمنین میں سے ہیں نکاح کی وجہ سے یا "ماملکت یمنیہ" آپ ﷺ کی باندی ہیں؟ تو بعض صحابہ نے کہا "ان حججه الہی احمدی امہات المؤمنین" اگر آپ ﷺ نے ان کو پرده کرایا تو یہ اس بات کی علامت ہو گی کہ یہ امہات المؤمنین یعنی ازواج مطہرات میں سے ہیں اور اگر پرده نہیں کیا تو پھر یہ باندی ہوں گی کیونکہ پرده آزاد عورت کے لئے ہے باندی یا کنیر کے لئے نہیں۔

"لَمَّا أَرْتَهُ عَلَى خَلْفِهِ وَمَدَ الْحِجَابَ" جب آپ روانہ ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کے لئے چادر پیچھے بچھائی اور پرده کھینچ دیا، تو چونکہ پرده ہو گیا تو معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے نکاح فرمایا ہے اور یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں۔

۳۲۱۳ - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة ح. و حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا وهب: حدثنا شعبة، عن حمود بن هلال، عن عبد الله بن مغفل عليه السلام قال: كنا محاصرى خيبر فرمى إنسان بجراب ليه شحم لنزوت لا خده فالعفت فإذا النبى صلوات الله عليه وآله وسلام فاستحييت. ۵ ترجمة: حضرت عبد الله بن مغفل عليه السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خيبر کا محاصرہ کئے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے ایک کھانے کا تھیلا پھینکا، جس پر چربی تھی، تو میں اسے لینے کو دوڑا، جب پیچھے مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آنحضرت صلوات الله عليه وآله وسلام موجود ہیں مجھے بڑی شرم آئی۔

## مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے استعمال کا حکم

اس روایت میں حضرت عبد الله بن مغفل عليه السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے خيبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا "لرمى إنسان بجراب فيه شحم" تو ہاں سے کسی شخص نے ایک تھیلا پھینکا جس میں کچھ چربی تھی تو میں

۵) ولی صحيح مسلم، کتاب الجهاد والسرور، باب جواز الأكل من طعام الغنیمة لی دار العرب، رقم: ۱۷۷۲ و سن ابی داود، کتاب الجهاد، باب فی اباحة الطعام لمن ارض العدو، و مسنون النسائي، کتاب الفضائح، باب ذ بالح اليهود، رقم: ۳۲۳۵، و مسند أحمد، مسند المدائين، حدیث عبد الله بن مغفل العزلي عن النبي صلی الله علیه وسلم، رقم: ۱۶۹۱، و مسنون الدارمي، کتاب السير، باب أكل الطعام قبل أن تقسم الغنیمة، رقم: ۲۵۲۲

اس کو لینے کے لئے بھاگا تاکہ اس کو حاصل کرلوں۔  
 اچاک میں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ وہاں تشریف فرماتھے تو مجھے شرم آگئی، یعنی اگر چہ کھانے پینے کی چیزیں دور ان جنگ تقسیم غنیمت سے پہلے لینے کی گنجائش ہوتی ہے۔  
 ابھی تک مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا اور کھانے پینے کی چیز کسی کو مل گئی اور وہ لیکر کھا لے تو جائز ہے۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے جو عمل کیا تھا وہ ناجائز نہیں تھا لیکن چونکہ اس میں ایک طرح سے حرص علی الطعام ہے۔  
 اس واسطے کہا جب میں نے حضور اقدس ﷺ کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، تو مجھے شرم آگئی کہ میں نے ایسا کام کیا۔

۳۲۱۵ - حدیثی عبید بن اسماعیل، عن أبي أسماء، عن عبید الله، عن نافع و سالم، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية.  
 لنه عن أكل الثوم هو عن نافع وحده ولحوم الحمر الأهلية عن سالم [راجع: ۸۵۳]  
 ترجمہ: حضرت نافع اور حضرت سالم رحمہما اللہ دونوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے نیبر کے دن یعنی اور پاپتو گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت فرمائی۔ یہن کے کھانے کی ممانعت کے راوی صرف نافع رحمہ اللہ ہیں اور پاپتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت حضرت سالم رحمہ اللہ سے مردی ہے۔

## لہسن کھانے کی ممانعت

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت میں دو چیزوں کو جمع کیا ہے:  
 ایک لہسن کے کھانے کی ممانعت۔

دوسرًا پاپتو گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت۔

”لحوم الحمر الأهلية“ یعنی گدھے کے گوشت کا مسئلہ پہلے گذر چکا ہے۔

”أكل الثوم“ یہاں پر لہسن کی ممانعت تحریکی نہیں ہے بلکہ تزییہ ہے اور وہ بھی اس وقت جب کچا لہسن ہوجس سے منہ میں بدبو آئے۔

”أكل الثوم“ کا جو جملہ ہے یہ نافع رحمہ اللہ نے تھا روایت کیا ہے اور ”لحوم الحمر الأهلية“ یہ سالم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔

٢٢١٦ - حدیثی بحیی بن قزوعة: حدیثنا مالک، عن ابن شہاب، عن عبد اللہ والحسن ابھی محمد بن علی، عن ابیهما، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ : أن رسول اللہ ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خیر، وعن أكل لحوم الحمر الالسية. [انظر: ۵۱۱۵، ۵۵۲۳ ۶۹۶۱]

ترجمہ: عبد اللہ وحسن رحمہما اللہ اپنے والد محمد بن علی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خیر کے دن عورتوں سے متعہ کرنے سے ممانعت فرمائی اور پا تو گدوں کا گوشت کھانے کی ممانعت فرمائی۔

## شرح

اس روایت میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ غزوہ خیر کے موقع پر آپ ﷺ نے عورتوں سے متعہ کرنے سے اور پا تو گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا۔

## متعہ کا مفہوم

کوئی شخص کسی عورت سے کہے "التمتع بِكَ كَذَا مَدَّةً بَكَلَادِيْنِ الْمَالِ" یعنی میں تم سے اتنی مدت اتنے مال کے عوض فائدہ اٹھاؤں گا اور وہ عورت اس کو قبول کر لے۔  
اس میں نہ لفظ نکاح استعمال ہوتا ہے اور نہ دو گواہیں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، بخلاف نکاح مؤقت کے کہ اس میں لفظ نکاح بھی ہوتا ہے اور دو گواہ بھی ہوتے ہیں البتہ مدت متعین ہوتی ہے۔

۶) ولی صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب نکاح المتعة، رہیان انه ابیح، لم نسخ، واستقر الى يوم القيامة، رقم: ۷، ۱۳۰، ومن الترمذی، أبواب النکاح، باب ما جاء في تحريم نکاح المتعة، رقم: ۱۱۲۱، وأبواب الأطعمة، باب ماجاء في لحوم حمر الahlية، رقم: ۱۷۹۳، وسنن النسائي، کتاب النکاح، باب تحريم المتعة، رقم: ۳۵۲۶، ۳۳۶۵،  
۷) کتاب الصيد والذباح، باب تحريم أكل لحوم الahlية، رقم: ۳۳۳۳، ۳۲۳۵، وسنن ابی ماجه، کتاب النکاح، باب نہی عن نکاح المتعة، رقم: ۱۹۶۱، وموطا امام مالک، کتاب النکاح، باب نکاح المتعة، رقم: ۳۱،  
ومنند احمد، مسند علی بن ابی طالب، رقم: ۵۹۱، ۱۲۵۳، ۱۲۰۳، ۲۰۳، ۸۱۶، وسن الدارمی، کتاب الاصلحی،  
باب فی لحوم الحمر الahlية، رقم: ۲۰۳۳، کتاب النکاح، باب نہی عن متعة النساء، رقم: ۲۲۳۳

## حرمت متعہ

متعہ کی حرمت پر تمام امت کا اجماع ہے اور سوائے رواضش کے کوئی اس کی حلت کا قائل نہیں، حضرت علیؓ سے متعہ کی حرمت میں متعدد روایتیں آئی ہیں، مگر پھر بھی حضرت علیؓ کی محبت کے یہ دعویدار متعہ پر اس درجہ مسحور ہیں کہ حضرت علیؓ کی بھی نہیں سنتے اس لئے ان کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں۔

البته صرف حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا جواز منقول ہے، وہ بھی مخصوص اضطرار کے موقع پر جواز کے قائل تھے پھر اس سے بھی رجوع کر لیا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی پیدائش ہجرت سے ایک یادو سال پہلے ہوئی اور آٹھ یا نو برس کی عمر تک اپنے والدین کے ساتھ مکہ میں رہے، فتح مکہ کے بعد ۸ھ میں جب حضرت عباسؓ نے مع خاندان کے ہجرت فرمائی تو ابن عباس اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ حاضر ہوئے اور غزوہ خیبر (جس میں حرمت متعہ کا اعلان ہوا تھا) وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مدینہ آنے سے قبل ہو چکا تھا اور اس عرصہ میں کوئی متعہ کا واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔

اسلئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بذاتِ خود متعہ کے متعلق کوئی خبر نہیں ہوئی صرف دوسرے صحابہ کی زبانی سننا اور اس بناء پر یہ فتویٰ دیا کہ جس طرح مجبوری کی حالت میں مردار و خزر یہ مباح ہو جاتا ہے اسی طرح مجبوری کی حالت میں متعہ بھی جائز ہے۔

لیکن بعد میں حضرت علیؓ اور دیگر صحابہؓ نے متعہ کے متعلق قیامت تک کی حرمت اور ممانعت کی روایتیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سنائیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے رجوع فرمایا۔

بعد ازاں حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں بعض لوگوں نے ناواقفیت کی بناء پر، جن کو تمیم متعہ کی خبر نہ پہنچی تھی اس فعل کا ارتکاب کر بیٹھے تو حضرت عمرؓ کو جب یہ خبر پہنچی تو سخت ناراض ہوئے اور منبر پر چڑھے اور خطبہ دیا اور متعہ کی حرمت کا اعلان فرمایا تاکہ اس کی حرمت میں کوئی غبہ باقی نہ رہے اور یہ فرمایا کہ میرے اس اعلان کے بعد اگر کوئی متعہ کرے گا تو میں اس پر زنا کی حد جاری کروں گا۔ اس وقت سے متعہ بالکل موقوف ہو گیا اور اس پر تمام صحابہؓ کرامؓ کا اجماع ہو گیا۔ ۱۷

یہاں پر دو بحثیں ہیں:

پہلی بحث یہ ہے کہ متعہ کی حرمت پر عموماً اس آیتِ قرآنی سے استدلال کیا جاتا ہے

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَالِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ  
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مَلُومِينَ﴾ ۲۹

ترجمہ: اور جو اپنی شرمگاہوں کی (سب سے) حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جوان کی ملکیت میں آچکی ہوں، کیوں کہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔

## حرمتِ متعہ کی آیتِ مت Dell پر اشکال

اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ آیت کی ہے اس لئے کی قرآن کریم میں یہ آیت دو مقام پر آئی ایک سورہ مونون میں، اور دوسرے سورہ معارج میں، اور یہ دونوں سورتوں کی چیزیں، جبکہ متعہ کی حلت و حرمت کی تمام روایات اس پر دال ہیں کہ متعہ بھرت کے بعد حرام ہوا اور وہ ایک سے زائد غزوات میں حلال تھا، پھر یہ آیت متعہ کے حق میں کیسے خرجم ہو سکتی ہے؟

## اشکال کا جواب

اسکے جواب میں شراح حدیث و تفسیر کافی سرگردان رہے، لیکن اطمینان بخش جوابات کم دئے گئے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے فتاویٰ عزیزیہ میں یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ متعہ بالمعنى المعروف اسلام میں کبھی حلال نہیں ہوا اور اس کو مذکورہ آیت نے شروع میں ہی حرام کر دیا تھا ابتدۂ مختلف غزوات کے موقعہ پر جس متعہ کی اجازت احادیث میں سروی ہے اس سے مراد نکاہ موقت ہے، لہذا یہ آیت شروع ہی سے حرمت متعہ پر دلالت کر رہی ہے۔ ۲۹

۲۹ [المؤمنون: ۵، المعارض: ۲۹]

۳۹ حرم حرم متعہ، ح: ۲، ص: ۳۹

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بھی فیض الباری میں اسی کے قریب قریب یہ قول اختیار کیا ہے کہ متعد بالمعنى المعروف تو ہمیشہ حرام تھا البستہ جس چیز کی اجازت دی گئی تھی اس سے مراد "نکاح بـا ضـعـارـلـیـة الفـرـقـة" تھا، یہ نکاح پہلے قضاۓ اور دیانتا دونوں طرح جائز تھا، بعد میں اگرچہ قضاۓ جائز ہیں لیکن دیانتا اسے ناجائز قرار دیدیا گیا۔

اسی بات کو احادیث میں ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا کہ متعد کی شروع میں اجازت دی گئی تھی، بعد میں اسے ناجائز کر دیا گیا۔ ۱۱

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے اس دعویٰ پر سنن ترمذی میں موجود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت باب سے استدلال کیا ہے "قال: الماکالت المتعة لی اول الاسلام کان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرولة ليتزوج المرأة بقدر ما يرى الله يقيم لحفظ له معاشه وتصلح له شبهه حتى اذا زلت الآية ﴿إِلَّا أَغْلَى أُرْوَاجِهِمْ أُرْوَاجِهِمْ أُرْوَاجِهِمْ أُرْوَاجِهِمْ﴾ قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام"۔ ۱۲

حضرت شاہ عبدالعزیز اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمہما اللہ کے مذکورہ دونوں جوابات اگر دلائل سے ان کی تائید ہو رہی ہوتی تو خاصے قوی ہوتے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں جوابات محض دعویٰ ہیں اور ان تمام احادیث کا ظاہر جن میں لفظ متعد آیا ہے ان دونوں جوابات کی تردید کر رہا ہے بالخصوص حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی تحقیق پر متعدد اشکالات دارد ہوتے ہیں۔

پہلا یہ کہ یہ روایت موسیٰ بن عبیدہ کی وجہ سے مکلم فیہ ہے۔ ۱۳

دوم یہ کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے متعد بالمعنى المعروف کی جو تصریح کی ہے وہ ان کی متدل روایت کے الفاظ سے پوری طرح واضح نہیں ہوتی بلکہ اس روایت کو بھی متعد بالمعنى المعروف پر بآسانی محمول کیا جاسکتا ہے۔

سوم یہ کہ اس روایت کے آخر میں یہ تصریح ہے کہ آیت قرآنی ﴿إِلَّا أَغْلَى أُرْوَاجِهِمْ أُرْوَاجِهِمْ أُرْوَاجِهِمْ أُرْوَاجِهِمْ﴾ نے متعد کو منسوخ کر دیا، اب اگر متعد سے وہی معنی مراد لئے جائیں جو حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ

۱۱) لیعنی الہاری علی صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب نہی رسول اللہ عن نکاح المتعة اخیراً، ج: ۲، ص: ۲۸۲

۱۲) سنن الترمذی، أبواب النکاح، باب ماجاء فی تعریف النکاح المتعة، رقم: ۱۱۲۲

۱۳) ميزان الاعتدال، حرف العجم، رقم: ۸۸۹۵، موسیٰ بن عبیدۃ الزبیدی، ج: ۲، ص: ۲۱۳ و المحرر جن لابن

جبان، ج: ۱، ص: ۷۶

نے لئے ہیں تب بھی اصل اعتراض لوٹ آتا ہے کہ یہ آیت کی ہے اور حلت متعہ کی روایات مدنی ہیں۔ ۲۴

## رخصت ہے حلت نہیں

اس اعتراض کا صحیح جواب یہ ہے کہ متعہ بالمعنى المعروف کو مذکورہ آیت قرآنی نے مکملہ میں ہی حرام کر دیا تھا اور وہ بدستور حرام ہی رہا البته بعض غزوات کے موقع پر ضرورت شدیدہ کی وجہ سے ایک محدودہ مدت کے لئے اس کی اجازت دی گئی جو رخصت تھی، حلت نہیں جیسے الحم خزر یہ حرام ہے لیکن اضطرار کے موقع پر اس کا کھانا ہو جاتا ہے، نہ اسلئے کہ وہ حلال ہو گیا بلکہ اس لئے کہ خاص حالات کی وجہ سے شریعت نے ایک محدودہ رخصت عطا فرمادی ہے۔ حاصل یہ کہ ایسی رخصت حرمت کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے اور اس رخصت کی وجہ سے یہ نہیں کھا جاتا ہے کہ وہ حرمت منسوخ ہو گئی۔

اس جواب کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اجازت متعہ کی تقریباً تمام روایات میں رخصت کا لفظ استعمال ہوا ہے نہ کہ حلت کا۔

اس اعتراض کا ایک دوسرا جواب بھی دیا جاسکتا ہے وہ یہ کہ مذکورہ آیت میں ازواج سے مراد وہ عورتیں ہیں جو عقدہ مشروع کے ذریعے سے حلال کی گئی ہوں اور ابتداء اسلام میں عقدہ مشروع چونکہ صرف نکاح تھا اس لئے آیت حرمت متعہ بھی دال تھی۔

پھر بعد میں جب نبی کریم ﷺ نے کچھ عرصہ کے لئے متعہ کی اجازت دی تو متعہ بھی عقدہ مشروع کے تحت آگیا اور ایسی تمام عورتیں جن کے ساتھ متعہ کیا گیا "ازدواج" کے تحت داخل ہو گئیں اس لئے نہ آیت کی مخالفت ہوئی، نہ آیت کو منسوخ کیا گیا۔ بعد میں جب دوبارہ متعہ کو منوع کر دیا گیا تو وہ عقدہ مشروع نہ رہا اور ایسی عورتیں "ازدواج" کے مفہوم سے خارج ہو گئیں، اس لئے اب یہ آیت ہمیشہ کے لئے حرمت متعہ پر دال ہے۔  
دوسری بحث یہ ہے کہ متعہ کی حرمت کس زمانے میں ہوئی؟

اس بارے میں روایات میں شدید تعارض پایا جاتا ہے۔

حضرت علیؑ کی حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ متعہ غزوہ خبر کے موقع پر حرام ہوا۔  
بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے موقع پر حرام ہوا۔ ۲۵

۲۴) المسیر للرطبي، سورة العلم منون، ج: ۱۲، ص: ۱۰۲، و سورة المعارج، ج: ۱۸، ص: ۲۷۸

۲۵) صحيح مسلم، کتاب النکاح، باب نکاح المتعة، رقم: ۱۳۰۶

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر ہوا۔ ۵۵

بعض سے غزوہ اوطاس کے موقع پر متعدد حرام ہوا۔ ۶۵

بعض روایات سے اس کی حرمت غزوہ تبوک کے موقع پر ہوئی۔ ۷۵

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد حجۃ الوداع کے موقع پر حرام ہوا۔ ۸۵

## رفع تعارض

تعارض رفع کرنے کیلئے بعض حضرات نے فرمایا کہ حرمت متعدد ایک مرتبہ ہو سکی تھی لیکن اسکا اعلان بار بار مختلف مواقع پر کیا گیا، جس نے جس غزوہ میں یہ حکم پہلی بار سنا، اس نے حرمت کو اسی غزوہ سے مشروب کر لیا۔ ۹۵

٥٥ سن النائل، كتاب النكاح، باب تحرير المتعة، رقم: ٣٣٦٧، وفتح الباري، كتاب النكاح، باب نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيراً، ج: ٩، ص: ٦٨

٥٦ صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، رقم: ١٣٠٥

٥٧ نسب الرابية، كتاب النكاح، فصل في بيان العبرمات، ج: ٣، ص: ١٤٩

٥٨ سن أبي داود، كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة، رقم: ٢٠٧٢ وفتح الباري، ج: ٩، ص: ١٤٩

٥٩ وقد اختلف في وقت تحرير نكاح المتعة فأغرب ما روى في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك، لم رواها الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريرها أن ذلك كان في غزوة اللقح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سيرية عن أبيه، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع، قال ومن قال من الرولة كان في غزوة أو طاس فهو موالٍ لمن قال عام اللقح أهـ. فنحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، لم عمرة القضاء، لم اللقح، لم أو طاس، لم تبوك، لم حجة الوداع. وبقى عليه حدين لأنها ولدت في رواية لدبيهت عليها قبل، فاما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمداً لخطأ روايتها، أو لكون غزوة أو طاس وحدين واحدة، فلام رواية تبوك فاعتبرتها اسليق بن راهب وابن حبان من طرقه من حدوث أبي هريرة: ((أن النبي ﷺ لما نزل بهيمة الوداع رأى مصابيح وساع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله نساء كانوا يستعنون بهنـ. قال: هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث)) وأخرج جابر رضي الله عنه عنه عن النبي ﷺ إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة وما يلي الشام جاءت لسرة لدكنا نستعنا بهنـ يطفن برجالنا، جاء رسول الله ﷺ فلذكرنا ذلك له، قال لله رب ولا م خطيباً للحمد لله والذى وعليه وليه عن المتعة، لتوادعنا يومئذ لسميت ثانية الوداع)). ففتح الباري، ج: ٩، ص: ١٦٩

لیکن یہ جواب اطمینان بخش نہیں کیونکہ روایات کے الفاظ اس کی تائید نہیں کرتے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ جس روایت میں غزوہ ہجوب کاذکر ہے اس میں کسی راوی سے وہم ہوا ہے اور حضرت علیؓ کی روایت "لہی عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبیر" اس روایت میں "زمن خبیر" کا تعلق صرف "لحوم الحمر الأهلية" سے ہے لیعنی "لحوم حمر" کو غزوہ خبیر میں حرام قرار دیا گیا۔

اور "لہی عن متعة النساء" ایک الگ جملہ ہے جس کا "زمن خبیر" سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ دراصل فتح مکہ کے موقع پر متعہ کی اجازت دی گئی تھی پھر اسے حرام کر دیا گیا تھا لیکن چونکہ فتح مکہ، غزوہ حنین واو طاس ایک ہی سفر میں پیش آئے تھے اس لئے کسی نے اس کی نسبت فتح مکہ کی طرف کر دی اور کسی نے حنین یا او طاس کی طرف۔

لیکن حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا یہ جواب بھی تکلف سے خالی نہیں۔

احقر کے نزدیک سب سے بہتر جواب علامہ طیبی رحمہ اللہ کا ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ خبیر کے موقع پر متعہ حرام ہو گیا تھا پھر فتح مکہ کے موقع پر ایک محدود دامت کیلئے دوبارہ اس کی رخصت دی گئی اس کے بعد ہمیشہ کے لئے اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔<sup>۷</sup>

۷۲۱۔ حدثنا محمد بن مقال: أخبرنا عبد الله: حدثنا عبد الله بن عمر، عن صالح، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ لہی يوم خبیر عن لحوم الحمر الأهلية. [راجع: ۸۵۳]

۷۲۱۸۔ حدثني إسحاق بن نصر: حدثنا محمد بن عبيدة: حدثنا عبد الله، عن صالح و سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لہی رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الحمر الأهلية. [راجع: ۸۵۳]

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پا تو گدوں کا گوشت کھانے کی ممانعت فرمائی۔

۷۲۱۹۔ حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن محمد

<sup>۷</sup> قال الشيخ محي الدين: والصحيح المختار أن العجبين والإباحة كانا مرتدين، وكانت حلالا لقبل خبير ثم حرمت يوم خبير، لم أبيح يوم لفوح مكة وهو يوم او طاس لا تصالهما، لم حرمت بعد ثلاثة أيام لغير ما مولدا إلى يوم القيمة. شرح المشكاة للطبيبي الكافش عن حقالى السنن (شرح مشكاة المصايخ)، ج: ۷، ص: ۲۲۸۸

ابن علی، عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال: لہی رسول اللہ ﷺ یوم خیر عن لحوم الحمر و رخص فی الخیل۔ [الفطر: ۵۵۲۰، ۵۵۲۳] ایں

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خیر کے دن گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت فرمائی۔

## گھوڑے کا گوشت کھانے کا مسئلہ

اس روایت میں ہے کہ ”رخص فی الخیل“ کہ رسول اللہ ﷺ گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، اس حدیث کی وجہ سے جمہور فقہاء کرام رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے۔

اختلاف میں صاحبین رحمہم اللہ کا بھی قول جمہور فقہاء کے موافق ہے، جبکہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت مکروہ تحریکی ہے، اور وہ اس آیت سے استدلال فرماتے ہیں :

**فَوَالْخَيْلَ وَالْبَيْقَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكُوبُهَا وَزِينَةٌ لَهُمْ**

ترجمہ: اور گھوڑے، پچھر اور گدھے اتنی نے پیدا کئے ہیں تاکہ تم اس پر سواری کرو، اور وہ زینت کا سامان بنیں۔

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موضع امتنان میں یعنی احشائات میں شمار کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ جیزیں تو سواری اور زینت کیلئے پیدا کی گئی، اگر کھانا جائز ہوتا تو کھانے کا بھی ذکر ہوتا۔

ایں ولی صحیح مسلم، کتاب الصد و الدجالع و ما ينزل كل من الحيوانات، باب فی أكل لحوم الخیل، رقم: ۱۹۳۱ و سنن أبي داؤد، کتاب الأطعمة، باب فی أكل لحوم الخیل، رقم: ۳۷۸۹، ۳۷۸۸، باب فی أكل لحوم الحمر الأهلية، رقم: ۳۸۰۸، وسنن الترمذی، أبواب الأطعمة، باب فی كراهة كل ذی لاب و ذی مخلب، رقم: ۱۳۷۸، باب فی أكل لحوم الخیل، رقم: ۱۷۹۳، وسنن النسائی، کتاب الصد و الدجالع، باب الاذن فی أكل لحوم الخیل، رقم: ۳۲۲۷-۳۲۲۹، باب تحريم أكل لحوم الخیل، رقم: ۳۲۳۳، باب اباحة أكل لحوم الحمر الوحش، رقم: ۳۳۳۳ وسنن ابن ماجہ، کتاب الدجالع، باب لحوم الخیل، رقم: ۳۱۹، باب لحوم البیال، رقم: ۱۳۱، ومسند احمد، مسند جابر بن عبد الله، رقم: ۱۳۳۵۰، ۱۳۳۵، ۱۳۳۲۳، ۱۳۳۲۲، ۱۳۳۲۱، ۱۳۸۴۰، ۱۳۸۳۰، ۱۳۹۰۲، ۱۳۸۹۰، ۱۳۹۰۱، ۱۵۱۳۵، وسنن الدارمی، کتاب الأضاحی، باب فی أكل لحوم الخیل، رقم: ۲۰۳۶

دوسرے استدلال حضرت خالد بن ولید رض کی ایک حدیث سے ہے جو سنن ابو داؤد اور سنن نسائی وغیرہ میں آئی ہے، اس میں حضرت خالد بن ولید رض فرماتے ہیں کہ "نهی رسول اللہ عن اکل لحوم الخیل، والبھال والحمیر" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالم نے ہم لوگوں کو گھوڑے، چمراور گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا۔ ۳۲۱

یہ وہ روایت ہے جس کی وجہ سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریکی ہے اور حدیث الباب میں جوبات گزری اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہو گی جب گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہو گا۔ ۳۲۲

بعد میں بعض حضرات نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا رجوع بھی صاحبین رحمہما اللہ کے قول کی طرف نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی پھر جائز ہو گیا۔

۳۲۳ - حدیث انس بن سلیمان: حدثنا عباد، عن الشیبانی قال: سمعت ابن أبي اوفری رضی الله عنہما: أصابتنا مجاعة يوم خوبیر فلأن القدور لتفلی، لال: وبعضها لضجت لجاجة منادي النبي ﷺ: لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً وأهريقوها، قال ابن أبي اوفری: لشحدنا أله إيمانه عنها لأنها لم تخمس. وقال بعضهم: لهی عنها البتة لأنها كانت تأكل العدرة. [راجع: ۳۱۵۵]

ترجمہ: ابن ابی اوفری رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خوبیر کے دن ہم پر بھوک کا غلبہ ہواں وقت ہانڈیوں میں جوش آ رہا تھا، اور کچھ پک گئی تھیں کہ بنی کریم رض کے منادی نے آ کر کہا کہ گدوں کا گوشت ذرا سما بھی نہ کھاؤ، اور ہانڈیاں کو بہاڑو۔ ابن ابی اوفری کہتے ہیں کہ ہم آپس میں کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسالم نے صرف اس لئے منع فرمایا ہے کہ ان میں سے ابھی خمس نہیں نکلا ہے، اور بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسالم نے یقیناً اس لئے منع فرمایا ہے کہ یہ نجاست کھاتا ہے۔

۳۲۴ سنن ابیر داؤد، کتاب الاطعمة، باب فی اکل لحوم الخیل، رقم: ۳۷۹ و سنن النسائی، کتاب الصمد والذبائح،

تحريم اکل لحوم الخیل، رقم: ۳۳۳۲

۳۲۵ (واما) لحم الخیل فقد لال ابو حنبلة - رضی الله عنه - يكرهه و (الا) ابیر يوسف و محمد رحمہما اللہ لا يكرهه، و (الا) احمد الشافعی رحمہما اللہ ..... (واما) على ظاهر الروایة عن ابو حنبلة - رضی الله عنه - انه يكرهه اکله ولم يطلق التحریم لاختلاف الحديث الروایة فی الباب واختلاف السلف لکره اکل لحومه احتیاطاً لباب الحرمة. بدائع الصنائع

لی ترتیب الشرائع، کتاب الذبائح والصیود، الماکول وغير الماکول من الحیوانات، ج: ۵، ص: ۳۸

## شرح

حضرت عبد اللہ بن ابی اوی رضی اللہ عنہما کی اس روایت میں ہے جب حضور ﷺ نے گدھے کے گوشت سے منع فرمایا تو ہم نے آپس میں اس بارے میں یہ باتیں کیں، بعض نے کہا منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جن گدھوں کا گوشت پکایا جا رہا تھا، ان میں سے ابھی تک خس نہیں نکالا گیا تھا، اس لئے منع فرمایا تھا۔

اور بعض نے کہا کہ آپ ﷺ نے ہمیشہ کے لئے منع کر دیا، گدھے کا گوشت کھانا جائز ہی نہیں ہے، اس واسطے کے وہ نجاست کھاتے ہیں۔ تو زیادہ لوگوں کا کھانا بھی ہے نجاست کی وجہ ان کا ناجائز ہونا تھا، بعض اس وجہ سے منع نہیں کیا کہ خس نہیں نکالا گیا تھا۔

**۳۲۲۱** - حدثنا حجاج بن منھاں: حدثنا شعبۃ: اخبرنی عدی بن ثابت، عن البراء و عبد الله بن أبي اوی رضی اللہ عنہما کالوا مع النبي ﷺ فأصحابوا حمرا و اطبخوها، فنادی منادی النبي ﷺ: أکفثوا القدور. [انظر: ۳۲۲۳، ۳۲۲۵، ۳۲۲۶، ۳۲۲۵] [۵۵۲۵]

ترجمہ: عدی بن ثابت حضرت براء اور عبد اللہ ابن ابی اوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے پھر انہیں گدھے ملے تو انہوں نے ان کا گوشت پکایا، تو نبی کریم ﷺ کے منادی نے اعلان کیا کہ ہائڈیاں اٹھیں دو۔

**۳۲۲۳** - حدثني إسحاق: حدثنا عبد الصمد: حدثنا شعبۃ: اخبرنی عدی بن ثابت قال: سمعت البراء و ابن أبي اوی رضی اللہ عنہما یحدثان عن النبي ﷺ أنه قال يوم خیر ولد لصبووا القدور: ((أکفثوا القدور)). [راجع: ۳۱۵۳]

ترجمہ: حضرت براء اور عبد اللہ ابن ابی اوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے خیر کے روز، جبکہ ہائڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا گیا تھا صحابہ کرام ﷺ نے فرمایا کہ ہائڈیاں اٹھیں دو۔

۱) روى مجمع مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يكره كل من الحيوان، باب تحريم أكل لحم العمر الاليمية، رقم: ۳۲۳۸، ۱۹۳۸، ومن السنالى، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم العمر الahlمية، رقم: ۳۲۳۹، ۳۲۳۸، ومن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب لحوم العمر الوحشية، رقم: ۳۱۹۲، ۳۱۹۳، ومند أحمد، حديث البراء بن عازب، رقم: ۱۸۵۷۳، ۱۸۶۷۰، ۱۸۵۷۳، بطيءة حديث عبد الله بن اوی عن النبي ﷺ، رقم: ۱۹۱۲۷، ۱۹۱۱۶، حديث عبد الله بن اوی، رقم: ۱۹۳۰۰

٣٢٢٥ - حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: غزونا مع

النبي ﷺ لحومه. [راجع: ۳۲۲۱]

ترجمہ: حضرت براء ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ جہاد کیا پھر وہی حدیث بیان کی جو چیز پر روایت کی گئی ہے۔

٣٢٢٦ - حدثني إبراهيم بن موسى: أخبرنا ابن أبي زالدة: أخبرنا عاصم، عن عامر، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي ألي خبيرة خبيرة أن للقى الحمر الأهلية نيئة ولضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله بعد. [راجع: ۳۲۲۱]

ترجمہ: حضرت براء بن عازب ﷺ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم ﷺ نے غزوه خبیر میں حکم دیا کہ پالتو گرھوں کا گوشت پھینک دو، کچا بھی اور پکا ہوا بھی، پھر آپ ﷺ ہمیں اس کے کھانے کا کبھی حکم نہیں دیا۔

٣٢٢٧ - حدثنا محمد بن أبي الحسين: حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي، عن عامر، عن ابن عباس قال: لا أدرى ألهي عنه رسول الله ﷺ من أجل الله كان عاصم، عن عامر، عن ابن عباس قال: لا أدرى ألهي عنه رسول الله ﷺ من أجل الله كان

حملة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خبير لحم الحمر.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنہما فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا رسول اللہ ﷺ نے اس لئے گرھوں کے گوشت سے منع فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کی بار برداری کے کام آتا ہے اور ان کے کھائینے سے لوگوں کو تکلیف ہو گی یا آپ ﷺ نے خبیر کے دن ہمیشہ کے لئے پالتو گرھوں کا گوشت حرام کر دیا ہے۔

## شرح

حضرت عبد اللہ ابن عباس رضي الله عنہما اس روایت میں اپنا خیال بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے جو منع فرمایا تھا وہ کس وجہ سے تھا۔

”من أجل الله كان حملة الناس فكره أن تذهب حمولتهم“ وہ اس وجہ سے منع فرمایا تھا کہ وہ سواری کے جانور تھے اور وہ لوگوں کی بار برداری کے کام آتا ہے اور اندیشہ یہ ہوا کہ اگر ان کو کھایا تو سواریاں کم رہ جائیں گی۔

یا یہ کہ ”او حرمه في يوم خبير لحم الحمر“ آپ ﷺ نے خبیر کے دن ہمیشہ کے لئے اور مستقل پالتو گرھوں کا گوشت حرام ہی کر دیا۔

٣٢٢٨ - حدثنا الحسن بن إسحاق: حدثنا محمد بن ساقد: حدثنا زالدة، عن عبيد

الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله ﷺ يوم خير للفرس سهمين وللرجل سهما، قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسمهم لأن لم يكن له فرس فله سهم. [راجع: ۲۸۶۳]

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خیر کے دن آپ ﷺ نے مال غنیمت اس طرح تقسیم فرمایا کہ گھوڑے کے دو حصے اور پیادہ کا ایک حصہ۔ نافع نے اس کی تشریع اس طرح فرمائی کہ اگر کسی کے پاس گھوڑا ہوتا تو اسے تین حصے ملے، ایک اس کا اور دو گھوڑے کے، اور اگر اس کے پاس گھوڑا نہ ہوتا تو اسے ایک حصہ ملتا۔

### مال غنیمت میں گھڑ سوار کا حصہ

مال غنیمت کی تقسیم میں گھڑ سوار شخص کا حصہ کیا ہوگا اور پیدل شخص کا حصہ کیا ہوگا؟ اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جمہور فقہاء کے کرام رحمہم اللہ اجمعین کے درمیان اختلاف ہے۔

### جمہور کا مسلک

یہ جمہور فقہاء کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ گھڑ سوار کو مال غنیمت میں سے تین حصے دیئے جائیں گے، ایک حصہ خود اس کا اور دو حصے اس کے گھوڑے کے۔ <sup>۲۹</sup>

### امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ فارس کے دو حصے ہوں گے، ایک حصہ اس گھڑ سوار کا اور ایک حصہ اس کے گھوڑے کا۔ <sup>۳۰</sup>

### امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال ان احادیث سے ہے جو دارقطنی، بنی هاشم اور وغیرہ میں حضرت ابن عمر

۲۹) واحد یعنی بہلہ الأحادیث جمہور العلماء: أن سهام الفارس ثلاثة: سهمان لفرسه و سهم له، وبه لال مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد. عمدة القارىء، ج: ۱۳، ص: ۲۲۸  
۳۰) وقال أبو حنيفة: لا ي لهم للفارس الا سهم واحد ولفرسه سهم. عمدة القارىء، ج: ۱۳، ص: ۲۲۹

رضی اللہ عنہما ہے جس میں ایک حصہ گھوڑے اور ایک حصہ لانے والے (گھر سوار) کو دینے کا ذکر ہے۔<sup>۲۸</sup>  
 اور اسی طرح سنن ابو داؤد میں حضرت مجع جن جاریہ انصاری رض کی روایت ہے کہ "فَاعطِي  
 الْفَارِسَ سَهْمَيْنَ وَاعْطِيَ الرَّاجِلَ سَهْمَيْنَ" اس میں بھی یہی تفصیل ہے کہ ایک اس آدمی کا اور ایک حصہ اس  
 کے گھوڑے کا۔<sup>۲۹</sup>

## حدیث میں تطبیق

حدیث باب کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ لفظ یا تواصل میں  
 "فارس" تھا اور راوی نے اس کو فرس کہہ دیا۔ یا پھر یہ کہا جائے گا کہ اس میں جو دو حصے گھوڑے کو دئے گئے وہ بطور  
 مال غیرمت کے نہیں دئے گئے بلکہ بطور نفل دئے گئے۔

## امام کو نفل کا اختیار حاصل ہے

اس لئے کہ امام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مال غیرمت کے علاوہ کسی کو بطور انعام دینا چاہے تو اس کا اختیار  
 ہے۔ اس لئے عین ممکن ہے کہ فرس کو جو ایک حصہ زیادہ دیا گیا ہے، وہ بطور نفل دیا گیا اور نہ استحقاق دو حصے کا تھا،  
 یعنی ایک حصہ گھوڑے کا اور ایک حصہ لڑنے والے کا۔

٣٢٢٩ - حدثنا يحيى بن بکير: حدثنا الليث، عن يولس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن جبير بن مطعم أخبره قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي ﷺ فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ولعن منزلة واحدة منك؟ قال: ((إما بنا هاشم وبين المطلب شيء واحد)). قال جبير: ولم يقسم النبي ﷺ لبني

٢٨) واحتج في ذلك بما رواه الطبراني في ((معجمه)), وكذا بما رواه ابن أبي ذيبة في ((مصنفه)), وأيضاً بما رواه الدارقطني في كتابه ((المؤتلف والمختلف)) من حديث عبد الرحمن بن أمين عن ابن عمر: أن النبي ، كان يقسم لفارس وللرجل سهماً. كما ذكره العلامة بدرا الدين العيني في عصدة القاري، ج: ١٣، ص: ٢٢٨، ٢٢٩، وسنن الدارقطني، كتاب السير، ج: ٥، ص: ١٨٨، رقم: ٣١٨٢، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج الفتنية والفتنة، باب ما جاء في سهم الرجل والفارس، ج: ٢، ص: ١٢٨٦٩، ٥٢٩

٢٩) سنن ابو داؤد، کتاب الجهاد، باب فمن اسهم له سهماً، ج: ٣، ص: ٧٦، رقم: ٢٤٣٦

عبد شمس وہی بنو نوبل شیئا۔ [راجع: ۳۱۳۰]

ترجمہ: حضرت سعید بن میتب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبیر بن مطعمؓ نے خبر دی کہ میں اور حضرت عثمان بن عفانؓ نبی کریمؓ کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا کہ آپؓ نے بنی مطلب کو خیر کے خس میں سے حصہ دیا، اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ہم آپؓ سے تراابت میں ایک ہی درجہ میں ہیں، تو نبی کریمؓ نے جواب دیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہیں، حضرت جبیر بن مطعمؓ کہتے ہیں کہ آنحضرتؓ نے بنو عبد شمس اور بنو نوبل کو کچھ حصہ نہیں دیا۔

### نصرت و مدد کو قرابت پر فوقيت

حضرت جبیر بن مطعمؓ فرماتے ہیں کہ میں اور عثمان بن عفانؓ ہم دونوں نبی کریمؓ کی خدمت میں گئے اور ہم نے عرض کیا آپؓ نے بنو مطلب کو تو خیر کے خس میں سے دیا لیکن ہم کو چھوڑ دیا۔

اصل میں یوں ہے کہ عبد مناف آنحضرتؓ کے پردادا ہوئے تو ان کے چار بیٹے تھے:  
ایک ہاشم جن سے حضورؐ ہوئے، دوسرا مطلب تھے، تیسرا نوبل تھے اور چوتھے عبد شمس تھے۔  
تو بنو ہاشم رسول کریمؓ کے خاندان کے لوگ ہی ہیں۔

آپؓ نے بنو مطلب کو بھی خیر کے خس میں سے چھ عطا فرمایا تھا لیکن بنو عبد شمس اور بنو نوبل کو نہیں دیا تھا۔ حضرت جبیر بن مطعمؓ بنو نوبل میں سے تھے اور حضرت عثمان بن عفانؓ بنو عبد شمس میں سے تھے۔  
ان دونوں نے کہا کہ آپؓ نے عبد المطلب کے اولاد کو تو دیا ہے حالانکہ ہمارا درجہ بھی عبد مناف کی اولاد کے وہی ہے جو بنو مطلب کا ہے۔ °

آپؓ نے فرمایا "الماہنوا هاشم وہنوا مطلب ہی واحد" کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز ہے دونوں کا درجہ ایک ہے۔ اس لئے کہ بنو مطلب وہ تھے جنہوں نے شبب الی طالب کے محاصرہ کے موقع پر بنو ہاشم کا ساتھ دیا، ہر موقع پر بنو ہاشم کا ساتھ دیا بخلاف بنو نوبل اور بنو عبد شمس کے کہ انہوں نے اس موقع پر ساتھ نہیں دیا۔

بہر حال معلوم ہوا کہ بنو نوبل وغیرہ سے رشتہ داری کا تعلق ایک جیسا تھا لیکن آپؓ نے دوسری باتوں کو مذکور رکھتے ہوئے بنو مطلب کو بنو عبد الشمس اور بنو نوبل پر ترجیح دی۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کر رہے ہیں کہ اگر بنیاد قرابت ہوتی تو سب کو یکساں طور پر دیتے لیکن چونکہ سب کو یکساں نہیں دیا، اس لئے معلوم ہوا کہ بنیاد قرابت نہیں ہے۔

٣٢٣٠ - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبوأسامة: حدثنا بريد بن عبد الله، عن أبيبردة، عن أبيموسى عليه السلام قال: بلغنا مخرج النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه ولحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصهرهم، أحدهما أبوبردة والآخر أبو رهم. إما قال: بضعا، وإما قال: لي ثلاثة وخمسين أو النين وخمسين رجلا من قومي، فركبنا سفينتين، فالقينا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. فوالقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً فوالقنا النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه حين القبح خبير. وكان الناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينتين: سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس، وهي من قدم معنا، على حفصة زوج النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه زائره. ولقد كانت هاجرت إلى النجاشي ليمن هاجر لدخل عمر على حفصة، وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس، قال عمر: الحبشية هذه؟ أليس هي؟ قالت: أسماء: نعم، قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه منكم، ففضبت وقالت: كلا والله، كتم مع رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض - البداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله صلوات الله عليه وآله وسلامه، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه ولحن كنالؤذى ولخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلوات الله عليه وآله وسلامه والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. [راجع: ٣١٣٦]

٣٢٣١ - فلما جاء النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه قالت: يا الله، إن عمر قال كذا وكذا، قال: ((فما قلت له؟)) قالت: قلت له كذا وكذا، قال: ((ليس بأحق بي منكم، ولوه ولا أصحابه هجرة واحدة، ولكم أنت أهل السفينتين هجرتان)). قالت: للقدر أتيت أباً موسى وأصحاب السفينتين يأتوني أرسالاً يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدليل على هم به أفرح ولا أعظم في الفهم مما قال لهم النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه. قال أبوبردة: قالت أسماء: للقدر أتيت أباً موسى وإله ليستعيد هذا الحديث مني.

٣٢٣٢ - قال أبوبردة، عن أبيموسى: قال النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه: ((إلى لا أعرف أصوات رفقه الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل - أر قال: العدو - قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم)).  
ترجمة: حضرت أباً موسى صلوات الله عليه وآله وسلامه نے بیان کیا کہ ہمیں یمن میں آنحضرت صلوات الله عليه وآله وسلامه کے کم سے بھرت کی خبر می تو

میں اور میرے دو بھائی جن سے میں چھوٹا تھا ایک ابو بردہ اور دوسرے ابو حم، ابو موسیٰ ﷺ فرماتے ہیں ہم پچاس سے کچھ زیادہ، یا یہ فرمایا کہ ۵۲ یا ۵۳ آدمیوں کے ہمراہ جو میری قوم کے تھے، ہم لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، اس کشتی نے ہمیں جب شہ میں نجاشی کے پاس پہنچا دیا، تو وہاں ہمیں حضرت جعفر بن ابی طالب ﷺ ملے، ہم ان کے ساتھ مقام ہو گئے۔

وہاں سے ہم سب مدینہ کی طرف چلے تو آنحضرت ﷺ سے فتح خبر کے موقع پر ملاقات ہوئی، کچھ لوگ ہم اہل سفینہ سے یہ کہنے لگے کہ بھرت میں لوگ تم سے سبقت لے گئے، اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا جو ہمارے ساتھ آئی تھیں، ام المؤمنین حضرت خصہ رضی اللہ عنہا کے پاس ملاقات کی غرض سے گئیں۔ اور انہوں نے مہاجرین کے ساتھ نجاشی کی طرف بھی بھرت کی تھی، اسماء رضی اللہ عنہا حضرت خصہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہی تھیں کہ حضرت عمر ﷺ، خصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور اسماء رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت خصہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا اسماء بنت عمیس ہیں، حضرت عمر ﷺ نے کہا کیا جب شہ والی یہ ہیں؟ کیا سندروالی یہ ہیں؟ اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا ہاں! حضرت عمر ﷺ نے کہا بھرت میں ہم تم پر سبقت لے گئے، لہذا ہم تم سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کے قریب اور حق دار ہیں۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو یہ سن کر غصہ آگیا، اور کہا ہرگز نہیں، بخدا تم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ آپ ﷺ تمہارے بھوکے کو کھانا کھلاتے، اور ناواقف کو نصیحت وعظ فرماتے تھے، اور ہم لوگ جب شہ میں غیر وہ اور دشمنوں کے گھر یا ملک میں تھے، اور یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے راستے میں تھا، اور خدا کی قسم میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے، جب تک کہ میں رسول اللہ ﷺ سے تمہاری بات نہ کہہ دوں، اور ہمیں تو ایذا دی جاتی تھی اور خوف دلایا جاتا تھا۔ میں بہت جلد یہ بات رسول اللہ ﷺ سے بیان کر کے آپ سے پوچھوں گی، اللہ کی قسم انہیں جھوٹ بولوں گی، نہ ہی کچھ روی اختیار کروں گی، اور نہ اس سے زیادہ بات بیان کروں گی۔

پھر جب نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو اسماء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ا عمر نے ایسا ایسا کہا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے اس طرح کہا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا وہ تم سے زیادہ میرے قریب اور حقدار نہیں ہیں، کیوں کہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی آئی مرتبہ بھرت ہے، اور اے اہل سفینہ! تمہاری دو مرتبہ بھرت ہے۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں ابو موسیٰ اور اہل سفینہ کو دیکھتی کہ وہ میرے پاس گروہ درگروہ آتے اور یہ حدیث مجھ سے پوچھتے، دنیا کی کوئی چیزان کے دلوں میں رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان سے بڑی اور سرست بخش نہیں تھی۔ ابو بردہ کہتے ہیں، اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابو موسیٰ ﷺ اس حدیث کو بار بار مجھ سے سننے تھے۔

ابو بردہ بواسطہ ابو موسیٰ صلی اللہ علیہ وساتھے روایت کرتے ہیں نبی ﷺ نے فرمایا اشعری لوگوں کے قرآن پڑھنے کی آواز کو جب وہ رات میں آتے ہیں پہچان لیتا ہوں، اور میں ان کے رات میں قرآن پڑھنے کی آواز سے ان کی منزلوں کو پہچان جاتا ہوں، اگرچہ دن میں، میں نے ان کی فردگاہ نہ دیکھی ہو، ان میں سے حکیم بھی ہیں، جب وہ کسی جماعت یا دشمن سے مقابلہ کرتے تو ان سے کہتے میرے ساتھی تمہیں انتظار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

### اشعر بین کا یمن سے جدشہ پہنچنے کا واقعہ

اس روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری صلی اللہ علیہ وساتھے اپنا واقعہ بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل وطن یمن میں تھا۔ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وساتھے کے میتوں کی اطلاع ملی جبکہ ہم یمن میں تھے۔

”فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ“ تو ہم آپ کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے نکلے، اس سفر میں میرے ہمراہ میرے دو بھائی تھے اور میں ان میں سب سے چھوٹا تھا، ایک ابو بردہ تھے اور دوسرے ابو رہم تھے۔

”أَمَا قَالَ بَضْعَا، وَأَمَا قَالَ: لِمَى ثَلَاثَةُ الْخَ“ ہم پچھاں سے کچھ زیادہ، یا یہ فرمایا کہ باون یا تر یمن آدمیوں کے ہمراہ، جو میری قوم کے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وساتھے کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے اپنے وطن سے ہجرت کر کے نکلے، ”فَرَكِبْنَا سَفِينَةً“ یمن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وساتھے کی خدمت میں آنے کیلئے ہم کشتی پر سوار ہوئے یعنی سمندری راستہ اختیار کیا۔

### جزیرہ العرب کی جغرافیائی حدود

جزیرہ العرب کی بحیرت مریم کی صورت میں ہے، مغربی جانب بحیرہ احمر اور خلیج عقبہ ہے، جنوب مشرق میں بحیرہ عرب ہے اور شمال مشرق میں خلیج عمان، خلیج فارس اور آبنائے ہرمز واقع ہے۔

ملک یمن جزیرہ العرب کے جنوب مغرب میں بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب کے کنارے پر واقع ہے، یمن کے شمال میں مکہ مکرمہ (اور موجود دور میں سعودی عرب) واقع ہے، یمن کے مغرب میں چونکہ بحیرہ احمر واقع ہے تو یہاں کے لوگ اس دور میں مکہ جانے کے لئے درستہ اختیار کرتے تھے۔

ایک راستہ یہ تھا کہ یمن کے شمال میں شنگلی کے راستے جائیں لیکن یہ راستہ بہت دشوار گذار ہے۔

دوسرے راستہ سمندر کی طرف جا رہا ہے بحیرہ عرب سے جو کہ یمن کے جنوب میں واقع ہے، بحیرہ احمر میں داخل ہوں یا براہ راست بحیرہ احمر جو کہ یمن کے مغربی جانب ہے وہاں سے کشتی میں سوار ہو کر جدہ کے ساحل پر اتر میں اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ جائیں۔

بیحیرہ احر کے ایک طرف تو جزیرہ عرب ہے، یعنی مشرق میں اور مغرب اور جنوب کی طرف افریقہ ہے۔ جس میں کچھ حصہ جشہ کا پڑتا ہے اور کچھ صومالیہ کا پڑتا ہے۔ درمیان میں بیحیرہ احر پر کی طرح واقع ہے کہ اس کے ایک طرف تو جزیرہ عرب ہے، اور دوسری طرف افریقہ کا ساحل ہے، افریقہ کا شمال مشرقی کنارہ ہے، تو اس میں صومالیہ بھی آتا ہے اور جشہ بھی آتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ جزیرہ العرب کی حد ادون کی سرحد سے یمن تک لمبائی میں اور چڑھائی میں بیحیرہ احر سے خلیج فارس تک ہے۔ اس وقت جزیرہ العرب میں کم از کم ایک درجن حکومتیں ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک حکومت تھی۔

حضرت ابو موسی اشعری ھبھ فرماتے ہیں کہ "لَا لَفْتَنَا سَفِيتَنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْجُبَشَةِ" ہم کشتی میں جا رہے تھے کشتی ہوا کے رخ کی وجہ سے ادھر کو جانے کے بجائے ادھر کو ہو گئی اور یوں ہمیں اس کشتی نے جشہ کے ساحل پر پہنچا دیا۔

"لَوَالْفَنَاعِ النَّبِيِّ بَنْ حَمْنَانَ الْغُ" وہاں جا کر ہم جعفر بن ابی طالب ھبھ سے مل گئے، وہ ہم سے پہلے سے ہی ہجرت کر کے جشہ گئے ہوئے تھے تو ہم ان کے ساتھ ٹھہر گئے یہاں تک کہ ہم سب اکٹھے جشہ سے مدینہ منورہ آئے۔

## جشہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت

"لَوَالْفَنَاعِ النَّبِيِّ بَنْ حَمْنَانَ الْغُ" ہم حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں جا کر ملے جب کہ آپ ﷺ نے خبر فتح کیا یعنی خیبر کا غزوہ ہو چکا تھا اور آپ ﷺ خبر فتح فرمائے تھے، جب ہم لوگ پہنچے۔

"وَكَانَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ الْغُ" اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہم سے کہا کرتے تھے "لاهل السفينة" یعنی جشہ سے جو لوگ کشتی میں سوار ہو کے آئے تھے تو ان سے بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم تم سے ہجرت میں سبقت کر گئے، یعنی تم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ بعد میں پہنچے اور ہم پہلے ہی مدینہ منورہ آپنے تھے۔

"وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بْنَتُ عَمِيسَ الْغُ" اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا جو اس وقت حضرت جعفر ھبھ کی اہلیہ تھیں، اور وہ وہاں سے یعنی جشہ سے ہمارے ساتھ ہی آئی تھیں، ام المؤمنین حضرت خصہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کی غرض سے ملنے کے لئے گئیں۔

"وَقَدْ كَانَتْ هَاجِرَةً الْغُ" اور انہوں نے بھی ہجرت کی تھی نجاشی کی طرف ان لوگوں کے ساتھ جو ہجرت کر کے جشہ کی طرف گئے تھے۔

## اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا

حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی ماں شریک بہن ہیں، اور بالکل ابتداء میں اسلام لے آئیں تھیں، ان کا نکاح حضرت جعفر بن ابی طالب ﷺ سے ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت جعفر ﷺ نے جسہ کی طرف ہجرت کی تو یہ ان کے ساتھ تھیں، رے ھی میں غزوہ خیر کے موقعہ پر مدینہ منورہ آئیں، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔

غزوہ موتہ میں حضرت جعفر بن ابی طالب ﷺ کی شہادت کے بعد (جنا واقعہ ان شاء اللہ آگے آئے گا)، ان کا نکاح نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے کروادیا تھا، جوہ الوداع کے موقع پر ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔

حضرت قاطرہ رضی اللہ عنہا کے مرض وفات میں حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے حکم پر ان کی تیمارداری اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہی کرتی تھیں، حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی وفات کے بعد یہ حضرت علی ﷺ کے نکاح میں آئیں، اور ان سے حضرت علی کے دو بیٹے ہوئے۔ ۵۰

”لَدْخُلْ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةِ الْخَ“ حضرت عمر ﷺ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، اس وقت حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بھی وہاں پہنچی ہوئی تھیں۔

”لَقَالَ عُمَرُ حِينَ رأى اسْمَاءَ الْخَ“ حضرت عمر ﷺ نے جب حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ اسماء بنت عمیس ہیں۔

”قَالَ عُمَرٌ: أَلْجَبْشِيَّةُ هَذِهِ الْخَ“ کیا یہ وہی جسہ والی ہے، کیا یہ وہی سمندر والی ہے یعنی کیا یہ وہی ہیں جو جسہ سے آئی ہے اور سمندر کے راستے سے آئی ہے؟ تو اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں، ”قَالَ: سَبِقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ الْخَ“ تو حضرت عمر ﷺ نے ان سے کہا کہ ہم نے ہجرت میں تم پر بقتلی ہے اور ہم تمہارے مقابلہ میں رسول اللہ ﷺ کے زیادہ قریب اور حق دار ہیں۔

”فَعَظَبَتِ الْخَ“ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو اس بات پر غصہ آگیا اور کہا ”کلا والله، کنتم مع رسول اللہ ﷺ الْخَ“ ہرگز نہیں اللہ کی قسم اتم لوگ تو مسلسل رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہے کہ وہ تم میں جو بھوکے تھے ان کو کھلاتے تھے اور تم میں جو جاہل تھے ان کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے۔

”وَكَنَافِيْ دَارٍ أَوْ فِيْ أَرْضِ الْخَ“ اور، ہم تو در دراز اپنوں سے دور، مبغوض لوگوں کے وطن جسٹ کے اندر تھے، جہاں کوئی نہ ہمیں کھلانے والا تھا کوئی نصیحت کرنے والا تھا، ”وَذَلِكَ فِيْ اللَّهِ الْخَ“ اور، ہم نے یہ بھرت اور یہ تکالیف اللہ اور رسول کی خاطر ہی اختیار کی تھیں، تو یہ کیا بات آپ نے کہہ دی۔

”وَإِيمَانُ اللَّهِ لَا أَطْعُمُ طَعَامًا إِلَّا لِلَّهِ“ اللہ کی قسم! میں کہانا بھی نہیں کھاؤں گی اور پانی بھی نہیں پیوں گی جب تک کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ سے نہ ذکر کروں، ”وَلَحْنُ كَانُوا دَيْ وَلَغَافُ الْخَ“ اور، ہمیں تکلیفیں دی جا رہی تھی اور ہمیں خوف دلایا جا رہا تھا، میں یہ سارا کچھ حضور ﷺ کے سامنے بیان کروں گی اور جھوٹ نہیں بولوں گی اور کوئی میری ہی بات نہیں کروں گی اور جو کچھ واقعہ ہوا ہے اس سے زیادہ اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گی۔

## اہل سفینہ کی قدر دانی اور ان سے قربت

”لَلَّمَا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: يَا أَبَيِ الْخَ“ چنانچہ جب آپ ﷺ تشریف لائے تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے کہا کہ عمر نے اس طرح کی بات کی ہے تو آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس سے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہ یہ بات کہی ان سے یعنی وہ سب کچھ بیان کیا۔

”قَالَ: لَيْسَ بِأَحَقِّ بَنِيْ مَنْكُمُ الْخَ“ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ میرے نزدیک تم سے زیادہ قریب اور حق دار نہیں ہے، اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو تو ایک ہی بھرت نصیب ہوئی مدینہ کی طرف اور اے کشتی والوں تم کو تو دو بھرتیں ملی ہیں یعنی ایک جوش کی طرف اور ایک مدینہ منورہ کی طرف۔

”أَهْلُ السَّفِينَةِ“ یہ یا تو منادی مضاف ہے بحذف حرف النداء ”يَا أَهْلُ السَّفِينَةِ“ یا منصوب على سبیل الاختصاص ہے ”وَأَخْصُ أَهْلَ السَّفِينَةِ“ اور ہو سکتا ہے کہ ”أَهْلُ السَّفِينَةِ“ ہو ”لَكُمْ“ کی ضمیر سے بدل ہو کر۔

## ابوموسی اشعری ﷺ کی اس حدیث کی سماught کیلئے بتاتی

”قَالَتْ لَلَّمَّا دَرَأَتِ الْخَ“ اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب لوگوں کو پنچہ چلا کہ بنی کریم ﷺ نے یہ بات فرمائی ہے تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو موسی اشعری ﷺ اور کشتی میں سوار ہونے والے دوسرے لوگ میرے پاس جماعت در جماعت یعنی بڑی تعداد میں آرہے ہیں۔

”يَسَالُونَى عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ الْخَ“ اور مجھ سے اک حدیث کے بارے میں پوچھرہے ہے ہیں کہ آپ ﷺ نے ہمارے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر وہ زیادہ خوش ہوں اور نہ

ان کی نگاہ میں اتنی بڑی چیز تھی جتنی کہ رسول کریم ﷺ کی یہ بات ان کے لئے عظیم تھی۔

ابو بردہ رحمہ اللہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ کے بیٹے ہیں اور وہی حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ”قالت اسماء: للقد رأيت أبا موسى الخ“ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے ابو موسیٰ اشعریؑ کو دیکھا کہ وہ اس حدیث کو بار بار لوٹا کر مجھ سے سناتے تھے، اور نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد سے لذت حاصل کرنے کے لئے۔

## نبی کریم ﷺ کی اشعرین سے الفت و محبت

”وقال أبو بردہ الخ“ اور یہ اسی سند سے دوسری روایت لفظ کر رہے ہیں کہ ابو بردہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”قال النبی ﷺ ای لاعرف اصوات الخ“ اشعرین کے رفقاء کی قرآن پڑھنے کی آوازیں میں پہچان لیتا ہوں جب وہ رات کے وقت میں داخل ہوتے ہیں یعنی ان کے قرآن پڑھنے کی آوازیں میں الگ سے پہچان لیتا ہوں۔

”واعرف منازلهم من اصواتهم الخ“ اور رات کے وقت میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو میں انکی آوازوں سے ان کی منزلیں بھی پہچان لیتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔

”وان كنت لم أر منازلهم الخ“ اگرچہ میں ان کی منزلیں نہ دیکھ پاتا ہوں جب کہ وہ اترتے ہوں دن کے وقت میں یعنی دن کے اوقات میں وہ کہاں رہتے ہیں یہ بسا اوقات مجھے پتہ نہیں ہوتا لیکن رات کو جب ان کی تلاوت کی آواز آتی ہے تو اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اشعرین کہاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک تدوہ تلاوت میں خوش آواز ہوں گے۔

دوسری حضور اکرم ﷺ کو ان سے تعلق اور محبت کرنے کے بارے میں یہ فکر کہ وہ کہاں ہیں۔

”ومنهم حکیم اذالقی الخيل الخ“ اور انہی اشعری لوگوں میں سے ایک صاحب حضرت حکیم ﷺ تھے کہ جب کبھی دشمن کے لشکر کا سامنا ہوتا تو ان دشمنوں سے کہتے ہیں ”ان اصحابی یا امر ولکم ان لنظر وهم“ یعنی جب یہ آگے جاتے دشمن کی طرف اور آگے بڑھتے تو دشمن ان کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا، تو یہ ان سے کہتے کہ میرے ساتھیوں نے تم سے کہا ہے کہ تھوڑی دیران کا انتظار کر لو وہ بھی پچھے آرہے ہیں۔

مطلوب یہ کہ تم بھاگنیں تھوڑی دیران کا انتظار کر لو کہ وہ بھی پچھے سے آنے والے ہیں یعنی یہ اتنے بھادر تھے کہ دشمن کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر مزید ان کو قتال پر اور لڑائی پر برائیختہ کرتے تھے بجائے اس کے کہ ان سے ڈریں۔

٣٢٣٣-حدیث اسحاق بن ابراهیم: سمع حفص بن غیاث: حدثنا برد بن عبد الله، عن أبي موسى، قال: قدمنا على النبي ﷺ بعد أن الفتح خير لقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا . [راجع: ٣١٣٦]

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ فرماتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے پاس فتح خیر کے بعد آئے تو آپ ﷺ نے مال غنیمت میں ہمارے لئے تقسیم کرتے وقت حصہ مقرر فرمایا، حالانکہ ہم غزوہ خیر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور آپ ﷺ نے ہمارے علاوہ کسی کو بھی جو فتح خیر میں شریک نہ تھا حصہ نہیں دیا۔

### لڑائی کے بعد شریک ہونے والوں کیلئے مال غنیمت کا حکم

اس روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ فرماتے ہیں کہ ہم جب جشہ سے بھرت کر کے نبی کرمؐ کے پاس پہنچے، اس وقت آپ ﷺ خیر کو فتح کر چکے تھے۔

”قسم لنا“ توجہ مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو آپ ﷺ نے ہمیں بھی تقسیم غنیمت میں شامل فرمایا۔ ”ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا“ اور ہمارے علاوہ مال غنیمت کسی اور کو تقسیم نہیں کیا جو کہ فتح کے وقت میں موجود نہیں تھا۔

یعنی ہم ان لوگوں میں شامل ہے جو فتح میں موجود نہیں تھے پھر بھی آپ ﷺ نے ہمیں (ملک جشہ سے کشتی میں سفر کر کے آنے والے اصحاب سفینہ کو) مال غنیمت تقسیم فرمایا اور باقی کسی کو جو فتح کے وقت موجود نہیں تھے مال غنیمت کی تقسیم میں شامل نہیں فرمایا۔

اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد اور فتح کامل ہونے کے بعد اگر کچھ لوگ آجاتے ہیں تو وہ آیا مال غنیمت کی تقسیم میں شامل ہوں گے یا نہیں؟

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جنگ میں شامل نہیں وہ مال غنیمت کی تقسیم میں بھی شامل نہیں۔ سیدھی بات ہے کہ ان کو مال غنیمت میں سے کسی چیز کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔

حفیہ کا ذہب یہ ہے کہ جو لوگ آکر شامل ہو گئے اگر چہ وہ جنگ میں شامل نہ ہوئے ہوں وہ مال غنیمت میں حصہ دار ہوں گے جب تک کہ مال غنیمت تقسیم کر کے دارالاسلام میں پہنچ نہ گیا ہو۔ دارالاسلام میں پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد آنے والا حصہ دار نہیں ہے لیکن دارالاسلام میں پہنچنے سے پہلے پہلے حصہ دار ہے۔

اب اس حدیث کا ایک حصہ شافعیہ کا مطابق ہے اور دوسرا حصہ حفیہ کے مطابق ہے۔ غیر اشعریین کو تقسیم نہیں فرمایا یہ شافعیہ کے مطابق ہے۔ اور اشعریین کو تقسیم فرمایا تو بظاہر یہ حفیہ کے مطابق ہے۔

لہذا دونوں جانب کے علماء اس میں تاویل کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ کیا قصہ ہے اشعرین کو دیا اور غیر اشعرین کو نہیں دیا تو اس وجہ سے اس میں کافی بھی چوڑی توجیہات کی گئی ہیں۔

لیکن جوز یادہ واضح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب خیرخواہ ہو گیا اور نبی کریم ﷺ کی حکومت وہاں تاکم ہو گئی تو وہ دارالاسلام بن گیا اب جو مال غنیمت ہے وہ دارالاسلام میں ہے اور جب دارالاسلام میں ہے تو اب آنے والے اس کے حصہ دار نہیں۔

لہذا غیر اشعرین کو جو نہیں دیا وہ اسی عام قاعدہ کے مطابق نہیں دیا اور حضرت ابو موسی اشعری ۃؑ او ران کے ساتھیوں کو جو مال دیا گیا، لہذا مس کے اندر تو نبی کریم ﷺ کو مکمل اختیار ہے کہ جس کو چاہے دیدیں تو اس پر کسی اعتراض کی بات نہیں ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ اشعرین کی خصوصیت ہو کہ انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں کہ پہلے خود رسول اللہ ﷺ کی طرف روانہ ہوئے، کشتی انکو جب شے لے گئی اور جب شے میں اتنے عرصہ جلاوطنی کی زندگی گزاری تو یہ سب تکلیفیں اٹھائیں، اس واسطے آپ ﷺ نے ان کے تطیب خاطر کیلئے خاص طور پر اس مرتبہ شامل کر لیا ہو ورنہ عام حکم یہ نہیں تھا۔ ۱۵

۳۲۳۳ - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا معاوية بن عمرو: قال أبو اسحاق، عن مالك بن أنس قال: حدثني ثور: قال سالم مولى ابن مطبيع : أنه سمع أبا هريرة ۃؑ يقول: أفتتحنا خبیر ولم نفتح ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم الصرفنا مع رسول الله ۃؑ إلى وادي القرى ومعه عبد الله يقال له: مدعم، أهدأه له أحد بنى الضباب، في بينما هو يحط رحل رسول الله ۃؑ إذ جاءه سهم عاثر حتى أصاب ذلك العبد. فقال الناس: هنئنا له الشهادة ، فقال رسول الله ۃؑ: ((يل والدى نفسى بيده إن الشملة التي أصابها يوم خبیر من المغالم لم تصبه المقاصم لتشتعل عليه لارا)). فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي ۃؑ بشراكين فقال: هذا شىٰ كنت أصبته ، فقال رسول

۱۵ واحتج أصحابنا بهذا الحديث على أن الذين يلحقون الغنمة قبل احرازها بدار الاسلام يشاركونهم فيها، خلافاً للشافعية، قال لهم احتجزقوله ۃؑ: الغنمة لمن دهد الولعة. قلت: هذا مولوف على عمر ۃؑ، ورفعه غريب، لأن للت لال بعض الشافعية: حديث أبي موسى محمول على أنهم شهدوا قبل حوز المال. قلت: يحتاج ذلك الى بيان، وقال ابن حبان في ((صحيحة)): ألمـاً أعطـاهـمـ منـ خـمـسـ لـمـسـتـحـيلـ بهـ لـلـوـبـهـ وـلـمـ يـعـطـهـمـ منـ الغـنـمـ لـأـنـهـ لـمـ يـشـهـدـاـ

**الْهَرَّاكُ أَوْ هَرَّاكَانُ مِنْ نَارٍ**: ((ہراک اور ہرراکان من نار)). [الظر: ۷] [۶۷۰] [۵۲]

ترجمہ: ابو ہریرہ رض نے بیان کیا کہ ہم نے خبر فتح کیا، اور ہمیں مال غیمت میں سونا چاندی نہیں ملا، بلکہ گائے، اونٹ، اسباب اور باغ ملے، پھر ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ وادی القری میں آئے، اور آپ ﷺ کے ہمراہ دعم نامی آپ ﷺ کا غلام تھا جو بنی خباب کے ایک آدمی نے آپ کو نذر اللہ میں دیا تھا، وہ آپ ﷺ کا کجاؤہ اتار رہا تھا کہ اتنے میں ایک ایسا تیر جس کے مارنے والے کا پتہ نہ تھا اس طرف آیا اور اس غلام کو لگ گیا، لوگوں نے کہا اس کو شہادت مبارک ہو، آپ ﷺ نے فرمایا نہیں نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو چادر اس نے خبر کے دن مال غیمت میں سے تقسیم ہونے سے پہلے لے لی تھی، اس پر آگ کا شعلہ بنے گی، رسول اللہ ﷺ سے یہ بات سن کر ایک آدمی ایک یادو تھہ لے کر آیا اور کہنے لگا یہ چیز مجھے ملی تھی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ تھے بھی آگ کے ہو جاتے۔

## تشریح

حضرت ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں کہ "التعھنا خبیر" ہم نے خبر فتح کیا۔

اگرچہ حضرت ابو ہریرہ رض غزوہ خبیر میں شریک نہیں ہوئے تھے، فتح خبیر بعد میں آئے تھے، لیکن مکلم کا صفحہ "الملمون" کے معنی میں ہے کہ ہم مسلمانوں نے خبر فتح کیا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تفریغ میں فرمایا کہ "التعھنا ای: التصحیح الملمنون خبیر" یعنی جب مسلمانوں نے خبر فتح کیا۔ [۵۲]

"ولم نفهم ذهبا ولا لضة الخ" تو ہمیں مال غیمت میں نہ سونا ملائے چاندی، ہمیں جو ملا وہ گائے، اونٹ، سامان اور باغات، پھر ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ وادی القری میں چلے گئے۔

خبر کو فتح کرنے کے بعد آپ ﷺ وادی القری تشریف لے گئے تھے اور وادی القری والوں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ مصالحت کر لی تھی۔

۵۲ ولى صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب خلظ تحریم الغلول و آنہ لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رقم: ۱۱۵

وسنن ابو داود، کتاب الجهاد، باب فی تعظیم الغلول، رقم: ۲۱۱، وسنن النسائی، کتاب الایمان والندور، هل

للدخل الأرضون فی المال اذا اندر، رقم: ۳۸۲۷، ومؤطا مالک، کتاب الجهاد، باب ماجاه فی الغلول، رقم: ۲۵

۵۳ ولو له: ((التعھنا)), ای الملمنون. فتح الہاری، ج: ۷، ص: ۳۸۸، وحدۃ القاری، ج: ۱۳، ص: ۳۶۳

”وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: مَدْعُومُ النَّخْ“ اور آنحضرت ﷺ کے ساتھ آپ کا غلام تھا جس کا نام مدْعُوم تھا، بنی ضباب کے کسی آدمی نے وہ غلام بطور ہدیہ نبی کریم ﷺ کو پیش کیا تھا۔ وہ غلام رسول کریم ﷺ کا بجاواد اتار رہا تھا، اونٹ کی پشت سے کجاواز میں پر اتار کر رکھ رہا تھا، ”إذ جاءء سهم عالٰٰ“ کہ اتنے میں ایک ایسا تیر آیا جس کا چینکنے والا نظر نہیں آرہا تھا۔

”سهم عالٰٰ“ اس تیر کو کہتے ہیں جس کا چینکنے والا نظر نہ آئے۔ اس کو ”سهم هرق“ بھی کہتے ہیں اور ”سهم عالٰٰ“ بھی کہتے ہیں۔

”حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدُ النَّخْ“ یہاں تک کہ وہ تیر آ کر اس غلام کو لگ گیا، اسی میں وہ شہید ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ ان کو شہادت مبارک ہو۔

### تقسیم سے قبل مال غیمت سے اٹھانا بھی حرام

”لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلْ وَاللَّهِ لِفْسِي النَّخْ“ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔

بعض روایتوں میں ”بُلْیٰ“ ہے بعض میں ”بَلْ“ ہے اور بعض میں ”كَلَا“ ہے۔

”كَلَا“ تو سمجھ میں آتا ہے اور ”بَلْ“ بھی سمجھ میں آتا ہے، البتہ ”بُلْیٰ“ میں ذرا اشکال ہے، کیونکہ آگے آپ ﷺ فرماز ہے ہیں کہ اس طرح کا شہادت کا حکم نہ لگاؤ کیونکہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔

تو اس لئے بعض لوگوں نے کہا ”بُلْیٰ“ ہو تو بھی اس کے معنی بن سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ شہادت تو نحیک ہے ان کی شہادت تو ہوئی ہے، شہادت کے احکام تو دنیا میں ان پر جاری ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ بتایا کہ اس سے یہ میتجہ نہیں لکھتا ہے کہ حقوق العباد بھی اس سے ساقط ہو گئے ہوں، لہذا حقوق العباد کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔

”إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا النَّخْ“ وہ چادر جو اس نے خبر کے دن مال غیمت میں سے لے لی تھی، ”لَمْ تُصِبْهَا الْمُقَاسِمُ النَّخْ“ جن کو تقسیم ابھی تک لاحق نہیں ہوئی تھی یعنی مال غیمت ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی اور چادر اس نے اٹھا لی تھی تو اس وقت وہ اس کے اوپر آگ بن کر بھڑک رہی ہے۔

”لَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ النَّخْ“ توجہ یہ بات سنی تو ایک شخص ایک یادو تے لایا اور آکر کہا کہ میں نے یہ اٹھا لئے تھے، ”لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَرَاكُ أَوْ هَرَاكَانَ مِنْ لَارَ“ آپ ﷺ نے فرمایا ایک یادو آگ کے تے ہیں۔

اس سے پتہ چلا کہ شہادت سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، مال غیمت میں اگر کسی نے خیانت کی ہے تو محض شہید ہونے سے وہ معاف نہیں ہوگی اور اللہ پرچارے عذاب ہونے کا اندیشہ ہے۔

۳۲۳۵ - حدیث اسعید بن ابی مریم: اخیر نامحمد بن جعفر قال: أَخِيرُ لِي زِيدٍ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّمَا وَالَّذِي لَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَتَرَكَ آخِرَ النَّاسِ بِهَا لَمْ يَسِ لَهُمْ شَيْءًا مَا فُتُحَتْ عَلَى قَرِيَةٍ إِلَّا فَسْتَأْتِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ خَيْرٌ وَلَكُنِي أَنْوَكَهَا خَزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا۔ [راجع: ۲۳۳۳]

ترجمہ: زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے تھا کہ اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر مجھے آنے والی نسلوں کے مغلس ہونے کا اندیشہ ہوتا تو جو ملک بھی فتح ہوتا میں اسے اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح نبی کریم ﷺ نے کیا تھا، لیکن میں اسے آنے والوں کے لئے خزانہ کے طور پر چھوڑ رہا ہوں جسے وہ تقسیم کر لیں گے۔

۳۲۳۶ - حدیثی محمد بن المثنی: حدیث ابن مهدی، عن مالک بن انس، عن زید بن اسلم، عن ابیه، عن عمر ﷺ قال: لَوْلَا آخِرَ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتُحَتْ عَلَيْهِمْ قَرِيَةٌ إِلَّا قَسْمَهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ خَيْرٌ۔ [راجع: ۲۳۳۴]

ترجمہ: زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ نے فرمایا کہ اگر آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جو علاقہ بھی فتح ہوتا میں اسے تقسیم کر دیتا، جس طرح کہ نبی ﷺ نے خیر کو تقسیم کیا تھا۔

## مفتوحہ اراضی کے بارے میں فاروق اعظم ﷺ کا فیصلہ

زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب ﷺ کو فرماتے ہوئے تھا کہ "لو لا ان ات رک آخِرَ النَّاسِ بِهَا" اگر مجھے یہ اندیشہ ہوتا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو میں خالی چھوڑوں گا۔

"بیان" کے معنی ہے خالی، فقیر، جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہ عربی کا کلمہ نہیں ہے کسی اور زبان کا کلمہ ہے جو بیان پر حضرت عمر ﷺ نے استعمال کر لیا اور بیان معنی میں ہوئے فقیر کے یعنی جس کے پاس مال نہ ہو۔ ۵۲

۵۲ فرزلہ: ((بیان)) بفتح الباء المرجدة الأولى وتشديد الثانية وبالثون، معناه: شيئاً واحداً، وقال الخطابي: ولا أحب هذه اللفظة العربية ولم اسمعها في غير هذا الحديث. عمدة القاري، ج: ۷، ا، ص: ۳۶۵

فرمایا کہ مجھے اندیشہ یہ نہ ہوتا کہ میں آخر میں آنے والے لوگوں کو فقیر بنائے کر چھوڑوں گا تو جب بھی کوئی بستی فتح ہوتی تو اس کی زمین مجاہدین کے درمیان تقسیم کرتا جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے خبر کی زمین تقسیم فرمائی۔ یہ بات آپ ﷺ نے اراضی یعنی سواط شام اور عراق کے زمینوں کے بارے فرمائی تھی میں کہ جب شام اور عراق فتح ہوئے تو بعض صحابہؓ کرام ﷺ کا خیال یہ تھا کہ ان کی زمین بھی اسی طرح تقسیم کی جائے مسلمانوں کے درمیان جس طرح خبر کی زمین حضور ﷺ نے تقسیم فرمائی تھی۔

لیکن حضرت عمر ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں اس طرح تقسیم کرتا رہتا تو پھر آگے آنے والوں کیلئے کچھ بھی نہیں پچے گا، لہذا انہوں نے زمینوں کو تقسیم کرنے کے بجائے ان کے مالکان کو ان پر برقرار رکھا اور ان پر خراج عائد کر دیا اس خیال سے کہ وہ خراج بیت المال سے سارے تقسیم ہو کر مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ یہ واقعہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے اور حضرت فاروق اعظم ﷺ کا یہ فیصلہ اسلام میں نظام اراضی میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، اس لئے اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

## حضرت عمر ﷺ کی پالیسی

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث بہت اختصار کے ساتھ نقل فرمائی ہے، جس سے پورا مفہوم واضح نہیں ہوتا، اسکی تھوڑی سی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بڑی اہم ہے، کیونکہ اسکی بنیاد پر بہت سے احکام شرعیہ ہیں۔ حضور اقدس ﷺ کے زمانہ مبارک میں عام طور سے یہ طریقہ تھا کہ جب طاقت کے ذریعے کوئی شہر یا ملک فتح ہوتا تھا تو اس کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تھیں، جب خیر فتح ہوا تو خیر کے فتح ہونے کے وقت نبی ﷺ نے خبر کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمادیں جس میں حضرت عمر ﷺ کو بھی ملی تھی۔ ۵۵ بعد میں جب بحرین فتح ہوا تو بحرین کی فتح کے بعد بھی نبی کریم ﷺ نے وہاں کی زمینیں بھی مجاہدین میں تقسیم فرمائیں۔

۵۵ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تصدق بحال له على عهد رسول اللہ ﷺ و كان يقال له: لمع، و كان نخلاً لقال عمر: بار رسول اللہ ایسی استفتت مالاً و هو عندي نفیس، فاردت ان انصدق به، فقال النبي ﷺ: ((صدق بالصلة، لا يأبع ولابو هب ولا بورث، ولكن ينفق لعره)). لتصدق به عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لصدقه تلك، فی سبیل اللہ و فی ارقاء والمساكين والضعیف وابن السبیل ولدی القریب، ولا جناح على من ولیه ان يأكل منه بالمعروف او يؤذکل صدیقه غیر مت Howell، قوله: ((صدق بالصلة)), هذه العبارة كنایة عن الوقف. عمدة القاری، ج: ۱۲، ص: ۲۵۵، ۲۵۳.

حضرت صدیق اکبر ﷺ کے زمانے میں بھی یہی طریقہ برقرار رہا کہ جب کوئی بستی یا ملک فتح ہوتا تو اس کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تھیں۔

جب حضرت عمر ﷺ کا زمانہ آیا تو فتوحات کا دائرہ مزید وسیع ہوا اور عراق فتح ہوا، اس کے بعد شام فتح ہوا، جب عراق فتح ہوا تو دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے کی زمینوں کو "ارض السواد" کہا جاتا تھا، اس وقت جن مجاہدین نے عراق فتح کیا تھا ان کا خیال یہ تھا کہ پرانے دستور اور معمول کے مطابق یہ زمینیں ہمارے درمیان تقسیم ہوں گی اور ہمیں ان کا مالک بنایا جائے گا۔

لیکن حضرت عمر ﷺ کو اس بارے میں تردد ہوا اور ان کی رائے یہ تھی کہ زمینوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنے کے بجائے اگر ان پرانے مالکوں کو ہی زمینوں پر برقرار رکھا جائے اور ان پر خراج عائد کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔

حضرت عمر ﷺ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر ساری زمینیں اسی طرح تقسیم کی جاتی رہیں کہ جب بھی کوئی ملک فتح ہوا مجاہدین میں تقسیم کر دی گئیں تو ساری زمینوں کا مجاہدین کے درمیان ارتکاز ہو جائے گا کہ سب مجاہدین بڑی بڑی زمینوں اور رقبوں کے مالک ہو جائیں گے اور آنے والی نسلیں یا جو لوگ نئے مسلمان ہوئے جو جہاد میں شریک نہیں تھے تو ان کے لئے کوئی زمین باقی نہیں رہے گی، وہ دیکھیں گے کہ تمام زمینیں اپنے مالکوں سے سمیت تقسیم ہو چکی ہیں اور باپ دادوں سے میراث میں بٹی آرہی ہیں تو ان بعد میں آنے والوں کا کیا ہو گا؟ اس واسطے اگر سب زمین تقسیم کر دی جائے تو یہ مقدمہ لازم آنے کا اندر یشدہ ہے۔

حضرت عمر ﷺ کی رائے یہ تھی کہ ایسا کرنے کے بجائے ہم یہ کریں کہ جن مالک کو ہم نے فتح کیا ہے ان کے مالک اراضی سے کہیں کہ آپ بدستور ان کی کاشت جاری رکھیں البتہ ہمیں خراج دیں، تو ان پر خراج عائد کر کے وہ خراج بیت المال میں جمع کر دیا جائے، اور بیت المال چونکہ سارے مسلمانوں کا حق ہے، لہذا اس کا فائدہ سارے مسلمانوں کو پہنچ گا اور ان میں آنے والے مسلمان بھی داخل ہوں گے۔

## بعض صحابہ ﷺ کا حضرت عمر ﷺ کی پالیسی سے اختلاف

جب حضرت عمر ﷺ نے یہ خیال ظاہر کیا کہ میری رائے یہ ہے تو صحابہ کرام ﷺ کے بھی دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ جو اس رائے کے حق میں تھے اور چاہتے تھے کہ زمینوں کے اندر وہی طریقہ جاری رہنا چاہئے جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ مبارک میں جاری تھا اور حضرت صدیق اکبر ﷺ کے زمانہ میں بھی جاری تھا۔

حضرت عبد الرحمن بن عوف ﷺ نے فرمایا کہ پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ زمینیں اور ان کے باشندے

سب مال غنیمت ہی کا حصہ ہیں یعنی مال غنیمت کی تقسیم عام قاعدے کے مطابق ہی مجاہدین میں تقسیم ہونی چاہئے کیونکہ ان کا حق ہے۔

حضرت عبد الرحمن بن عوف رض کی بات سن کر حضرت عمر رض نے فرمایا کہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ یہ زمینیں مال غنیمت کا حصہ ہیں، لیکن میری رائے نہیں ہے کہ انہیں مجاہدین میں تقسیم کیا جائے۔ کیونکہ میرے بعد کوئی ایسا شہر فتح نہیں ہوا جس سے کچھ زیادہ مال و جائیداد حاصل ہو بلکہ بعد نہیں کہ وہ نیا شہر مسلمانوں پر بوجہ ہی بنا رہے اور اگر میں عراق و شام کی زمینیں ان کے زمینداروں سمیت تقسیم کر دیں تو سرحدوں کی حفاظت کیلئے رقم کہاں سے آئے گی؟ شام و عراق کے علاقوں میں جو تیم اور بیوائیں موجود ہیں ان کی دیکھ بھال کیسے ہوگی؟<sup>۶۷</sup>

دیگر باتوں کی اپنی ایک حیثیت اور مقام تھا، لیکن یہ بات زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آنے والے مسلمانوں پر بھی احسان ہوا اور ان کا خیال ہو۔<sup>۶۸</sup>

بعض حضرات نے حضرت عمر رض کی اس رائے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری گواروں سے جو مال غنیمت ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ایسے لوگوں کے لئے روک رکھیں جو اس معrkے میں نہ حاضر تھے، نہ موجود تھے اور ایسے لوگوں کی اولاد اور اولاد کی کے لئے روک رکھیں جو جنگ میں شریک نہیں؟

<sup>۶۹</sup> وقال الطبرى: المعنى: لو لا أن أتر كهم للقراء معدمين لا شىء لهم، أى: متساوين فى الفقر، وبهال: معناه لو لا أترك الدهن هم من بعدك للقراء مسوبيون على الفقر للسمت أراضي القرى المفترحة بين الفالمين، لكنى ما سمعتها يبل جعلتها وألقها ملوكاً ثم تركها كالعزلة لهم يقتسمونها كل ولت إلى يوم القيمة. وطرحته ألى لا السمها على الفالمين كما لسم رسول الله، نظراً إلى الملحة العامة للمسلمين، وذلك كان بعد استشهاده لهم، كما فعل عمر بن الخطاب بأرض العراق وقال ابن الأثير: معناه: لأسرى بهم من العطاء حتى يكرروا شيئاً واحداً لا لفضل لأحد على ثبوه. عمدة اللارى، ج: ۷، ص: ۳۶۵.

<sup>۷۰</sup> ((الآلسناتها)), زاد ابن ادريس الثقلی فی روایة: ما الشع الشع المسلمون لربة من قرى الكفار إلا سمعها سهماناً. قوله: ((بين اهلها)), أى: الفالمين. قوله: ((كما لسم النبي ﷺ)), وزاد ابن ادريس فی روایته: ولكن أردت أن يكون جزية لغيرهم، ولذلك كان عمر رضى الله تعالى عنه، يعلم أن المال يعز، وأن الشع يطلب، وإن لاملك بعد كسرى بهيم وتعزز بخزانة لهيفي بها للقراء المسلمين، لاشفع أن يلي آخر الناس لا شىء لهم، فرأى أن يحبس الأرض ولا يسمها، كما فعل بأرض السواد، نظرأ المسلمين ولهفة على آخرهم بدوام لمعها لهم ودر خبرها عليهم، وبهذا قال مالك فی أشهر قوله: إن الأرض لا تقسم. عمدة اللارى، ج: ۱۲، ص: ۲۵۵، ۲۵۶

ان حضرات کے جواب میں حضرت عمر رض نے یہی فرمایا کہ یہ ایک رائے ہے کوئی حقیقی قیصلہ نہیں، چنانچہ لوگوں نے کہا کہ مزید لوگوں سے بھی مشورہ کر لیجئے۔

چنانچہ حضرت عمر رض نے اس معاطے میں مہاجرین اولین سے مشورہ فرمایا، ان میں سے حضرت عبدالرحمن بن عوف رض کی رائے تھی کہ مجاہدین کے حقوق نہیں میں تقسیم کئے جائیں، جیسا کہ پچھے گزرا ہے۔ بعض دوسرے صحابہ کرام رض جن میں حضرت عثمان رض، حضرت علی رض، حضرت علیہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم اور حضرت عبد اللہ بن عمر رض بھی داخل ہیں، حضرت عمر رض کی اس رائے سے متفق تھے کہ اگر اسی طرح زمینیں تقسیم کی جائیں تو آنے والوں کے لئے کوئی زمین نہیں رہے گی۔

اب جب یہ اختلاف سامنے آیا تو حضرت عمر رض کے مہاجرین و انصار کے مختلف گروہوں کے بڑے بڑے حضرات کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تفصیلی تقریر فرمائی۔

## حضرت عمر رض کی تقریر

حضرت عمر رض نے حمد و شفاء کے بعد فرمایا:

میں نے آپ لوگوں کو صرف اس لئے زحمت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے معاملات کی جس امانت کا بوجھ مجھ پر ڈالا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ بھی شریک ہوں، اس لئے کہ میں بھی لوگوں جیسا ہی ایک شخص ہوں، لہذا حق بات کا بر ملا اظہار کریں، جو چاہے میری رائے کے خلاف رائے دے اور جو چاہے میری موافقت کرے اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میری خواہش ہے آپ اس میں میری موافقت و اتباع کریں۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کے خلاف ہو یا کوئی بدعت یا سنت کے خلاف ہو، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب قرآن موجود ہے، جو حق بات کہتی ہے۔ خدا کی قسم! اگر میں اپنے کسی ارادے کا اظہار کروں گا تو اس کا مقصد بھی حق تک پہنچنا ہی ہو گا۔

اس پر صحابہ کرام رض نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! آپ فرمائے، ہم توجہ سے سن رہے ہیں۔

اب حضرت عمر رض نے فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہوں گی جن کا خیال ہے کہ میں عراق و شام کی زمینیں لوگوں میں تقسیم نہ کر کے ان کے حقوق پر ظلم کر رہا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ میں اس بات سے اللہ کی پنہ مانگتا ہوں کہ کسی ظلم کا ارتکاب کروں، اگر میں نے ان لوگوں سے کوئی ایسی چیز ظلمائی ہوتی جوان کی ملکیت میں ہوتی اور وہ میں ان سے چھین کر کسی اور کو دے دیتا تو یقیناً میں شفاقت کا مرٹکب ہوتا۔

لیکن میں نے سوچا ہے کہ کسری کی سرز میں کے بعد کوئی ایسی اہم سرز میں باقی نہیں رہی جو آئندہ فتح ہو، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں کسری کا مال و دولت، اس کی زمینیں اور اس کے لوگ مال غنیمت کے طور پر عطا فرمائے،

جہاں تک مال و دولت کا تعلق ہے تو جتنا مال و دولت غنیمت میں حاصل ہوا تھا، وہ میں نے اس کے مستحقین یعنی مجاہدین میں تقسیم کر دیا اور اس کا پانچواں حصہ نکال کر بیت المال میں جمع کر دیا، اسے قاعدہ کے مطابق صرف کر دیا اور کچھ کو صرف کرنے میں لگا بول۔

لیکن زمینوں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ انہیں ان کے مالکوں کے ساتھ روک رکھوں اور ان لوگوں کے ذمے ان زمینوں کا خراج عائد کر دوں اور ان کی جانوں کے تحفظ کیلئے ان پر جزیہ عائد کر دوں، یہ لوگ جزیہ اور خراج ادا کرتے رہیں جو مسلمانوں کیلئے فی بن جائے، اس مال سے مجاہدین بھی فائدہ اٹھائیں اور ان کی اولاد بھی اور آئندہ آنے والے مسلمان بھی فائدہ اٹھائیں۔

کیونکہ اگر اس طرح سے فتح کے بعد زمینیں تقسیم کی جاتی رہیں تو ایک طرف تو یہ ہو گا کہ ساری زمینیں مجاہدین کی ملکیت میں آجائیں گی اور دوسرے حضرات مسلمان جو آئندہ آنے والے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری طرف یہ ہو گا کہ عالم اسلام کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، عالم اسلام کا خطہ وسیع ہو رہا ہے، ہمیں سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کیلئے فوج کی ضرورت ہے، ان کی تحریکوں کا مسئلہ ہے، اسلحہ کی ضرورت ہے، نئی نئی بستیاں بن رہی ہیں ان کے انتظام و انصرام کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے۔

اگر یہ ساری کی ساری زمینیں اسی طرح تقسیم کر دی گئیں اور ان کے باشندے غلاموں کے طور پر تقسیم کر دئے گئے تو ان سرحدوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ عالم اسلام کی ان نئی ضروریات کو کون پورا کرے گا؟ اور ساتھ فاروق اعظم حضرت عمرؓ نے آیت کریمہ بھی تلاوت فرمائی جس میں مصارف و غنیمت کا ذکر کیا گیا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ وَالْأَذَارُ وَالإِيمَانُ مِنْ قَبْلِهِمْ  
يُحِبُّونَ مَنْ هَا جَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ  
حَاجَةً مُّمَّا أُتُوا وَيُرِيُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ  
بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُغْلَ لَفْسِهِ فَأُولَئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۵ وَالَّذِينَ جَاءُ وَمِنْ بَعْدِهِمْ  
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْرَوْنَا الدِّينَ سَبَقُونَا  
بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي الْلُّؤْبِنَاغْلُ لِلَّذِينَ آمَنُوا  
رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ وَقَرِيْبٌ ۶۸﴾

اس آیت کے آخر میں جہاں مال غنیمت کے مستحقین کا ذکر کرتے ہوئے پہلے مہاجرین کا ذکر کیا، بھر آگے انصار کا ذکر کیا پھر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا بھی ذکر آیا ہے۔  
حضرت فاروق اعظم ﷺ کا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتا یہ تھا کہ غنیمت کے مستحقین میں اللہ تعالیٰ نے تین درجات مقرر فرمائے ہیں:

ایک مہاجرین، دوسرا انصار اور تیسرا بعد میں آنے والے مسلمان۔  
حضرت فاروق اعظم ﷺ کا استدلال یہ تھا کہ اگر میں ساری زمینوں کو مہاجرین اور انصار میں تقسیم کروں گا تو بعد میں آنے والوں کا کیا بنے گا۔

لہذا میں کسی پر ظلم نہیں کر رہا اور نہ میں کسی کی ملکیت کو ضبط کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا اگر اسی طرح تقسیم کر دیا گیا، زمینیں اسی طرح تقسیم کر دی گئیں تو بعد میں آنے والوں کے لئے کچھ نہیں پہنچے گا۔

حالانکہ قرآن کریم میں ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ کہا گیا ہے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ جو موجودہ الملک اراضی ہیں ان کو ان کی اراضی پر قرار رکھا جائے اور ان پر خراج عائد کر کے وہ خراج بیت المال میں داخل کیا جائے، تاکہ بیت المال کے ذریعے سارے مسلمانوں کو اس سے نفع پہنچے، یہاں تک کہ آنے والی (قیامت تک) نسلوں کو بھی نفع پہنچے۔ ۹۵، ۹۶

جب یہ تقریر فرمائی اور اپنے دلائل پیش کئے تو تمام صحابہ کرام ﷺ نے حضرت فاروق اعظم ﷺ سے اتفاق کر لیا اور کہا کہ آپ کی رائے صائب ہے، آپ نے اچھی بات سوچی ہے۔

**۹۵ قولہ:** ((لولا آخر المسلمين)) المعنی: لرسالت كل لربة على الفاتحين لما بقي شىء لمن يجيء بعدهم من المسلمين، لال الكرماني: هو حقهم لم لا يلزم عليهم، فأجاب بأنه يسترضيهم بالبيع ولحرة وبولفة على الكل، كما فعل بأرض العراق وغيرها. قوله: ((كما لزم النبي خبر))، ولم يكن لهم خبر بكمالها، ولكنه قسم منها طائفه وترك طائفه لم يطئها، والذي قسم منها هو الشق والقطاء، وترك سائرها لللامام أن يفعل من ذلك ما رأه صلاحة، وأخرج عمر، رضي الله تعالى عنه، فلى ترك قسم الأرض بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَكَانَ اللَّهُ عَلَى رَزْوَيْهِ﴾ [العنبر: ۷] إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [العنبر: ۱۰]. وقال عمر: هذه الآية قد استوعبت الناس كلهم فلم يبق أحد منهم إلا وله في هذا المال حل حتى الراعي بعده، ولال أبو عبد: والتي هذه الآية ذهب على ومعاذ، رضي الله تعالى عنهم، وأشار عمر بالوار الأرض لمن يأتي بعده. عمدة القاري، ج: ۱۵، ص: ۶۸

یوں اس مجلس شوریٰ کے بعد یہ بات تمام صحابہ کرام ﷺ کے اتفاق سے طے پائی۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم ﷺ نے فرمایا کہ بات واضح ہو گئی ہے، اب کون ایسا شخص ہے جو عقل اور تجربہ رکھتا ہو، زمینوں کا صحیح انتظام کرے اور زمینداروں پر اتنا خراج عائد کرے جو ان کیلئے قابل برداشت ہو؟ صحابہ کرام ﷺ نے حضرت عثمان بن حنیف ﷺ کے نام پر اتفاق کیا اور کہا کہ ان کو اس کام کے لئے بھج دیجئے، ان کو اس معاملے میں عقل و بصیرت اور تجربہ حاصل ہے۔

حضرت فاروق اعظم ﷺ نے انہیں سواد (عراق) کی زمین کی پیمائش کا حکم دیا۔

پھر حضرت فاروق اعظم ﷺ نے عراق کی زمینوں کو تقسیم کرنے کے بجائے وہاں کے پہلے کاشتکاروں کو کاشت کے لئے دیدیں اور ان پر خراج عائد کر لیا اور وہ خراج بیت المال میں جمع ہوتا رہا، پھر یہی معاملہ حضرت فاروق اعظم ﷺ نے شام کی زمینوں کے ساتھ بھی کیا۔

حضرت فاروق اعظم ﷺ کی وفات سے ایک سال پہلے کوفہ کی زمینوں سے خراج کی آمدی دس کروڑ درہم حاصل ہوئی۔ ۱۴

### متفق علیہ مسئلہ

اس واقعہ سے فقہی مسئلہ متفق علیہ طور پر نکلتا ہے کہ اگر فوجی طاقت سے کوئی علاقہ فتح کیا جائے تو اس میں امام کو اختیار ہے:

ایک یہ کہ اگر چاہے تو وہاں کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے، پھر مجاہدین ان زمینوں کے ساتھ جو چاہیں کریں۔

دوسرایہ کہ اگر چاہے تو وہاں کے زمینداروں کو برقرار رکھ کر ان پر خراج عائد کر دے۔

امام کو یہ دونوں اختیار حاصل ہیں، جس میں مصلحت سمجھے اس کو اختیار کرے۔

ایک فقہی مسئلہ یہ مستنبط ہوا، جس پر سارے فقہاء کا اتفاق ہے۔

### مختلف فیہ مسئلہ

لیکن اگر امام دوسری صورت اختیار کرے یعنی مجاہدین میں تقسیم نہ کرے بلکہ وہاں کے املاک اراضی کو

برقرار رکھتے ہوئے ان پر خراج عائد کر دیتا ہے، تو اس خراج کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ اور ان کے املاک کو زمینوں پر برقرار رکھنے کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ اس بارے میں فقہائے کرام کے مختلف آتوال ہیں۔

### امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا موقف

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول یہ ہے کہ حضرت عمر رض نے جو سابقہ املاک کو برقرار رکھا تھا، اس کے معنی یہ تھے کہ وہ زمینیں ان ہی مالکان کی ملکیت میں برقرار رہیں، وہیں کے لوگ ان زمینوں کے مالک رہے، ملکیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف اتنا ہوا کہ ان پر خراج عائد کر دیا گیا اور وہ خراج بیت المال میں داخل کر دیا گیا۔

لیکن زمینیں انہی کی ملکیت ہیں اور ان میں ان کی میراث بھی جاری ہوگی اور ان کے اوپر مالکانہ تصرف کرنے کا تمام ترقی ان کو حاصل تھا، صرف خراج لے کر بیت المال میں داخل کر دیا گیا تاکہ اس سے دوسرے مسلمانوں کی ضروریات پوری کی جاسکیں۔ یہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے۔ ۲۷

### امام شافعی رحمہ اللہ کا قول

امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت اس قول کے مطابق ہے۔

### امام مالک رحمہ اللہ کا قول

امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے کہ حضرت عمر رض نے جو عمل کیا تھا، اس کے نتیجے میں وہ زمینیں سابقہ املاک کی ملکیت میں برقرار نہیں رہیں، بلکہ وہ بیت المال پر وقف ہو گئیں۔

اور بیت المال پر وقف ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بیت المال ایک طرح سے ان کا متوالی یا مالک بن گیا، اب جو خراج وہ ادا کر رہے ہیں وہ درحقیقت اس زمین کا کرا ری ہے، جو بیت المال میں داخل کیا جا رہا ہے،

عن قول ابو حنیفۃ: الإمام مسلم عن شاہ قسمها وإن شاء أولاً لها، لأن أول لها فهي ملك للكافر الذين كانت لهم، ولا تقسم الفنالم إلا بعد الخروج من دار الحرب. المحتل بالآثار، كتاب الجهاد، مسألة تقسم الفنالم كما هي بالفهمة

تاکہ اس بیت المال کے ذریعے موقوف علیہم میں تقسیم کیا جائے۔ ۳۲۷

## امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے اقوال میں فرق

امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ کے نزدیک سابقہ الملک کی ملکیت برقرار رہے گی اور وہ مالکانہ تصرفات کے حقدار ہیں اور جو خراج دیا جا رہا ہے، وہ ایک نیکس ہے جو ان سے وصول کیا جا رہا ہے جیسے مسلمانوں سے ان کی زمینوں پر عشرہ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کافروں سے نیکس کی طور پر خراج لیا جا رہا ہے، ورنہ ملکیت انہی کی برقرار رہے۔ جب کہ امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک یہ نیکس نہیں بلکہ زمین وقف ہو گئی ہے اور وقف ہونے کی وجہ سے وہ اس کی ملکیت نہیں رہی اور اب جو وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے خراج کی صورت میں کرایہ ادا کر رہے ہیں اور وہ کرایہ موقوف علیہم پر خراج ہو گا اور موقوف علیہم سارے مسلمان ہیں۔ اس لئے اس اراضی خراجیہ کو امام مالک رحمہما اللہ اراضی موقوف کہتے ہیں اور حنفیہ ان کو اراضی مملوکہ میں شمار کرتے ہیں، تو دونوں کی تحریج اور تکمیل میں یہ فرق ہے۔

## قومی ملکیت میں لینے پر استدلال درست نہیں

میں نے یہ تفصیل اس لئے بیان کر دی ہے کہ آج کل کے معاصر متجددین حضرت عمر رض کے اس فصل کو توڑ جوڑ کر نیشنالائزیشن (Nationalization) سے تعبیر کرتے ہیں کہ انہوں نے عراق کی زمینیں نیشنالائز (Nationalize) کر دی تھیں۔

یعنی ان کو قومی ملکیت میں قرار دیا تھا، اور خراج عائد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قومی ملکیت میں قرار دے کر ان سے کرایہ وصول کیا اور پھر وہ کرایہ ساری قوم پر خراج ہوتا ہے۔ لہذا اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قومی ملکیت میں لینے کی بات ہے۔

۳۲۸ وَخَتَّلَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي أَبْقَاهَا عُمَرُ بْغَيْرِ نِسْمَةٍ، فَلَهُبْ الْجَمَهُورُ إِلَى اللَّهِ وَلَفِهَا لِرَأْبِ الْمُسْلِمِينَ وَاجْرِ فِيهَا  
الْخِرَاجُ وَمَنْ يَمْنَعُ بَعْهَا وَقَالَ بَعْضُ الْكُرَلِيْبِينَ: أَبْقَاهَا مَلْكًا لِمَنْ كَانَ بِهَا مِنَ الْكُلُّرَةِ وَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الْخِرَاجُ، وَلَدَ أَشْدَدَ لِكُلِّ  
كَثِيرٍ مِنَ الْقَهَّاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى هَذِهِ الْمَقَالَةِ، وَلَمْ يَطْمَأْ مَرْضَعُ غَيْرِ هَذَا. وَالله أَعْلَمُ. فتح الباری، ج: ۱، ص: ۲۲۵

كتاب لمرضي الخمس ، باب الغنیمة لمن شهد الوقعة، رقم: ۳۱۲۵

لیکن جو تفصیل میں نے عرض کی ہے اس کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے۔  
 کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ان کی ملکیت برقرار تھی اور وہ تجسس ادا کر رہے تھے اور امام  
 مالک رحمہ اللہ کے قول کے مطابق وہ اراضی سروقوں تھی، ان کا کراہی ادا کر رہے تھے، لیکن کسی بھی فقیر نے ان کو بیت المال  
 کی ملکیت قرار نہیں دیا۔  
 لہذا ان کو قوی ملکیت سے تعبیر کرنا درست نہیں۔

## مصلحت عامہ کے تحت زمینیں لینے پر استدلال

بعض لوگوں نے اس واقعہ سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ مصلحت عامہ کی وجہ سے حکومت لوگوں کی  
 زمینیں بلا معاوضہ لے کر قوی ملکیت قرار دے سکتی ہے۔

لیکن اس واقعہ میں اس بات کا تصور کہیں بھی موجود نہیں کہ کسی سے اس کی زمین چھین کر بیت المال میں  
 داخل کر دی ہو بلکہ حقیقت صرف یہ ہے کہ حضرت عمر رض نے مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے ملکیت برقرار  
 رکھتے ہوئے ان پر خراج عائد کیا تاکہ اس خراج کی آمدنی آئندہ ہر دور کے مسلمانوں کے کام آتی رہے۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عمر رض کے فیصلہ پر اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا تھا  
 کہ یہ تمہاری وہ زمینیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے جنگیں لڑی ہیں، لہذا یہ ہمیں ملٹی چاہیں۔

یہ اس معنی میں ہے کہ ہماری ملکیت تھی، ان کی دفاع میں ہم نے جنگیں لڑی ہیں، حالانکہ دفاع کیلئے نہیں  
 لڑی تھیں، بلکہ ان کو فتح کرنے کیلئے لڑی تھیں۔ لہذا اس واقعہ سے اس پر کسی طرح استدلال نہیں ہو سکتا۔

## تحدید ملکیت کے جائز و ناجائز طریقے

تحدید ملکیت کے دو طریقے ہوتے ہیں:

تحدید ملکیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حکومت یہ اعلان کرے کہ جو شخص اب تک جتنی زمینیں کامالک ہے،  
 اس سے زیادہ زمین نہیں خریدے گا یا اپنی ملکیت میں نہیں لائے گا۔

اگر یہ اعلان کردیں تو جائز ہے، کیونکہ نئی زمین خریدنا ایک مباح کام ہے اور حکومت نے مصلحت عامہ کی  
 خاطر اس پر پابندی عائد کر دی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔

تحدید ملکیت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس زائد زمینیں ہیں وہ اس سے چھین لی جائیں گی یعنی  
 اگرچہ اس نے جائز طریقے سے حاصل کی ہیں، لیکن اس سے زائد ہیں تو وہ چھین لی جائیں گی۔

اس معنی میں تحدید ملکیت ناجائز ہے اور اس کا کہیں کوئی جواز و ثبوت نہیں ہے۔<sup>۵</sup>

۳۲۳۷ - حدثنا علی بن عبد اللہ : حدثنا مسیح بن سعید : سمعت الزہری و سأله اسماعیل بن امیة قال : أخبرنی عنبسة بن سعید : أن أبا هريرة رضى الله عنه أتى النبي ﷺ فسأله قال له بعض بنی سعید بن العاص : لاتعطه يا رسول الله، فقال أبو هريرة : هذا قاتل ابن قوقل، فقال : واعجبوا لو برتدلى من قدم الصان . [راجع: ۲۸۲۷]

ترجمہ: عنبسه بن سعید حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ غیمت خیر میں سے مجھے بھی حصہ ملے تو سعید بن العاص کے کسی لڑکے نے کہا یا رسول اللہ! ان کو حصہ نہ دیجئے، ابو ہریرہ نے کہا اسی کوئی دیجئے کیونکہ یہ ابن قوقل کا قاتل ہے، تو اس نے کہا تجھ بہے اس او بلے پر جو کوہ ضان کی چوٹیوں سے ابھی اتر کر آیا ہے۔

۳۲۳۸ - ويدكر عن الزبيدي، عن الزہری قال : أخبرنی عنبسة بن سعید : أنه سمع أبا هريرة يخبر سعید بن العاص قال : بعث رسول الله ﷺ أباً آباء على سرية من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة : فلقدم أباً آباء وأصحابه على النبي ﷺ بخبير بعد ما افتحها وإن حزم خيلهم للليف، قال أبو هريرة : قلت : يا رسول الله لا تقسم لهم، قال أباً آباء : وألت بهندا يا وبر تحدر من رأس ضال؟ فقال النبي ﷺ : ((يا أباً آباء اجلس))، فلم يقسم لهم. قال أبو عبد اللہ الصدار : السدر [راجع: ۲۸۲۷]

ترجمہ: عنبسه بن سعید کہتے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے سنا کہ وہ حضرت سعید بن العاص ﷺ کو خبر دے رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے اباً آباء کو مدینہ سے نجد کی طرف کسی لشکر کا سردار مقرر کر کے روانہ کیا تھا، حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ خیر میں فتح کے بعد اباً آباء اور ان کے ساتھی نبی کریم ﷺ کے پاس واپس آئے اور ان کے گھوڑوں کی پیٹیاں چھال کی تھیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! انہیں مال غیمت میں سے حصہ

<sup>۵</sup> مسئلہ ہذا کی تفصیل دار ملاحظہ فرمائیں: العام الباری، کتاب الحرج والمنازعة، باب اولاق اصحاب النبي ﷺ وارض الخراج ومزارعهم ومعاملتهم، رقم: ۲۳۲۳، ج: ۷، ص: ۵۶۶، ملکیت زمین اور اس کی تقدیر، ص: ۱۱۸۵۸۲، وفع العام الباری، کتاب فرض الخمس، باب الفتنۃ لمن شهد الولعۃ، رقم: ۳۱۲۵، ج: ۲، ص: ۲۲۵، وعمدة المقاری، کتاب المغازی، باب غزوۃ خیر، ج: ۷، ص: ۳۶۵، رایضاً لیہ کتاب الخمس، باب الفتنۃ لمن شهد الولعۃ، رقم: ۳۱۲۵، ج: ۱۵، ص: ۱۷، واعلاء السنن، ج: ۱۲، ص: ۷۳۰۱، کتاب السیر، ابراب الغائم وقسمتها، ولنچ القدیر، باب النائم وقسمتها، ج: ۵، ص: ۳۷۹

نہ دیجئے، تو اب ان نے کہا اور بلے! جو کوہ ضان کی چوٹیوں سے ابھی اتر کر آیا ہے تو یہ بات کہتا ہے، تو نبی ﷺ نے فرمایا اے اب ان! بیٹھ جاؤ، اور انہیں حصہ نہ دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضال جنگلی بیری کو کہتے ہیں۔

**۳۲۳۹** - حدیث موسی بن اسماعیل: حدیثنا عمر بن یحییٰ بن سعید: اخباری  
جدی: ان آبیان بن سعید قبل إلى النبي ﷺ فسلم عليه فقال أبو هريرة: يا رسول الله، هذا قاتل ابین قولل. وقال آبیان لأبی هريرة: واعجبالک، وبرتادا من لدوم ضان ینعنی على امرا اکرمہ اللہ بھی دی، ومنعه ان یہنی بیدہ۔ [راجع: ۲۸۲۷]

ترجمہ: عمر بن یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا ابیان بن سعید ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپ کو سلام کیا تو ابو ہریرہ ﷺ نے کہا یا رسول اللہ! یا ابن قتل کا قاتل ہے، تو اب ان نے ابو ہریرہ ﷺ سے کہا کہ تجھ پر تجہب ہے کہ تو ایک بھوی ہے جو کوہ ضان سے اتر کر آئی ہے اور ایسے شخص کے مارنے کا مجھ پر عیب لگاتا ہے جسے اللہ نے میرے ہاتھوں (شہادت دے کر) بزرگی دی، اور مجھے اس کے ہاتھ سے (حالت کفر میں قتل کراکے) ذلیل ہونے سے بچا لیا۔

## واقعہ کی تفصیل

پہلی روایت میں ہے کہ حضرت عنبرہ بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ جب ہجرت کر کے نبی کریم ﷺ کے پاس تشریف لائے اور اس وقت خبر کاغزوہ ختم ہو چکا تھا۔

”**فَسَأَلَهُ قَاتِلُ لَهُ بَعْضُ بَنِي الْخَٰنِ**“ آکر انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے سوال کیا کہ خبر کے غنائم میں سے کچھ ان کو بھی دیا جائے، سعید بن عاص ﷺ کے بعض بیٹے جو دہاں پر موجود تھے انہوں نے حضور ﷺ سے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ ان کو مال غنیمت میں سے کچھ بھی نہ دیجئے مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ میں شریک تو ہوئے نہیں ہیں تو اس لئے آپ ﷺ ان کو مال غنیمت میں سے کوئی حصہ نہ دیجئے۔

”**فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا قَاتِلُ الْخَٰنِ**“ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے کہا یا ابن قتل کے قاتل ہے۔ غزوہ احمد میں ابیان بن سعید کا فروں کی طرف سے لڑنے کے لئے آئے تھے اور مسلمانوں میں سے ابن قتل ﷺ کو انہوں نے شہید کیا تھا تو اس کی طرف ابو ہریرہ ﷺ نے اشارہ کیا کہ یہ ابن قتل کا قاتل ہے لہذا اس کی بات پر کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔

”**فَقَالَ: وَاعْجَبَاهُ لَوْهُرَدَلِيٌّ**“ : ابیان بن سعید نے کہا تجہب ہے ایک بھوی کو جو نک کر آگئی ہے ضان کے پہاڑ سے۔

”وہر“ یہ ایک جانور کا نام ہے جو بلی کی طرح کا ہوتا ہے اور بلی سے چھوٹا ہوتا ہے گھر میں اس کو پالتے ہیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ بجوسے کیا ہے۔ لیکن یہ اس لئے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ بجو یہ ایک جنگلی جانور ہے اور وہ بر کی تشریع یہ کی ہے کہ وہ گھر میں پا تو جانور ہے لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ وہ نہ بلی ہے اور نہ تو کتا ہے بلی جیسا ہے تو اس لئے میں نے ترجمہ کیا پھوٹی سے، ہمارے ہاں چھوٹی بلی کو پھوٹی کہہ دیتے ہیں۔

”قدوم الصان“ ایک پہاڑ کا نام ہے جو میں میں تھا اور قبیلہ دوں جہاں کے حضرت ابو ہریرہ رض ہیں وہاں پر یہ پہاڑ تھا۔ تو آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابن قول کا قاتل ہوں۔

”اخباری عنبرة بن سعید الخ“ حضرت عنبرة بن سعید رحمہ اللہ سے ہی دوسری روایت میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رض، سعید بن عاص رض کو بتارہ تھے کہ ”بعث رسول الله صلی اللہ علیہ وسالم“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسالم نے ابان بن سعید کو مدینہ منورہ سے خدکی طرف ایک سریہ میں بھیجا تھا۔

”قال أبو هريرة : لقدم أهان الخ“ جب وہ حضرات اس مہم سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسالم کے پاس خیر پیچے تو اس وقت خیرخ ہو چکا تھا، ”وان حزم خيلهم الخ“ اور جس وقت وہ لوگ واپس لوٹے تو ان کے گھوڑوں کے اوپر بچھے ہوئے جو پالان اور ڈھیر وغیرہ تھے یعنی بطور زین کے جو حصہ استعمال کر رہے تھے وہ لیف تھا یعنی خستہ حالی کی وجہاں کے گھوڑوں پر کھوڑ کی چھال کی زین تھی۔

”قال أبو هريرة : قلت : يا رسول الله الخ“ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ ان کو مال غیمت میں حصہ نہ دیجئے کیونکہ یہ لوگ جنگ میں شامل نہیں تھے۔

”قال أهان : وألت يا وهر الخ“ تو ابان نے کہا کہ ایک پھوٹی کو جو لئک کر آگئی ہے ضان کے پہاڑ سے یعنی کیا اب تم اس مقام پر آگئے ہو کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسالم کو مشورہ دے رہے ہو کہ ان کو مال غیمت سے حصہ نہ دیجئے۔

”قال النبي صلی اللہ علیہ وسالم : يا اهان اجلسن الخ“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسالم نے ابان کو خاموش ہونے کا حکم دیا اور پھر ان کو تقسیم نہیں فرمایا۔

تیسرا روایت میں جو جملہ نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ”منعی على امرا اكرمه الله بيده“ ایک ایسے شخص کی وجہ سے میرے اوپر عیب لگا رہے ہو، جس کو اللہ نے میرے ہاتھوں اکرام سے نواز، یعنی اگر میں نے قتل کیا تو میرے قتل کے نتیجہ میں وہ شہید ہوئے، شہادت کا مرتبہ پایا تو اللہ نے میرے ہاتھوں ان کا اکرام کیا۔

”ومنعه أن يهنى بيده“ اور اس کو روک دیا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کہ وہ اپنے ہاتھ سے میری اہانت کرتے یعنی دونوں کو فائدہ ہوا کہ میں اہانت سے بچ گیا اور ان کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ تو آج ان کی بنیاد پر میرے اوپر عیب لگا رہے ہیں کہ میں ابن قول رض کا قاتل ہوں تو اب اس کی کیا ضرورت ہے اس لئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بعد میں اسلام کی توفیق دے دی اور وہ سب قصے ختم ہو گئے۔

پہلی روایت میں ہے کہ ابیان بن سعید رض نے کہا تھا کہ ابو ہریرہ رض کو نہ دیجئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابن قول رض کا قاتل ہے۔ اور دوسرا روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رض نے کہا کہ ان کو نہ دیجئے تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ یہ جملہ دونوں نے ہی کہا تھا، ابیان رض نے ابو ہریرہ رض کے بارے میں اور ابو ہریرہ رض نے ابیان رض کے بارے میں اور اسی واسطے دونوں کے درمیان ان کلمات کا تبادلہ بھی ہوا۔

٣٢٣١، ٣٢٣٠ - حدیثنا يحيى بن بكر: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن

شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن فاطمة بنت النبي ﷺ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرالها من رسول الله ﷺ مما أفاء الله عليه بالمدينة ولدك وما بقي من خمس خمير، فقال أبو بكر إن رسول الله ﷺ قال: ((لا تورث ما تركتنا صدقة، إما يأكل آل محمد ﷺ في هذا المال)، وإنى والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله ﷺ عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ﷺ، ولا أعملن فيها بما عامل به رسول الله ﷺ. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً لوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهو جوته فلم تكلمه حتى توفيت: وعاشت بعد النبي ﷺ ستة أشهر، فلما توفيت دفنتها زوجها على ليلاً ولم يؤذن بها أبي بكر وصلى عليها. وكان لعلى من الناس وجده حياة فاطمة، فلما توفيت استذكر على رجره الناس فالتمس مصالحة أبي بكر و بما يعنه ولم يكن يباعع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر: أن اتنا ولا ياتنا أحد معك، كراهة ليحضر عمر، فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك، فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي؟ والله لا تدينهم، فدخل عليهم أبو بكر لتشهد على، فقال: إلا قد عرفنا لضلك وما أعطاك الله. ولم لنفس عليك خيراً ساقه الله إليك. ولكنك امتنعت علينا بالأمر وكنا نرى لقربتنا من رسول الله ﷺ بصيراً حتى فاضت علينا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال: والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله ﷺ أحب إلى أن أصل من قرابتي. وأما الذى شجر بيني وبينكم من هذا الأموال فلم آل ليها عن الخير ولم أترك أمراً رأيته رسول الله ﷺ يصنعه فيها إلا صنته. فقال على لأبي بكر: موعدك العثية للبيعة، فلما صلى أبو بكر الظهر. رقى المنبر فتشهد وذكر شأن على وتخلفه عن البيعة وعدره بالذى اعتذر إليه. لم استغفر وتشهد على لعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذى صنع لفاسة على أبي بكر ولا إيكار للذى فضله الله به ولكن نرى لنا في هذا الأمر بصيراً. فاستبد علينا لوجدنا في أنفسنا، لسر بالذك المسلمون وقالوا: أصبحت. وكان المسلمين إلى على تربياً حين راجع الأمر المعروف

[راجع: ۹۲، ۳۰۹۳]

ترجمہ: عروہ بن زیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ دختر نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کو حضرت ابو بکر رض کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں بھیجا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کے اس مال کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ اور فدک میں دیا تھا، اور خیر کے بقیہ خس کی میراث چاہتے چاہتے ہیں، تو ابو بکر رض نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے، ہاں آل محمد صلی اللہ علیہ و آله و سلم اس میں سے بقدر ضرورت کھا سکتی ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کے صدقہ میں آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کے عهد مبارک کے عمل کے خلاف بالکل تبدیلی نہیں کر سکتا، اور میں اس میں اسی طرح عمل درآمد کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر رض نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس مسئلہ میں حضرت ابو بکر رض سے ناراض ہو گئیں، اور انہوں نے اپنی وفات تک حضرت ابو بکر رض سے گفتگونہ کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آخر حضرت صلی اللہ علیہ و آله و سلم کی وفات کے بعد چھ ماہ زندہ رہیں، جب ان کا انقال ہو گیا تو ان کے شوہر حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے انہیں رات ہی کو فن کر دیا، اور حضرت ابو بکر رض کو اس کی اطلاع بھی نہ دی، اور خود ہی ان کے جنازہ کی نماز پڑھ لی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم کو لوگوں میں وجاہت حاصل تھی، جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے لوگوں کا رخ پھرا ہوا پایا تو حضرت ابو بکر رض سے صلح اور بیعت کی درخواست کی، حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے ان مہینوں میں حضرت ابو بکر رض سے بیعت نہیں کی تھی، تو حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے حضرت ابو بکر رض کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لا میں اور آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو، یہ اس لئے کہا کہ کہیں عمر نہ آجائیں، حضرت عمر رض کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فرمایا نہیں بخدا آپ ہاں تھا نہ جائیں، حضرت ابو بکر رض نے کہا مجھے ان سے یہ امید نہیں کہ وہ میرے ساتھ کچھ برائی کریں، بخدا میں ان کے پاس جاؤں گا۔

لہذا ابو بکر رض ان کے پاس چلے گئے تو حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے تشهید کے بعد فرمایا کہ ہم آپ کی فضیلت اور اللہ کے عطا کردہ انعامات کو بخوبی جانتے ہیں نیز ہمیں اس بھلائی میں یعنی خلافت میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے کوئی حد نہیں، لیکن آپ نے اس امر خلافت میں ہم پر زیادتی کی ہے، حالانکہ قرابت رسول صلی اللہ علیہ و آله و سلم کی بناء پر ہم سمجھتے تھے کہ یہ خلافت ہمارا حصہ ہے، حضرت ابو بکر رض یہ سن کر ورنے لگے اور فرمایا اللہ کی قسم! قرابت رسول صلی اللہ علیہ و آله و سلم کی رعایت میری نظر میں اپنی قرابت کی رعایت سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان آخر حضرت صلی اللہ علیہ و آله و سلم کے بارے میں جو اختلاف ہوا ہے تو میں نے اس میں امر خیر سے کوتا ہی نہیں کی، اور اس مال میں، میں نے جو کام آخر حضرت صلی اللہ علیہ و آله و سلم کو کرتے دیکھا اسے نہیں چھوڑا، حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے حضرت ابو بکر رض سے کہا کہ زوال کے بعد آپ سے بیعت کرنے کا وعدہ ہے۔

جب حضرت ابو بکر رض نے ظہر کی نماز پڑھی تو آپ منبر پر بیٹھے اور تشهد کے بعد حضرت علی رض کا مقام، بیت سے ان کا پیچھے رہنے اور انہوں نے جو عذر پیش کئے تھے انہیں بیان فرمایا، پھر حضرت علی رض نے استفارہ اور تشهد کے بعد حضرت ابو بکر رض کے حقوق کی عظمت و بزرگی بیان کر کے فرمایا کہ میرے اس فعل کا باعث حضرت ابو بکر رض پر حسد یا اللہ نے انہیں جس خلافت سے نوازا ہے، اس کا انکار نہیں تھا، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ امر خلافت میں ہمارا بھی مقصہ تھا، لیکن حضرت ابو بکر رض اس میں ہمیں چھوڑ کر (خلافت کے معاملے میں ہم سے مشورہ نہیں کیا) خود مختار بن گئے تو اس سے ہمارے دل میں کچھ رنج تھا، تمام مسلمان اس واقعہ سے خوش ہو گئے، اور کہا کہ آپ رض نے درست کام کیا، اور مسلمان حضرت علی رض کے اس وقت سے پھر قریب ہو گئے جب انہوں نے امر بالمعروف کی طرف رجوع کر لیا۔

## واقعہ فدک کی حقیقت

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صدیق اکبر رض کے پاس پیغام بھیجا جس میں ان سے اپنی میراث طلب کر رہی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اموال میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بطور فیض عطا فرمائے تھے مدینہ منورہ، فدک اور خیر میں جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اس میں یہ بتایا تھا کہ بنو نصیر کے اموال میں سے کس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اموال ہوئے اور فدک میں کیا ہوا اور خیر میں کیا ہوا وہاں ساری تفصیل عرض کر چکا۔

حضرت ابو بکر صدیق رض نے اس بات کے جواب میں فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "لا نورث ما تو کنا صدقۃ الخ" کہ ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ اگر "لاؤوڑ" پڑھیں تو مطلب یہ ہو گا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رض نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جواب میں یہ حدیث سنائی، اس سے پتہ چلا کہ انہیاء کرام علیہم السلام کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔

"الماياكمل آل محمد الخ" اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اس مال میں سے کھائیں گے مطلب یہ ہے کہ ان کا نفقہ اس میں سے جاری ہو گا لیکن ان کو تملیک کے طور پر میراث نہیں دی جاسکتی۔

"وانی والله لا اغیر شيئاً الخ" میں اس مال میں کوئی تغیر نہیں کروں گا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خرچ کرتے تھے اور میں بھی اسی طرح خرچ کرتا رہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یعنی ازدواج

مطہرات کا نفقہ، آپ ﷺ کے صاحبزادیوں کا اور دیگر اہل بیت جو کچھ بھی نفقہ تھا وہ اسی طرح جاری رہے گا۔  
”فَإِنْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْلِعَ النَّخْ“ تو اس حدیث کی روشنی میں حضرت صدیق اکبر ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بطورِ تملیک اس میں سے کچھ دینے سے انکار کر دیا۔

”فَوَجَدَتْ لَاطِمَةَ النَّخْ“ تو اس بات پر فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر ﷺ سے غلکن ہوئیں یا ناراض ہوئیں دونوں معنی ہو سکتے ہیں اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور ان سے بات نہیں کی یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔

## ایک غلط فہمی کا ازالہ

جس طرح یہ روایت یہاں پر منقول ہوئی ہے اس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا حصہ ہے لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس جملہ ”فَإِنْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْلِعَ إِلَى لَاطِمَةَ مِنْهَا شِنَّا“ پر ختم ہو گئی۔

اور آگے ”فَوَجَدَتْ لَاطِمَةَ“ سے آخر روایت تک یہ امام زہری رحمہ اللہ کا دراج ہے جو وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غصہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ پر آگیا اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور بات نہیں کی۔

یہ سب امام زہری رحمہ اللہ کا دراج ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث چھتیں طریقوں سے مردی ہے۔ جن میں سے گیارہ طریق وہ ہیں جو امام زہری کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بیان کئے ہیں ان میں سے کسی میں یہ موجود نہیں ہے اور صرف زہری کے طریق میں ہے۔

سنن بیہقی کی ایک روایت میں ”قال“ کا لفظ صحیح میں مقصود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امام زہری رحمہ اللہ کا دراج ہے۔ ۶۷

تو یہ کہنا کہ انہوں نے صدیق اکبر ﷺ کو چھوڑ دیا اور ناراضگی کی وجہ سے چھوڑا اور انتقال تک بات چیت تک نہیں کی تو یہ بات زہری کا اپنا، یا تو خیال ہے یا جس کسی سے سنا ہو گا اس کا مأخذ انہوں نے نہیں بتایا اور زہری کی مراہیل بہت ہی کمزور مراہیل ہوئی ہیں۔

۶۷ المسن الكبير للبيهقي، كتاب لسم الفتن والفنية، باب بيان مصرف أربعة أخماس الشيء بعد رسول الله ﷺ

النحو، رقم: ۱۲۴۳۲، ج: ۲، ص: ۲۸۹

ایک تو یہ بات سمجھ لینا کہ امام زہری کا یہ ایک برا مشکل مسئلہ ہے کہ بکثرت روایتوں میں اور ارج کردیتے ہیں، اور پتہ نہیں لگتا کہ ان کا قول کہاں سے شروع ہوا اور اصل روایت کہاں سے اور بہت سے سوراخیں نے ان کے اس بات کے اوپر سخت تقدیم کی ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہئے۔

بعض لوگوں نے ان کو بتایا بھی کہ آپ بیان کیا کریں کہ حدیث کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں سے ختم ہوئی اور کہاں سے آپ کا اپنا قول شروع ہو گیا، تو یہ بات ان نے معروف ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر فرض کرو انہوں نے کسی دوسرے سے ناتھا اور اس کا نام نہیں لیا تو یہ مرسل ہوئی اور مرسل زہری کی بڑی کمزور ہے۔

محمد شیخ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے جیسے کہ یہ ہوا اڑگی، قرار نہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس واسطے آگے جو کچھ آ رہا ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔

پھر یہ جو کہا "فِهِ جُرْلَهُ فَلَمْ لَكَلِمَهُ الْخُ" تو دوسری روایات اس کے بالکل برخلاف ہیں۔

**نکملہ فتح الملهم۔** کتاب الجهاد میں یہ حدیث آئی ہے اور وہاں پر میں نے کم از کم آٹھویں حدیثیں روایت کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر<sup>ر</sup> کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے معاملات بالکل پر سکون ہو گئے تھے تو یہ کہنا کہ ان کو چھوڑ دیا یہ بھی صحیح نہیں۔ ۷۷

اور خود امام زہری رحمہ اللہ کی روایت عمر بن شبہ کی تاریخ المدينة میں آتی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں "فَلَمْ تَكُلِمْهُ فِي ذَالِكَ الْمَالِ حَتَّى تَوْفِيتُ" حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صدیق اکبر<sup>ر</sup> سے دوبارہ اس مال کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی یہاں تک کہ وہ وفات پا گئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر<sup>ر</sup> سے جو میراث کا مطالبه کیا تھا اس کو اپنی زندگی میں پھر کبھی نہیں دھرا یا، اس لئے کہ حدیث پہنچ چکی تھی یہ مطلب نہیں کہ بات چیت کو چھوڑ دیا۔ ۷۸

## میرا موقف

تمام روایات کو مد نظر رکھنے کے بعد میں نے نکملہ فتح الملهم میں جو کچھ موقف اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت صدیق اکبر<sup>ر</sup> نے یہ حدیث سنادی کہ "لا نورث الخ" تو

۷۷ نکملہ فتح الملهم، کتاب الجهاد والسر، ج: ۳، ص: ۹۳

۷۸ تاریخ المدينة لا بن ہبہ، ذکر فاطمۃ والعباس وعلی رضی اللہ عنہ، وطلب میرا ہم، ج: ۱، ص: ۱۹۷

ظاہر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حدیث کے آگے کیا بولیں گی اور یقیناً وہ اس سے مطمئن ہو گئی کہ جب یہ حدیث ہے تو پھر میراث کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

البتہ اس کے بعد انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ تھیک ہے کہ میراث تو نہیں مل سکتی لیکن ان اراضی کو تولیت ہمیں دے دی جائے، یعنی با غ فدک، خیر کی اراضی بنو ہاشم یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علیؑ کو دیدی جائے۔

حضرت صدیق اکبرؑ نے یہ مطالہ اس لئے منظور نہیں کیا کہ حضور اقدس ﷺ کے وصال کو چند دن ہوئے ہیں اور اگر ان کی تولیت بنی ہاشم کے حوالہ کر دی گئی تو عام تاثر یہ ہو گا کہ حضور ﷺ کی میراث تقسیم ہوتی اور میراث انبیاء کا یہ مسئلہ ملٹیپس ہونے کا اندیشہ تھا، اس واسطے انہوں نے تولیت حوالہ نہیں کہ اور کہا یہی طریقہ چلا آیا ہے انبیاء کرام کا کہ ان کے زیر ولایت جزو میں ہوتی ہے تو اس کی شخص کی طرف تولیت منتقل ہوتی ہے جو بعد میں خلیفہ بنے تو اس واسطے حضرت صدیق اکبرؑ نے تولیت بھی منتقل کرنا پسند نہیں فرمایا۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس بات راجتھا پر مطمئن نہیں تھیں، وہ سمجھتی تھیں اگر یہ تولیت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اور پھر بھی نہیں دے رہے، اس وجہ سے تھوڑی سی قلب میں رنجش رہی۔ یہ ایسی رنجش ہے جیسا کہ دو مجتہدین کے درمیان اختلاف آراء کی صورت میں ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ معمولی رنجش تھی وہ اس درجہ کی نہیں تھی کہ بات چیت چھوڑ دیں اور ملنا جلنا چھوڑ دیں۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے محسوس فرمایا کہ یہ چھوٹی سی رنجش رہنا بھی مناسب نہیں اس لئے حضرت صدیق اکبرؓ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میری جان مال اور آبر و سب رسول کریم ﷺ کے خاندان پر قربان ہے لیکن میں نے یہ معاملہ اس وجہ سے کیا تھا، تو آپ خدا کے لئے مجھ سے راضی ہو جائیں، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں بالکل راضی ہوں۔<sup>۱۹</sup>

یہ روایت اچھی خاصی معبر کتابوں میں موجود ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے البداۃ والنہایۃ میں اس کی تمام بحث نقل کی ہے، تو اس لئے یہ تاثر جو اس جملہ سے بن رہا ہے تو یہ تاثر بالکل صحیح نہیں ہے۔<sup>۲۰</sup> اور اس موضوع پر حضرت مولانا محمد نافع صاحب نے بہترین کتاب "رحماء بینہم" کے نام سے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے۔

<sup>۱۹</sup> السنن الکبریٰ للبیهقی، کتاب قسم الفنی والفنیمة، باب بیان مصرف اربعۃ اخمام الفنی بعد رسول اللہ ﷺ

الخ، رقم: ۱۲۴۵، ج: ۲، ص: ۲۹۱

<sup>۲۰</sup> السیرۃ النبویۃ لابن کثیر، باب بیان أہله علیہ السلام: الوارث، ج: ۲، ص: ۵۷۰، والبداۃ والنہایۃ، ج: ۵، ص: ۲۸۵

ایسی کتاب اس موضوع پر میری نظر سے نہیں گذری جتنی بہترین کتاب یہ ہے، اس میں حضرت صدیق اکبر ﷺ، حضرت علیؓ ان کے باہمی تعلقات اور حضرت عثمانؓ کے درمیان جو رجسٹر جاتی ہے ان کی حقیقت اور تفصیل بہترین انداز میں بیان کی گئی ہے۔ کچھ بات یہ ہے کہ شیعیت کے تردید میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اس کتاب جیسی بہترین کتاب میری نظر سے نہیں گذری ہے۔

اس کتاب میں بھی اس روایت پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے اور بالکل دوا در دو چار کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ کے ادرج سے یہ تاثر جو بن رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔

آگے کہتے ہیں "وَعَاهَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ مَسْتَادَهُ الْخَ" حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی وفات کے بعد چھ مہینے زندہ رہیں، جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت علیؓ نے رات کے وقت ان کو دفن کر دیا اور حضرت صدیق اکبر ﷺ کو اطلاع بھی نہیں دی۔

یہ بھی امام زہری رحمہ اللہ کے ادرج کا حصہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ خود تو اس وقت موجود نہیں تھے کہ کہا جائے کہ انہوں نے دیکھ کر یہ بات کہی ہے، پتہ نہیں کہ یہ بات کہاں سے سنی ہے۔

اس کے برخلاف بڑے قوی دلائل موجود ہیں، ابھی جو میں نے عرض کی کہ تعلقات بالکل صحیح ہو گئے تھے، دوسری بات یہ کہ ایک دوسری دو سویں احادیث سے ثابت ہے کہ جس زمانہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہاں تھی تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا مستقل طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حمارداری کیا کرتی تھی، جو صدیق اکبر ﷺ کی زوجہ تھی اور عسل بھی متفق علیہ طور پر حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے دیا تھا۔

اب یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ کی بیوی حمارداری کر رہی ہیں اور انتقال کے وقت وہ عسل دے رہی ہیں اور حضرت صدیق اکبر ﷺ کو پتہ نہیں کہ انتقال ہو گیا ہے۔

یہ بات عقل میں آنے والی ہے، ہی نہیں، لہذا یہ سمجھنا کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ کو اطلاع نہیں تھی، یہ ساری بات ان روایتوں کی وجہ سے بالکل غلط ہے۔

پھر یہ کہنا کہ حضرت علیؓ نے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے کہ اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت علیؓ نے نماز پڑھائی لیکن دوسری متعدد روایات میں یہ صراحت ہے کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ نے نماز پڑھائی اور وہ روایتیں بھی میں نے تکملہ فتح المهمم میں نقل کی ہیں۔

مولانا نافع صاحب نے کتاب "رحماء بینهم" میں اس کے بارے میں بھی بہت ہی تفصیل سے بحث کی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بنوہاشم کا مستقل طریقہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو امیر وقت سے ہی نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے، چاہے امیر وقت سے ان کا کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ کی موجودگی میں حضرت علیؓ نے حضرت صدیق اکبر ﷺ سے نماز نہ

پڑھوائی ہو تو یہ بھی بات صحیح نہیں۔

”وَكَانَ لِعَلَىٰ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حِيَاةُ الْخَ“ اب یہ بھی سب اپنے خیالات ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں لوگوں میں حضرت علیؓ کی وجاهت تھی اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو حضرت علیؓ نے لوگوں کے چہروں کو اجنبی سمجھا، تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت ابو بکرؓ سے مصالحت کرنا چاہا اور ان سے بیعت کرنا چاہا اور ان چھٹہینوں کے اندر بیعت نہیں کی تھی۔

یعنی جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ تھیں لوگ عزت کرتے تھے ان کی وجاهت تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد لوگوں نے منہ پھیر لیا اور حضرت علیؓ کے ساتھ اس عزت و احترام کے ساتھ پیش نہ آتے جو پہلے پیش آیا کرتے تھے۔

یہ بات بھی بالکل عجیب بھی ہے یہ صحابہؓ کرامؓ کا مزاج ہی نہیں تھا، وہ اس وجہ سے کہ حضرت علیؓ کے فضائل تھے، ان کی اپنی حیثیت تھی اور ان کی اپنی شخصیت تھی، تو یہ سمجھنا کہ اب لوگوں نے ان کے ساتھ برداز بدل دیا تو یہ درست نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس جملے سے حضرت علیؓ کا جو کردار سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک لوگوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اثرات تھے تو اس وقت تک تو اپنے آپ کو حضرت صدیق اکبرؓ سے مستغفی سمجھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی تو لوگوں کا روپیہ بدلا ہوا دیکھا تو اپنا مفاد اس میں نظر آیا کہ اب بیعت کر لیں، ہذا مصالحت کر لی، یعنی ناراضگی اپنی ذات کیلئے تھی اور مصالحت بھی اپنی ذات کیلئے کی۔ العیاد بالله العلی العظیم۔

یہ روایت چونکہ صحیح بخاری میں ہے اور روایت میں بھی امام زہری رحمہ اللہ کے ادرج کی صراحت کہیں موجود نہیں، لہذا عام طور پر لوگ سمجھتے رہے کہ یہ سب باقی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ اس وجہ سے یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ چھ ماہ تک حضرت علیؓ نے صدیق اکبرؓ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔

لیکن حقیقتاً واقعہ یہ ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت صدیق اکبرؓ کے ہاتھوں ابتداء تو شین دن کے اندر اندر بیعت کر لی تھی اور اس پر بھی آٹھ دس روایتیں شاہد ہیں، جومولانا محمد نافع صاحب نے بھی نقل کی ہیں اور میں نے بھی ”تکملۃ فتح المهمم“ میں ایک ایک کر کے بیان کی ہیں۔

ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علیؓ نے ایک دو دن کے اندر ہی حضرت صدیق اکبرؓ کے ہاتھوں بیعت کر لی تھی، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چھ مہینے کے بعد دوبارہ تجدید کی ہو، شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے ہوں، ان شکوک و شبہات کو زائل کرنے کے لئے حضرت علیؓ نے دوبارہ بیعت کر لی ہو ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ پورے عرصہ میں بیعت نہیں کی تھی ان روایتوں کی موجودگی میں یہ

صحیح نہیں۔ ایک

”لارسل الی ابی بکر رضی اللہ عنہ“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے لیکن آپ کے ساتھ کوئی نہ آئے، اکیلا ہی آئے گا۔ اور یہ پیغام اس لئے بھیجا تھا تاکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ نہ آئیں۔

”لقال عمر رضی اللہ عنہ: لا والله لاصدخل الخ“ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہ آپ ہرگز انکے پاس تہائے جائیے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ایسا کوئی اندیشہ نہیں کہ وہ میرے ساتھ کوئی بر اعمالہ کریں گے اور بخدا میں انکے پاس ضرور جاؤں گا۔

”لدخل عليهم ابو بکر، لتشهد على الخ“ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تشهد بیان کیا یعنی خطبہ پڑھا پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کے مرتبے کو پہچانا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اور ہم نے کبھی آپ سے کسی بھلائی میں حصہ نہیں کیا، ”ولکنک استبددت علينا بالامر الخ“، لیکن آپ نے اس معاملہ میں یعنی خلافت کے معاملے میں اپنے آپ کو مستقل کر لیا۔

اس کا کیا معنی؟ مطلب یہ کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا اور ہم رسول اللہ ﷺ کی قرابت کی وجہ سے گمان کرتے تھے کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہے، حصہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ مشورے میں، صلاح میں وغیرہ ہم سے رائے لی جائے۔ ”حتیٰ فاضت علينا بھی بکر“ یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھر آئی یعنی جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔

”للمان لكم ابو بکر: واللذی لفسمی الخ“ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب بات کی تواریخ شاد فرمایا کہ تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے رسول اللہ ﷺ کی قرابت مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ میں اپنی قرابت کے ساتھ صدر حکمی کروں یعنی رسول اللہ ﷺ کا خاندان اور رشتہ دار مجھے اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں۔

”واما اللذی شجر بینی وہینکم الخ“ اور جہاں تک بات ہے میرے اور آپ کے درمیان ان اموال کے بارے میں جو کچھ اختلاف پیدا ہوا تو اس میں، میں نے بھلائی کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی، ”ولم افرک امرا رأیت الخ“ اور میں نے کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی جو رسول کریم ﷺ سے کرتے ہوئے دیکھی ہو جو آپ رضی اللہ عنہ کرتے تھے وہی کچھ میں نے کیا۔

ابی داود فدک کی تفصیل اور سلسلہ کا تختیل جواب ملاحظہ فرمائیں: تکملۃ الفتح للعلیم، کتاب الجهاد والمسیر، ج: ۳، ص: ۱۰۹-۱۱۰، ورحماء بپنهم، حصہ صدیقی، ص: ۱۰۹-۱۱۰۔

”لقال علی لابی بکر:الخ“ حضرت علی رض نے حضرت صدیق اکبر رض سے کہا کہ آپ کے ساتھ میرا وعدہ بیعت کے لئے آج کی شام ہے یعنی میں آج شام آپ سے بیعت کروں گا۔

”للما صلی ابو بکر الظہر الخ“ جب حضرت صدیق اکبر رض نے ظہر کی نماز پڑھی اور منبر پر جو ہے تو حضرت علی رض کی شان کو بیان کیا اور ان کے بیت سے پچھے رہنے کی وجوہات اور انہوں نے جواب نے غدر بیان کئے تھے وہ سب باتیں بیان کیں۔

”لم استغفرو تشهد على فعظم حق أبي بکر الخ“ پھر حضرت علی رض نے استغفار و تشهد پڑھا اور صدیق اکبر رض کے افضليت اور ان حق کو عظيم قرار دیا، ”وحدث أنه لم يحمله على الخ“ اور انہوں نے بتایا کہ یہ کام انہوں نے ابو بکر صدیق اکبر رض سے کسی حد کی وجہ سے نہیں کیا، ”ولإكثار اللذى الخ“ اور نہیہ کام انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ وہ انکار کریں اس فضیلت کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔

”ولکن نرى لنا الخ“ لیکن ہم بس اتنا سمجھتے تھے کہ خلافت میں ہمارا بھی حصہ تھا، لیکن حضرت ابو بکر رض نے خلافت کے معاملے میں ہم سے مشورہ نہیں کیا تو اس سے ہمارے دل میں کچھ رنج تھا۔

مسلمان یہ دیکھ کر خوش ہوئے کہ انہوں نے بیعت کر لی ”وقالوا: أصبت الخ“ اور انہوں نے کہا کہ آپ رض نے اچھا کیا اور مسلمان حضرت علی رض سے زیادہ قریب ہو گئے۔

یعنی ان سے محبت کے زیادہ قریب ہو گئے جب انہوں نے امر بالمعروف کی طرف مراجعت کر لی یعنی ایسے کام کی طرف جو نیک کام تھا، اس کی طرف لوٹ آئے اور صدیق اکبر رض کے ہاتھ پر جب بیعت کر لی تو ان کے ساتھ زیادہ محبت کا برداشت کیا۔

اس روایت میں درمیان میں جو امام زہری رحمہ اللہ کا دراج آگیا ہے اس سے دھوکہ میں نہ پڑنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کوئی رنجش تھی اور اسی رنجش کی حالت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی تھی۔

۳۲۳۲۔ حدثنا محمد بن بشار: حدثنا حرمي: حدثنا شعبة: أخبرني عمارة، عن عكرمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما تفتحت خير للنا: الآن لشبع من التمر. ۲۷  
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب خیر فتح ہوا تو اس وقت ہم نے کہا اب ہم پیٹ بھر کر کھوڑیں کھائیں گے۔

۳۲۳۳۔ حدثنا الحسن: حدثنا قرة بن حبيب: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن

دینار، عن ابیه، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: ما شبعنا حتی لفتحنا خیر۔  
 ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ و والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تک خیر فتح نہیں ہوا تھا ہم نے جی بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔

## (۲۰) باب استعمال النبی ﷺ علی اہل خیر آنحضرت ﷺ کا اہل خیر پر عامل مقرر کرنے کا بیان

۳۲۳۵، ۳۲۳۳ - حدیث اسماعیل: حدیث مالک، عن عبد الرحمن بن عبدالمجيد بن سہیل، عن سعید بن المیب، عن ابی سعید الخدری، وابی هریرہ: ان رسول اللہ ﷺ استعمل رجلاً علی خیر لجاءة بتصریح جنیب، فقال رسول اللہ ﷺ: ((کل لمر خیر هکذا)) (۴۱) فقل: لا والله يا رسول الله اذا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين، بالغاللة، فقال: ((لا تفعل، بع الجمع بالدراریم ثم اتبع بالدراریم جنیباً)) [راجیع: ۱۱۰۲] ترجمہ: سعید بن میتب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو خیر کا عامل مقرر فرمایا وہ وہاں سے عمدہ کھجور میں لائے تو رسول اللہ ﷺ نے دریافت کیا کہ کیا خیر کی تمام کھجور میں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں بخدا اے اللہ کے رسول! ہم اس طرح کی ایک صاع (عَمَدَةٌ) کھجور دو صاع (نَاقِصٌ كھجور) کے بدلتے میں اور دو صاع، تین صاع کے بدلتے میں لیتے ہیں، تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس طرح نہ کیا کرو بلکہ ناقص کھجور پہلے دراریم کے بدلتے نفع ذاتی، پھر ان دراریم سے عمدہ کھجور خرید لیا کرو۔

### بٹائی کا معاملہ

یہاں پر صرف اتنا حصہ ہے کہ "ان رسول اللہ ﷺ استعمل رجلاً علی خیر" یہ مقصود ہے۔  
 جب خیر فتح ہو گیا اور زمین اللہ، اس کے رسول اور اہل اسلام کی ہو گئی تو آپ ﷺ نے ارادہ فرمایا کہ یہود صپ معاہدہ یہاں سے بلاطلن بوجائیں۔  
 لیکن یہود نے درخواست کی کہ آپ اس زمین پر ہمیں رہنے دیجئے ہم زراعت کریں گے جو پیداوار ہو گی اسکا نصف حصہ آپ کو ادا کیا کریں گے۔

آپ ﷺ نے یہ درخواست منظور فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی صراحت فرمادی جب تک چاہیں گے اس وقت تک تم کو برقرار رکھیں گے۔ ۳۴

اس طرح کا معاملہ سب سے پہلے خبر میں ہوا اس لئے ایسے معاملہ کا نام مخابره ہو گیا۔

جب بٹائی کا وقت آتا تو آپ ﷺ پیداوار کا اندازہ کرنے عبد اللہ بن رواحد ﷺ کو صحیح، حضرت عبد اللہ بن رواحد ﷺ کو پیداوار کو دو حصوں پر تقسیم کر کے کہتے کہ جس حصے کو چاہو لے لو، یہود اس عدل و انصاف کو دیکھ کر یہ کہتے کہ ایسے ہی عدل و انصاف سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔

۳۲۳۶، ۳۲۳۷ - وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزَ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُجِيدِ، عَنْ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَى سَعِيدَ وَأَبَاهُرِيرَةَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَخَاهُنِي عَدَى مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى الْخِيَبرِ فَأَمْرَهَا عَلَيْهَا. [راجع: ۲۲۰۲، ۲۲۰۱]

و عن عبد المجيد، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، وأبي سعيد مثله.

ترجمہ: حضرت سعید بن میتب رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انصار کے خاندان بنی عدی کے بھائی کو خبر بھیجا اور انہیں وہاں کا عامل مقرر فرمایا۔

اور عبد الجید نے ابو صالح سمان سے اور انہوں نے حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہما سے اسی طرح سے روایت کی ہے۔

### (۳۱) باب : معاملۃ النبی ﷺ اہل خیبر

#### اہل خیبر کے ساتھ نبی ﷺ کے معاملہ کا بیان

۳۲۳۸ - حديثاً موسى بن اسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله  
نهال: أعطى النبي ﷺ خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوا ولهم شطر ما يخرج منها.

[راجع: ۲۲۸۵]

۳۴ باب اذا قال رب الارض اقرتك نفركم به على ذلك ما ثنا - صحيح البخاري، کتاب الحرف والمزارعة، رقم:

۲۲۳۸، و باب اذا اشتربط في المزارعة اذا ثنت اخر جنك - صحيح البخاري، کتاب الحرف والمزارعة، رقم:

ترجمہ: نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ (ابن عمر) رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خبر (زمین اور باغات) یہودیوں کے دے دیا کہ وہ لوگ اس میں محنت کریں اور کھنچی باڑی کریں اور انہیں اس کی پیداوار کا آدھا حصہ ملے گا۔

## (۳۲) باب : الشاة التي سمت للنبي ﷺ بخبر خبر میں نبی ﷺ کیلئے زہر آلو بکری کا بیان

رواه عروة، عن عائشة عن النبي ﷺ.

ترجمہ: حضرت عروۃؓ نے حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کی۔

۳۲۳۹ - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا سعيد، عن أبي هريرة ﷺ

قال: لما فتحت خيبر أهدىت لرسول الله ﷺ شاة ليها سم. [راجع: ۳۱۶۹]

ترجمہ: لیث روایت کرتے ہیں کہ مجھے سعید نے روایت بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بکری ہدیہ میں ٹین کی گئی جس میں زہر تھا۔

### بھنی ہوئی بکری میں زہر دینے کا واقعہ

فتح کے بعد حضور اکرم ﷺ نے چند روز خیبر میں ہی قیام فرمایا، ایک دن زینب بنت حارث، زوجہ سلام بن مشکم نے ایک بھنی ہوئی بکری بطور ہدیہ میں آپ ﷺ کی خدمت میں بھیجی اور اس میں زہر ملا دیا۔ آپ ﷺ نے اس بکری کو چکھتے ہی اپنے ہاتھ روک لیا، حضرت بشربن براء بن معروفؓ جو آپ ﷺ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے انہوں اس وقت تک کچھ کھالیا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاتھ روک لو! کیونکہ اس بکری میں زہر ملا ہوا ہے۔ زینب بنت حارث کو بلا کراس کا سبب دریافت کیا کہ تم کو کس چیز نے ابھارا کہ اس میں زہر ملا دیا، اس نے اقرار کیا کہ بے شک اس میں زہر ملا یا ہے اس لئے کہا اگر آپ نبی برحق ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع کر دے گا اور اگر آپ نبی کا ذب ہیں تو لوگ آپ سے نجات پا جائیں گے۔

چونکہ آپ نبی ذات کے لئے اتنا نہیں لیتے تھے اس لئے آپ نے اس سے کوئی تعریض نہیں فرمایا، لیکن بعد میں جب بشربن براء بن معروفؓ اس زہر کے اثر سے انتقال کر گئے تو زینب کو دوارثان بشر کے حوالے

کر دیا گیا اور انہوں نے اس کو بشر کے قصاص میں قتل کیا۔

بیہقی کی ایک روایت میں ہے کہ زینب اقرارِ جرم کرنے کے بعد اسلام لے آئی اور یہ کہا کہ مجھے اب آپ کا صادق ہونا بالکل واضح ہو گیا ہے، آپ کو اور تمام حاضرین مجلس کو گواہ بناتی ہوں کہ میں آپ کے دین پر ہوں اور اقرار کرتی ہوں کہ اللہ کے سواء کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

امام زہری اور سلیمان نے ابتداءً قتل نہ کرنے کی وجہ یہی بتائی کہ وہ اسلام لے آئی تھی۔ ۲۴

خود نبی کریم ﷺ نے جب چکھا تھا تو اس چکھنے کا تھوڑا اسا جواہر تھا وہ آپ ﷺ پر ظاہر ہوا اور آخری وقت میں بھی یعنی وفات کے وقت میں بھی اس زہر کا اثر ظاہر ہوا۔

۲۴) وروی البهقی من طریق مسلمان بن حسین عن الزہری عن سعید بن الحسیب وأبی سلمة عن أبي هریرة: ((ان امرأة من اليهود أهدت لرسول الله ﷺ فاتة مسمومة فاكل، فقال لأصحابه: أمسكوا لأنها مسمومة، وقال لها: ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت أن كنت ليها ليطلعني الله، وإن كنت كذا بها لأريح الناس منك، قال فما عرض لها)، ومن طريق أبي نصرة عن جابر لحوجه ((للم يعالجها)), وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزہری عن ابی بن كعب مدلہ وزاد ((الراجح عل الکامل)) قال، قال الزہری: ((ما سلمت لترکها)) قال مصر: والناس يقولون لخلها، وخرج ابن سعد عن شیعہ الرادی بأسانید متعددۃ له هذه القصمة مطولة وفي آخره ((قال للذئب لها الى ولادة بشرین البراء للقتلها)). فتح الباری، ج: ۷، ص: ۲۹

.....  
باب زيد بن حارثة

و

باب عمرة القضاء

## (۳۳) باب: غزوہ زید بن حارثہ

زید بن حارثہ رض کے غزوہ کا بیان

۳۲۵۰ - حدثنا مسدد: حدثنا یحییٰ بن سعید: حدثنا سفیان بن سعید: حدثنا عبد اللہ بن دیسار، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: امر رسول اللہ ﷺ اسامة علی قوم لطعنوا فی إمارتہ فقال: ((إِنْ تَطْعُنُوا فی إِمَارَتِهِ فَلَقَدْ طَعْنَتُمْ فی إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنَّ كَانَ مِنْ أَحْبَبِ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ لَمْ يَأْنِ هَذَا الْمَنْ أَحْبَبُ النَّاسِ إِلَى بَعْدِهِ)). [راجع: ۳۰۷۳]

ترجمہ: عبد اللہ بن دینار رحمہ اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے قوم پر اسامة بن زید رض کو امیر بنایا، تو لوگوں نے ان کی امارت پر طعن کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر آج تم اسامة کی امارت پر طعن کر رہے ہو تو پہلے تم نے ان کے باپ کی امارت پر بھی طعن کیا تھا، اللہ کی قسم! وہ امیر ہونے کے مستحق اور اہل تھے، اور وہ مجھے تمام لوگوں میں زیادہ محبوب تھے، اور ان کے بعد یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

## سریہ بنوفزارہ

زید بن حارثہ رض کا غزوہ ہے، یہ غزوہ ان کی طرف اس لئے منسوب ہے کہ ان کو امیر بنایا گیا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ غزوہ موت سے قبل سات موالیں پر حضرت زید بن حارثہ رض کو آپ رض نے امیر لشکر بنایا کر بھیجا تھا لیکن بظاہر یہاں جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آخری مرجبہ آپ رض نے زید بن حارثہ کو امیر بنایا تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رض تجارت کیلئے شام گئے تھے اور اس زمانے میں جب شام کی طرف تجارت کے لئے جاتے تو قافلہ اور کاروائی لے کر جاتے تھے، تو اس قافلہ میں دوسرے صحابہ کرام رض کے اموال بھی تھے، جب شام سے واپس آرہے تھے تو بنوفزارہ کے لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ رض کے قافلہ پر حملہ کیا، اس حملہ میں بنوفزارہ کے سردار جو پیش پیش تھے ان میں ایک قرف نام کی عورت بھی تھی اور حضرت زید بن حارثہ رض اس غزوہ میں زخمی بھی ہوئے۔

جب واپس مدینہ منورہ آئے تو آنحضرت ﷺ نے پھر حضرت زید بن حارثہؓ کو سریہ کا امیر بنا کر بخ فزارہ سے لڑنے کے لئے بھیجا چنانچہ یہ گئے اور جا کر پھر اس سردار عورت قرفہ کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سریہ میں فتح فرمائی۔

یہاں اس حدیث میں حضرت زید بن حارثہؓ کے جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس سے یہ سریہ بخ فزارہ مراد ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ غزوہ خبر کے بعد پیش آیا تھا، اس واسطے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا۔ لیکن حدیث میں اس سریہ کا کوئی حال ذکر نہیں کیا، صرف ایک اشارہ کیا ہے۔ اے حضور اقدس ﷺ کی ایک حدیث ذکر کی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنی وفات سے کچھ قبل حضرت اسماءؓ کو ایک سریہ کا امیر بنایا، یعنی حضرت زید بن حارثہؓ کے بیٹے کو، تو لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو امیر بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ ان طعنہ کرنے والوں کا سردار عیاش بن ربیعہ تھا اس نے کہا کہ ایک کم سن لڑ کے کو کبھار صحابہ کا امیر بنادیا گیا ہے۔

یہ خبر حضرت عمرؓ کو پہنچی تو انہوں نے آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع دی جس پر رسول کریم ﷺ خفاء ہوئے اور خطبہ فرمایا کہ اگر تم ان کی امارت پر طعن کر رہے ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تم لوگ تو اس سے پہلے اس کے والد حضرت زید بن حارثہؓ کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہو جب میں نے ان کو امیر بنایا تھا، تو یہ زید بن حارثہؓ کی طرف اشارہ ہو گیا۔

لِ الْسَّابِعَةِ إِلَى نَاسٍ مِنْ بَنِي فَلَوَارَةِ، وَكَانَ خَرَجَ قَبْلَهَا فِي تِجَارَةٍ لِتَرْجِعِهِ نَاسٌ مِنْ بَنِي فَلَوَارَةٍ فَأَخْدُلُوا هَامِدَهُ وَضَرُورِهِ لِجَهَزَهُ النَّبِيُّ أَبِيهِمْ فَأَرْقَعَ بَهِمْ وَلَعْلَهُ أَمْ قَرْلَهُ بَكْرُ الْقَافِ وَسَكُونُ الرَّاءِ بَعْدُهَا فَاءٌ وَهِيَ فَاطِمَةُ بْنُ رَبِيعَةِ بْنُ مَدْرِ زَوْجِ مَالِكٍ بْنِ حَذَلَلَةِ بْنِ بَدْرِ عَمِ عَبِيَّةِ بْنِ حَصْنَ بْنِ حَدِيلَةِ وَكَالِتِ مَعْظِمَةِ أَبِيهِمْ، فَلَيَالٍ رَبِطُهَا فِي ذَنْبِ فَرِسْتَينِ وَأَجْرَهَا تَلَطَّعَتْ، أَسْرَ بَنْتَهَا وَكَالِتِ جَمِيلَةَ، وَلَعْلَهُ الْآخِيرَةُ مَرَادُ الْمُصْنَفِ، فَتحَ الْمَارِيِّ، ج: ۷، ص: ۳۹۸ وَعَدْدَةُ الْقَارِيِّ، ج: ۷، ا، ص: ۳۷۳، وَكَابِ الْمَفَارِيِّ لِلْوَالَّدِيِّ، ج: ۲، ص: ۵۶۳

۷ قولہ: ((الطعن)), بیان: طعن بالرمع وبالہد: یطعن بالظلم، وطعن فی العرض والنسب: یطعن بالفتح، واللعل: هما لفغان فیہما. قولہ: ((بعض الناس)) متهم عیاش بن أبي ربیعہ المخزومی. قولہ: ((amarat)) بکسر الهمزة. قولہ: ((لی امارۃ ابیہ)), وہی: امارۃ زید بن حارثۃ فی غزوۃ مژدۃ. قولہ: ((ان کان لغایلہ)) ای: ان زیداً کان خلیقاً بالامارة، یعنی: انہم طعنوا فی امارۃ زید و ظہر لهم فی الاخیر اہ کان جدیراً لانتفاً بها، فکذلک حال اسامہ، ولہی: جواز امارۃ السوالی، ولولیۃ الصفار علی الكبار، والمفضول علی الفاضل للمصلحة. وقال الكرمانی: الأحب بمعنى المحبوب. للت: ما ظهر لی وجہ العدول عن معنی التفضیل، عددة القاری، ۷، ص: ۳۳۷

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو امیر بنانے کی مصلحت یہ تھی کہ ان کے والد غزوہ مودہ میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کی دل جوئی کے علاوہ یہ خیال بھی تھا کہ وہ اپنے والد کی شہادت یاد کر کے ان کا فردی سے دل جسی سے لڑیں گے۔

**زید بن حارث اور ان کے پیٹی اسامہ سے محبت**

”وَإِيمَانُ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ“ اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن حارث ﷺ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم! وہ امارت کے لائق تھے۔

”وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحْبَبِ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنْ هَذَا مِنْ أَحْبَبِ النَّاسِ إِلَى بَعْدِهِ“ اور زید بن حارث مجھے تمام لوگوں میں زیادہ محبوب تھے، اور زید کے بعد اس کا یہ پیٹی اسامہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

## (۲۲) باب: عمرۃ القضا

## عمرۃ قبیاء کا بیان

ذکرہ انس عن النبی ﷺ.

ترجمہ: حضرت انس نے ﷺ سے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے۔

۲۲۵۱ - حدیثی عبد اللہ بن موسی، عن اسرائیل، عن ابی اسحاق، عن البراء ﷺ قال: لما اعتمَرَ النبِيُّ ﷺ فِي ذِي القعْدَةِ لَا يَبْرُأُ أهْلَ مَكَّةَ إِنْ يَدْعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّىٰ قَاضِاهُمْ عَلَىٰ أَنْ يَقِيمَ بِهَا تِلْلَاتَةِ أَيَّامٍ. لِمَا كَتَبَ الْكِتَابَ كَثِيرًا: هَذَا مَا قَاضَنِي عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ. قَالُوا: لَا نَقْرِلُكَ بِهَذَا. لَوْنَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولَ اللَّهِ مَا مَنَعَنَاكَ شَيْئًا، وَلَكِنَّنَا تَمَّ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: ((أَمْحِ رَسُولَ اللَّهِ))، قَالَ عَلِيٌّ: لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبْدًا، فَأَخْلَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ وَلَمْ يَحْسُنْ يَكْتُبْ، فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ السَّلَاجُ الْسَّيفُ فِي الْقَرَابِ، وَإِنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَإِنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يَقِيمَ بِهَا. فَلِمَا دَخَلُوا مَعْنَى الْأَجْلِ أَتَوْا عَلَيَّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجْلُ. لِخَرْجِ النَّبِيِّ ﷺ لِتَبْعِثَهُ أَبْنَةُ حَمْزَةَ تَنَادِي: يَا عَمَّ، لِتَنَوَّلْهَا عَلَىٰ فَأَخْلُدْ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونِكَ أَبْنَةُ عَمِّكَ، حَمْلَتْهَا. لَا خَصِّمْ فِيهَا عَلَىٰ زَيْدٍ وَجَعْفَرٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّمَا أَخْلَدْتَهَا وَهِيَ بَنْتُ عَمِّي. وَقَالَ جَعْفَرٌ: أَبْنَةُ عَمِّي وَخَالَتِهَا لَعْنَتِي. وَقَالَ زَيْدٌ: بَنْتُ أَخِي، لِقَضَىَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: ((الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ)). وَقَالَ لِعَلِيٍّ: ((أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ)) وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: ((أَشَبَّهُتْ خَلْقِي وَخَلْقِي)). وَقَالَ لِزَيْدٍ: ((أَنْتَ أَخْوَا وَمُوْلَا)). وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَا تَزْوِجْ بَنْتَ حَمْزَةَ؟ قَالَ: ((إِنَّهَا بَنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ)). [راجیع: ۱۷۸۱]

ترجمہ: ابو الحسن رحمہ اللہ حضرت براء ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ذیقده میں عمرہ کا ارادہ فرمایا تو اہل مکہ نے آپ ﷺ کے مکہ میں داخل ہونے سے انکار کیا، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے ان سے اس شرط پر صلح کی کہ (آئندہ سال) مکہ میں تین دن مقیم رہیں گے، جب مسلمانوں نے صلح نامہ لکھا (تو اس میں یہ) لکھ دیا کہ یہ محمد رسول اللہ کا صلح نامہ ہے، تو کفار نے کہا کہ ہم تو اس کا اقرار نہیں کرتے، اگر ہم آپ کو

اللہ کا رسول ﷺ سمجھتے تو آپ کو ہم بالکل نہ روکتے، لیکن آپ محمد بن عبد اللہ ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور میں محمد بن عبد اللہ بھی ہوں، پھر آپ ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ لفظ رسول اللہ مٹادو، حضرت علیؓ نے عرض کیا، اللہ کی قسم! میں تو اسے کبھی نہیں مٹا سکتا، تو رسول اللہ ﷺ نے وہ صلح نامہ لے لیا، حالانکہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، پھر بھی آپ ﷺ نے یہ لکھا: یہ محمد بن عبد اللہ کا صلح نامہ ہے کہ آپ مکہ میں سوائے غلاف پوش تکوar کے دوسرے ہتھیار لے کر نہ آئیں گے، اور اہل مکہ میں اگر کوئی آپ کے ساتھ جانا چاہے گا تو آپ اسے نہیں لے جائیں گے، اور اگر آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی مکہ میں رہنا چاہے گا تو آپ نہ روکیں گے۔

جب آپ مکہ تشریف لائے اور مدت پوری ہو گئی تو کفار نے حضرت علیؓ کے پاس آ کر کہا کہ آپ اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے کہ یہاں سے تشریف لے جائیں کیونکہ مدت پوری ہو گئی ہے، تو نبی ﷺ مکے تشریف لے گئے، حضرت حمزہؓ کی صاحبزادی چچا پچچا پکارتی ہوئی آپ ﷺ کے پیچھے چلی تو انہیں حضرت علیؓ نے لے لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اپنے چچا کی صاحبزادی کو لے لو کہ میں نے اسے لے لیا ہے۔

اس کے معاملے میں علیؓ، زید اور جعفر میں جھگڑا ہوا، حضرت علیؓ نے کہا کہ میں نے ہی اسے لیا ہے، اور یہ میرے چچا کی صاحبزادی ہے، جعفرؓ نے کہا کہ یہ میرے چچا کی صاحبزادی ہے، اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، زیدؓ نے کہا یہ میری بیٹجی ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس کی خالہ کے حق میں فیصلہ فرمادیا یعنی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا، اور فرمایا خالہ ماں کے درجہ میں ہوتی ہے۔ اور حضرت علیؓ سے بطور تسلی فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور حضرت جعفرؓ سے فرمایا کہ تم صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہو اور حضرت زیدؓ سے فرمایا تم ہمارا بھائی اور ہمارے غلام ہو، حضرت علیؓ نے کہا کہ آپ، حمزہؓ کی صاحبزادی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ میری رضاگی بیٹجی ہے۔

## ایک اشکال اور اس کا جواب

صلح حدیبیہ کا ذکر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں ایک بات وضاحت طلب ہے۔

حدیبیہ کا جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو کفار کی جانب سے لفظ رسول اللہ پر اعتراض کیا گیا تو نبی کریم ﷺ نے مٹانے کا حکم دیا تو حضرت علیؓ نے رسول اللہ کا لفظ مٹانے سے انکار کر دیا تو اس میں صراحت ہے ”فَاخْدِدْ رَسُولَ اللَّهِ الْكِتَابَ وَلَا يَسْبُّ الْكِتَابَ“ اسے لے لیا اور خود لکھا۔

اس صورت میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ بات حضور اقدس ﷺ کے ای ہونے کے منافی لگتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے لکھا۔

اس کی علماء نے و توجیہات کی ہیں:

پہلی توجیہ بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ جو واقعہ ہے اس میں آنحضرت ﷺ کو بطور مجذہ اس وقت لکھنے کی صلاحیت عطا کر دی گئی تھی چنانچہ آپ ﷺ نے لکھ دیا۔

دوسری توجیہ بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ آپ ﷺ کا ای ہونا عمومی اعتبار سے تھا لیکن جیسا کہ کوئی آدمی ای ہو لیکن رفتہ رفتہ کم از کم دستخط کر لینا سیکھ لیتا ہے اسی طرح نبی کریم ﷺ بھی دستخط اور اپنا نام لکھ پاتے تھے تو اس وجہ سے آپ ﷺ نے یہاں پر تحریر فرمایا۔

اصل میں تو یہ آپ ﷺ کا مجذہ تھا کہ آپ با وجود ای ہونے کے ایسے عظیم الشان علوم و معارف آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوئے کہ ساری دنیا اس کے مقابلہ سے عاجز ہو گئی۔

ای و مقتداں عالم بے سایہ و سائبان عالم.....

اگر اتنا تھوڑا سا سکھا دیا گیا ہو اور کسی وقت میں آپ ﷺ نے اپنا نام لکھ لیا ہو تو یہ آپ کی عمومی شان امیت کے منافی نہیں ہے۔ ۵

اب اس روایت کا جواہر لاحصہ نیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔

”لَمَّا دَخَلُوهَا وَمَضِيَ الْأَجْلُ الْخَ“ اگلے سال مسلمان آپ ﷺ کے ہمراہ عمرۃ القضاء اداء کرنے کے لئے مکہ مکرمہ آئے، معاهدہ کے مطابق جب تین دن کی مدت گذر گئی تو کفار مکہ میں سے چند لوگ حضرت علی ﷺ کے پاس آئے۔

## صحابہ ﷺ کا جوش اور عبد اللہ بن رواحہ ﷺ کے اشعار

اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب آنحضرت ﷺ تشریف لائے تو معاهدہ تھا کہ اگلے سال بغیر تھیاروں کے آئیں گے اور عمرہ کریں گے، جب اگلے سال تشریف لائے تو احتیاطاً آپ ﷺ نے تھیار ساتھ رکھتے تھے، لیکن وہ باہر کی چھوڑ دیے اور مکہ مکرمہ میں صرف تواریں کے ساتھ داخل ہوئے۔

۵ اہ کتب بندھے حرقاً لعادة على سبيل المعجزة. عمدة الفاری، ج: ۷، ص: ۳۷۶ و فتح الباری، ج: ۷،

اس وقت میں بعض صحابہؓ کرامؓ نے خاص طور پر انصاری صحابہؓ کرامؓ نے ذرا خوش اور فخر کا مظاہرہ بھی کیا۔ حضرت عبد اللہ بن رواحدؓ نے یہ شعر پڑھے۔

لَدَ أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ لِيٰ تَنْزِيلَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَعَّلَ قُرْآنَ مِنْ يَكْرَمْ نَازِلَ كَيْاَهُ لَعْنَ لَعْنَاكُمْ عَلَىٰ تَأْوِيلَهُ بَهْرَيْنَ قُتْلَ وَهُكْمَ جَهَادِيَاَسَ كَحْكُمَ نَاهَ مَانِيَ كَيْجَسَ	خَلُوا بَنِي الْكَفَارِ عَنْ سَبِيلِهِ اَيْ كَافِرُوْنَ آپَ كَارَاسَةَ چَحُورُ دُوْ بَانِ خَيْرِ القَتْلِ لِيٰ سَبِيلَهُ بَهْرَيْنَ قُتْلَ وَهُكْمَ جَهَادِيَاَسَ كَحْكُمَ نَاهَ مَانِيَ كَيْجَسَ
--	--

ہم نے تم سے جہاد و تعالیٰ اس کے حکم کے مطابق کرتے ہیں  
اور نیکتی کی روایت میں اس کے بعد یہ زیادہ ہے۔

ضَرِبَ يَزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقْبِلِهِ آيَا مَارِيْسَ گَے کَتْهَارِيَ کَھُوْپُرِی سَرَسَ الْگَ ہُوْجَانَ بَارِبَ الْمَؤْمِنِ بَقِيلَهُ اَيَّ اللَّهِ! مِنْ اسَ كَوْلَ پَرِ اِيمَانَ رَكَّتَاهُونَ	الْيَوْمُ لَضَرِبَكُمْ عَلَىٰ تَنْزِيلَهُ آيَا مَارِيْسَ گَے کَتْهَارِيَ کَھُوْپُرِی سَرَسَ الْگَ ہُوْجَانَ وَيَدْهُلُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلْلِهِ اوَرْ دَوْسَتُ کَوْ دَوْسَتُ سَے بَخِيرَ بَنَادَے
---	--

اَنِي رَأَيْتُ الْحَقَّ فِي قَبْولِهِ مِنْ اسَ كَوْلَ کَرْنَے ہی کوْنَ سَجَّهَتَاهُونَ مُسْلِمَانُوْں کَا اس شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہونا، عبد اللہ بن رواحدؓ کا اشعار پڑھنا، کفار کو کائنے کی طرح کھٹک رہا تھا، لیکن مجبور تھے کہ معاهدہ کر چکے تھے۔ اس واسطے مجبوراً دیکھ رہے تھے اب یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ رک گئے تو پھر ہمارے لئے کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہواں واسطے حضرت علیؓ سے کہا کہ جلدی نکل جائیں۔ ۷	وَيَدْهُلُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلْلِهِ اوَرْ دَوْسَتُ کَوْ دَوْسَتُ سَے بَخِيرَ بَنَادَے وَيَدْهُلُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلْلِهِ اوَرْ دَوْسَتُ کَوْ دَوْسَتُ سَے بَخِيرَ بَنَادَے
--	--

حضرت حمزہؓ کی بیٹی کے ساتھ آنے کا واقعہ  
”الخرج البدی الخالخ“ آپؓ کا معاهدہ کے مطابق تین دن کے شہرنے کے بعد چلنے لگے

تو حضرت حمزہؑ کی چھوٹی بیٹی آپؑ کے ساتھ اے چچا! اے چچا! کہہ کر چھپے لگ گئی۔

حضورؑ حضرت حمزہؑ کو چچا کہا کرتے تھے تو وہ چچا کی بیٹی تھی لیکن یہاں وہ آپؑ کو چچا کہہ رہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے لوگ ہر بڑے کو چچا کہتے تھے تو بڑا ہونے کی ناطے انہوں نے یا مگی یا مگی کہا۔  
”فَتَأْوِلُهَا عَلَىٰ فَلَا خَدْ بِهِ مَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ الْخَ“ تو حضرت علیؑ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا  
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ لو یہ تمہاری چچا کی بیٹی ہے اس کو اپنے پاس رکھو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔

”فَلَا خَتْصَمْ عَلَىٰ الْخَ“ بعد میں جب مدینہ پہنچ گئے علی، جعفر اور زیدؑ کے درمیان اختلاف ہوا کہ کون ان کو اپنی تولیت میں لے؟

”قَالَ عَلِيٌّ: أَلَا أَخْلُدُهُمَا الْخَ“ حضرت علیؑ نے کہا میں نے ہی ان کو وہاں سے لیا اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔

”وَقَالَ جَعْفُرٌ: أَبْنَةُ عُمَى الْخَ“ اور حضرت جعفرؑ نے کہا کہ ایک تو میرے چچا کی بیٹی ہے اور دوسرا یہ کہ اس پنچی کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔

”وَقَالَ زَيْدٌ: أَبْنَةُ أَخِيٍّ“ حضرت زید بن حارثؑ نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، یہاں بھائی سے مراد اسلامی بھائی۔

”فَقُضِيَّ بِهَا النَّبِيُّ لِخَالَتِهَا الْخَ“ تو آنحضرتؑ نے خالہ کے حق میں فیصلہ فرمادیا اور فرمایا کہ خالہ ماں کے درجہ میں ہوتی ہے، اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا جو اس وقت حضرت جعفرؑ کے نکاح میں تھیں تو انکے حق میں فیصلہ کیا۔

”وَقَالَ لِعُلَيٌّ: إِنَّ مِنِي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ الْخَ“ جب پنچی حضرت جعفرؑ کی پروش میں چل گئی تو اب حضرت علیؑ سے بطور تسلی فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اور حضرت جعفرؑ سے کہا کہ تم صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہو اور حضرت زیدؑ سے فرمایا تم ہمارا بھائی اور ہمارے غلام ہو۔

”وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَا تَزْوُجْ بَنْتَ حُمَزَةَ الْخَ“ حضرت علیؑ نے آپؑ سے کہا کہ آپؑ حمزہ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس کے جواب میں آپؑ نے فرمایا کہ وہ رضاعت میں میری بیٹی ہے کیونکہ حضرت حمزہؑ، حضور اکرمؐ کے رضائی بھائی تھے، لہذا یہ رضاعی بھی ہو گئی تو اس لئے میرے لئے حلال نہیں ہے۔

۳۲۵۲ - حدیثی محمد - هو ابن رافع - : حدثنا سریح: حدثنا للیح ح وحدیثی

محمد بن الحسین بن ابراهیم: حدیثی ابی: حدثنا للیح بن سلیمان، عن نافع، عن ابن

عمر رضی اللہ عنہما: ان رسول اللہ ﷺ خرج معتمراً فحال کفار قریش بینہ و بین الہبیت، فلحر هدیہ و حلق رأسه بالحدیۃ و لاضاھم علی ان یعتمر العام المقبل، ولا یحمل سلاحاً علیہم الا سیوفاً، ولا یقیم بھا إلا ما أحبوها. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحہم. للما أن أقام بھا للاٹا أمر وہ أن یخرج لخرج. ۵

ترجمہ: حضرت نافع رحمہ اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عمرہ کے قصد سے چلے تو کفار قریش آپ کے بیت اللہ پنجنے سے آڑے آئے، تو آپ ﷺ نے حدیبیہ میں قربانی ذئع فرمائی، سر کے بال منڈوانے اور ان سے اس شرط پر صلح کر لی کہ آپ آئندہ سال عمرہ ادا کریں گے اور سوائے تکواروں کے کوئی ہتھیار نہ لائیں گے، کفار کی خواہش کے مطابق مکہ میں ٹھبریں گے، تو آپ نے آئندہ سال عمرہ ادا فرمایا اور مکہ میں صلح کے مطابق آپ داخل ہوئے، جب آپ تین دن وہاں ٹھبر چکے تو کفار نے آپ سے چلنے کو کہا تو آپ چلے گئے۔

۲۲۵۲ - حدثني عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة ثم قال: كم اعتمر النبي ﷺ؟ قال: أربعًا إحداهم في رجب. [راجع: ۱۷۷۵]

۲۲۵۳ - ثم سمعنا استنان عائشة . قال عروة : يا أم المؤمنين ، إلا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن ؟ إن النبي ﷺ اعتمر أربع عمر إحداهم في رجب ، فقالت : ما اعتمر النبي ﷺ عمرة إلا وهو شاهد ، وما اعتمر في رجب قط . [راجع: ۱۷۷۶]

ترجمہ: مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زیر مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت عبد اللہ بن عمر پھر رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے مجرہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، پھر عروہ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نے کتنے عمرے کئے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، چار جن میں سے ایک رجب میں کیا۔

ولى صحیح مسلم، کتاب الحج، باب بیان جواز التحلل بالاحصار وجواز القرآن، رقم: ۱۲۰۳، وسن النسائی، کتاب المناک الحج، باب اذا احل بالعمرۃ هل يحصل معها حجۃ، رقم: ۲۷۳۶، وباب لمین احصر بعد، رقم: ۲۷۵۹، وباب طواف القارن، رقم: ۲۹۳۳، وملطاط مالک، کتاب الحج، باب لحج عمر بحج عنه، رقم: ۹۹، وسن احمد، مسنون عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما، رقم: ۳۵۹۵، ۵۲۹۸، ۵۳۲۲، ۵۳۲۷، ۶۲۶۸، ۶۲۲۷، ۶۰۶۷، وسن الدارمی، کتاب المناک، باب فی المحصر بعد، رقم ۱۹۳۵

ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مساوک کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے کہا کہ اے ام المؤمنین! کیا آپ نے حضرت ابو عبد الرحمن کی بات نہیں سنی؟ کہ آپ ﷺ نے چار عمرے کے ہیں، جن میں سے ایک رجب میں کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی ﷺ نے جب بھی عمرہ کیا تو یہ اس میں موجود تھے، آپ ﷺ نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔

## رجب میں عمرہ

اس روایت میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زیر رضی اللہ عنہما مسجد نبوی ﷺ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مجرے کے پاس تشریف فرمائیں۔

تو حضرت عروہ بن زیر رضی اللہ عنہما نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ حضور ﷺ نے کتنے عمرے کے تھے؟ ”قال: أربعًا“ فرمایا کہ چار عمرے کے تھے۔ اور بعض تنوں میں اضافہ ہے کہ ”احدها هن لی درج“ ان میں نے ایک عمرہ رجب میں تھا، یہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا۔

”لَمْ سَمِعْنَا إِسْتِدَانَ عَالِيَّةَ“ اس کے بعد ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مساوک کرنے کی آواز پر دے کے چیخھے سنی تو عروہ بن زیر رضی اللہ عنہما نے کہا ”لَمْ أَمْرُمْنَا إِلَّا تَسْمَعَنَّ الْخَ“ اے ام المؤمنین! کیا آپ سن رہی ہیں کہ ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا کہہ رہے ہیں۔ ”إِنَّ النَّبِيَّ لَا يَأْتِي مَعَهُ الْخَ“ کرنی کریم ﷺ نے چار عمرے کے اور ان میں سے ایک رجب میں کیا تھا۔

”لَقَالَتْ: مَا أَعْتَمَرَ النَّبِيَّ لَا عُمْرَةَ الْخَ“ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے جو عمرہ بھی کیا ہے اس میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ضرور موجود ہوتے تھے، لہذا تقاضہ یہ ہے کہ ان کو بات صحیح یاد رہوئی، لیکن آپ ﷺ نے کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا یعنی اس معاملہ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو وہم ہو گیا ہے۔

۳۲۵۵ - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، سمع  
امن ابني اوفى يقول: لما اعتمر رسول الله ﷺ ستراه من غلمان المشركين ومنهم ان  
يلدوا رسول الله ﷺ. [راجع: ۱۶۰۰]

ترجمہ: اسماعیل بن ابی خالد روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن اوفی ﷺ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے عمرہ کیا تو ہم لوگوں نے آپ ﷺ کو مشرکین کے لذکوں اور ان سے چھاپا (یعنی ان کے

گر دیگر اذال لیا) تاکہ وہ آپ ﷺ کو کوئی تکلیف ناپہنچا سکیں۔

۲۲۵۶ - حدیثنا سلمان بن حرب: حدیثنا حمادهو ابن زید، عن أبوب ، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم رسول الله ﷺ وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم ولد وتهتم حمى بشرب. فامرهم النبي ﷺ أن يرميوا الأشواط الشلاة، وأن يمشوا ما بين الركبتين. ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرميوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وزاد ابن سلمة، عن أبوب ، عن سعیدبن جبیر، عن ابن عباس قال: لما قدم النبي ﷺ لعامة الذي استأمن قال: ((ارميوا، ليروا المشركون قوتكم)). والمشركون من قبل فعيقون. [راجع: ۱۶۰۲]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب ﷺ جب آئے تو مشرکین نے آپس میں کہا کہ تمہارے پاس وہ جماعت آرہی ہے، جس کو شرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں کو طواف کے پہلے تین چکروں میں اکڑ کر چلنے کا حکم دیا، اور دونوں رکنوں کے درمیان آہستہ چلنے کا اور تمام چکروں میں اکڑ کر چلنے کا حکم آپ ﷺ نے صرف مسلمانوں پر شفقت اور نرمی کرتے ہوئے نہیں دیا۔ ابن سلمہ، ابوب و سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں یہ زیادتی بھی ہے کہ جب نبی ﷺ صلح کے سال تشریف لائے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اکڑ کر چلو تاکہ مشرکین تمہاری کی قوت دیکھ لیں اور مشرکین کوہ قعیقون کی جانب سے دیکھا کرتے۔

## طواف کے دورانِ رمل کا حکم

جب رسول اللہ ﷺ عمرہ قضا کی غرض سے تشریف لائے اور ساتھ میں آپ کے صحابہ کرام ﷺ بھی تھے، تو مشرکین نے کہا کہ "القال المشركون: إنه يقدم الخ" تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کو شرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے یعنی جب یہاں سے گئے تھے تو صحت مند تھے وہاں جا کر شرب والوں کی طرح ہو کر کمزور ہو گئے ہیں۔

"وأمره النبي ﷺ أن يرميوا الأشواط الشلاة الخ" اس واسطے آپ ﷺ نے پہلے تین چکروں میں رمل یعنی اکڑ کر چلنے کا حکم دیا، اور دونوں رکنوں کے درمیان یعنی رکن یمانی اور رجمراسود کے درمیان چلنے کا حکم دیا کہ اس میں رمل نہ کریں۔

اس لئے کہ ان مشرکین کو دکھانا مقصود تھا جو طواف کرتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھا کرتے تھے، چنانچہ

رمل جبراوس سے شروع ہوتا ہے اور کن یمانی پر آکر ختم ہو جاتا ہے تو یہاں سے جب چلیں گے تو عام طریقے سے چلیں گے۔

”ولم یمنعه ان یامرهم ان یرملا الا هواط الخ“ اور یہ جو آپ ﷺ نے فرمایا کہ پہلے تمن چکروں میں رمل کرو، باقی سارے چکروں میں رمل کرنے کا حکم نہیں دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں پر شفقت تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سات چکروں میں رمل کرنے سے تھک جائیں اور زیادہ کمزور نظر آنے لگیں، تو اس واسطے تمن چکروں کا حکم دیا۔

”قال: لِمَا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَامِهِ الدَّى أَسْتَأْمِنُ الْخَ“ ابن سلمہ، ایوب اور سعید بن جبیر نے اس روایت میں زیادتی کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب نبی ﷺ صلح کے سال تشریف لائے یعنی جس سال آپ ﷺ امن طلب کر کے عمرۃ قضاۓ کے لئے رشیف لائے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اکڑ کر چلوتا کہ مشرکین تمہاری کی قوت دیکھ لیں۔

”وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قَبْلِ لِعِيقَانٍ“ مشرکین کوہ قعيغان کی جانب سے مسلمانوں کو دیکھا کرتے تھے، یہ قعيغان وہ پہاڑ ہے جو ابو قبیس کے مقابل ہے۔  
ابو قبیس جنوب میں ہے اور قعيغان شمال میں ہے اور وہیں پر دارالندوی تھا جہاں مشرکین مکہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ ۱

۳۲۵۷۔ حدثنا محمد، عن سفيان بن عبيدة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِلَمَا سَعَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرِيَ الْمُشْرِكِينَ قوتہ. [راجع: ۱۶۲۹]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بیت اللہ کے طواف میں اور صفا و مروہ کے درمیان کافروں کو اپنی قوت دکھانے کی غرض سے دوڑ رہے تھے۔

۳۲۵۸۔ حدثنا موسی بن إسماعيل: حدثنا وهب قال: حدثنا أیوب، عن عکرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي ﷺ میمولة وهو محرم، وبنی بها وهو حلال، ومات بسرف. [راجع: ۱۸۳۷]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت احرام میں نکاح کیا اور حلال ہونے کے بعد خطوت فرمائی اور حضرت میمونہ کا انتقال مقام سرف میں ہوا۔

٣٢٥٩ - قال أبو عبد الله و زاد ابن إسحاق : حدثني ابن أبي لجيج وأهان بن صالح، عن عطاء و مجاهد ، عن ابن عباس قال : تزوج النبي ﷺ ميمونة في عمرة القضاء . [ راجع : ۱۸۳۷ ]

ترجمہ: مجاہد رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت میں یہ زیادتی بھی ہے کہ بنی کرم ﷺ نے عمرہ قضا میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما سے نکاح کیا۔

## حالہ احرام میں نکاح

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما سے آپ ﷺ کا نکاح اس سفر یعنی عمرۃ القضاء میں ہوا تھا۔ اس کے پارے میں حضرت عبد اللہ بن علیؑ رضی اللہ عنہما فرماتا ہے ہیں کہ آپ نے نکاح کیا تھا جب کہ حالت احرام میں تھے اور بنا فرمایا جب کہ آپ حلال ہو گئے تھے۔ یہ حنفیہ کے مسلک کے عین مطابق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حالت احرام میں نکاح ہو سکتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما کا نکاح حالت احرام میں ہوا تھا۔ اس کی تفصیل کتاب الحج میں گذر چکی ہے۔

# بَابُ غَزْوَةِ مُؤْتَةٍ

و

بَعْثَ النَّبِيِّ ﷺ اسْمَاعِيلَ بْنَ زَيْدٍ

إِلَى الْحَرْقَاتِ مِنْ جَهِينَةٍ

## (۲۵) باب غزوة موتة من ارض الشام

غزوہ موتہ کا بیان، جو ملک شام میں ہے

## غزوہ موتہ کا پس منظر

امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت غزوہ موتہ کے متعلق احادیث ذکر فرمائے ہیں اور غزوہ موتہ بھی حضور اکرم ﷺ کے عہد مبارک کے بڑے اہم غزوات میں سے ہے۔

اس غزوہ کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف سلاطین اور امراء کے نام جو تبلیغی خطوط روائی فرمائے تھے، ان میں سے ایک مکتب گرامی آپ ﷺ نے بصرہ کے والی کے نام بھی بھیجا تھا۔ بصرہ اس زمانے میں شام کا ایک شہر تھا اور ایک وسیع و عریض خطے پر اس کا اطلاق ہوتا تھا، چنانچہ اس کے والی کو آپ ﷺ نے مکتب روائی فرمایا اور جن صحابی حضرت حارث بن عمیر ﷺ کو دے کر بھیجا تھا، قبل اس کے کوہ آپ ﷺ کا خط بصرہ کے والی کو پیش کرتے اس سے پہلے ہی عثمان کے سردار شرحبیل بن عمرو نے ان کو قید کر لیا اور قید کر کے بصرہ کے والی کے پاس بیچ دیا اور بصرہ کے والی نے ان کو قتل کر دیا۔

ایک تو صحابی رسول ﷺ کا قتل اور صحابی بھی وہ جو اپنی ہے، یہ بین الاقوامی قانون اس وقت سے چلا آ رہا ہے اور تمام مہذب قویں اس قانون کا احترام کرتی تھیں کہ اپنی کو بھی قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ اس بین الاقوامی قوانین اور رسم و رواج کے مطابق بدترین بد عہدی اور انسانیت سے گری ہوئی حرکت تھی اور یہ انتہائی پست قسم کا اعلان جنگ بھی سمجھا جاتا تھا۔

تمام کافر، مسلمان اور ہر قوم کے افراد اس معاہدہ کی پیروی کرتے تھے کہ جو شخص کوئی پیغام لے کر آیا ہے خواہ وہ دشمن ہی کا پیغام لے کر آیا ہو تو اس کو قتل کرنا کسی حالت میں جائز نہیں تھا یعنی غیرت مند قوم کا اپنی قتل کر دیا جائے تو وہ اس کو اپنے خلاف عملی طور پر یہ اعلان جنگ سمجھتی تھی۔

یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ ابھی مکہ مکرمہ بھی فتح نہیں ہوا تھا۔ جب نبی کریم ﷺ کو اطلاع ملی کہ آپ ﷺ کے اپنی کوشیدگی کیے تو آپ ﷺ کو صدمہ بھی ہوا اور ساتھ ہی آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی غیرت کے لئے بڑے چیزیں کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ اعلان جنگ ہے۔

اب اندازہ سمجھے کہ بصرہ کے حاکم یا شام، اور روم کی سلطنت اس وقت ایک بڑی پر پا اور بھی جاتی تھی جبکہ حضور اقدس ﷺ اور مسلمان طرح طرح کے مسائل کا شکار تھے، کفار مکہ مسلل مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے اور طرح طرح سے سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے۔

اس وقت اتنی بڑی طاقت سے مکر لینا اور اس وقت اتنی بڑی طاقت کا چیلنج قبول کر کے ایک نیا محاذ کھول دینا بظاہر برا مشکل معلوم ہوتا تھا، لیکن حضور ﷺ نے ان تمام مشکلات کے باوجود صحابہ کرام ﷺ کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک لشکر ترتیب دیا اور فرمایا کہ یہ واقعہ قبل برداشت نہیں ہے، لہذا جا کر ان کے اوپر حملہ کرو۔ چنانچہ تمنی ہزار صحابہ کرام ﷺ پر مشتمل لشکر تیار کیا گیا اور حضور اقدس ﷺ نے ان کو یہ ہدایت دی۔

## یکے بعد دیگرے تین امیروں کو مقرر کرنا

سب سے پہلے اپنے متینی زید بن حارثہ ﷺ کو امیر بنا�ا اور فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں، آپ ﷺ کے پچازاد بھائی اور حضرت علیؓ کے بڑے بھائی، تو جعفر بن ابی طالب ﷺ امیر ہوں گے اور جب جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں، تو عبد اللہ ابن رواحہ ﷺ امیر لشکر ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں، تو پھر مسلمان باہمی مشاورت سے جس کو چاہیں امیر بنالیں، گویا چوتھے امیر کا نام آپ ﷺ نے معین نہیں فرمایا۔

حضور اکرم ﷺ کا اس طرح یکے بعد دیگرے تین امیروں کو نامزد فرمانا ایک غیر معمولی بات تھی، اور اس میں بظاہر یہ اشارہ بھی تھا کہ یہ تینوں حضرات صحابہ کرام ﷺ اس معمر کے میں شہادت سے سرفراز ہوں۔

چنانچہ جس وقت حضور اقدس ﷺ یہ بات ارشاد فرمایا کہ لشکر کو روانہ کر رہے تھے تو ایک یہودی جو آپ کی یہ گفتگوں رہا تھا، اُس نے حضرت زید بن حارثہ ﷺ سے کہا کہ بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی نبی کسی لشکر کو ہم پر بھیجتے وقت یکے بعد دیگرے کئی آدمیوں کے بارے میں یہ کہ فلاں شخص شہید ہو گیا تو ایسا کرنا تو وہ ضرور شہید ہوتا تھا۔ لہذا اے زید! اگر محمد واقعی نبی ہیں تو تم اب واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ یہودی شاید یہ سمجھتا ہو گا کہ حضرت زید یہ سن کر خوف زده ہوں گے، لیکن حضرت زید بن حارثہ ﷺ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا کہ تو سن لو امیں گواہی دیتا ہوں کرو وہ سچ اور پاکباز نبی ہیں۔

مطلوب یہ کہ ہم تو اسی لئے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا ہے، نبی کریم ﷺ نے جب ایک طرح سے بشارت دی تو اس سے اعلیٰ بات کیا ہو گی کہ شہادت کا مرتبہ نصیب ہو۔

حضور اقدس ﷺ نے اپنے دست مبارک سے حضرت زید بن حارثہ رض کو جنہٗ اعنایت فرمایا اور تمدن ہزار صحابہ کرام رض پر مشتمل لشکر اس طرح مدینہ سے روانہ ہوا کہ حضور اقدس ﷺ بنفس نفس اور مدینہ طیبہ کے باشندوں کا ایک بڑا مجمع اسے الوداع کہنے کیلئے ہدیۃ الوداع تک آیا۔

جب لشکروں سے روانہ ہوا تو مجمع نے دعا دی:

”صَحِّكَمُ اللَّهُ وَدَفَعَ عَنْكُمْ، وَرَدَّكُمْ صَالِحِينَ عَالَمِينَ“

اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تم سے بلا میں ذور کرے، اللہ تمہیں صحیح سلامت کا میاب و کامران واپس لائے۔

اس موقع پر حضرت عبد اللہ بن رواحد رض نے یہ فقرہ سنا، وہ چونکہ ایک قادر الکلام شاعر آدمی تھے تو انہوں

نے یہ قصیدہ پڑھا۔

لکھنی اسأل الرحمن مدفورة  
و ضربة ذات فرغ تقدیف الزیدا

لیکن میں تو اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں  
اور تکوار کا ایسا خشم چاہتا ہوں جو خون کی جھاگ کو ابال دے

او طعنة بیدی حران مجہزة  
بحربۃ تنفذ الاحساء الكبداء

یا کسی حرانی شخص کے ہاتھوں نیزے کے کاری وار کا  
ایسے نیزے کے ذریعے جو آنتوں اور جگر سے پار ہو جائے

یا ارشد اللہ من غاز وقدر هدا  
حتی یقال اذا مروا على جدلى

یہاں تک کہ جب لوگ میری قبر کے سے گزریں تو کہیں اس غازی کو اللہ نے ہدایت دی تھی اور وہ ہدایت پا گیا

مفہوم یہ کہ تمہیں یہ دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سلامت واپس آئیں، ہمارا مقصد سلامت

واپس آنائیں ہے بلکہ ہمارا مطلوب یہ ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوں کہ ہمارا سارا جسم

اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکھی ہو اور اللہ کے راستے میں ہماری جان جائے۔ ۲

اس شام سے شوق شہادت کی امنگیں دل میں لئے ہوئے یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔

جب یہ حضرات روانہ ہو گئے، تو تمن ہزار صحابہ کرام رض کا لشکر تھا اور دوسری طرف سلطنتِ روم کی، عظیم

طااقت، و یہی عام حالات میں تو یہ ہوتا ہے کہ تمن ہزار کا لشکر کہیں آ رہا ہو تو تمن ہزار کے مقابلے میں پانچ ہزار یا

دس ہزار آدمی مقابلے کے لئے بھیج دیتے ہیں۔

لیکن جب مسلمان معان (معان بھی اردن میں ہے اور موئہ بھی اردن میں ہے۔ معان اب بھی اس کا نام معان سے مشہور ہے۔ ایک تو عمان ہے جو دارالحکومت ہے ایک معان ہے۔ اس وقت بھی اس کا نام معان (آج بھی اس کا نام معان ہے) کے مقام پر پہنچنے تو پہنچ چلا کہ ہر قل روم نے مقابلے کیلئے ایک لاکھ انسانوں کا لشکر بھیج دیا۔

ایک لاکھ تو ایک طرف اور جوان کے عرب قبائلی حیل (لخم، جذام، قین اور بہراء وغیرہ) تھے ان سے کہا تم بھی لشکر بھجو بعض روائیوں میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک لاکھ کا لشکر بھیج دیا، دونوں مل کر دو لاکھ کا لشکر بن گئے۔ دو لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں صرف تین ہزار صحابہ کرام تھے۔

### صحابہؓ کا مشورہ اور عبد اللہ بن رواحہؓ کی ولولہ انگیز تقریر

حضرات صحابہ کرامؓ کے درمیان آپس میں مشورہ ہوا کہ اس کی توقع تو نہیں تھی کہ دو لاکھ کا لشکر مقابلے کیلئے آجائے گا، یہ توقع لے کر گئے تھے کہ جھڑپ ہو گی تو مقابلے میں پانچ ہزار ہوں گے یاد ہزار یا چھپیں ہزار ہوں گے لیکن اس صورت کا نہ ہمیں پتہ تھا اور نہ رسول کریمؐ کو پتہ تھا۔

لہذا یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریمؐ کو اس واقعے کی اطلاع دی جائے اور آپ سے ہدایات حاصل کی جائیں کہ آیا اب بھی ہم مقابلہ جاری رکھیں یا یہ کہ واپس آجائیں اور مزید کمک منگوائیں؟ کیا صورت اختیار کریں؟

اس موقع پر حضرت عبد اللہ بن رواحہؓ نے بڑی جان بازی والی تقریر کی فرمائی:

اے قوم! جس چیز سے تم اس وقت گھبرانے لگے ہو، خدا کی قسم! یہ وہی

چیز ہے جس کی طلب میں تم طلب سے لکھے تھے، اور وہ ہے شہادت!

یاد رکھو کہ ہم نے جب بھی کوئی جنگ لڑی ہے نہ تو کثرت تعداد کی بنیاد

پر لڑی ہے، اور نہ تھیاروں اور گھوڑوں کی بنیاد پر، میں بدر میں شریک

تھا تو خدا کی قسم اہمارے پاس صرف دو گھوڑے تھے، میں احمد میں شامل

تھا تو ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا۔

ہاں ہم نے جس بنیاد پر ہمیشہ جنگ لڑی ہے وہ ہمارا دین ہے جس

کا اعزاز اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لمبا میں تم سے درخواست کرتا

ہوں کہ آگے بڑھو، دو سعادتوں میں سے ایک سعادت یقیناً تمہارا مقدر ہے، یا تو تم دشمن پر غالب آجائے گے، اور اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ وعدہ پورا ہو گا جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یا پھر تم شہید ہو کر جنت کے باغات میں اپنے بھائیوں سے جاملو گے۔ ۷

بس پھر کیا تھا؟ تمام صحابہ کرام رض شوقی شہادت سے مر شار ہو کر جہاد کے لئے کربستہ ہو گئے، لشکر معان سے روانہ ہو کر پہلے مشارف اور پھر موتہ میں مقیم ہوا، اور پھر موتہ ہی کے اس میدان میں یہ زبردست معرکہ پیش آیا اور دونوں لشکر مقابل ہو کر عجتمن کھا ہوئے۔

جنگ کے دوران پہلے حضرت زید بن حارثہ رض شہید ہوئے تو آنحضرت صل ہدایت کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب رض نے جھنڈا سنجا لالا۔ گھسان کے رن میں چاروں طرف سے نیزوں اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی، حضرت جعفر بن ابی طالب رض کیلئے گھوڑے پر بیٹھنا مشکل ہو گیا، نتیجہ یہ کہ وہ گھوڑے سے اُتر پڑے اور پیدل دشمن کی صفوں میں گھس گئے، کسی نے وار کیا تو دایاں ہاتھ جس میں پرچم سنجا لالا ہوا تھا، کٹ کر گر گیا، حضرت جعفر رض نے باسیں ہاتھ میں لے لیا، کسی نے اس ہاتھ پر بھی دار کیا، اب دونوں ہاتھ کٹ گئے، مگر حضرت جعفر رض کو جیتنے تھی اس پرچم کو چھوڑنا گوارا نہ تھا، انہوں اُسے کٹے ہوئے بازوؤں میں دبا کر دو کرنے کی کوشش کی تیکن تیرے دارے انہیں اپنی منزل تک پہنچا دیا۔

آگے اسی باب میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ شہادت کے بعد جب میں نے ان کی نعش مبارک دیکھی گئی تو ان کے جسم پر نیزے اور تکواروں کے پچاس زخم شمار کئے گئے، جن میں سے کوئی ان کی پشت پر نہیں تھا۔ ۸

آنحضرت صل کی بیان فرمودہ ترتیب کے مطابق اب حضرت عبد اللہ بن رواحد رض کی باری تھی انہوں نے پرچم اٹھایا اور دشمن کی طرف بڑھنے لگے، کیونکہ کئی دن سے بھوکے تھے، اس لئے چہرے پر شاید بھوک کی نقاہت کے آثار نمایاں ہوں گے، تو ان کے چیخاڑا بھائی نے دیکھا ان کے چہرے پر بھوک کے اور کمزوری کے آثار ہیں تو گوشت کی چند بوٹیاں کہیں سے لا کر ان کے سامنے پیش کیں کہ ان دنوں میں آپ نے بہت محنت اٹھائی ہے، یہ کھا لجئے، تاکہ کم از کم اپنی پیٹھ سیدھی رکھ سکیں۔

۷ کتاب المغازی للوالدی، ج: ۲، ص: ۶۰ و سیرت ابن هشام: ذکر غزوة موتہ، ج: ۲، ص: ۲۷۵

۸ صحیح البخاری: کتاب المغازی، رقم: ۲۲۶۰

حضرت عبد اللہ بن رواحہ رض نے گوشت ان کے ہاتھ سے لیکر کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ایک گوشے سے مسلمانوں پر شدید ہے کی آواز سنائی دی، حضرت عبد اللہ بن رواحہ رض نے اپنے آپ سے خطاب کر کے فرمایا کہ اس حالت میں تم دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہو؟ یہ کہہ کر گوشت چھوڑ دیا، تکوار اٹھائی، اور دشمن کے لشکر میں جا گئے اور وہیں لڑتے لڑتے جانِ جاں آفریں کے پرورد کر دی۔ ۵

ان عینوں حضرات کی شہادت کے بعد کسی کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز نہیں فرمایا تھا، بلکہ اسے مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیا تھا۔

چنانچہ حضرت ثابت بن اقرم رض نے زمین سے جھنڈا تو اٹھایا، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں سے کہا کہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ، لوگوں نے کہا کہ بس آپ ہی امیر بن جائیے، لیکن ثابت بن اقرم رض اس پر راضی نہ ہوئے۔

بالآخر مسلمانوں نے اتفاقی رائے سے حضرت خالد بن ولید رض کو لشکر کا امیر مقرر کر لیا، حضرت ثابت بن اقرم رض نے پرچم ان کے حوالے کر دیا، حضرت خالد بن ولید رض بے جگری سے لڑے اور اس روز ان کے ہاتھ میں نو تکواریں ٹوٹیں، بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور حضرت خالد بن ولید رض مسلمانوں کے لشکر کو بحفاظت واپس لانے میں کامیاب ہوئے۔ ۶

اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں بعض میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح دی، دشمن بھاگ گیا، بعض روایتوں میں ہے کہ فتح یہ تھی کہ حضرت خالد رض باقی مسلمانوں کو بحفاظت واپس لانے میں کامیاب ہو گئے اور یہی زیادہ راجح ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی سے مسلمانوں کو واپس لے آئے، ورنہ سارے مسلمان شہید ہو جاتے۔

اُدھرم دینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ کے حالات سے بے خبر نہ تھے، ابھی شام سے کوئی اپنی جنگ کی خبر لے کر نہیں آیا تھا، لیکن یہ خبریں بذریعہ وحی مل رہی تھیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام رض کو بتایا کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، پھر جعفر ابن ابی طالب بھی شہید ہو گئے ہیں، پھر عبد اللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو بھرا آئے، پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تکواروں میں سے ایک تکوار (حضرت خالد بن ولید رض) نے اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح سے نوازا۔ ۷

جب آپ ﷺ کو جعفر بن ابی طالب ﷺ کی شہادت کی ملی تو فوراً حضرت جعفر ﷺ کے گھر تشریف لے گئے، ان کی اہمیت حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا تھیں وہاں جا کر آپ نے فوراً ناگہانی اطلاع دینے کو مناسب نہ سمجھا اور حضرت جعفر ﷺ کے بچوں کو بلا کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور اس آپ کی آنکھیں ڈبڈ بارہی تھیں۔

حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ روکیوں رہے ہیں؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! اللہ تعالیٰ نے جعفر کو شہادت کا مقام عطا فرمایا ہے۔

حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میری چیخ نکل گئی، عورتیں میرے پاس جمع ہونے لگیں۔ آنحضرت ﷺ باہر تشریف لے گئے اور پھر آپ ﷺ نے گھر جا کر فرمایا کہ جعفر ﷺ کے گھر والوں کیلئے کھانا بنا کر صحیح دو۔

آنحضرت ﷺ اسی موقع پر یہ بشارت بھی دی کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر ﷺ کو ان کے ہاتھوں کے بد لے دو ایسے بازو عطا فرمائے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہیں اڑ کر چلے جاتے ہیں، اسی وجہ سے حضرت جعفر ﷺ کا لقب "طیار" اٹھنے والا مشہور ہو گیا۔ ۵

ان تینوں حضرات صحابہؓ کرام ﷺ کے مزارات آج بھی موجود ہیں اور میں خود وہاں حاضر ہوا ہوں اور موئیت کے میدان میں ان کے لئے بہت لمبا چوڑا سفر کیا ہے، کیونکہ کہ عمان سے موئیت کا فاصلہ طویل اور دشوار گزار ہے لیکن شوق تھا تو الحمد للہ حاضری ہوئی۔ جہاں صحابہؓ کرام ﷺ نے اپنے مقدس خون سے جانبازی و نداکاری کی یہ تاریخ لکھی تھی۔

تصور کی نگاہیں اس میدان کے مختلف گوشوں میں اس معزکہ رست و خیز کے مختلف مناظر دیکھتی رہیں جس نے ان حضرات صحابہؓ کرام ﷺ کو فرشتوں سے بھی بلند مقام عطا فرمایا، ابھی ذہن تصورات میں گم تھا کہ اس میدان کے مقامی مجاور نے ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ حضرت زید بن حارث ﷺ کا مقامِ شہادت ہے، یہاں چند فٹ اونچا ایک پتھروں کا بننا ہوا ستون نصب تھا اور اس پر دھند لے لہریوں میں لکھی ہوئی یہ عبارت پڑھی جاسکتی تھی کہ "هنا استشهد زيد بن حارث" حضرت زید بن حارث ﷺ اس مقام پر شہید ہوئے۔

اسی سے کچھ فاصلے پر حضرت عبد اللہ بن رواحد ﷺ کا مقامِ شہادت بیان کیا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی اسی قسم کا ایک ستون کھڑا تھا۔ مجاور نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہاں سے جنوب میں تقریباً ایک کیلومیٹر کے فاصلے پر میدان کے پیچوں نجع ایک جگہ ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت جعفر طیار ﷺ وہاں

شہید ہوئے تھے۔ اس جگہ ایک زیر زمین سرگ سی بھی بنی ہوئی ہے اور مجاور کے کہنے کے مطابق کسی زمانے میں یہاں یہ بات مشہور تھی کہ اس سرگ سے خوبی آتی ہے، کوئی شخص جب اس کی تحقیق کے لئے اندر داخل ہوا پھر کبھی واپس نہ آیا۔ اس میدان سے کافی فاصلے پر ایک "مراز" نامی بستی واقع ہے اسی میں ان تین حضرات کے مزارات ہیں اور باتی صحابہ کرام کے بھی، جو وہاں شہید ہوئے۔<sup>۹</sup>

یہ غزوہ مودہ میں پیش آنے والے حالات و واقعات کا خلاصہ ہے اور اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایات نقل کی ہیں۔

۳۲۶۰ - حدثنا احمد: حدثنا ابن وهب، عن عمرو، عن ابن أبي هلال قال:  
وأخبرنى نافع أن عمر أخبره: أنه ولف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت به خمسين  
بین طعنہ وضربة، ليس منها شيء في ذبیر، يعني في ظهره. [انظر: ۳۲۶۱]  
ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے بیان کیا کہ میں جعفر رض کی شہادت کے بعد اس روز اسکے پاس کھڑا ہوا تو میں نے ان کے جسم پر نیزہ اور تکوار کے پچاس نشان دیکھے، ان میں سے کوئی بھی زخم ان کی پشت پر نہیں تھا۔

## حضرت جعفر رض کے جسم پر زخم

یہ لمبی حدیث ہے، یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے مختصر ذکر کی ہے، اس کا صرف اتنا حصہ روایت کر دیا حالانکہ اس میں مودہ کے لفظ کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری روایتوں میں آیا ہے۔  
روایت میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اس دن یعنی غزوہ مودہ کے دن حضرت جعفر رض کے پاس کھڑا ہوا "وهو قتيل" جب کہ وہ شہید ہو چکے تھے۔

"فعددت به خمسين الخ" ان کے جسم پر پچاس نشان زخم کے پائے ان میں سے بعض طعن یعنی نیزے کے تھے اور بعض ضرب یعنی تکوار کے تھے۔ "ليس منها شيء في ذبیر" ایک بھی زخم پشت پر نہیں تھا سارے زخم یعنی پریا سامنے کے جسم پر تھے، جس کا مطلب ہے کہ کسی مرحلے پر بھی پشت نہیں دکھائی۔

۹۔ صحیح البخاری: کتاب المغاری، رقم: ۳۲۶۰۔ ۳۲۶۵۔ ۳۲۶۶۔ ۳۲۶۷۔

۱۰۔ سہرت ابن هشام: ذکر غزوۃ مودہ، ج: ۲، ص: ۳۸۱۔ ۳۸۰۔ ۳۷۹۔ و کتاب المغاری للوالدی، ج: ۲،

ص: ۲۵۵، سترہام: جہاں دیروہ، جس: ۲۲۵۶۲۲۸، بطبع کتب معارف القرآن، کراچی

۳۲۶۱۔ اخیر لا احمد بن ابی بکر: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن سعید، عن صالح، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله ﷺ لى غزوة موله زيد بن حارثة فقال رسول الله ﷺ: ((إن قتل زيد لجعفر، وإن قتل جعفر لعبد الله بن رواحة)). قال عبد الله: كنت لهم لى تلك الغزوة فالتمسنا جعفر ابن ابی طالب فوجدها لى القتل ووجدها ما لى جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية . [راجع: ۳۲۶۰]

ترجمہ: حضرت صالح رحمہ اللہ، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ موتہ میں زید بن حارثہ کو پہ سالار بنیا، پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر سالار جعفر ﷺ ہیں اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبد اللہ بن رواحہ ﷺ ہیں، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اس غزوہ میں شریک تھا، ہم نے حضرت جعفر ﷺ کو تلاش کیا تو وہ شہداء میں ملے، اور ہم نے ان کے جسم پر نوے سے کچھ اوپر تیر اور نیزہ کے زخم پائے۔

## تعارض اور اس کا جواب

اس روایت میں نوے سے اوپر زخم شمار کئے ہیں، جبکہ پچھلی روایت میں پچاس زخم کا ذکر کیا تھا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات شمار میں بھی فرق ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے صرف سامنے کے بتائے ہیں اور انہوں نے کروٹ وغیرہ کے بھی شمار کئے ہوں گے، بہر حال اس طرح دونوں روایتوں میں کوئی وجہ تعارض باقی نہیں رہے گی۔

۳۲۶۲۔ حدثنا احمد بن صالح حدثنا حماد بن زید عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس ﷺ أن النبي ﷺ لعى زيد و جعفرا و ابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الرایة زید فاصب ثم أخذ جعفر فاصب ثم أخذ ابن رواحة فاصب وعيشه تدرفان حتى أخذ الرایة سيف من سیوف الله حتى لقع الله عليهم . [راجع: ۱۲۳۶]

ترجمہ: حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے زید، جعفر اور ابن رواحہ ﷺ کی شہادت کی خبر لوگوں کو سنائی حالانکہ ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں آئی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ زید نے جھنڈا سنجا لانا، وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے سنجا لاتو وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبد اللہ بن رواحہ نے سنجا لاتو وہ بھی شہید ہو گئے، آپ ﷺ کی آنکھوں سے یہ کہتے وقت آنسو جاری تھے، یہاں تک کہ اللہ کی ایک تکوار (حضرت خالد بن ولید ﷺ) نے جھنڈا سنجا لاتھی کہ اللہ نے ان پر فتح عنایت فرمائی۔

۲۲۶۳ - حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل ابن حارثة وعمر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله ﷺ يعرف فيه الحزن، قالت عائشة: وأنا أطلع من صادر الباب، تعنى من شق الباب، فأتاه رجل فقال: أى رسول الله، إن لسأء جعفر قال، فذكر بكاء هن فامرها أن ينهاهن، قال: فذهب الرجل لم أتى لقال: اللهم بيتهم وذكر آله لم يطعنك، قال: فامر ايضاً للذهب لم أتى لقال: والله لقد غلبنا لزعمت أن رسول الله ﷺ قال: ((الباحث في المواجه من التراب))، قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما ألت فعل وما تركت رسول الله ﷺ من العناء.

[راجع: ۱۲۹۹]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبد اللہ بن رواحہؑ کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ ﷺ تشریف فرماتھے اور آپ ﷺ پر گم کے آثار پائے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دروازہ کی جھریلوں میں سے دیکھ رہی تھی، ایک آدمی آیا، اور اس نے کہا۔ اللہ کے رسول! جعفر کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا انہیں رونے سے منع کر دیں، وہ شخص گیا، پھر آکر کہا کہ میں نے انہیں منع کیا، مگر وہ مانتی ہی نہیں، آپ ﷺ نے پھر منع کرنے کا حکم دیا، وہ گیا اور پھر آکر کہنے لگا، اللہ کی قسم! ہم پر غالب آگئی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، پھر ان کا منہ مٹی سے بھردے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے اس سے کہا اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے تو نہ قودہ کر سکتا ہے اور نہ رسول اللہ ﷺ کا پیچھا چھوڑتا ہے۔

## نوحہ کرنے سے ممانعت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر اور حضرت عبد اللہ بن رواحہؑ کے قتل کی خبر آئی تو "جلس رسول الله ﷺ يعرف الخ" رسول اللہ ﷺ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر حزن کے آثار واضح تھے اور پہچانے جا رہے تھے۔

"وَأَنَا أَطْلُعُ مِنْ صَادِرِ الْبَابِ الْخَ" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دروازے کی دراز سے جما کم رہی تو ایک شخص آیا، "إن لسأء جعفر قال، فذكر بكاء هن الخ" اس شخص نے آکر

عرض کیا یا رسول اللہ! جعفر کی خواتین رورہی ہیں، تو آپ ﷺ نے حکم فرمایا کہ ان کو جا کر منع کرو، تو وہ شخص گیا اور پھر واپس آیا۔

”فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذِكْرَ اللَّهِ لَمْ يَطْعُنْهُ“ اور عرض کیا کہ میں نے ان کو روک دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے بات نہیں مانی اور مسلسل رورہی ہیں، تو آپ ﷺ نے دوبارہ حکم فرمایا کہ جاؤ اور ان کو جا کر دنے (نوحہ کرنے) سے منع کرو۔

چنانچہ وہ شخص پھر گیا اور واپس آیا اور آکر نبی کریم ﷺ سے کہا کہ ”وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَا“ اللہ کی قسم! وہ تو ہم پر غالب آگئیں یعنی ہمارے منع کرنے کے باوجود نہیں مان رہیں اور مسلسل روئے جا رہی ہیں۔

”فَزَعَمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَاحْثُلْ فِي الْوَاهِنِينَ مِنَ التَّرَابِ“ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پھر ان کامنہ مٹی سے بھردے۔ یعنی یہ زجر کے طور پر فرمایا اور زجر میں مبالغہ فرمایا۔

تو اب زجر کرنے کامنہ ایضاً بظاہر یہ تھا کہ شدت غم کی وجہ سے رونا اگر غیر اختیاری ہو تو راجح قول کی بنا پر وہ خواہ آواز سے ہو یا بغیر آواز سے ہو دنوں جائز ہیں، بشرطیکہ غیر اختیاری ہو۔

لیکن جو چیز منوع ہے وہ بین یعنی نوحہ کرنا جس میں بلند آواز میں رویا جائے اور ساتھ ساتھ اس میت کے اوصاف وغیرہ بھی بیان کئے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں کثرت کے ساتھ بین کرنے کی ایک عادت پڑی ہوئی تھی۔ شاید بین کی صورت تھی جس کی وجہ سے حضورقدس ﷺ نے یہ مبالغہ فی الزجر فرمایا۔ ۲۲۶۳

۲۲۶۳ - حدیثی محمد بن ابی بکر، حدیثنا عمر بن علی عن اسماعیل بن ابی خالد عامر قال: کان ابن عمر اذا حیا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذی العناحین.

[راجح: ۳۷۰۹]

إِنَّ ذَلِكَ امَالَانَهُ لَمْ يَصْرِحْ لَهُنَّ بِنَهْيِ الشَّارِعِ عَنِ ذَلِكَ لِلْحَمْلِ أَمْرُهُ عَلَى أَنْ يَحْتَمِلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ قَبْلِ النَّفَسِ، أَوْ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى التَّزْرِيرِ لِتَعَادِينَ عَلَى مَا هُنَّ فِيهِ، أَوْ لِأَنَّهُنَّ لِشَدَّةِ الْمُصِيبةِ لَمْ يَقْدِرُنَّ عَلَى تَرْكِ الْبَكَاءِ، وَالَّذِي يَظْهَرُهُنَّ النَّهْيُ الْمَاوِلُعُ عَنِ الْدَّرَازِ إِذَا عَلِيَ مَحْضُ الْبَكَاءِ كَالنَّوْحِ وَلِنَحْوِ ذَلِكَ، لِلذَّلِكَ أَمْرُ الرَّجُلِ بِعَكْرَارِ النَّهْيِ، وَاسْتَبْعَدَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الصَّحَابِيَّاتِ لَا يَتَعَادِينَ بَعْدَ تَكْرَارِ النَّهْيِ عَلَى أَمْرِ مُحْرَمٍ، وَلِعَلَيْهِنَّ تَرْكُنُ النَّوْحِ وَلَمْ يَتَرْكُنِ الْبَكَاءُ، وَكَانَ عَرْضُ الرَّجُلِ حَسْمُ الْمَعَادِ وَلَمْ يَطْعُنْهُ، لَكِنْ قَوْلُهُ: ((فَاحْثُلْ فِي الْوَاهِنِينَ مِنَ التَّرَابِ))، بَدَلَ عَلَى أَنَّهُنَّ تَعَادِينَ عَلَى الْأَمْرِ الْمُمْنَوعِ.

ترجمہ: اسماعیل بن ابو خالد عامر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حضرت جعفرؑ کے بیٹے کو سلام کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اے دو پروں والے کے بیٹے تم پر سلام ہو۔

۳۲۶۵ - حدیثنا ابو نعیم حدیثنا سفیان عن اسماعیل عن قیس بن أبي حازم قال:

سمعت خالد بن الولید يقول: لقد القطعت لى يدي يوم موتة تسعة أسياف لما

يقى لى يدى الصفيحة يمالية. [الظر: ۳۲۶۶]

ترجمہ: سفیان بن عینہ روایت کرتے ہیں کہ قیس بن ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولیدؑ سے سنا کہ وہ فرمائے تھے کہ غزوہ موتہ روز میں میرے ہاتھ میں نو تکواریں نو تھیں، صرف چوڑے پھل والی یعنی تکوار میرے ہاتھ میں باقی رہ گئی تھی۔

۳۲۶۶ - حدیثی محمد بن المثنی حدیثنا یحیی عن اسماعیل قال: حدیثی قیس،

قال: سمعت خالد بن الولید يقول : لقد دق لى يدى يوم موتة تسعة أسياف وصبرت لى

يدى صفيحة لى يمالية. [راجع: ۳۲۶۵]

۳۲۶۷ - حدیثی عمران بن ميسرة: حدیثنا محمد بن فضیل، عن حصین، عن عامر، عن

النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال: أغمى على عبد الله بن رواحة لجعلت أخذه عمرة تبکی: واجلاه، واکدا، واکدا، تعدد عليه. لقال حين ألاق: ما قلت شيئاً إلا قيل لى: أنت

کدلک؟. [الظر: ۳۲۶۸] ل

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن رواحةؓ ایک دن بیویش ہو گئے، تو ان کی بہن ہائے پہاڑ جیسا بھائی، ہائے، ہائے کرتے یعنی انکے اوصاف گن گن کرو نے لگیں۔ جب انہیں ہوش آیا تو بہن سے کہا کہ تم جو جوبات کہتیں تو مجھ سے پوچھا جاتا، کیا تو ایسا ہی ہے۔

## نوحہ اور بین کرنے پر عذاب

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبد اللہ بن رواحةؓ پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ یہ واقعہ غزوہ موتہ سے پہلے کا ہے، پہلے کسی وقت یکار ہوئے تو ان پر غشی طاری ہو گئی۔

ان کی بہن عمرہ بنت رواحد رضی اللہ عنہا، جو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سوتیلی ماں تھیں، یہ کہہ کر ”واجبلاہ واسیدا واکدا واکدا“ رونے لگیں، ”تعدد علیہ“ یعنی آہ و بکاء کے ساتھ ساتھ ان کے اوصاف و مناقب بھی گن گن کر بیان کرنے لگیں کہ میرا بھائی ایسا تھا ویسا تھا۔

جبیسا کہ زمانہ جامیت میں اہل عرب کا ہاں میت کے سر ہانے بیٹھ کر نوحہ کرنے کا طریقہ تھا۔

”فقال حمین الفاق: ما فلت شيئاً ألغَّ“ جب حضرت عبد اللہ بن رواحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا کہ جتنی دفعہ تم نے یہ بات کہتی تھیں ”واسیدا - واجبلا“ جب بھی تم یہ بات کہتی تھیں تو مجھ سے کہا جاتا تھا کہ کیا تم ایسے ہی ہو؟ یعنی میں جس وقت حالت غشی میں تھا مجھ سے پوچھا جاتا تھا۔ دوسری روایت میں تفصیل آئی ہے کہ فرشتہ ہاتھ میں گرز لئے ہوئے مجھ سے کہتا تھا االت کد ۹۱ کیا تم ایسے ہی ہو جیسے یہ کہہ رہی ہے۔ معلوم ہوا اس طرح کے اوصاف جو مبالغہ آمیزی پر مشتمل ہوں اور مین کرنے کے طور پر استعمال کے جائیں تو بعض اوقات یہ الفاظ مردے کے لئے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ کیا تم ایسے ہی تھے جیسا کہ یہ لوگ تمہارے اوصاف بیان کر رہے ہیں؟

اور یہی معنی ہے ان تمام احادیث کا جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ لوگوں کے رونے اور مین کرنے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ بحث پہلے تفصیل سے آپ حضرات پڑھ پکے ہیں۔ ۲۲

۳۲۶۸ - حدیث الفاتیۃ، حدیث النعما، عن حصین، عن الشعبي، عن النعمان بن

بشير، قال أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا للعما مات لم يبك عليه. [راجع: ۳۲۶۷]  
ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن رواحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر وہی بیان کیا جو سابقہ حدیث میں ذکر کیا، چنانچہ جب غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تو ان کی بہن اس وقت نہیں روئیں۔

## (۳۶) باب : بعث النبي ﷺ أسامه بن زيد إلى الحرقات من

جهينة

نبی کریم ﷺ کا حضرت اسامہ بن زید ﷺ کو قبیلہ جہینہ کی قوم حرقات کی طرف سمجھنے کا بیان

امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں ان روایات کو بیان کر رہے ہیں، جن میں نبی کریم ﷺ کا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حرقات کی طرف سمجھنے کا ذکر ہے۔

”حرقات“ حاء کے ضمہ، راء اور قاف کے فتح کے ساتھ، بکن میں ایک جگہ کا نام ہے اور جمیش بن عامر بن ثعلبہ نامی شخص کی طرف منسوب ہے جس کا لقب حرقة تھا۔

لقب اس وجہ سے پڑا تھا کہ اس نے ایک مرتبہ اپنے مخالفین کو زندہ جلا دیا تھا، اس لئے اس کا نام حرقة پڑ گیا۔ یہ شخص بستی میں رہتا تھا اس بستی کو لوگوں نے ”حرقات“ کہنا شروع کر دیا تھا اور یہ حرقة کی بستیاں قبیلہ جہینہ سے تعلق رکھتی تھیں۔

حرقات کے جو لوگ تھے ان پر نبی کریم ﷺ نے ایک سریہ بھیجا کر وہ سریہ ان کے خلاف جا کر کارروائی کرے، اس کی تفصیل روایات میں نہیں آئی کہ اس سریہ کو سمجھنے کا کیا سبب ہوا تھا لیکن اتنا مذکور ہے کہ حضور اللہ عزوجل نے ان کے پاس سریہ بھیجا اور اس سریہ کا واقعہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ ۲۹

۳۲۶۹ - حدثني عمرو بن محمد: حدثنا هشيم: أخبرنا أبو ظبيان قال: سمعت أسامه بن زيد رضي الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله ﷺ إلى الحرقة لصبعنا القوم فهز مناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصارى لطعنته برمحى حتى قتله. فلما قدمنا ببلغ النبي ﷺ فقال: ((يا أسامه، أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله)) قلت: كان متعددا، لما زال يكررها حتى لعننت ألى لم

اکن اسلمت قبل ذلک الیوم۔ [الظر: ۲۸۷۲] مکمل

ترجمہ: ابوظبیان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حرقة کی جانب بھیجا، ہم نے صحیح کو اس قوم پر حملہ کر کے انہیں فکست دیدی، میں اور ایک انصاری اس قوم کے ایک آدمی کے پیچے لگ گئے، جب ہم نے اسے گھیر لیا تو اس نے کہا "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" اس انصاری نے توہا تھروک لیا، مگر میں نے نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا، جب ہم واپس آئے تو نبی ﷺ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا اے اسامہ اتم نے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا۔ میں نے عرض کیا اس نے جان بچانے کے لئے کہا تھا، مگر آپ ﷺ برابر یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش آج سے پہلے میں اسلام نہ لایا ہوتا۔

## زبان سے کہہ بھی دیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو بھی قتل کیا؟

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی روایت لقل کی ہے۔

"بعثت رسول اللہ ﷺ إلی الحرقۃ النخ" حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حرقة کی جانب بھیجا تو ہم صحیح کے وقت میں ان لوگوں کے پاس پہنچے، ہم نے اس قوم پر حملہ کر کے انہیں فکست دیدی۔

"ولعقت ادا و رجل النخ" حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس دوران میں اور ایک انصاری صحابی اس قوم کے ایک شخص کے پیچے لگ گئے یعنی کوئی بھاگ رہا ہو گا تو یہ اس کے پیچے لگ گئے، اس کا تعاقب کیا۔

"للّمَا لَعْنَاهُ النَّخ" جب ہم بالکل اس کے سر پر ہی چکن گئے تو اس نے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" پڑھ لیا، تو انصاری صحابی تو رک گئے کہ اس نے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" پڑھ لیا ہے اب اس کو نہیں مارنا چاہئے۔

"الطعنَةُ بِرَمْحَى حَتَّى تُلْعَنَهُ" لیکن میں نے باوجود اس کے کلمہ پڑھنے کے اس شخص کو اپنا نیزہ

۰ مکمل مسیحی مسلم، کتاب الایمان، باب تحریم قتل الکافر بعد ان لال لال لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، رقم: ۹۶، وسن ابن داود،

کتاب الجهاد، باب علی ما یقال المسنون، رقم: ۲۲۳، مسند احمد، حدیث اسامہ بن زید جب رسول اللہ ﷺ

پھر بھی مار دیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دا۔

”لِمَا لَدُنْنَا أَخْ“ جب ہم اس سری سے واپس مدینہ منورہ آئے تو حضور اقدس ﷺ کو اس آدمی کے قتل کے واقعہ کی اطلاع ہوئی۔

”لَقَالَ يَا أَسَّا مَاتَتْهُ بَعْدَ مَا أَخْ“ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے کے بعد بھی تم نے اس شخص کو قتل کر دا۔

”قَلْتَ كَانَ مَتَعْوِذًا أَخْ“ میں نے کہا کہ وہ محض پناہ مانگنے والا تھا اور اپنی جان بچانے کیلئے ایسا کر رہا تھا، مطلب یہ کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن اپنی جان بچانے کی خاطر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہہ دیا تھا۔ ”لِمَا زَالَ يَكْرُرُهَا“ لیکن آپ ﷺ اسی جملے کا بار بار تکرار فرماتے رہے کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے کے بعد بھی تم نے اس شخص کو قتل کر دا۔

بعض روایتوں میں اس طرح آیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ ”إِلَّا هُنَّتْفَتْ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقْالَهَا أَمْ لَا“ کیا تم نے دل چاک کر کے کیوں نہ دیکھ لیا کہ اس نے دل سے ایمانی کلمہ کہا تھا یا نہیں یعنی وہ کس نیت سے پڑھ رہا تھا؟ ایسا

”حَتَّى تَعْلَمَتِ الْأَخْ“ رسول اللہ ﷺ کی اتنی سخت حدیبیہ سن کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے تمباکی کہ کاش آج سے پہلے میں اسلام نہ لایا ہوتا، یہ تمباہونے لگی کہ اس دن سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا یعنی یہ کہ اس دن سے پہلے مسلمان نہ ہوتا تو یہ واقعہ دیکھنا نہ پڑتا کہ جس پر حضور اقدس ﷺ کی اتنی سخت حدیبیہ فرمائی۔

یہ مبالغہ کے طور پر ایسا کہہ دیا ہے مقصد یہ نہیں تھا کہ اسلام پر کوئی حسرت و ندامت ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی ناراضی کا جوانہ از میں نے دیکھا تو اس کی بنا پر یہ خیال ہوا کہ اگر میں اب اسلام لاتا تو آپ ﷺ کی ناراضگی نہ مول لئی پڑتی کیونکہ اسلام کی وجہ سے زمانہ کفر کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور کسی کلمہ گو مسلمان کے قتل کا ارتکاب نہ ہوتا۔ ۲۱۱

۱۱۱) صحیح مسلم ، کتاب الایمان ، باب تحریم لشیل الکافر بعد ان قال: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، رقم: ۹۶

۲۱۱) قوله: ((المازال)) ای: النبی ﷺ، یکررها ای: کلمہ ((القطعہ)) بعد ان قال لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قوله: ((حَتَّى تَعْلَمَتِ))

الی آخرہ، وهو لسم بالغة لا على العقلية، وبیان: معناہ اللہ کان بعملی اسلاماً لا ذب لی، عمدۃ القاری، ج: ۲،

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے اس واقعہ میں دو باتیں قابل ذکر ہیں:

### اسامہ رض کے امیر ہونے کی غلط فہمی کا ازالہ

پہلی بات تو یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب یہ قائم کیا ہے کہ "بعث النبی ﷺ اسامہ بن زید الی العرقلات" اس ترجمۃ الباب سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو ہی اس سری کے امیر بنایا تھا۔

کیونکہ جب عام طور سے نبی کریم ﷺ کی طرف سمجھنے نسبت کی جاتی ہے تو اس شخص کی طرف نسبت کی جاتی ہے جس کو امیر بنایا ہے، تو بظاہر ترجمۃ الباب سے لگتا ہے کہ یہ اس سری کے امیر تھے۔ لیکن جو واقعہ اصحاب سیر و مغازی بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سری کے امیر حضرت غالب بن عبد اللہ رض تھے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ایک عام لشکری کی حیثیت سے گئے تھے، مغازی اور سیر کے علماء اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔<sup>۳۴</sup>

امام بخاری رحمہ اللہ کے اسلوب میں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما امیر تھے لیکن ظاہر ہے کہ یہاں انہوں نے امارت کی تصریح نہیں کی ہے، صرف یہ کہا ہے کہ "بعث النبی ﷺ اسامہ بن زید" لہذا اس لحاظ سے دونوں میں کوئی خاص تعارض بھی نہیں ہے۔

### کلمہ گو مسلمان کی تکفیر جائز نہیں

دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث اس بارے میں بہت بڑی اصل ہے کہ جو شخص اپنے ظاہر میں اسلام کے عقائد کو تسلیم کرتا ہو تو اس کو یہ کہہ کر کافرنہیں کہا جا سکتا کہ اس کے دل میں اسلام نہیں ہے بلکہ ہر شخص کو دنیا کے

<sup>۳۴</sup> الروله: ((بعثا رسول الله ﷺ الی العرقلة)) لمیں فی هذَا مابدل علیی انه کان امیر الجیش کما هوا ظاهر الترجمۃ، ولد ذکر اهل المغاری سرخالب ابن عبد الله رض الی المیلعة بمحاذیة ساکنة وفاء مفتوجة، وهی وراء بطن نخل، وذلک فی رمضان سنۃ سبع، و قالوا: ان اسامۃ اللتل الرجل فی هذه السریة، لان لبت ان اسامۃ کان امیر الجیش فالذی من بعد البخاری هروالصواب لانه ما أمر الا بعد قتل ابیه بذروا مونة وذلک فی ربیع سنۃ ثمان، وان لم يثبت انه کان امیرها ورجع مالاک اهل المغاری، فتح المباری، ج: ۱، ص: ۵۱۸، وعمدة القاری، ج: ۲، ص: ۳۸۹

احکام میں اس کے ظاہر کے حالات پر محول کیا جائے گا۔

اگر ایک شخص ظاہر میں کلمہ پڑھ رہا ہے، تمام ضروریات دین کو تسلیم کرتا ہے اور ضروریات دین میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتا تو یہ کہہ کر ہم اسکو کافر نہیں کہ سکتے کہ اسکا یہ اظہار شخص دکھاوا ہے اور حقیقت میں اس کے دل میں کفر ہے۔

## منکر و معلم کا حکم

یہاں یہ بات سمجھ لیتا کہ ظاہر میں تنہا کلمہ پڑھنا تمام ضروریات دین کا اعتقاد رکھنے کی علامت ہے۔

لہذا کوئی شخص یہ کہے کہ کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن حضور اقدس ﷺ کو خاتم النبیین نہیں مانتا، صرف رسول مانتا

ہوں، اب یہ شخص کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن دوسری ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے۔

اسی طرح کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن نماز کو فرض نہیں مانتا، میں کلمہ تو پڑھتا ہوں، لیکن قرآن کو

درست نہیں مانتا اور اس میں تحریف کا قائل ہوں۔

اس صورت میں اس کا یہ حکم نہیں ہے اس واسطے کہ وہ ظاہر میں بھی ایک عقیدہ کفر کا مرتكب اور اس کا

معلم اور مترف ہے تو اس واسطے اس پر کفر کے احکام جاری ہوں گے۔

## قادیانیوں کی اپنے آپ کو مسلم کہنے پر ذیل

لہذا بعض قادیانی لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ تم ہمارے اوپر کفر کا فتوی لگاتے ہو جبکہ

ہم تو حضور ﷺ کو خاتم النبیین کہتے ہیں لیکن ظلی، بروزی اور فلاں اس نبوت کے ہم قائل ہیں اور اس کے نہیں ہیں

لہذا ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو آپ نہیں کافر کیوں کہتے ہیں۔

تو بات یہ ہے کہ وہ اعلان اعقائد کفریہ کا اعتراف کرتے ہیں چاہے کلمہ بھی پڑھتے ہوں تو وہ اس

میں داخل نہیں، داخل وہ لوگ ہیں جو اعلان اضا ضروریات دین میں سے کسی چیز کے منکر نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کے

بارے میں یہ حکم ہو گا۔ اس لئے ان کے بارے میں کفر کا اطلاق محض اس بات پر نہیں ہو گا کہ یہ تلقیہ کر رہا ہے یا

دھوکہ دے رہا ہے، لیکن اگر وہ کھلمن کھلا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر لے، تو پھر کافر ہے۔ ۲۴

## ضابطه تکفیر

اس لئے تکفیر مسلم کے بارے میں ضابطہ شرعیہ یہ ہو گیا کہ جب تک کسی شخص کے کلام میں تاویلی صحیح کی مخالف ہو اور اس کے خلاف کی تصریح مثلم کے کلام میں نہ ہو یا اس عقیدہ کے کفر ہونے میں ادنی سے ادنی اختلاف ائمہ اجتہاد میں واقع ہو، اس وقت تک اس کے کہنے والے کو کافرنہ کہا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے یا کوئی ایسی ہی تاویل و تحریف کرے جو اس کے اجتماعی معنی کے خلاف پیدا کر دے تو اس شخص کے کفر میں کوئی تاویل نہ کی جائے۔

اسی لئے ایک جانب تو یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی مہم کلام سامنے آئے جو مختلف وجوہ کو مختل ہو اور سب وجوہ سے عقیدہ کفر کا قائل ظاہر ہوتا ہو۔ لیکن صرف ایک وجہ ایسی بھی ہو جس سے اصطلاحی معنی اور صحیح مطلبین سے، گو کہ وہ وجہ ضعیف بھی ہو تو مفتی و قاضی کا فرض ہے کہ اس وجہ کو اختیار کر کے اس شخص کو مسلمان کہے۔

دوسری طرف یہ بھی لازم ہے کہ جس شخص میں کوئی وجہ کفر کی یقینتا ثابت ہو جائے تو اس کی تکفیر میں ہرگز تاخیر نہ کرے اور نہ اسکے تبعین کو کافر کہنے میں دریغ کرے، جیسا کہ علماء امت رحمہم اللہا جمعین کی تصریحات محررہ سے بخوبی یہ بات واضح ہے۔ ۵۴

٥٤) حکم الاسلام باظهار شهادة اللسان في أحكام الدنيا المتعلقة بالأنمة وحكم المسلمين الذين أحکامهم على الظواهر بما أظهروه من علامة الإسلام إذ لم يجعل للبشر سبيل إلى السرائر ولا أمروا بالبحث عنها. الشفاء بتعريف حلوق المصطفى، الفسم الثاني (فيما يجب على الأئم من حقوله صلى الله عليه وسلم)، الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته، ج: ٢، ص: ٣

ولى الفتاوى النافعية: يجب أن يعلم أنه إذا كان في المستلة وجده توجب التكثير ووجه واحد يمنع التكثير لعلى الملفتي أن يمهل إلى الوجه الذي يمنع التكثير لاحتفظنا للظن بال المسلم، فم إن كانت له الفائل الوجه الذي يمنع التكثير فهو مسلم وأن كانت له الوجه الذي يوجب التكثير لانفعمه لغير الملفتي ويلزم بالغوبه والرجوع عن ذلك وتجدد النكاح بينه وبين امرأته۔ ولنى الظاهرية: وإن لم تكن له به حمل الملفتي كلامه على وجه لا يوجب التكثير ويلزم بالغوبه والاستهمار واستجداد النكاح. الفتوى العاترخالية، كتاب أحكام المرتد بن، فصل، ح: ٥، ص: ٣٥٨ .. (بتبيه ما ذكر في المثلثة)

٣٢٧٠ - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حاتم، عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأکوع يقول: غزوت مع النبي ﷺ سبع غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعث تسع غزوات، مرة علينا أبو بكر، ومرة علينا أسامه. [الظر: ۱، ۳۲۷۲، ۳۲۷۱]

٣٢٧١ - وقال عمر بن حفص: حدثنا أبي، عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة يقول: غزوت مع النبي ﷺ سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعث تسع غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة أسامه. [راجع: ۳۲۷۰]

ترجمہ: حضرت یزید بن ابی عبید رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اکوع کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ سات غزوات میں شریک رہا ہوں اور نو ایسے سرایا میں شریک رہا ہوں جو آپ ﷺ نے مبouth (روانہ) فرمائے تھے، کبھی ہم حضرت ابو بکر ﷺ امیر ہوئے اور کبھی ہم پر اسامہ (بن زید) ﷺ امیر تھے۔

٣٢٧٢ - حدثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد: حدثنا یزید بن أبي عبيد عن سلمة بن الأکوع قال: غزوت مع النبي تسع غزوات، وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا.

[راجع: ۳۲۷۰]

ترجمہ: حضرت یزید بن ابی عبید رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ تو غزوات میں شریک رہا اور میں نے ابن حارثہ کے ساتھ بھی قال میں حصہ لیا آپ ﷺ نے انہیں ہم پر امیر بنایا تھا۔

**﴿گزشتہ سے پورت﴾ ..... ولى الهندية: ولا حتمال أنه أراد الوجه الذى لا يحب الكفير اللهم**

إذا صرخ به أراده موجب الكفر فلا ينفعه التأويل حيث أنه كالجاهل إذا تكلم بكلمه ولم يدرك أنها كفر قال بعضهم بـكفر وقيل لا وبـعذر بالجهل ومنها إذا تكلم بكلمه بلا علم أنها كفر عن إعصار يـكفر عند عامة العلماء خلافاً للبعض ولا يـعذر بالجهل وقيل لا يـكفر أبداً أراد أن يـتكلـم بكلـمة مباحـة لـجـري على لـسانـه كـلمـة خطـأ بلاـ لـصـدـ وـالـعـادـ بالـلـهـ لا يـكـفـرـ لـكـنـ القـاضـيـ لا يـصـدـ لهـ عـلـىـ ذـلـكـ النـعـ ،ـالتـاوـىـ الـبـازـيـةـ عـلـىـ هـامـشـ مـنـ الـفـتاـوىـ الـعـالـمـگـيـرـيـةـ الـمـعـرـوـفـةـ بـالـفـتاـوىـ الـهـنـدـيـةـ ،ـجـ:ـ۱ـ،ـصـ:ـ۳۲۱ـ،ـ وجـاـہـرـ اللـفـقـ،ـجـ:ـ۱ـ،ـصـ:ـ۳۶ـ

۲) ولى صحيح سلم، کتاب الجهاد، والسبیر، باب عدد غزاة النبی ﷺ، رقم: ۱۸۱۵، رسید احمد، باب بقیۃ حدیث ابن الأکوع فی المصاف من الاصل، رقم: ۱۶۵۳

٣٢٧٣ - حديثنا محمد بن عبد الله: حدثنا حماد بن مسعة، عن يزيد بن أبي عبد، عن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع النبي سبع غزوات، فذكر خبر والحدبية ويوم حنين ويوم القرد، قال يزيد: ولسيت بفقطهم. [راجع: ٣٢٧٠]

ترجمہ: حضرت یزید بن ابی عبد رحمہ اللہ روايت کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوعؑ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ سات غزوات میں شریک رہا اور پھر خبر، حدیبیہ، حنین اور ذات القرد کا ذکر کیا۔ راوی یزید بن ابی عبد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باقی مجھے یاد نہیں رہے۔

.....  
.....  
**باب**  
**غزوۃ الفتح**  
.....  
.....

## (۷۳) باب: غزوة الفتح

### غزوہ فتح یعنی فتح مکہ کے بارے میں بیان

و ما بعث به حاطب بن ابی بلعمة الى اهل مکة يخبرهم بفتح و النبي ﷺ .  
ترجمہ: حاطب بن بلعمة ﷺ کا اہل مکہ کو نبی کریم ﷺ کے حملے کے بارے میں خبر بھیجنے کا بیان۔

### پس منظر

صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور ﷺ کا مشرکین مکہ سے جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ دونوں فریق اس بات کیلئے آزاد ہوں گے کہ عرب کے جو دوسرے قبائل ہیں ان میں سے جو قبیلہ جس قبیلے کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا چاہے وہ معاہدہ کر سکے گا اور اس معاہدے کی پاسداری دونوں فریقوں پر لازم ہوگی۔ عرب کے اور بھی بہت سے قبائل تھے تو یہ بات محلی چھوڑی گئی تھی کہ اگر کوئی قبیلہ قریش کے ساتھ آکر معاہدہ کر لے تو وہ قریش کا معاہدہ قرار پائے گا اور مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی معاہدے کی پاسداری لازم ہوگی، جو قریش کے سلسلے میں لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قبیلہ حضور ﷺ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتا ہے تو قریش کے اوپر لازم ہو گا کہ اس قبیلے کے ساتھ بھی وہ اس معاہدے کی پاسداری کریں اور اس کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ چنانچہ معاہدے کی اس شق کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بنو بکر ایک قبیلہ تھا اس نے قریش سے جائز معاہدہ کر لیا، قریش کا حلیف بن گیا اور بنو خزانہ دوسرا قبیلہ تھا وہ جناب رسول اللہ ﷺ کا حلیف بن گیا۔

بنو بکر اور بنو خزانہ کے درمیان زمانہ جاہلیت سے طویل جنگیں چلی آ رہی تھیں اور جدی پشتی دشمنی تھی۔ لیکن پھر اسلام آگیا اور قریش اور دوسرے قبائل کے ساتھ حضور ﷺ کے مختلف غزوات ہوئے، جنکی وجہ سے ان کی آپس کی جنگیں ماند پڑ گئیں، اس موقع پر بنو بکر نے قریش سے اور بنو خزانہ نے حضور اقدس ﷺ سے معاہدہ کر لیا۔

### بنو بکر کا بنو خزانہ پر حملہ اور قریش کی معاونت

لیکن اس معاہدہ کے دوران ایسا ہوا کہ بنو بکر کا ایک شخص جس کا نام نوفل بن معاویہ دیلی تھا، اس نے بنو

بنو خزاعہ کی ایک بستی پر شب خون مارا، و تیر نای بستی ایک کنوں کے کنارے تھی، اور بنو خزاعہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ بنو خزاعہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے تو وہ جاگ اگئے اور فوراً مقابله پر آگئے، لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی میں مسجد حرام تک پہنچ گئی اور وہاں پر بھی خون ریزی ہوئی۔

جب اس لڑائی نے طول پکڑا تو قریش چونکہ بنو بکر کے حليف تھے انہوں نے بنو بکر کو روکنے کے بجائے ان کی مدد کرنی شروع کر دی، ان کو اسلام فراہم کیا اور کچھ آدمی بھی دیئے جو اس جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ معابدے کی کھلی خلاف درزی تھی اور قریش اس جنگ میں کھل کر سامنے آئے اور بنو خزاعہ سے لڑے۔

## بنو خزاعہ کی نبی کریم ﷺ سے مدد کی درخواست

بنو خزاعہ چونکہ مسلمانوں کے حليف تھے، لہذا عمرو بن سالم الخزاعی وفد کے ہمراہ حضور ﷺ کے پاس فریاد کی بن کر آیا، آنحضرت ﷺ اس وقت مسجد نبوی میں تعریف فرماتھے اس نے جاتے ہی ایک رجز پر حنا شروع کر دیا:

بَارِبُ الْيَ نَاهِدُ مُحَمَّداً

أَنْتَ بُرُودُكَارِيَ مِنْ مُحَمَّدٍ

لَمَّا اسْلَمْنَا اللَّمْ نَزَعَ يَدَا

بِئْ شَكَ هُمْ بَنْزَلَهُ بَأْپَ كَيْ ہیں اور آپ اولاد کے

فَالصَّرِ هَدَاكَ اللَّهُ لَصَرَا اعْتَدَا

پس ہماری فوری مدد فرمائیے اللہ آپ کی تائید فرمائے اور اللہ کے خاص بندوں کو حکم دیجئے کرو ہماری مدد کو آئیں

لِيَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَدَ تَجِرَدا

اس میں اللہ کے رسول ﷺ ضرور ہوں

لِيَ فَلَمَقَ كَالْبَحْرِ مِنْ بَدا

ایے لشکر کو ساتھ لیکر آئے جو دریا کی طرح جہاگ مارتا ہو

وَنَقْضُرَا مِنْهَاكَ الْمُوْكَدا

اور آپ کے پختہ عہد اور پیمان کو توڑا لے

وَزَعْمُوا ان لَسْتَ ادْعُو احْدًا

اور ان کا گمان یہ تھا کہ میں کسی کو اپنی مدد کیلئے نہ بلاؤں

وَهُمْ اذْلَ وَاقْلَ عَدْدًا

اور وہ سب ذیل ہیں شمار میں بھی بہت کم ہیں

هم بیعونا بالتویر هجدا  
و قتلوا رکعا، و مساجدا

ان لوگوں نے جسمہ تو تیر پر سوتے ہوئے ہم پر شنون مارا  
اور کوع اور بجود کی حالت میں ہم کو قتل کیا  
اس طرح بنو خزادہ کے سردار نے رجزیہ انداز میں واقعہ بتایا کہ بنو بکر نے ہم پر تو تیر کے مقام پر حملہ  
کیا ہے اور آنحضرت ﷺ سے ان کے خلاف مدد طلب کی۔

حضور القدس ﷺ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ "نصرت یا عمرو بن سالم" کاے عمر بن سالم!  
تمہاری مدد ہوگی، ان سے تو یہ بات ارشاد فرمائی اور اور یہ بات فتح مکہ کا سبب بن گئی۔

حضور ﷺ نے مکہ مکرمہ میں قریش کے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ اس واقعہ کے نتیجے میں تم نے عہد کی خلاف  
ورزی کر دی ہے، لہذا اب تمہارے لئے تین راستے ہیں:

ایک راستہ یہ ہے کہ خزادہ کے جس شخص کو قتل کیا گیا ہے اس کی دیت ادا کرو، یعنی بنو بکر کے آدمی نے  
بنو خزادہ کے جس آدمی کو قتل کیا ہے جبکہ بنو بکر تمہارے حليف ہیں، لہذا اس کی دیت ادا کرو۔

دوسرے راستہ یہ ہے کہ تم بنو بکر کی ہلاکت اور معاهدہ سے دستبردار ہو جاؤ اور آئندہ کیلئے کہہ دو کہ ہم بنو بکر  
کے ساتھ معاهدہ توڑتے ہیں۔

تمیز راستہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ معاهدے توڑ دو، حدیبیہ کا معاهدہ اب ختم ہو گیا۔

جب حضور ﷺ کی یہ تین تجویزیں وہاں پہنچیں تو انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم دیت دیں گے اور نہ ہم بکر سے  
براءت کا اظہار کریں گے، اس کے بجائے ہم آپ کا عہد توڑ دیں گے۔

یہ پیغام انہوں نے بھجو تو دیا لیکن بعد میں ان کو خطرہ ہوا کہ مسلمانوں کی قوت میں بہت اضافہ  
ہو چکا ہے اور اس عہد کو توڑ کر ان کو نقصان نہیں ہو گا، ہمارا نقصان ہو گا، تو بعد میں شرمندگی ہوئی۔

## تجدید معاهدہ کیلئے ابوسفیان کی مدینہ آمد

ابوسفیان بن حرثہ اس وقت تک کافر تھے اور قریش کے سردار تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم نبی کریم ﷺ  
کے پاس جا کر اس معاهدے کی تجدید کر لیتے ہیں، چنانچہ یہ سفر کر کے مدینہ منورہ آئے۔

پہلے اپنی صاحبزادی ام حمیہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، جو کہ نبی کریم ﷺ کی ازوایج مطہرات میں  
شامل ہیں، گھر میں جناب رسول اللہ ﷺ کا بستر بچھا ہوا تھا، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے اس بستر کو لپیٹ دیا۔  
اس پر ابوسفیان نے حیرانگی سے پوچھا کہ بیٹی اتنے یہ بستر کیوں لپیٹ دیا؟ کیا اس بستر کو میرے لائق

نہیں سمجھایا مجھے اسی بستر کے قابل نہیں سمجھا؟  
ام المؤمنین ام جیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ آپ کو اس بستر کے لائق نہیں سمجھا، کیونکہ یہ رسول اللہ ﷺ کا بستر ہے اور ایک مشرک اس پر کیسے بینھ سکتا ہے؟  
ابوسفیان یہ غیر متوقع جواب سن کر کہا کہ خدا کی قسم! یعنی تم میرے بعد شر میں بدلاء ہو گئی ہو۔  
ام المؤمنین نے فرمایا شر میں نہیں بلکہ ظلت و کفر سے نکل کر نو راسلام میں داخل ہو گئی ہوں، جبکہ آپ تو پھر دل کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس بات پر حیرانگی ہے کہ آپ قریش کے سردار اور معزز شخص ہیں۔

ابوسفیان نے کہا کہ کیا میں اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دوں اور محمد کا مذہب اختیار کر لوں؟  
ابوسفیان کو تجدیدِ معاہدہ کے سلسلے میں حضور اقدس ﷺ کے پاس جانے کا توان کا حوصلہ ہوا اس لئے حضرت ابو بکر رض کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہم اس معاہدے کی تجدید کرنا چاہتے ہیں، حضرت ابو بکر رض نے فرمایا کہ تم نے معاہدے کی خلاف درزی کی ہے، لہذا حضور ﷺ اب معاہدے کی تجدید نہیں کریں گے۔  
پھر حضرت عمر رض کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ پھر سے تجدید کرلو، انہوں نے کہا کہ اب تجدید نہیں ہو گی، حضور رض نہیں مانیں گے، انہوں نے کہا کہ تم مجھے امان دے دو، حضرت عمر رض نے کہا کہ امان نہیں دے سکتا۔  
پھر حضرت علی رض کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ تم ہم سے زیادہ قرابت رکھتے ہو (یہ بنوہاشم کے خ्य)، اس واسطے انہوں نے کہا کہ تم اس عہد کی تجدید کرو، انہوں نے کہا کہ نہیں اور وہی جواب دیا کہ حضور اقدس ﷺ اب اس عہد کی تجدید نہیں کریں گے، اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم سفارش کر دو، انہوں نے بھی عرض کیا کہ حضور ﷺ اب تجدید نہیں کریں گے۔

آخر کار جب یہ بہت زک ہو گئے تو کہا کہ پھر کیا کروں؟ تو حضرت علی رض نے کہا کہ واپس جاؤ اور جو تمہارا دل چاہے کرو، اگر کر سکتے ہو تو میں تمہیں تجویز بتاؤں کہ تم جا کر مسجد بنوی میں یہ اعلان کر دو کہ میں تجدید عہد کرنے لئے آیا ہوں اور میرے عہد کو قبول کیا جائے، انہوں نے مسجد بنوی میں جا کر یہ اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد پھر یہ واپس مکہ مکرمہ چلے گئے۔

کہ کے لوگوں نے معاہدہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے یہ سارا قصہ سنایا کہ علی بن ابی طالب نے پوچھا اور میں اس کے مطابق عمل کر کے آیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد کی تجدید ہو گئی۔

مکے لوگوں نے کہا علی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے اور تمہیں بے وقوف بنایا ہے اور اس طرح تو تجدید نہیں ہوتی۔ تو وہ لوگ وہاں سمجھے گئے کہ اب مسلمان تجدید کے حق میں نہیں ہیں۔

## غزوہ فتح کی تیاری کا حکم

اس تمام واقعہ کے بعد حضور اقدس ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ میرے لئے سفر جہاد کی تیاری کرو، لیکن کسی کو بتانا نامن، تین دن تک حضور اقدس ﷺ نے تیاری کی اور اس تیاری کے دوران آپ ﷺ نے خاص خاص صحابہ کرام ﷺ سے کہہ دیا کہ ہمارا ارادہ مکہ مکرہ پر حملہ کرنے کا ہے لیکن اس کی خبر وہاں تک نہیں پہنچنی چاہئے اور اس کیلئے یہ کرو کہ جتنے راستے مکہ مکرہ جانے والے ہیں ان سب پر پھرے بخواہو، جو بھی آنے جانے والا ہو اس کو جانے نہ دو، کیونکہ خبر اگر جائے گی تو کسی آدمی ہی کے ذریعے جائے گی۔ یوں حضور اقدس ﷺ مکہ مکرہ کے راستے بند کرنے اور ناکہ بندی کا حکم دیا، تین دن تک تیاری ہوئی اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم ﷺ کو اطلاع ملی کہ حاطب ابن ابی بتّع ﷺ نے ایک عورت کو خط دے کر بھیجا اور مقداد بن اسود ﷺ کو ان کے چیچے بھیجا۔

فتح مکہ کی تہذید اور اس کا پس منظر ہے۔

۲۲۷۳ - حدیثنا قتيبة بن سعید: حدیثنا سفیان، عن عمرو بن دینار قال: أخبرنی الحسن بن محمد أنه سمع عبید الله بن أبي صالح يقول: سمعت علياً عليه السلام يقول: يعشى رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد فقال: ((الطلقاوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعنة معها كتاب فخذلوا منها)). قال: فانطلقا تعادي بما خيلنا حتى أتيتنا الروضة فإذا لحق بالظعنة، قللنا لها: آخر جي الكتاب، قالت: ما معنى كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب، أو لنلقين الشياب، قال: فآخر جنته من عقاصها. أتيانا به رسول الله ﷺ فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين، يخبرهم ببعض أمر رسول الله ﷺ، فقال

۱- لیح الہاری، ج: ۷، ص: ۵۲۰-۵۱۹ و سیرۃ ابن هشام، ج: ۲، ص: ۳۹۷-۳۸۹ ، السیرۃ الحلبیۃ، ج: ۳، ص: ۵۳۹-۵۲۶، و کتاب المغازی للوالدی، ج: ۲، ص: ۷۹۹-۷۸۰۔ ۲- والسیرۃ النبویۃ لابن الکثیر، ج: ۳، ص: ۵۳۹-۵۲۶

رسول الله ﷺ: ((يا حاطب، ما هدا؟)) قال: يا رسول الله لا تجعل على، إلى كنت امرأ ملصقًا في قريش، يقول: كنت حلية، ولم أكن من أنفسها. وكان من معك من المهاجرين من لم قرأت بهم أهليهم وأموالهم. فاحببت إذا لاتنى ذلك مناسب لهم أن أأخذ عندهم يدا يحمرن بها قرابةي، ولم أعله ارتداً عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله ﷺ: ((أما إله لد صدلكم))، فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: ((إنه لد شهد بدرًا وما يدرك لعل الله اطلع على من شهد بدرًا قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم))، فأنزل الله السورة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَعَذُّ وَاعْدُوْكُمْ أُولَيَاءُ تَلْقَوْنَ إِلَيْكُم بِالْمَوَذَّةِ وَلَدَكُفُرُوْا بِإِعْجَاءٍ كُمْ مِّنَ الْحَقِّ﴾ إلى قوله: ﴿لَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ﴾]. [راجع: ٢٠٠]

ترجمہ: حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے زیر، اور مقدار پسی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم ﷺ نے سمجھا اور فرمایا تم لوگ جاؤ، مقام روپ خانہ تک پہنچو، وہاں تمہیں ایک کجا وہ نشین عورت ملے گی، جس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط اس سے لے لو۔ حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھوڑے تیزی کے ساتھ ہمیں لے اڑے، یہاں تکہ ہم روپ خانہ تک پہنچ گئے، وہاں ہمیں ایک کجا وہ نشین عورت ملی، ہم نے اس سے کہا خط نکال لو، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، ہم نے اس سے کہا کہ یا تو ٹوپھ نکال دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار کر تلاشی لیں گے، تو اس نے اپنی چوٹی میں سے خط نکالا۔ ہم وہ خط لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تو اس میں لکھا ہوا تھا، حاطب بن ابی بتعد کی جانب سے شرکیں مکہ کے نام، انہیں آنحضرت ﷺ کے بعض معاملات کی اطلاع دے رہے تھے، رسول اللہ ﷺ نے حاطب سے فرمایا، حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یاے اللہ کے رسول! مجھ پر جلدی نہ سمجھی، میں ایسا آدمی ہوں کہ قریش سے میرا تعلق ہے، یعنی میں ان کا حليف ہوں، اور میں ان کی ذات سے نہیں۔ اور آپ ﷺ کے ساتھ جو مہاجر ہیں، ان سب کے رشتہ دار ہیں، جوان کے مال اور اولاد کی حمایت کر سکتے ہیں، چونکہ ان سے میری قرابت نہیں تھی، اس لئے میں نے چاہا کہ ان پر کوئی ایسا احسان کر دوں جس سے وہ میری رشتہ داری کی حفاظت کریں، اور یہ کام میں نے اپنے دین سے پھر جانے اور اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی ہونے کے سبب سے نہیں کیا ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حاطب نے تم سے بچ کرہ دیا ہے۔ حضرت عمر ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ بدر میں شرکیک تھے اور تمہیں کیا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حاضرین بدر کی طرف التفات کر کے فرمایا تھا، کہ تم جو تمہارا جی چاہے، عمل کرو کہ میں تمہیں بخش چکا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَعَذُّ وَاعْدُوْكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿لَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ﴾]۔

## تشریح

اس روایت میں ہے کہ عبد اللہ بن ابی رافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت علیؓ فرمائے تھے "یعنی رسول اللہ ﷺ أنا والزبیر والمقداد" رسول اللہ ﷺ نے مجھے اور زبیر بن عوام اور مقدادؓ کو بھیجا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علیؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے مجھے، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت ابو مرید الغنویؓ بھی شامل تھے۔<sup>۱</sup>

"فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى الْخَ" آپ ﷺ نے فرمایا تم جاؤ یہاں تک کہ روضہ خارج کے مقام تک پہنچ جاؤ، روضہ خارج نامی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھی۔<sup>۲</sup>  
 "فَإِنْ بَهَا ظُنْبِعَةً مَعَهَا الْخَ" تھیں وہاں ایک مسافر عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط اس عورت سے لے لینا۔

"ظُنبِعَةٌ، ظُعنٌ يَظْعَنُ" سے نکلا ہے جس کے معنی صبر کرنے کے ہیں، "ظُنبِعَةٌ" صبر کرنے والی عورت۔  
 "فَالْأَنْطَلِقُوا تَعَادِي بِنَا خَيْلَنَا الْخَ" حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم روانہ ہوئے اس حال میں کہ ہمارے گھوڑے ہمیں دوڑائے لے جا رہے تھے، یہاں مبالغہ کے معنی ہیں مفاعلہ جو بعض اوقات مبالغہ کیلئے ہوتا ہے یعنی یہاں مبالغہ کے معنی ہیں ہم خوب تیز دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ہم روضہ خارج کے مقام تک پہنچ گئے، اچانک ہم نے دیکھا کہ ہم اس مسافر عورت کے پاس پہنچ گئے۔

"قُلْنَا لَهَا: أَخْرُجْنِي الْكِتَابُ" ہم نے اس سے کہا کہ خط نکالو، جو لے جا رہی ہو تو اس عورت نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، "فَقُلْنَا: لَتَخْرُجَنَ الْكِتَابُ، أَوْ لَنَلْقَيْنَ الشَّهَابَ" ہم نے اس سے کہا کہ دیکھو سیدھی طرح خط نکال دو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے۔

## یہ انتباہی کا روایتی تھی

اس عورت کو کپڑے اتارنے کی دھمکی دینا کا اصل مقصد یہ تھا کہ کسی طرح وہ عورت خط کو نکال دے۔

۱) لی روایۃ ابی عبد الرحمن السلمی عن علیؓ: یعنی وابا مرشد الغنوی والزبیر بن العرام، كما تقدم لفضل من شهد بدر، عمدۃ القاری، ج: ۱، ص: ۳۹۲ و لفیو لواری، ج: ۱، ص: ۵۲۰

۲) ((روضہ خارج)) بخاء بن معجمین: موضع بصرہ مکہ و مدینہ. عمدۃ القاری، ج: ۱، ص: ۳۹۲

یہ حالت حرب تھی، حالت حرب میں مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کیلئے اگر اس قسم کے عمل کی ضرورت پیش آئے کہ اسکے بغیر مسلمانوں کے کسی راز کا چھپا ناممکن نہیں ہے تو اس وقت اس قسم کے اعمال کی اجازت ہوتی ہے۔  
**”قالَ فَإِخْرُجْهُ مِنْ عَفَاْصِهَا“** کہتے ہیں کہ پھر اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں کی مینڈھیوں سے نکال کر دیا، ”عفاص“ یعنی بالوں کی مینڈھیاں۔

بعض روایتوں میں اس عورت کا نام سارہ یا ام سارہ آیا ہے اور بعض میں کنود۔ ۵  
**”فَاتَّهَا بَهْ رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَّا دَلَّهُ“** جب ہم خط لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تو اس خط کے اندر یہ لکھا تھا:

”من حاطب بن ابی بلتعة الی ناس بمکة من المشرکین“ حاطب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے مکہ کے بعض مشرکین کی طرف، ”یخبرهم ببعض امر رسول اللہ ﷺ“ اور اس میں انہوں نے قریش مکہ کو رسول اللہ ﷺ کی بعض احکامات کی خبر دی تھی، یعنی وہی کہ حضور اقدس ﷺ مکہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔

## بے کسی کی وجہ سے خط لکھا

جب خط معلوم ہوا کہ حاطب بن ابی بلتعہ نے بھیجا ہے اور انہوں نے قریش کو آپ ﷺ کے مکرمہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

حضرت حاطب بن ابی بلتعہ ﷺ مشہور مہاجر بزرگ صحابہ میں سے تھے اور بدری صحابی میں سے ہیں، جو اصل میں یمن کے باشندے تھے اور مکہ مکرمہ میں آ کر بس گئے تھے، مکہ مکرمہ میں ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا۔ خود تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے تھے لیکن ان کے اہل خانہ مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے تھے جن کے بارے میں ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں قریش کے لوگ ان کے اہل خانہ پر ظلم نہ کریں۔

دوسرے مہاجر صحابہ جن کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، انہیں تو کسی قدر اطمینان تھا کہ ان کا پورا قبیلہ وہاں موجود ہے جو کافروں کے ظلم سے انہیں تحفظ دے سکتا ہے، لیکن حاطب بن بلتعہ کے اہل و عیال کو یہ تحفظ حاصل نہیں تھا، اس بے کسی کی وجہ سے انہیں نے یہ خط لکھا تھا۔ ۶

۵ ذکر ابن اسحاق ان اسمها سارۃ، والوالدی ان اسمها کنود، ولی روایۃ سارۃ، ولی اخرى ام سارۃ. عمدة

القاری، ج: ۲، ص: ۳۹۲ وفتح الباری، ج: ۲، ص: ۵۲۰

۶ عمدة القاری، ج: ۲، ص: ۳۹۳

**لِقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :** يَا حَاطِبَ مَا هَذَا ؟ أَخْ "آپ ﷺ نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! آپ میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کریں، "انی کنت امرا ملصقاً الْخَ" میں ایسا آدمی ہوں کہ قریش سے میرا تعلق ہے، میں ان کا حلیف ہوں، اور میں ان کی ذات سے نہیں ہوں۔

ان کے کہنے کا منشاء یہ تھا کہ میں قریش کے اندر درحقیقت ہلاکت کے ذریعے آیا تھا یعنی میں قریش کا فرد نہیں ہوں نسبتی اعتبار سے میں قریشی نہیں ہوں لیکن قریش نے میرے ساتھ موالات کر لی تھی اس کے نتیجے میں میں وہاں جا کر آباد ہو گیا تھا۔

"ملحقاً" کے معنی ہوتے ہیں کہ میں انکے ساتھ جا کر ملحق ہو گیا تھا بسبب موالات یا بسبب ہلاکت کے۔

"وَكَانَ مِنْ مَعْكَ مِنَ الْمَهَاجِرِ بِنَالْخَ" اور آپ ﷺ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین صحابہ ہیں وہ قریش کے نسبی طور پر رشتہ دار ہیں، لہذا ان کے کچھ لوگ اگر مکہ کرمہ میں رہ گئے ہیں، تو ان کے رشتہ دار ان کی حفاظت کرنے کی پوزیشن میں ہیں اس لئے کہ وہ ان کے اصلی اور نسبی رشتہ دار ہیں، جوان کے مال اور اولاد کی حفاظت کر سکتے ہیں۔

**"فَاحبِبْتَ إِذْ لَاقْتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسْبِ الْخَ"** چونکہ ان سے میری قرابت نہیں تھی، اس لئے میں

نے چاہا کہ ان پر کوئی ایسا احسان کر دوں جس سے وہ میرے اہل خانہ کی حفاظت کریں۔

یعنی مقصد یہ تھا دوسرے مہاجرین کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے رشتہ دار ہیں اور وہ ان کی حفاظت کر سکتے ہیں لیکن میرا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہیں جو میرے اہل خانہ کی حفاظت کر سکتے تو میں نے چاہا کہ میں کوئی ایسا احسان قریش کے لوگوں پر کروں جس احسان کے بدلتے میں وہ میرے وہاں رہنے والے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اگر ان پر کوئی ظلم کرے تو اس کو ظلم سے باز رکھیں یہ مطلب ہے، اس وجہ سے میں نے یہ پسند کیا کہ جب مجھ سے یہ نسبت والا قصہ فوت ہو گیا ہے تو ان کے پاس میں اپنا ایک احسان رکھوں۔

**"وَلَمْ يَفْعُلْهُ إِرْتِدَادًا عَنْ دِينِهِ وَلَا رِضَا الْخَ - العِيَادَةُ بِاللَّهِ"** میں نے یہ حرکت اس لئے نہیں کی تھی کہ میں اپنے دین سے بھر رہا ہوں یا اسلام کے بعد کفر پر راضی کفر پر راضی ہونے کے سبب سے نہیں کیا ہے۔

**"لِقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :** اما اللَّهُ أَكْبَرُ" ان کی یہ بات سننے کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں اس نے کچھ بات کہی ہے۔

مطلوب یہ کہ اسی وجہ سے کیا، نیت یہ نہیں تھی کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ بات تو طے ہے کہ فتح نبی کریم ﷺ ہی کو ہو گی ان شاء اللہ اور مکہ کرمہ فتح ہو گا، لہذا میرے اس خط

لکھنے سے مسلمانوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایک احسان میرا ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جنگ کے نتیجے میں وہ میرے رشتہ داروں کو قتل کر دیں۔ اس واسطے میں یہ لکھ دوں گا تو میرے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ اس خط کے متن کو بھی بعض محدثین نے روایت کیا ہے، شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی و علامہ بد الدین اعین رحہما اللہ نے خط کا مضمون نقل کیا ہے:

اما بعد: يامعشر قريش، فإن رسول الله ﷺ جاءكم بجيشه كالليل، يسير كالسيل، فواهله لوجاءكم وحده لصره الله عليكم، والجزله وعده، فالظرووا الأنفسكم، والسلام. اے گروہ قریش! رسول اللہ ﷺ عنقریب تم پر رات کی مانند ایک لشکر لیکر حملہ آور ہونے والے ہیں جو سیاپ کی طرح چلتا ہوگا، اللہ کی قسم! اگر رسول اللہ ﷺ بغیر لشکر کے تہبا بھی تمہارے پاس تشریف لے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور لمحہ و نصرت کا جو وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا سو تم اپنا انعام سوچ لو۔ والسلام علی

معلوم ہوا کہ مقصد کوئی ضرر پہنچانا نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ تھا کہ اس سے میرے رشتہ داروں کو نفع پہنچ جائے گا اور ان کو مشرکین مکہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔

”فقال عمر: يا رسول الله، دعني الخ“ حضرت عمر رض بھی اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! اس منافق نے یہ حرکت کی کہ ہمارا راز فاش کرنے کی کوشش کی آپ مجھے اجازت دیں میں تو اس کی گردان اڑاؤں گا۔

”فقال: الله قد شهد بدرال الخ“ تو آپ صلی اللہ علیہ وسالم نے فرمایا کہ یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، تھیں کیا پڑا اللہ جل شانہ نے بدر کے شرکاء کے بارے میں کیا فرمایا ہے ”قال: اعلموا ما شتم فقد غفرت لكم“ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے بارے میں فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کرتے رہو اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی۔

”اعملوا ما شتم“ یہ گناہ کا لائسنس نہیں ہے معنی یہ ہیں کہ اہل بدر کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے معصوم تو انبیاء کرام علیہم السلام ہی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے خاص اولیاء کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں محفوظ کر دیا ہے جو چاہو گے کرو گے تو ان شاء اللہ گناہ میں بتلانہیں ہو گے، لہذا ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ ۵

حق تعالیٰ شانے نے حاطب بن بجعہؓ کے اس واقعہ کے بارے میں سورۃ المتحہ یہ آیت نازل فرمائی، جس میں حق تعالیٰ شانے کافروں سے دوستانہ تعلقات کے احکام بیان فرمائے، اس سورت کا بڑا حصہ اسی قصہ کے بارے نازل ہوا:

﴿إِنَّمَا يُحِبُّ الظَّاهِرَاتِ  
وَغَدُوَّكُمْ أَوْلَمَاءُ لِلْقُوَّةِ إِلَيْكُمْ بِالْمَوَذَّةِ وَلَدَ  
كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ  
وَإِلَيْهِمْ أُنْذِرُوا أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ  
جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَأَيْضًا مَرْضَاتِي عَسِيرُونَ  
إِلَيْهِم بِالْمَوَذَّةِ وَأَنَا أَغْلِمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَغْلَنْتُمْ  
وَمَنْ يَفْعَلُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءُ السَّبِيلُ﴾<sup>۱)</sup>

ترجمہ: اے ایمان والو! اگر تم میرے راستے میں  
جهاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے  
کیلئے (اپنے گھروں سے) نکلے ہو تو میرے دشمنوں اور  
اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام  
بھیجنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے، انہوں نے  
اس کو اتنا جھٹلا یا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف  
اس وجہ سے (کے سے) باہر نکلتے رہے ہیں کہ تم اپنے  
پروردگار اللہ پر ایمان لائے۔ تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی  
بات کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو، اور  
جو کچھ علانية کرتے ہو، میں اس سب کو پوری طرح  
جانتا ہوں۔ اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے، وہ راہ  
راستے سے بھٹک گئے۔ ۱)

[۱] المحتہ: ۱۷

﴿بَقِيرٌ حَاسِبٌ إِلَّا مَنْ سَمِعَ بِهِ﴾

میں (ان آیات میں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ:

## کفار سے دوستی کی حدود

غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کی کیا حدود ہوئی چاہیں وہ اس سورت میں بیان کی گئی ہیں۔

کفار سے ایسی دوستی اور قلبی محبت کا تعلق کر جس کے نتیجے میں دوآدمیوں کا مقصید زندگی اور نفع و نقصان ایک ہو جائے، اس قسم کا تعلق مسلمان کا صرف مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے، اور کسی غیر مسلم سے ایسا تعلق رکھنا خاتم گناہ ہے، اور اس جگہ اسے سختی سے منع کیا گیا ہے۔

یہی حکم سورۃ النساء [۲: ۱۳۹ و ۱۴۲]، سورۃ المائدہ [۵: ۵۱، ۵۷ و ۸۱]، سورۃ التوبہ [۹: ۲۳]، سورۃ الجادلہ [۲۲: ۵۸] اور سورۃ المحتہنہ [۱۰: ۶۰] میں بھی دیا گیا ہے۔

البنت جو غیر مسلم جنگ کی حالت میں نہ ہوں ان کے ساتھ حسین سلوک، رواداری اور خیرخواہی کا معاملہ نہ صرف جائز بلکہ مطلوب ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح فرمادیا ہے، اور آخر خضرت ﷺ کی سنت پوری حیاتی طیبہ میں یہ رہی کہ آپ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا۔

﴿گزشتہ سے نبوت﴾ ..... کفار مکہ اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔ ان سے دوستانہ برداشت کرنا اور دوستانہ پیغام ان کی طرف بھیجا ایمان والوں کو زیب دشمن دھنا، اس لئے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں۔

آری ایک کام تمام دنیا سے چپ کر کرنا چاہے تو کیا اسکو اللہ سے بھی چھپا لے گا؟ دیکھو! حاجب نے کس قدر کوشش کی کہ خط کی اطلاع کسی کو نہ ہو، مگر اللہ نے اپنے رسول کو مطلع فرمادیا اور رازگل از وقت فاش ہو گیا۔ مسلمان ہو کر کوئی ایسا کام کرے اور یہ سمجھے کہ میں اس کے پوشیدہ رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا سخت غلطی اور بہت بڑی بھول ہے۔ پھر یہ بات بھی کہ ان کافروں سے بحالت موجودہ کسی بھلانی کی امید مت رکھو۔ خواہم کتنی بڑی رواداری اور دوستی کا اظہار کرو کے وہ بھی مسلمان کے خیرخواہیں ہو سکتے ہیں، ہار جو دانشجوی رواداری کے اگر تم پر ان کا قابو چڑھ جائے تو کسی حسم کی برائی اور دشمنی سے درگذر نہیں کریں گے، زبان سے، ہاتھ سے، ہر طرح سے ایسا ہے بہنچا کیس کے اور یہی چاہیں ہیں کہ جیسے خود صداقت سے مکر ہیں، کسی طرح تم کو بھی مکر بناوائیں۔ کیا ایسے شریرو بدباطن اس لائق ہیں کہ ان کو دوستانہ پیغام بھیجا جائے؟

یہاں پر چونکہ حاجب نے وہ خط اپنے اہل دعیال کی خاطر لکھا تو اس پر بھی تنہیہ فرمائی کہ اولاد اور رشتہ دار قیامت کے دن کچھ کام نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کا رتی رتی محل دیکھتا ہے، اُسی کے موافق نیعت فرمائیا گا، اس کے نیعلے کوئی بیٹا، بیٹا اور عزیز ہٹا نہیں سکتے گا۔ پھر یہ کہاں کی عمل مندی ہے کہ ایک مسلمان اپنے اہل دعیال کی خاطر اللہ کو ناراضی کر لے۔

یاد رکھو! ہر چیز سے مقدم اللہ کی رضا مندی ہے، وہ راضی ہو تو اس کے لفڑ سے سب کام نمیک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ناخوش ہو تو کوئی کچھ کام نہ آئے گا۔ (سورۃ المحتہنہ، فاتحہ نمبر: ۸، ۲۶، ۱۱۔ تفسیر عثمانی)۔ و عمدة الغاری، ج: ۱۷، ص: ۳۹۳

اسی طرح ان کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعاون کے وہ معاهدے اور تجارتی معاملات بھی طے کئے جاسکتے ہیں جن کو آج کل کی سیاسی اصطلاح میں دوستی کے معاهدے کہا جاتا ہے، بشرطیکہ یہ معاهدے یا معاملات اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف نہ ہوں، اور ان میں کسی خلاف شرع عمل کا رتکاب لازم نہ آئے۔

چنانچہ خود آنحضرت ﷺ نے اور آپ کے صحابہ کرام ﷺ نے ایسے معاهدات اور معاملات کئے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ موالات کی منافع کرنے کے بعد قرآن کریم میں جو فرمایا ہے کہ: ”الا یہ کہ تم ان (کے ظلم) سے بچنے کے لئے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو“، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار کے ظلم و تشدد سے بچاؤ کے لئے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے جس سے بظاہر موالات معلوم ہوتی ہو تو اس کی منجائش ہے۔ اللہ علیٰ

## (۲۸) باب غزوة الفتح في رمضان

### غزوہ فتح کا بیان جو رمضان میں پیش آیا

۳۲۷۵ - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن ابن عباس أخبره: أن رسول الله ﷺ غزا غزوة الفتح فى رمضان. قال: وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك. وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره: أن ابن عباس رضى الله عنهما قال: صام النبي ﷺ حتى إذا بلغ الكديد - الماء الذى بين قديد وعسفان - أطهر لله ينزل مفطرا حتى المسلح الشهر.

[راجع: ۱۹۳۳]

ترجمہ: عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ فتح مکہ رمضان میں کیا، ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسیب رحمہ اللہ سے بھی ایسا ہی سنائے۔ اور عبید اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے روزہ رکھا، یہاں تک کہ جب مقام کدید میں اس چشمہ پر پہنچے، جو قدید اور عسفان کے درمیان ہے، تو آپ ﷺ نے روزہ انتظار کیا، پھر اس ماہ کے ختم ہونے تک روزہ نہیں رکھا۔

للہ [آسان ترجمہ قرآن، پارہ: ۳، سورہ آل عمران: ۲۸]۔

۱۱۔ اسلام اور سیاسی نظریات، بحث: دفاع اور امور خارج، غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ تعلقات۔ ص ۳۵۷ تا ۳۲۳

## جہاد میں روزہ کا حکم

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی ﷺ کی طرف روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ کدید کے مقام پر پہنچ گئے، قدید اور عسفان کے درمیان کدید نامی ایک کنوں یا چشمہ تھا۔ ﷺ نے قدمی اور عصفان یہ مقام آج بھی اسی نام سے موجود ہیں اور ان کے درمیان یہ جگہ کدید واقع ہے۔ جب یہاں پہنچ تو آپ ﷺ نے روزہ افطار فرمایا اور حالت افطار میں رہے یہاں تک کہ مہینہ گزر گیا۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ بھی افطار کیا جا سکتا ہے اور حالت جہاد میں بھی، اس کی کوئی روایتیں امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر لے کر آئے ہیں اور ان سب روایات میں یہی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فتح کہ کے غزوے کے میں شروع میں روزہ رکھا تھا بعد میں افطار فرمایا۔

یہاں پر جو مسائل صوم کے متعلق ہیں وہ ان شاء اللہ کتاب الصوم میں آئیں گے۔

یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ فتح کہ رمضان میں ہوا اس میں حضور اقدس ﷺ نے کچھ دن روزہ بھی رکھا اور بعد میں افطار فرمایا۔

۲۲۷۶ - حدتنا محمود: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر: أخبرنا الزهرى، عن عبد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ خرج فى رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف، وذلك على رأس لمان سنين ونصف، من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون، حتى بلغ الكديد. وهو ماء بين عسفان وقديد. أطراف الطروا. قال الزهرى: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ﷺ الآخر فالآخر.

[راجع: ۱۹۲۲]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے ہزار مسلمانوں کے

لأوله ((الكديد)), بفتح الكاف و كسر المهملة الأولى. قوله: ((الماء الذي بين الدييد و عسطان)) بالنصب عطف بیان او بدل من الكديد، وقدید، بضم الفاف بعصر الفد ولآل البكري: قدید لربوة جامدة كثيرة الماء والبساتين وہن الدييد والكديد ستة عشر ميلاً، والكديدقرب الى مكة، وعسطان، بضم العين وسكون السين المهملتين بالفاء. هر موضع على أربع برد من مكة. عمدة القارئ، ج: ۷، ص: ۲۹۳

ساتھ مار رمضان میں مدینہ سے روانہ ہوئے اور اس وقت آپ ﷺ کو مدینہ ہجرت کے ہوئے ساڑھے آٹھ سال ہوئے تھے، تو آپ ﷺ اور آپ کے ہمراہ دوسرے مسلمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے، کہ آپ ﷺ بھی روزہ کی حالت میں تھے، اور دوسرے مسلمان بھی، یہاں تک کہ مقام کدید پر پہنچے، جو عسفان اور قدید کے درمیان ایک چشمہ ہے، تو آپ ﷺ نے بھی روزہ افطار کر لیا اور مسلمانوں نے بھی، زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا آخری فعل یعنی چاہئے (یعنی سفر جہاد میں روزہ نہ رکھنا چاہئے، جیسا آپ ﷺ نے یہاں روزہ نہیں رکھا)۔

## آخری عمل کا دار و مدار

”وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ الْآخِرُ فِي الْآخِرِ“ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے معاملات میں سے ان معاملات پر عمل کیا جائے گا جو آخری عمل ہے۔  
امام زہری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب مدینہ سے سفر شروع کیا تو روزے سے تھے اور بعد میں آپ نے افطار کیا آخری عمل آپ کا افطار فی السفر ہے اور آخری عمل ہی میں مسئلہ کی بنیاد رکھی جائے گی کہ سفر میں افطار جائز ہے۔

اس حدیث سے ان حضرات کا رد ہو گا جو کہتے ہیں کہ اگر حضر میں رمضان المبارک کا مہینہ پالیا تو اب اس کے لئے افطار جائز نہیں ہے اور یہ حضرات اس آیت سے استدلال کرتے ہیں:

**﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلَيَضُنْ﴾**  
ترجمہ: لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے، وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔

حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ”من شهد منکم الشہر کله“ بیو شخص حضر میں پورا مہینہ پالے تو افطار جائز نہیں۔ ۳۱

۳۱ (وقال الزهرى: والمايل خد) أى يجعل الآخر اللاحق ناسخا للأول السابق، والصوم فى السفر كان أولا والالطار آخرأ، ولنى العدیث رد على جماعة منهم عبادة السعالي لى قوله: لمى الفطر اذا شهد أول رمضان فى الحضر، مستدلا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلَيَضُنْ﴾ [المدرا. ۱۸۵] وهو عند الجماعة محمول على من شهد كله الا ليقال لم شهد بعض الشہر: شهد كلہ، عمدة القاری، ج: ۱۷، ص: ۳۹۵

اول اس وجہ سے کہ سفر فی نفہ تعب اور مشقت ہے اور پھر وہ بھی جہاد کے لئے اور موسم گرم میں اس لئے افظار فرمایا کہ ایسی حالت میں اگر روزہ رکھا گیا تو ضعف اور ناتوانی کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ ادا نہیں ہو سکے گا۔

اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ "لیس من البر الصیام فی السفر" یعنی سفر میں روزہ رکھنا بھلائی اور نیکی نہیں ہے۔ ۵۱

ہاں اگر سفر جہاد نہ ہو اور سفر میں کوئی خاص مشقت نہ ہو تو پھر روزہ رکھنا ہی افضل اور اولیٰ ہے اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ ۵۲

فتح مکہ کے سفر کے لئے جب آپ ﷺ روانہ ہوئے تھے تو شروع نہیں آپ ﷺ نے روزے رکھے تھے لیکن بعد میں اس مقام پر چینچنے کے بعد افظار کرنا شروع کر دیا تو اس واسطے عمل اس آخری عمل کے اوپر ہو گا کہ حالت سفر یا حالت جہاد میں روزہ افظار کرنا جائز ہے۔

۳۲۷۷ - حدثنا عیاش بن الولید: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ﷺ في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصالم ومفتر، فلما استوى على راحلته دعا يائاه من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته. لم نظر الناس، فقال المفترون للصوم: أطرروا. [راجع: ۱۹۳۳]

۳۲۷۸ - وقال عبد الرزاق: أخبرنا معاشر، عن إبرة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي ﷺ عام الفتح. وقال حماد بن زيد، عن إبرة، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي ﷺ . [راجع: ۱۹۳۳]

ترجمہ: عکرمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ

فی صحيح البخاری، كتاب الصوم، رقم: ۱۹۳۶

۱۱ ..... عن: أبي سعيد الخدري قال: كنا نلحر مع رسول الله ﷺ في رمضان فلما الصائم ومن المفتر، فلا يجد الصائم على المفتر ولا المفتر على الصائم، برون أن من وجد قرة العين فلان ذلك حسن وبرون أن من وجد ضعلا فالظرف فلان ذلك حسن.

..... ۱۵۰۱. عن: أنس رضي الله عنه (مرفوحا) من الظرف رخصة ومن صام فالصوم أفضل - بعض في السلوف.

كتاب الصوم، بیان ان افطار الصوم فی السفر جائز والصوم أفضل، اعلاء السنن، ج: ۹، ص: ۱۵۲

حنین کی جانب رمضان میں چلے، لوگوں کا حال مختلف تھا، بعض روزہ دار تھے اور بعض بغیر روزہ کے تھے، جب آنحضرت ﷺ اپنی سواری پر بیٹھے تو آپ نے دودھ یا پانی کا گلاس منگوایا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا، پھر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا تو بغیر روزہ والوں نے روزہ داروں سے آنحضرت ﷺ کا یہ فعل دیکھ کر کہا، کہ روزہ توڑ دو۔ عبد الرزاق، معاشر، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ فتح کمہ کے سال لٹکے۔ حماد بن زید، ایوب، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

## شرح

اس میں روایت اور واقعہ تقریباً وہی ہے، صرف یہ کہ اس میں الفاظ یہ ہیں "خرج رسول الله ﷺ في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصالام ومفطر" آپ ﷺ حنين کی طرف لٹکے اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ بعض لوگ روزہ سے تھے اور بعض لوگ بغیر روزہ کے تھے پھر آپ ﷺ نے خود افطار فرمایا۔ یہاں اس روایت میں یہ بات قابل معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ غزوہ فتح کمہ کا ہے جیسا کہ یہچہ گزرنا، نہ کہ غزوہ حنين کے سفر کے دوران کا۔

بعض لوگوں نے اس کی یہ توجیہ کرنی چاہی کہ غزوہ حنين چونکہ فتح کمہ سے متصل بعد پیش آیا تو اس وقت بھی رمضان جاری ہو گا اور آنحضرت ﷺ نے اس غزوہ میں بھی وہی عمل فرمایا ہو گا جو فتح کمہ کے موقع پر فرمایا تھا یعنی روزہ افطار فرمایا۔

لیکن یہ توجیہ اس لئے درست نہیں ہے کہ تاریخی اعتبار سے جو روایات ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ حنين سے پہلے ہی رمضان ختم ہو چکا تھا، فتح کے بعد جتنا عرصہ آپ ﷺ نے مکہ کرمہ میں قیام فرمایا اس میں ماہ رمضان ختم ہو گیا تھا، اور شوال میں آپ ﷺ غزوہ حنين کے لئے روانہ ہوئے تھے۔

لہذا اس میں یہ بات نہیں بنتی تو اس لئے یا تو یوں کہا جائے کہ کسی راوی سے وہم ہوا ہے اور اس نے بجاۓ فتح کمہ کے حنين کا لفظ روایت کر دیا اور اس قسم کے اوہام بعض اوقات ثقہ راویوں سے بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے مجموعی حدیث پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

دوسری بات بعض حضرات نے یہ فرمائی ہے کہ چونکہ حنين اسی سفر میں ہوا جس سفر میں فتح کمہ تھا تو اس واسطے اگرچہ یہاں راوی نے لفظ تو حنين کا استعمال کیا ہے لیکن اس سے مراد وہ سفر ہے جو فتح کمہ کے سفر سے

شروع ہوا تھا، تو اس واسطے یہاں وہی واقعہ مراد ہے جو کدید کے مقام پر پیش آیا۔ علی

٣٢٧٩ - حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا جریر، عن منصور، عن مجاهد، عن طارس، عن ابن عباس قال: سافر رسول اللہ ﷺ فی رمضان لصام حتى بلغ عسفان لم دعا بآباء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس فالطرح حتى قدم مکة، قال: و كان ابن عباس يقول: صام رسول اللہ ﷺ فی السفر والطیر، فمن شاء صام ومن شاء الطیر. [راجع: ۱۹۳۳]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں سفر شروع کیا اور آپ نے روزہ رکھا لیکن جب آپ عسفان کے مقام پر پہنچے تو آپ نے پانی طلب فرمایا اور دون کے وقت لوگوں کو دیکھا کر پانی پیا، پھر آپ نے روزہ نہیں رکھ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے سفر کی حالت میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی روزہ نہیں رکھا، اس لئے جو چاہے تو روزہ رکھے اور جونہ چاہے تو نہ رکھے۔

### دورانِ سفر روزہ رکھنے کا اختیار

اس روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ ﷺ عسفان کے مقام پر پہنچے تو آپ نے پانی طلب فرمایا اور سب کے سامنے انتظار کیا، پھر اس پورے سفر میں روزہ نہیں رکھا۔

علی اللہ: ((خرج النبي ﷺ فی رمضان إلی حنين)) ولع کدا، ولم تكن غزوة حنين فی رمضان، وإنما كانت فی دروال سلطان، ولما اہن العین: لعله يربد آخر رمضان لأن حنيناً كانت عام الفمان إلى فتح مکة، ولله نظر لأن ﷺ خرج من المدينة فی عاشر رمضان فقدم مکة فی وسطه والام بها سعدة عشر يوماً كما سأته فی حديث ابن عباس، ليكون خروجه إلی حنين فی شوال. راجیب: ما ان مراده أن ذلك فی غير رمانته، وكان فی حجۃ الوداع او غيرها، ولله نظر، لأن المعروف أن حنيناً فی دروال علیه الفتح. وقال الداودی: موافہ إلی خیر او مکة، لأن ﷺ قصدھا فی هذا الشہر، فاما حنين لکانت بعد الفتح باربعین لیلة وکان الصد مکة ایضا فی هذا الشہر، ورد علیه قوله: (إلی خیر، لأن الخروج اليه لم يكن فی رمضان، راجیب المحب الطبری عن الاشکان المذکور: ما ان يكون المراد من قوله: ((خرج النبي ﷺ فی رمضان إلی حنين)) ألم الصد الغرور اليه وهو فی رمضان، للذكر الخروج وارادقصد بالخروج . عده الفاری، ج: ۱، ص: ۳۹۵)

پھر حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ کا معمول بتاتے ہیں کہ سفر کی حالت میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا۔

چنانچہ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اثنائے سفر میں اگر رمضان آجائے تو مسافر کو اختیار ہے اگر چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر چاہے تو افطار کر لے۔ لیکن روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے۔ ۱۵

## (۳۹) باب: أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح؟

**فتح مکہ کے دن نبی ﷺ نے پرچم کہاں نصب فرمایا؟**

یہ باب قائم کیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر صور ﷺ نے جنہاً اہم گاڑا تھا۔ اور اس میں حضرت عروہ بن زید، شیعہ اللہ عنہما وآله وآلہ واصلہ یا ہے۔

۳۲۸۰ - حدیثی عبید اللہ بن اسماعیل: حدیثنا أبو اسامة، عن هشام، عن أبيه قال:  
لما مار رسول الله ﷺ عام الفتح بلبع ذلك أريضا خرج أبو سفيان بن حرب وحکیم بن حزام وبديل بن ورقاء بلتمسون الخبر عن رسول الله ﷺ فاقبلوا بيرون حتى أتوا: موق الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكانها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرأهم لاس من حرس رسول الله ﷺ فرأهم لاس من حرس رسول الله ﷺ فأدر كرمه لأحدوهم فأتوا بهم رسول الله ﷺ فأسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس: ((احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين)). لحبسه العباس لجعلت القبائل تمر مع النبي ﷺ كتبة كتبة على أبي سفيان، فمررت كتبة فقال: يا عباس من هذه؟ فقال: هذه غفار، قال:

ای مسئلہ کی مزید تفصیل وضاحت کے لئے مراجعت فرمائیں انعام الباری، کتاب الصرم، باب الصوم فی السفر واللطوار، رقم: ۱۹۳۱، ج: ۵، ص: ۵۳۱، وباب من الطر فی السفر لیراء الناس، (قلم: ۱۹۳۸، ج: ۱، ص: ۵۳۶)، ولنفع الباری، ج: ۳، ص: ۱۸۳، وعون المعمود، ج: ۷، ص: ۲۹، والمبسوط للمرحمس، ج: ۳، ص: ۹۲، وحاشیہ ابن عابدین، ج: ۲، ص: ۲۲۳۔

مالی ولغار؟ لم مرت جهينة قال مثل ذلك، لم مرت سعد بن هذیم فقال مثل ذلك ومرت سلیم فقال مثل ذلك حتى أبلت كتبة لم ير مثلها . قال: من هذه؟ قال: هلاك الأنصار، عليهم سعد بن عبادة معه الرایة . فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفیان! اليوم يوم الملحمة . اليوم تستحل الكعبة، فقال أبو سفیان: يا عباس حبدًا يوم الدمار . لم جاءت كتبة وهي أقل الكتاب لهم رسول الله ﷺ وأصحابه ورواية النبي ﷺ مع الزبر بن العوام . فلما مر رسول الله ﷺ بآبائی سفیان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ((ما قال؟)) قال: قال كذا وكذا . فقال: ((كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تکسی فيہ الكعبۃ)). قال: وأمر رسول الله ﷺ أن ترکز راية بالحجون . وقال عروبة: أخبرنی نافع بن جبیر بن مطعم قال: سمعت العباس يقول للزبر بن العوام: يا أبا عبد الله، هاهنا أمرک رسول الله ﷺ أن ترکز الرایة؟ قال: وأمر رسول الله ﷺ يومئذ خالد بن الولید أن یدخل من أعلامکة من کداء ودخل النبي ﷺ من کدق اللقتل من خیل خالد بن الولید ﷺ يومئذ رجالان: حبیش بن الأشعو وکرز بن جابر الفھری .

ترجمہ: ہشام بن عروہ رحمہ اللہ اپنے والہ حضرت عروہ بن زیر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ فتح کہ کے سال روانہ ہوئے تو قریش کو اس کی خبر پہنچ گئی، ابوسفیان بن حرب، حکیم بن حرام اور بدیل بن ورقاء جناب رسول اللہ ﷺ کی خبر لینے کے لئے نکلے، یہ تینوں چلتے چلتے جمیقان مراظبیر ان تک پہنچے، تو وہاں بکثرت آگ اس طرح روشن دیکھی جس طرح عرفہ میں ہوتی ہے، ابوسفیان نے کہا یہ آگ کیسی ہے جیسے عرفہ میں ہوتی ہے، بدیل بن ورقاء نے جواب دیا ہو گرد کی آگ ہو گی، ابوسفیان نے کہا عمرو کی تعداد اس سے بہت کم ہے۔

ان تینوں کو آنحضرت ﷺ کے پہرے داروں نے دیکھ کر پکڑ لیا، اور انہیں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیا، ابوسفیان تو مسلمان ہو گئے، پھر جب رسول اللہ ﷺ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ ﷺ نے حضرت عباس ﷺ سے فرمایا کہ ابوسفیان کو شکر اسلام کی نگز رگاہ کے پاس روکے رکھو جہاں روانہ ہوتے وقت گھوڑوں کا جووم ہو، تاکہ یہ مسلمانوں کو دیکھ سکیں۔

چنانچہ حضرت عباس ﷺ نے انہیں وہاں روکے رکھا، اور آنحضرت ﷺ کے ساتھ قبائل کے دستے گز رنا

شروع ہوئے، لشکر کا ایک ایک دستہ ابوسفیان کے سامنے سے گزرنے لگا۔ جب ایک دستہ گزراتو ابوسفیان نے پوچھا کہ اے عباس! یہ کون سادستہ ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ قبیلہ غفار ہے، ابوسفیان نے کہا کہ میری اور قبیلہ غفار کی تولڑائی نہ تھی، پھر قبیلہ جہینہ گزراتو اسی طرح کہا، پھر سعد بن حذیم گزے تو اسی طرح کہا، پھر بنو سلیم گزے تو اسی طرح کہا۔

پھر ایک دستہ گزر را کہ اس جیسا دیکھا ہی نہ تھا، ابوسفیان نے کہا یہ کون ہے؟ عباس ﷺ نے کہا یہ انصار کے لوگ ہیں، ان کے پس سالار سعد بن عبادہ ﷺ ہیں، جن کے پاس پرچم ہے، حضرت سعد بن عبادہ ﷺ نے کہا اے ابوسفیان! آج کا دن جنگ کا دن ہے، آج کعبہ (میں کافروں کا کشت و خون) حلال ہو جائے گا، ابوسفیان نے کہا اے عباس! ہلاکت کا دن کتنا اچھا ہے۔

پھر ایک سب سے چھوٹا دستہ آیا، جس میں رسول اللہ ﷺ تھے، اور نبی ﷺ کا پرچم حضرت زبیر بن عوام ﷺ کے پاس تھا، جب نبی کریم ﷺ ابوسفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کیا کہا ہے؟ ابوسفیان نے کہا ایسا ایسا کہا ہے، آپ ﷺ ملے فرمایا، سعد نے غلط کہا بلکہ آج کا دن توهون ہے جس میں اللہ تعالیٰ کعبہ کو عظمت و بزرگی عطا فرمائے گا اور کعبہ کو آج غلاف پہنایا جائے گا۔

عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے پرچم کو مقام حجور میں نصب کرنے کا حکم دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے نافع بن جبیر بن مطعم نے بتایا کہ میں نے حضرت عباس ﷺ کو حضرت زبیر بن عوام ﷺ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے ابو عبد اللہ! رسول اللہ ﷺ نے آپ کو یہاں پرچم نصب کرنے کا حکم دیا تھا، عروہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس دن حضرت خالد بن ولید ﷺ کو حکم دیا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ کے بالائی حصہ یعنی کداء کی جانب سے داخل ہوں اور خود آنحضرت ﷺ کی جانب سے داخل ہوئے، اس دن خالد ﷺ کے دستے کے دو آدمی حمیش بن اشعر اور کرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہما شہید ہوئے۔

## ابوسفیان کی گرفتاری اور قبولِ اسلام

اس روایت میں فتح مکہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، "عن هشام عن ابیه"۔ ہشام رحمہ اللہ اپنے والد حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ "لما سار رسول اللہ ﷺ عام الفتح" فتح مکہ کے سال جب آپ ﷺ لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے "بلغ ذلك قريشا" اور آپ ﷺ کی

روانگی سے متعلق قریش کو کچھ خبر مل گئی۔

ویسے تو جیسے چیچے حضرت حاطب بن جمعہؓ کے واقعہ میں گزر چکا ہے کہ حضور ﷺ نے اہتمام فرمایا تھا کہ خبر نہ پہنچے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں مثل ہے کہ "چور کی ماں کوٹھری میں سردے اور روئے"۔ درحقیقت انہوں نے یعنی قریش نے خود معاہدہ شکنی کی تھی اور اس کی وجہ سے انہیں ہر وقت خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم ﷺ حملہ آور ہو جائیں تو یہ دفعہ دفعہ سے اس تاک میں رہتے تھے۔

"خرج ابو سفیان بن حرب، وحکیم بن حزام وبدیل بن ورقہ" تو قریش کے لوگوں میں سے ابوسفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل ورقہ مکہ سے تھے، "یلتمسون الخبر عن رسول اللہ ﷺ" تاک کہ رسول اللہ ﷺ کی خبر معلوم کریں کہ وہ روانہ ہوئے یا نہیں ہوئے، "الا بلوا یسرون حتى اتومرا الظہران" یہ تینوں چلتے چلتے جب مکہ کے قریب میں مرالظہر ان نامی جگہ تک پہنچے۔

"لَاذَا هُمْ بِنِيرَانِ كَالَّهَا لِيَرَانِ عَرْلَةٍ" اچانک انہیں نظر آیا کہ ایسے آگ جل رہی ہے جیسے میدان عرفات میں موسم حج کے موقع پر رات کے وقت میں آگ جلا یا کرتے تھے لوگ زیادہ ہوتے تھے تو وہ بہت زیادہ آگ ہوتی تھی اس لئے کہا کہ ایسا نظر آیا کہ بہت سارے مقامات پر آگ کے الاوزوں تھے۔

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع دس ہزار صحابہ کرام ﷺ تھے اور دو ہزار دوسرے قبل کے لوگ تھے یوں بارہ ہزار کی تعداد پوری ہو گئی تھی، دس ہزار کے قریب آگ کے الاوزوں تھے۔

"لَقَالَ أَبُو سَفِيَانَ مَا هَذَهُ؟ لَكَانُهَا نِيرَانٌ عَرْلَةٌ" یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے عرف میں آگ کے الاوزوں ہوں، "لَقَالَ بَدِيلُ بْنُ وَرْقَاءٍ: نِيرَانٌ بَنِي عُمَرٍ" تو بدیل بن ورقہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بن عمر دیکی آگ ہو، بن عمر و خزانہ کا قبیلہ تھا تو شاید یہ ان کے لوگ ہوں۔

"لَقَالَ أَبُو سَفِيَانَ: عُمَرٌ أَقْلَى مِنْ ذَلِكَ" ابوسفیان نے کہا کہ بن عمر دیکیلہ تو تعداد میں ان لوگوں سے بہت تھوڑا ہے اور آگ کے الاوزیادہ نظر آرہے ہیں۔

۱) وهو موضع بقرب مكة، قال البكري: بين دبين مكة سنة عشر ميلاً، عمدة القاري، ج: ۲، ص: ۲۵۸.

اع قوله: ((وَمَعَهُ عَشْرَةُ آلَافٍ)) ای: من مالک المالیل، وعند ابن اسحاق: لم يخرج رسول اللہ ﷺ في النبي عشر ألفاً من المهاجرين والأنصار، وأسلم وغفار وزمينة وجهينة وسلم، والتوفيق بين الروايتين بان العشر آلاف من نفس العددية لم يلتحق به الآلالان، عمدة القاري، ج: ۲، ص: ۳۹۳، وفتح الباري، ج: ۸، ص: ۳، وشرح الزرقاني، باب غزوۃ فتح الأعظم، ج: ۳، ص: ۳۹۵.

”لرأهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرْسِ رَسُولِ اللَّهِ فَإِذَا دَرَكُوهُمْ فَأَخْدُوْهُمْ“ لشکر کے اطراف میں جن لوگوں کو حضور اقدس ﷺ نے پھرے پر مقرر فرمایا تھا اور وہ پھرہ دے رہے تھے انہوں نے ان تینوں حضرات کو دیکھ لیا تو ان کے پاس پہنچ گئے اور ان کو پکڑ لیا۔

”فَاتُوا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ“ اور گرفتاری کے بعد ان تینوں کو حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا، ”فَأَسْلِمُوا إِبْرَاهِيمَ“ اس موقع پر ابوسفیان نے اسلام قبول کر لیا۔

## ابوسفیان پر مسلمانوں کی اظہارِ شوکت کا حکم

”لِمَ اسَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسَ: أَحْبَسْ أَبَا سَفِيَّانَ عِنْدَ خُطْمِ الْغَٰٰخِ“ جب آپ ﷺ اس مقام سے آگے روانہ ہونے لگے تو آپ ﷺ نے حضرت عباس ﷺ سے فرمایا کہ ابوسفیان کو لشکر اسلام کی تک گز رگاہ کے پاس روکے رکھو جہاں روانہ ہوتے وقت گھوڑوں کا ہجوم ہو، تاکہ مسلمانوں کو دیکھ سکیں۔

ابوسفیان ایسی حالت میں اسلام لائے تھے کہ درحقیقت تو مسلمانوں کی جا سوی کیلئے نکلے تھے کہ وہ آرہے ہیں کہ نہیں آرہے اور دشمنی اس وقت تک برقرار رہی توجب آگئے تو مسلمان ہو گئے تو حضور ﷺ نے یہ محسوس فرمایا کہ ان کو ابھی مزید اسلام پر پختہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے ان کے اوپر تھوڑا سا رعب بھی ڈالنا چاہیے۔

اس واسطے آپ ﷺ نے حضرت عباس ﷺ سے فرمایا کہ ابوسفیان کو گھوڑوں کے مجموعوں کے پاس روک کر رکھنا یعنی ایسی جگہ پر کھڑا کرو، جہاں سے پورا لشکر ان کے سامنے سے گزرے تاکہ اس لشکر کی شوکت کو دیکھیں، چنانچہ حضرت عباس ﷺ نے ان کو ایسے مقام پر روکا جہاں روانہ ہوتے وقت مسلمانوں کا لشکر نظر آئے۔

”فَجَعَلَتِ الْقَبَالَ نَمَرَ مَعَ النَّبِيِّ كَعْبَةَ كَتِبَةَ الْغَٰٰخِ“ آنحضرت ﷺ کے ساتھ قبائل کے دستے گزرنما شروع ہوئے، لشکر کے تمام دستے یکے بعد دیگرے ابوسفیان کے سامنے سے گزرنے لگے جب ایک دستے گزرا تو ابوسفیان نے پوچھا، ”یا عَبَّاسَ مَنْ هَذِهِ؟“ اے عباس! یہ کون سادستہ ہے؟ یعنی اس دستہ کا تعلق کس قبیلے والوں سے ہے، ”لَقَالَ هَذِهِ غُفارَ“ تو حضرت عباس ﷺ نے کہا کہ یہ قبیلہ غفار کا دستہ ہے، ”لَقَالَ مَالِي وَلَغُفارِ الْغَٰٰخِ“ کہ مجھے غفار کے لوگوں سے کیا لینا دینا، مطلب یہ کہ میرا ان سے نہ کوئی خاص تعلق ہے زان سے میری کوئی جگہ ہے، ٹھیک ہے گزرا ہے تو گزرنے دو، جھینہ کا قبیلہ گزرا تو پھر وہی کہا، پھر سعد بن ہذیم کا دستہ گزرا پھر وہی جملہ دھرا یا، سیم کا قبیلہ گزرا پھر وہی کہا۔

”عَنِ الْبَلْتَ كَفِيَةٌ لِمَ يُرْمَلُهَا“ یہاں تک کہ ایک ایسا لشکر آیا اس جیسا پہلے نہیں دیکھا تھا یعنی اتنا بڑا لشکر آیا کہ کثرت تعداد میں اس جیسا کوئی اور نظر نہیں آیا تھا۔ ”قَالَ مَنْ هَذِهِ؟“ ابوسفیان نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ”قَالَ هُولَاءُ الْأَنْصَارِ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ الْخَ“ کہا کہ یہ انصار مدینہ ہیں، ان میں سعد بن عبادہ ہیں اور انصار کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں ہے۔

”لَقَالَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ: يَا أَبَا سَفِيَّانَ! الْيَوْمُ الْخَ“ جب حضرت سعد بن عبادہ ہبھہ ابوسفیان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا اے ابوسفیان! آج معمر کہ کادن ہے۔

”مَلْحُمَةٍ“ کے معنی بڑی لڑائی کے ہیں۔

”الْيَوْمُ تَسْتَحْلِ الْكَعْبَةُ“ اور آج کے دن کعبے کو حلال کیا جائے گا۔

ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کعبے میں قتل و قتل کو جائز قرار دے دیا ہے لیکن لفظ اس طرح استعمال ہوا ”الْيَوْمُ تَحْلِلُ الْكَعْبَةُ“۔

ابوسفیان نے اس وقت حضرت عباس ﷺ سے خطاب کر کے کہا ”يَا عَبَاسُ احْبَدَا يَوْمَ الدِّمَارِ“ یہ تو بڑا چھا ہے، یہ جملہ تو انہوں نے کہا لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟

اس کی مختلف تشریحات ہو سکتی ہیں اور کی گئی ہیں۔

## ”ذمار“ کے معنی

”ذمار“ کئی معنی میں آتا ہے:

ایک معنی اس کے یہ ہیں کہ ذمہ لے لینا اگر ذمہ کے معنی لئے جائیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ دن بڑا چھا ہے جس میں لوگوں کی جانوں کی ذمہ داری لی گئی، صلح حدیبیہ کا دن مراد ہے یعنی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا لشکر کہ پر جملہ آور ہونے آرہا ہے اس کے مقابلہ میں یہ بہتر تھا کہ وہی حدیبیہ والی صلح باقی رہتی۔

دوسرے معنی اس کے ہلاکت اور تباہی کے ہیں تو بعض لوگوں نے اس کی تعریج یہ کی کہ ”یوْمُ الدِّمَارِ“ کے معنی یہ ہیں کہ آج ہلاکت کا دن ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے رہے آج ان کی ہلاکت کا دن ہے اور مظلوموں کی داوری کا دن ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے یہ معنی بھی بیان کئے ہیں۔

تمیر امعنی بعض حضرات نے کہا کہ ذمہ داری ہی کے ہیں لیکن درحقیقت مطلب یہ ہے کہ آج تم میری جان کی ذمہ داری لے لو یا میرے قبلے کے لوگوں کی جان و مال کی ذمہ داری لے لو اس لحاظ سے آج کا دن ہے۔

اچھا ہو گا۔

یہ مختلف تفسیریں ان کے اس جملے کی کی گئی ہیں۔ ۲۲

”لَمْ جَاءَتْ كِتْبَهُ وَهِيَ أَقْلَى النَّحْ“ پھر ایک دستہ ایسا آیا جو عدد کے لحاظ سے دوسرے دستوں کے مقابلے میں کم تھا اور اس میں رسول اللہ ﷺ اور ان کے مهاجرین اصحاب ﷺ تھے اور نبی کریم ﷺ کا جہنڈا حضرت زبیر بن عوام ﷺ کے ہاتھ میں تھا۔

”فَلَمَّا مَرَ رَسُولُ اللَّهِ بَابِي النَّحْ“ جب رسول اللہ ﷺ ابوسفیان کے پاس سے گزرے تو ابو سفیان نے حضورقدس ﷺ سے کہا، ”أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ ؟ النَّحْ“ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا ہے؟ آپ ﷺ نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابوسفیان نے کہا کہ یہ بات کی۔

”فَقَالَ: كَذَبٌ سَعْدٌ“ حضورقدس ﷺ نے فرمایا سعد بن عبادہ نے غلط بات کی۔

یہاں ”کذب“ جھوٹ کے معنی میں نہیں ہے اگرچہ ”کذب“ جھوٹ کے معنی میں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر غلط بیانی کرے لیکن یہاں ”کذب، کذب“ کے معنی میں نہیں ہے۔ بعض اوقات مخفی غلط بات کہنے کے بھی آتے ہیں چاہے اس کا مقصود جھوٹ بولنا نہ ہو جب کہ کوئی بات خلاف واقع یا نادرست کہے تو اس کو بھی کذب کہہ دیتے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ سعد بن عبادہ ﷺ نے غلط بات کی۔ ۲۳

## کعبہ کی عظمت کی واپسی کا دن

”وَلَكُنْ هَذَا يَوْمٌ يَعْظِمُ اللَّهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ“ آج کا دن تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبہ کو عظمت و بزرگی عطا فرمائے یعنی کعبہ کی عظمت واپس آئے گی، ”وَيَوْمٌ لَكُسْتِ فِيهِ الْكَعْبَةَ“ اور جس دن کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔

یہاں پر تردید اسی لئے فرمائی کہ حضرت سعد بن عبادہ ﷺ نے جو جملہ کہا تھا اس میں خاص طور پر ”الْيَوْمُ تَسْتَحْلِ الْكَعْبَةَ“ یہ ذرا بھدا سا جملہ تھا یعنی یہ بیت اللہ کے شایان شان نہیں تھا۔ اگرچہ ان کا مقصد غلط نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے کعبے کے اندر بھی قمل و قیال کی اجازت دی ہے۔

۲۲) عمدۃ القاری، ج: ۱، ص: ۳۹۹ وفتح الباری، ج: ۸، ص: ۸

۲۳) ((فَقَالَ: كَذَبٌ سَعْدٌ)), ای: لال النبی ﷺ: کذب، ای: اخطاء سعد. عمدۃ القاری، ج: ۱، ص: ۳۰۰

چنانچہ آگے پڑھیں گے کہ گستاخ ابن خطل کو ملتزم اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کیا گیا۔  
ویسے ان کا مطلب یہ تھا کہ آج تک تمہاری قوم جو شرک اور کفر کرتی رہی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتی  
رہی آج اس کو پناہ نہیں ملے گی۔

یہ مقصد تھا لیکن یہ لفظ "تَسْعَلُ الْكَعْبَةَ" یہ لفظ کعبہ کے شایان شان نہیں تھا، اس کی تعظیم کے شایان  
شان نہیں، اس لئے آنحضرت ﷺ نے بھی اس کو پسند نہیں فرمایا۔

اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ انہوں نے غلط بات کی، آج کادن تو وہ ہے کہ کعبہ کو اس کی عظمت واپس  
ملے گی۔ ان مشرکین نے بت پرستی کی گندگی سے کعبہ کو آلوہ کر کھا ہے تو اب وہ گندگی زائل ہو جائی گی اور کعبے کو  
وہ عظمت عطا ہوگی، جو اس کی اصل عظمت ہے اور آج کادن وہ ہے جب کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔

یہ اصول اسی وقت سے چلا آ رہا تھا کہ کعبہ کو رمضان میں غلاف پہنایا جائیگا اور یہ زیادہ عظمت کی بات ہے۔  
ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس رمضان میں غلاف پہنایا جائیگا اور یہ زیادہ عظمت کی بات ہے۔

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے انصار کا جہنمڈا حضرت سعد بن عبادہ ﷺ سے واپس  
لے لیا تھا، انصار کی سربراہی گویا سعد بن عبادہ ﷺ سے واپس لے لی گئی۔  
اس کی تین وجہات لفظ کی گئی ہیں۔

ہمیں وجہ بعض روایات سے تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ ﷺ نے یہ جملہ خلاف احتیاط  
بول دیا تھا تو یہ حضور اقدس ﷺ کو پسند نہ آیا اور آپ ﷺ نے جہنمڈا لے لیا اور ان کے بیٹے قیس بن عبادہ رضی اللہ  
عنہما کے حوالے کر دیا۔

دوسری وجہ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ خود حضرت سعد بن عبادہ ﷺ نے حضور اقدس ﷺ  
سے درخواست کی تھی کہ ان کے بیٹے قیس بن سعد ہیں اور جہنمڈا انہی کے ہاتھ میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ  
میرا بیٹا بڑا جوشیلا ہے اور آپ ﷺ نے تو یہ فرمایا ہے کہ فتح کہ کے موقع پر جب کہ میں داخل ہوں تو حتی الامکان  
قتل و غارت گری سے آپ نے منع فرمایا ہے لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ میرا بیٹا جوشیلا زیادہ ہے اور کہیں قتل غارت  
گری نہ کر بیٹھے، اس لئے یہ جہنمڈا آپ اس سے لے کر کسی اور کے حوالے کر دیں، پھر اس کے بعد حضرت سعد  
بن عبادہ ﷺ کے پاس یا ان کے بیٹے کے پاس جہنمڈا نہیں رہا۔

تیسرا وجہ این عساکر کی روایت سے این مجرم عقلانی رحمہ اللہ نے سلی ہے کہ جب آپ سامنے سے  
لے ایک عورت نے حضرت سعد بن عبادہ کے متعدد اشعار کی صورت میں شکایت کی تو آپ ﷺ نے  
جہنمڈا لے لیا۔ قریش کی خاقون نے یہ شعر پڑھی

یا بی الہدی الیک لجاء حی قریش ولات حین لجاء  
 اے نبی ہدایت! قریش نے آپ کی طرف پناہی ہے حالانکہ یہ پناہ کا وقت نہیں ہے  
 حین خاقد علیهم سعة الأرض وعادهم إله السماء  
 جس وقت وسیع زمین ان پر نگ بوجئ اور اللدان کا دشمن ہو گیا  
 ان سعدا یہ رید فاصمة الظہر باهل الحجون والبطحاء<sup>۳</sup>  
 تحقیق سعد بن عبادہ حجوان اور بطحاء کے لوگوں کی کرتوز دینا چاہتے ہیں

”قال وأمر رسول الله ﷺ أن ترکز رايته بالحجون“ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ آپ کا  
 جھنڈا حجوان کے مقام پر گاؤڑا جائے، حجوان اس وقت مکہ مکرمہ کی آخری حد سمجھی جاتی تھی، حجوان ایک طرف اور صفاء  
 ایک طرف یہ مکہ مکرمہ کی حد میں سمجھی جاتی تھیں۔

”وقال عروة: أخبرني نافع بن جبير الخ“ عروہ بن زیر کہتے ہیں کہ نافع بن جبیر بن مطعم نے  
 بھی کہا ہے کہ ”سمعت العباس وهو يقول للزبير بن العوام: الخ“ میں نے حضرت عباس رض کو حضرت  
 زیر بن خواص رض سے کہتے سنائے ابو عبد اللہ ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالم نے آپ کو یہاں پر چشم نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔

”قال: وأمر رسول الله ﷺ أن يدخل خالد بن الوليد أن يدخل الخ“ حضرت عروہ بن زیر  
 فرماتے ہیں کہ اس دن حضور ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رض کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ کے اوپر والے حصہ کداء  
 سے داخل ہوں، ”ودخل النبي ﷺ من كداء“ اور خود نبی کریم ﷺ نچلے حصے کداء سے داخل ہوئے۔

اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ خالد بن ولید رض کو اعلیٰ مکہ سے داخل ہونے کا حکم دیا لیکن یہ دوسری تمام  
 روایات کے خلاف ہے۔ دوسری روایات میں یہ بات ہے کہ حضور اقدس ﷺ خود اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے اور خالد بن  
 ولید کو اسفل مکہ سے داخل ہونے کا حکم دیا تھا اس لئے کہ مقابلہ و مقاتله کیلئے تمام اوباش اسی جانب میں جمع ہوئے تھے۔  
 اس حدیث میں ان کا اعلیٰ مکہ کہنے کو بھی وہم قرار دیا ہے اور کسی حدیث کے کسی ایک جز میں کسی ثقہ راوی  
 کو وہم ہو جائے تو اس سے پوری حدیث کی صداقت اور حقانیت متأثر نہیں ہوتی۔ در

<sup>۱</sup> عمدة القاري، ج: ۱، ص: ۳۰۰ وفتح الباري، ج: ۸، ص: ۱۰۰۹

<sup>۲</sup> وهذا مخالف للأحاديث الصريحة الآتية أن خالداً دخل من أسفل مكة والنبي من أعلىها، وكذا جزم ابن اسحاق  
 أن خالداً دخل من أسفل ودخل النبي من أعلىها وضربت له هاک لبة لفتح الباري، ج: ۸، ص: ۱۰۰، وعمدة القاري،

”لَقْتُ مِنْ خَيْلِ خَالِدٍ يَوْمَنِ رَجْلَانِ النَّخْ“ اس دن حضرت خالد بن ولید رض کے لشکر کے صرف دو صحابی شہید ہوئے حضرت حمیش بن آشرا اور حضرت کرز بن جابر رضی اللہ عنہما شہید ہوئے۔

## نبی کریم ﷺ دشمن پر بھی سایہ رحمت

واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب حضور ﷺ داخل ہوئے تھے تو حضرت خالد بن ولید رض سے کہا تھا کہ اسفل سے۔  
داخل ہوں اور تمام صحابہ کرام رض کو آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اپنی طرف سے کسی کو قتل نہ کریں۔  
یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کا اعجاز ہے کہ کوئی اور ہوتا تو مکہ مکرمہ کی گلیاں خون سے بھر جاتیں اور اس کے راستے لاشوں سے اٹے ہوئے ہوتے۔

اس واسطے کریے وہ قوم تھی جس نے ہجرت سے پہلے تیرہ سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام اور ان کے صحابہ رض کو اتنا ستایا تھا کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں، مدینہ کی جانب ہجرت کے بعد آٹھ سال تک جنگیں کرتے رہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کے دل میں انقام کے جذبات ہوتے اور ان کو نیچا دکھانے کی آرزو ہوتی اور اس کے نتیجے میں گلیوں میں خون بہرہ رہتا۔

لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کا اعجاز اور رحمت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رض کو حکم دیا کہ کوئی فرد بشر کسی کو قتل نہ کرے الای کہ کوئی سخت مجبوری ہو یا کوئی دوسرا حملہ آور ہو۔ حالانکہ مکہ کو فتح کر رہے ہیں فاتح ہیں، حملہ آور بھی خود ہیں لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی دوسرا حملہ آور نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو قتل نہ کرنا۔

چنانچہ حضرت خالد بن ولید رض بھی اسی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے داخل ہوئے تو اس راستے میں کچھ لوگ تاک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور جب حضرت خالد بن ولید رض کا لشکر گزرنے کے قریب آیا تو انہوں نے اچا تک حملہ کر دیا اس کے نتیجے میں حضرت خالد بن ولید رض کو لڑائی کرنی پڑی۔

اس لڑائی میں تقریباً چودہ، پندرہ آدمی مشرکین کے مارے گئے اور دو صحابی شہید ہوئے، ایک حمیش بن اشعا اور دوسرے کرز بن جابر رضی اللہ عنہما۔

حضرت کرز بن جابر فہری رض وہی صحابی ہیں جن کی قیادت میں حضور ﷺ نے عرنین کے خلاف دست بھیجا تھا اور زیادہ عرنین کو گرفتار کر کے لائے تھے، اس موقع پر شہید ہوئے، یہ واقعہ اسفل مکہ میں پیش آیا۔

اسفل مکہ میں ان کے مزار ہیں، میں وہاں حاضر ہوا ہوں مشہور ہے کہ یہ حضرات وہاں پر شہید ہوئے اور وہیں مسجد شہداء کے نام سے ایک مسجد ہے جو پہلے مکہ مکرمہ میں تبلیغی مرکز بھی تھی اب دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔

ہے۔ وہیں پر ان دونوں صحابہؓ کرام رضی اللہ عنہما کے مزار بھی ہیں۔ **وَاللّٰهُ أَعْلَمُ**  
بعد میں حضور ﷺ کو پڑھا چلا یہاں لڑائی ہوئی ہے تو حضرت خالد بن سعید سے پوچھا گیا تھا  
پھر تم نے کیوں لڑائی کی؟ حضرت خالد بن سعید نے عرض کیا یا رسول اللہ! انہوں نے حملہ کر دیا تھا ہمارے پاس چارہ  
نہیں تھا اس واسطے ہمیں لڑائی کرنی پڑی۔

آپ ﷺ نے فرمایا ”لِضَاهِ اللّٰهِ خَيْرٌ“ جو کچھ ہو گیا اللہ کا فیصلہ اس میں خیر ہے۔<sup>۱۶</sup>

۲۲۸۱ - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله  
ابن مغفل يقول: رأيت رسول الله ﷺ يوم فتح مكة على ناقه وهو يقرأ سورة الفتح يرجع  
وقال: لو لا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. [الظر: ۳۸۳۵، ۵۰۳۳، ۵۰۳۷]

[۷۵۲۰] <sup>۱۷</sup>  
ترجمہ: معاویہ بن قرۃ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مغفل ﷺ نے بیان کیا کہ میں نے فتح کمک کے دن  
رسول اللہ ﷺ کو ناقہ اونٹی پر سوار، خوش الحانی سے سورہ فتح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ معاویہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں  
کے ارد گرد جمع ہو جانے کا اندر یہ شہر نہ ہوتا تو میں حضرت عبد اللہ بن مغفل ﷺ کی طرح خوش الحانی کر کے دکھاتا۔

## ترجیع کا مطلب

”وهو يقرأ سورة الفتح يرجع“ اور آپ ﷺ میادوت میں ترجیع فرمادے تھے۔

”ترجیع“ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ گلے میں مد کی آواز بار بار آنے لگے جیسے آدمی کسی سواری پر سوار ہو  
اور سواری میں دھکے لگ رہے ہوں تو اس وقت میں جب منہ سے آواز نکلے گی تو گلے کے اندر الف بار بار لوٹ کر  
آرہا ہو گا۔

اس خاص کیفیت کا اردو میں تو کوئی نام نہیں ہے البتہ عربی میں اس کو ”ترجیع“ کہتے ہیں۔

۱۶ فتح الہاری، ج: ۸، ص: ۱۱

۱۷ ولی مصحح مسلم کتاب صلاة المسالین ولصرها، باب ذکر قراءة النبي ﷺ سورة الفتح يوم فتح مكة، رقم: ۷۹۲، ومن این دا رد، کتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل لى القراءة، رقم: ۱۳۶۷، ومسند احمد، باب حدیث عبد الله بن المغفل المعنی عن النبي ﷺ، رقم: ۱۶۸۹، ۲۰۵۳۲، ۲۰۵۵۸، ۲۰۵۶۵

مطلوب یہ کہ جب آپ ﷺ ناق پر سوار تھے اور ناق میں اوپر بیچے دھکے لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے آواز میں ایک گاؤڑا ہٹ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ آپ ﷺ کی تلاوت میں پیدا ہو رہی تھی۔

معاویہ بن قرۃ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ "الولان بجتماع الناس الخ" اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ جمع ہو جائیں گے تو میں بھی اسی طرح "ترجیع" کر کے دکھانا جس طرح رسول اللہ ﷺ نے ترجیع فرمائی تھی۔ کیونکہ ان کو حضرت عبداللہ بن مغفل ﷺ نے جب یہ حدیث سنائی تھی تو خود بھی اس "ترجیع" کی تفہیم اتنا کر بتائی تھی۔

۳۲۸۲-حدلنا سلیمان بن عبد الرحمن :حدلنا سعدان بن یحییٰ :حدلنا محمد

ابن أبي حفصة، عن الزهرى، عن علی بن حسین، عن عمرو بن عثمان، عن أسامه بن زید انه قال ز من الفتح: يا رسول الله أين نزل غدا؟ قال، النبي ﷺ: ((وَهُلْ تُرِكَ لَنَا عَقِيلُ مِنْ مَنْزِلٍ؟)). [راجع: ۱۵۸۸]

۳۲۸۳-لم قال: ((لَا يَرثُ الْمُؤْمِنُ إِلَّا كَافِرٌ، وَلَا كَافِرٌ مُؤْمِنٌ)). قبیل للزهری: من ورث أبا طالب؟ قال: ورث عقیل وطالب. قال معمر، عن الزهری: أین نزل غدا، فی حجته. ولم یقل بولس: حجته، ولا ذم من الفتح.

ترجمہ: حضرت اسامة بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے شیخ مکہ کے زمانہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اکل آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے واسطے شہر نے کی کوئی جگہ چھوڑی ہے؟ پھر آپ ﷺ نے فرمایا نہ مومن کافر کا وارث ہو سکتا ہے اور نہ کافر مومن کا۔

امام زہری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ابو طالب کا کون وارث ہوا؟ انہوں نے کہا عقیل، اور طالب ان کے وارث ہوئے۔ معمر نے زہری رحمہ اللہ سے یہ روایت کی ہے کہ حج کے زمانہ میں حضرت اسامة بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تھا کہ آپ ﷺ کل کہاں شہر ہیں گے، اور یوں کی روایت میں شحج کا ذکر ہے نہ زمانہ شیخ کا۔

## مکہ کے گھروں میں میراث اور شرعی و شرعاً کا بیان

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ بیان کیا ہے کہ مکہ مکرہ کی زمینیں اور گھروں کو نجع و شراء اور ان کا اجارہ اور وراثت میں مشتمل ہے، ونا جائز ہے یا نہیں؟

## امام بخاریؓ کا استدلال

امام بخاری رحمہ اللہ اس کی تائید میں، یہاں ایسی احادیث لائے ہیں جن میں مکہ مکرہ کی زمینوں یا مکان

کوئی فرد واحد کی طرف منسوب کیا گیا ہے جیسا کہ آپ ﷺ سے بھرتوں کے بعد جب عمرۃ القضاۓ یا حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ تشریف لائے تو امامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ کل آپ کہاں اتریں گے؟

آپ ﷺ نے فرمایا "هل ترك لنا عقیل من منزل؟" کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی گھر جھوڑا ہے یعنی کوئی گھر ہے کیا جس میں ہم قیام کریں؟

عقیل بن ابو طالب نے بناہشم کے سارے گھر بیچ دیئے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ گھر کو عقیل کی طرف منسوب کیا اور بیع کو نافذ قرار دیا، معلوم ہوا کہ اس کی بیع جائز ہے۔

## مدارِ اختلاف

اصل مدارِ اختلاف یہ ہے کہ مکہ مکرہ عنوۃ بیع ہوا تھا یا صلح کے ذریعے، اس میں کلام ہوا ہے۔

## سلک امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرہ عنوۃ بیع ہوا تھا، آپ ﷺ اس ہزار کا شکر لے کر گئے تھے، باقاعدہ تمثیل کیا، یہ علیحدہ بات ہے کہ جس طرف سے آپ ﷺ داخل ہوئے اس طرف کوئی خوزیری نہیں ہوئی۔

لیکن جس طرف سے حضرت خالد بن ولید ﷺ داخل ہوئے تھے وہاں تھوڑی بہت خوزیری بھی ہوئی تھی ایسی صورت میں حکم ہوتا ہے مفتوحہ علاقوں کی، اس کی زمینیں اور سب کچھ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے، لیکن مکہ مکرہ کی زمینوں کی تقسیم عمل میں نہیں آئی، حضور ﷺ نے یہ زمینیں صحابہ ﷺ اور مجاہدین میں تقسیم نہیں فرمائیں۔

جب اس زمین میں سارے مسلمانوں کا حق ہونے کے باوجود تقسیم کا عمل نہیں ہوا تو اب اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کو وقف قرار دیا جائے تاکہ سارے مسلمان اس سے فائدہ اٹھاسکیں، تو مکہ مکرہ کی ساری زمینیں وقف ہیں اور وقف ہونے کی وجہ سے اس کی بیع و شراء، میراث وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی، البتہ جو مارتمیں لوگوں نے خود اپنے پیسوں سے بنائی ہیں ان کو وہ بیع بھی سکتے ہیں اور کرایہ پر بھی دے سکتے ہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ زمین اور بنا، میں فرق کرتے ہیں بنا مملوک ہو سکتی ہے، زمین مملوک نہیں ہو سکتی۔

اگرچہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف یہ حدیث جھٹ نہیں ہے کیونکہ گھر کی عمارت بیچنے کو وہ بھی ناجائز نہیں کہتے، ان کا اختلاف زمین کے بارے میں ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے جواب دیا جاسکتا ہے کہ اضافت ہمیشہ تمثیل کیسے نہیں ہوتی، اختصاص کیلئے بھی ہو سکتی ہے اور باؤنڈی ملابست بھی۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں، اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے الصدر الشہید رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔  
اس مسئلے پر تفصیلی بحث و اختلافی مسائل، فقہی مباحث کتاب الحج میں گذری ہے۔ ۵۸

### تباین دارین اور اختلف دین سے میراث پر اثر

حضرت اسامة بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے فتح کمہ کے موقع پر حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا کہ "بِإِنْسَوْلِ اللَّهِ إِيْنَ تَنْزِلُوا هُدًى" اے اللہ کے رسول! آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں تو وہاں جا کر آپ کل کس جگہ قیام فرمائیں گے؟  
نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ "وَهُلْ تَرْكُ لَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ؟" کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی گھر چھوڑا ہے کہ جس میں جا کر ہم قیام کریں یعنی ہمارے جتنے گھر تھے وہ سارے عقیل نے قبضہ کر کے فروخت کر دیئے۔

عقیل سے مراد عقیل بن ابی طالب، حضرت علیؑ کے بھائی اور حضور اکرم ﷺ کے پچازاً بھائی تھے، اس زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔

حضور اقدس ﷺ جب بھرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو عبدالمطلب کی جنپی جائیداد تھی اس کے دارث آپ ﷺ کے پچا ابوبطالب ہوئے، اور ابوبطالب کی وفات کے بعد جو دراثت تقسیم ہوئی تو اس وقت مسلمان چونکہ بھرت کر کے مدینہ منورہ جا چکے تھے۔ اس واسطے تباين دارین اور اختلف دین کی وجہ سے ابوبطالب کی وراثت میں مسلمان حصہ دار نہ ہوتے۔

یعنی ابوبطالب کی اولاد میں یا عبدالمطلب کی اولاد میں جتنے لوگ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ چلے گئے تھے، ان کو عبدالمطلب کی جائیداد میں کوئی حصہ نہ ملا اور جن کو ملاتوہ اس وقت ابوبطالب کی کافراولاد تھی، اس وقت کافر اولاد میں عقیل تھے اور طالب تھے، وہ وراثت ان کو ملی تو عبدالمطلب کی جائیداد کا جتنا حصہ حضور اقدس ﷺ کا تھا یا حضرت علیؑ وغیرہ کے حصے کا تھا، وہ سب عقیل اور طالب کے حصے میں آگئے، عقیل نے بعد میں یہ کیا کہ جنپی

<sup>۵۸</sup> من ارادۃ التفصیل للمراجع: العام الباری، کتاب الحج، باب توریث مکہ و بیعہا و شرانہا، رقم: ۱۵۸۸، ج: ۵، ص:

بھی جائید اولیٰ تھی وہ سب فروخت کروی۔ ۹۴

نتیجہ یہ ہوا کہ اب کوئی جائید اوسی نہیں تھی جو عبدالمطلب کی اولاد کی ملک ہو، لہذا حضور ﷺ کی ملکیت میں بھی مکہ مکرمہ کے اندر کوئی گھر یا قری نہیں رہاتا، یہ مطلب ہے "هَلْ تُرِكُ لِنَا عَقِيلَ مِنْ مَنْزِلٍ" کا کہ کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ وہ تو پہلے ہی حساب بے باق کر چکے ہیں، اگرچہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، لیکن شروع میں وراثت میں لے کر باتی سارے مکانات فروخت کر دیئے تھے۔

پھر حضور اقدس ﷺ نے یہ حکم بیان فرمایا "لَا يَرثُ الْمُلْمَنُ الْكَافِرُ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُؤْمِنُ" مؤمن کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر مؤمن کا وارث نہیں ہوگا۔

گویا یوں فرمایا کہ اب ہمارا کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو ہم وراثت کے حق دار ہوتے اور دعویدار ہوتے، لیکن اب جب کہ ان کا انتقال ہو چکا اور وہ کافر بھی تھے تو اس واسطے ان کی وراثت کے حق دعویٰ دار بھی نہیں، لہذا آج ہمارا کوئی بھی گھر مکہ مکرمہ میں نہیں ہے۔

"وَقَيْلٌ لِلْزَهْرِيِّ: مَنْ وَرَثَ أَهْلًا طَالِبٌ" زہری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ابوطالب کا دارث کون بناتھا؟ انہوں نے کہا "وَرَثَ عَقِيلَ وَطَالِبَ" عقیل اور طالب وراثت بنے تھے، انہوں نے ساری جائیداد پر قبضہ کیا تھا۔

## روايات کے درمیان اختلاف

اوپر آپ نے دیکھا کہ یہاں جو روایت آئی ہے یہ محمد بن ابی حفصہ اس کو زہری رحمہ اللہ سے روایت کر رہے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے سوال کے جواب میں حضور اقدس ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا، اس روایت میں صراحتاً بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ فتح مکہ کا ہے۔

لیکن دوسری روایت جو سفر نے زہری رحمہ اللہ سے نقل کی ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ بات اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے حج کے موقع پر پوچھی تھی، یعنی جو جمۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا "أَيْنَ تَنْزَلُ غَدَاء؟" یعنی کہ آپ

۹۴. وَلَالِ الدَّاؤدِيُّ: بَاعَ عَقِيلَ مَا كَانَ لِلشَّيْءِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلَمْنَ هَاجِرْ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمَطَلِبِ، كَمَا كَانُوا يَلْعَلُونَ بِدُورِ مِنْ هَاجِرْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمَا اعْنَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَرْفَاتِ عَقِيلَ كَرِمًا وَجُودًا، وَمَا اسْتَعْنَاهُ لِعَلِيلٍ، وَمَا تَصْحِحَّ بِصَرْفَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ، كَمَا أَنَّهُ يَصْحِحُ النَّعْهَةَ الْكَلَارِ، وَاللَّوْا: فَلَقَدْ طَالِبَ بِهِدْرِ الْمَاعِ عَقِيلَ الدَّارِ كُلُّهَا. عَدَدُ

کہاں اتریں گے؟ تو اس کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا "عَلَى تِرْكِ لِنَاعِقِيلٍ مِنْ مَنْزِلٍ"۔  
معمر نے صراحت کی ہے کہ یہ واقعہ صحیح الوداع کا ہے نہ کفتح مکہ کا۔

"وَلَمْ يَقُلْ يُوسُفُ حَجَّتَهُ وَلَا زَمْنَ الْفَتحِ" یوسف نے بھی زہری رحمہ اللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے انہوں نے کوئی صراحت نہیں کی کہ یہ واقعہ صحیح الوداع کا ہے یا فتح مکہ کا۔

محققین میں سے حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدرا الدین عینی رحمہما اللہ نے یہ فرمایا کہ جب روایت میں تعارض ہو گیا کہ زہری کے دو شاگرد روایت کر رہے ہیں ایک معمر اور دوسرے ابن الی خصہ تو ان دونوں میں اوسط اور احفظ معمر ہیں، لہذا ان کی روایت کو ترجیح دی گئی۔ اس واسطے راجح بات یہ ہے کہ آپ ﷺ نے یہ بات صحیح الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی نہ کفتح مکہ کے موقع پر فرمائی تھی۔ ۴۵

۳۲۸۳ - حدثنا أبو اليمن: حدثنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عليهما السلام قال: قال رسول الله ﷺ: ((منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله، الخيف حيث تقاسموا على الكفر)). [راجع: ۱۵۸۹]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ عليهما السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے فتح دی تو ان شاء اللہ ہمارے شہرنے کی جگہ خیف ہو گی، جہاں قریش نے کفر پر قسمیں کھائی تھیں۔

۳۲۸۵ - حدثنا موسی بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن سعد: أخبرنا ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ حين أراد حنبلا: ((منزلنا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر)). [راجع: ۱۵۸۹]  
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ عليهما السلام نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب بچک خین کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ ہم ان شاء اللہ خیف بني کنانہ میں شہریں گے، جہاں کافروں نے کفر پر باہم عہد و پیمان کیا تھا۔

## خیف میں قیام

ان دونوں احادیث میں حضرت ابو ہریرہ عليهما السلام فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا تھا "منزلنا إن

۱- روى في الأخلاف بين أبي حفصة ومعمر، و معمر أولئك وألقن من محمد بن أبي حفصة. عمدة القاري، ج: ۱۷،

ص: ۳۰۲، وفتح الباري، ج: ۸، ص: ۱۵

شاء الله إذا أذن الله، الخيف" کران شاء اللہ جب اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمادیں گے تو ہمارا قیام خیف میں ہو گا۔  
"خیف" اصل میں اس جگہ کہتے ہیں جو کسی پیار کے دامن میں ہو لیکن عام سطح سے تھوڑی سی بلند ہو  
اس کو کہتے ہیں اور یہ "خیف" وہ جگہ ہے جس کو شعب الی طالب کہا جاتا ہے۔

جہاں مشرکین نے آپس میں یہ معابدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کریں گے اور تین سال تک وہ  
بائیکاٹ جاری رہا اور شعب الی طالب میں مسلمان محسور ہے فرمایا کہ ہم وہیں جا کر قیام کریں گے، یعنی خیر  
وغیرہ ڈال کر، کیونکہ گھر تو کوئی رہائیں ہے۔ اس

٣٢٨٦-حدیثنا يحيى بن فزاعة: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك ص: أن النبي ﷺ دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المفتر للما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق باستار الكعبة، فقال: ((اقتله)), قال مالك: ولم يكن النبي ﷺ ليما لرى - والله أعلم - يومئذ محروما. [راجع: ١٨٣٦]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک ص فرماتے ہیں کہ نبی کریم ص فتح مکہ کے دن سر مبارک پر خود رکھے  
ہوئے کہ مکہ مکہ میں داخل ہوئے، آپ ص نے خود اتارا ہی تھا کہ ایک آدمی نے آکر کہا کہ ابن خطل کعبہ کے  
پردے پکڑے ہوئے موجود ہے، آپ ص نے حکم فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر  
جانتا ہے، لیکن جہاں تک ہمارا خیال ہے نبی کریم ص اس روز محرم نہیں تھے۔

## شرح

حضرت انس بن مالک ص فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم ص مکہ مکہ میں داخل  
ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر "مففر" یعنی خود تھا، جب وہ خود اتارا تو ایک شخص نے آکر کہا کہ ابن خطل کعبہ  
کے پردے سے لٹکا ہوا ہے۔

اس حدیث سے اس بات پر استدلال کر رہے ہیں کہ حضور اقدس ص فتح مکہ کے سال داخل ہوئے

٢٣ ((والخیف)) خبره وعكس بعضهم فيه، والخیف، بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر المعرف وبالفاء: ما ارتفع عن غلظ الجبل وارتفع عن مسلل الماء. قوله: ((حيث لفاصموا)) أي: تعالفوا وذلك أنهم تعالفوا على اخراج الرسول وبني هاشم والمطلب من مكة إلى الخيف، وكثروا بهم الصحفة المشهورة. عمدة القاري، ج: ٢، ص: ٣٠٢.

اور آپ ﷺ کے سر اقدس پر مغفرتھا۔

اس کا مطلب ہوا کہ آپ ﷺ حالت احرام میں نہیں تھے تو چونکہ ارادہ عمرے کا نہیں تھا اس لئے بغیر احرام کے آپ ﷺ تشریف لائے تھے، لیکن اس سے استدلال اس لئے تام نہیں ہوتا کہ یہ تو ایک استثناء کا واقع تھا اور فتح مکہ کے سال میں پورے حرم کو حلال قرار دے دیا تھا، لہذا اس سے استدلال تام نہیں۔ ۲۲

## ابن خطل کا قتل

فتح مکہ کے دن آپ ﷺ نے عام معافی کا اعلان کر دیا لیکن چند گستاخ اور دریدہ وہن مردوں اور عورتوں کے متعلق آپ ﷺ نے یہ حکم دیا کہ جہاں کہیں ملیں قتل کر دئے جائیں عبد اللہ بن خطل ان چند لوگوں میں سے تھا کہ نبی کریم ﷺ نے جن کا خون مباح قرار دیا تھا اگرچہ وہ استارِ کعبہ کو پکڑے ہوئے ہوں۔

یعنی دیسے تو ہر ایک شخص کو امان دیا گیا تھا کہ جواب سفیان کے گھر میں داخل ہوگا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے گا، جو حرم میں داخل ہو گا وہ امن میں ہے، لیکن اس عام معافی اور امان سے چند افراد کو مستثنیٰ کیا تھا اور ان کے بارے میں یہ حکم فرمایا تھا کہ جہاں بھی ملے ان کو مار دو۔

انہی مجرمین میں سے ایک عبد اللہ بن خطل بھی تھا، یہ شخص مسلمان ہو گیا تھا پھر حضور ﷺ نے صدقات وصول کرنے کیلئے اسکو عامل بنا کر بھیجا اور خدمت کیلئے ایک مسلمان بھی اس کے ساتھ کر دیا، اس نے خادم مسلمان کو ناحق قتل کیا پھر قصاص کے خوف سے مردہ ہو گیا اور صدقات کے جانوروں کے ساتھ مدینہ سے بھاگ کر کہ آگیا تھا۔ یہ وہ بد بخت شخص تھا جو حضور اقدس ﷺ کی شانِ القدس میں بھجو یہ قصیدے کہتا تھا اور اس کی دو باندیاں تھیں وہ اسی کام کے نئے رکھی ہوئی تھیں کہ بھجو یہ اشعار پڑھتی رہیں۔ — العیاذ بالله العلی العظیم — ۳۴

۲۲ من ذلك أن الحديث فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير احرام. لان قلت: ي Hutchinson أن يكون ﷺ كاما محرماً، ولكن خطى رأسه لعدرا. قلت: قد مر في الحديث مسلم عن جابر الله لم يكن محرماً. لان قلت: يشكل هذا من وجه آخر، وهو أنه ﷺ، كان متابعاً للقتال، ومن كان هدا شانه جاز له الدخول بغير احرام. عمدة القاري، كتاب جزاء الصيد، باب دخول العزم و مكة بغير احرام، رقم: ۱۸۳۶، ج: ۱۰، ص: ۳۰۸.

والليل: ي Hutchinson أن يكون محرماً إلا أنه ليس المفتر للضرورة، أو أنه من خواصه ﷺ. عمدة القاري، ج: ۷، ص: ۳۰۳

۲۳ لوله: ((ابن خطل)), هو عبد الله بن خطل، يفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة، كان أسلم وارتدى وقتل قبلها بغير حل، وكانت له فيستان تخدیان بهجو الیس ﷺ. عمدة القاري، ج: ۷، ص: ۳۰۳

اس نے یہ سوچا کہ میرے لئے تو کوئی پناہ نہیں ہے، مکہ مکرہ فتح ہو چکا، تو جا کر کعبے کے پردوں سے لٹک گیا۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ کہیں بھی لٹک جائے اس کو پکڑو اور مارو۔ چنانچہ وہاں سے اس کو گھیث کرنکا لاگیا، اور پھر ملزتم اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو قتل کیا گیا۔

عبداللہ بن خطل کے تین جرم تھے:

ایک جرم خونِ ناتق۔

دوسراء جرم مرتد ہونا۔

تیسرا جرم آپ ﷺ کی ہجومیں شعر کہنا۔

ان تین جرم کی وجہ سے اس کا خون مباح الدم قرار دیا۔

## حرم کے اندر قتل کرنے کا حکم

اس واقعے سے کچھ فقیہی مسائل بھی متعلق ہیں مثلاً یہ کہ مجرم کا حرم کے اندر قتل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟

فتح مکہ کے دن آپ ﷺ نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا لیکن چند لوگ اس معافی سے مشتبی تھے۔

بہر حال جہاں تک حرم میں قتل کا شہر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ روایات میں بات آئی ہے کہ اس دن

یا اس روز صحیح سے عصر تک حرم میں قتل کو حلال کر دیا گیا تھا۔ ۳۴

نبی کریم ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی یا نہیں؟ اس سے توبہ کرائی جاتی ہے یا

نہیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ مسئلے اپنے محل پر ان شاء اللہ آئیں گے۔ یہاں حفظ و اقعات بیان کرنا مقصود ہے۔

سوال: ابن خطل کے قتل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ذاتی انتقام کے لئے قتل کرایا جبکہ

اہل سر کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا؟

جواب: یہ ذاتی انتقام کا مسئلہ نہیں تھا، یہ جو کہا کہ ابن خطل حضور اقدس ﷺ کی شان میں ہجو کیا کرتا تھا،

۳۴ وفى ((العرضي)) قوله دلالة على أن العموم لا يعصم من القتل الواجب. قلت: إنما وقع قتل ابن خطل في الساعة التي أحل للنبي ﷺ فيها القتال بمكة ولقد صرخ بأن حرمها عادت كما كانت فلم يصح الاستدلال به لعدم ذكره، وروى أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن تلك الساعة استمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر. عمدة

یہ ہجور حضور اکرم ﷺ کا ذائقہ مسئلہ نہیں تھا کہ اس کی بنا پر آپ نے اس کو سزا دی ہو۔

اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے آج کل پروپیگنڈے کیلئے ذراائع ابلاغ، اخبارات اور دوسرے ذریعے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں پروپیگنڈے کا سب سے موثر ذریعہ شعر تھا، کیونکہ لوگوں میں شعروشا عربی کا ذوق بہت تھا اور جب کسی شخص کے بارے میں کوئی قصیدہ کہہ دیا جاتا تھا تو وہ چار دنگ عالم میں مشہور ہو جاتا تھا۔ تو وہ پروپیگنڈے کا سب سے موثر ذریعہ تھا۔

بات یہ نہیں ہے کہ اس نے حضور اقدس ﷺ کی ذات کو ہجور کا نشانہ بنایا، بلکہ بات یہ ہے کہ پورے دین کی بیاد کے خلاف اس نے پروپیگنڈے کا ایسا بازار گرم کیا کہ جس میں حضور اقدس ﷺ کی ذات اقدس ہی نہیں آپ کے منصب نبوت اور آپ کے پیغمبرانہ کارناموں اور دین و مذہب سب کے خلاف پروپیگنڈہ اس کی شاعری میں شامل تھے۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی با غایانہ خیالات لوگوں میں مشہور کر لے۔ اس واسطے اس کو معاف نہیں کیا گیا۔ اگر معاف کر دیا جاتا تو پھر ایسے لوگوں کا شروع و قشیرہ پورے دین اور اہل دین کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔

یہ وجہ ہے، ذاتی انتقام و جعل نہیں ہے۔ با غایی ہو یا نہ ہو لیکن اس نے جو کام کیا تھا وہ ضرر رسان تھا اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا تھا اور یہ صرف کسی ذات کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ ۵۵

۵۵ [پیغمبر خدا ﷺ کی تعمیر و تطہیر اور اس کی نصرت و حمایت تمام است پر فرض ہے، اس کی بے حرمتی و میں الحنی کی بے حرمتی ہے۔ علاوه ازیں پیغمبر کی توبیہ اور بے حرمتی ساری است کی توبیہ اور بے حرمتی ہے۔ یا اہلی محل پر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سب و شتم استہزاہ اور تنفس گستاخی اور درد بیدا ذمی کا جرم، پیغمبر علیہ السلام کو وطن مقدس کم مظہر سے لکال دینے کے جرم سے کمیں زیادہ سخت ہے۔]

سال الرہبہ مالک الکافلی رجل شتم النبی ﷺ و ذکر له ان للهباء العراق العروہ بجزلده، للغضب مالک وقال: ((ب)) امیر المسلمين امام البقاء الاممہ بعد شتم نبیها! خلیفہ ہارون رشد نے جب امام مالک رحمہ اللہ سے نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں گستاخ کرنے والے کا حکم دریافت کیا تو فرمایا کہ اس است کی کیا زندگی ہے جس کے پیغمبر کو گالیاں دی جائیں۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک نصرانی نے نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کی توبیہ موصوف نے جو ۲ صفحات کی ایک مختصر کتاب نقطہ اسی موضوع پر تصنیف فرمائی اور "الصارم المسلول علی شان الرسول ﷺ" اس کا نام رکھا، جس میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور اجماع صحابہ و تابعین اور تعالیٰ خلفائے راشدین اور عقلی ولائل و برائین سے شانم رسول کا واجب الفحش ہوتا ہات کیا ہے۔ جزاہ اللہ تعالیٰ عن الاسلام و المسلمين خیراً آئیں۔ مأخذواز: سیرۃ المصطفیٰ ﷺ، جلد سوم، صفحہ ۳۴، والشفاء بتعريف حقوق المصطفیٰ: اللسم الرابع لی تعرف وجوه الأحكام لنفسه او سبہ علیہ الصلة والسلام، الفصل الثاني الحجة لی ایجاد فعل من سب او

سوال: آزادی اظہار رائے کسی حدود و قوڈ کی پابند ہونی چاہیے یا نہیں؟  
 مثلاً اگر آج کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ جتنے دولت مند لوگ ہیں، انہوں نے  
 تاجائز طریقے سے دولت کمائی ہے، لہذا ان کی ساری دولت لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرنی چاہیے، تو اس اظہار  
 رائے کی آزادی ہوگی؟ مغرب کا نظریہ یہ ہے کہ چھین کر کھالو، لوٹ کر کھالو تو اس طرح کی آزادی اظہار رائے کا  
 جواز ہے یا نہیں؟

جواب: مغرب والے خود اس آزادی اظہار رائے کے نظریے کو برداشت نہیں کرتے کہ اگر کوئی شخص حق  
 بات کہے تو یہ اسکو برداشت نہیں کرتے۔

کیا ان کے جو مخالفین ہیں ان کو ان خود نام نہاد آزادی اظہار رائے کا ڈھنڈو را پہنچنے والوں نے  
 برداشت کیا؟ مثلاً اسامہ بن لادن اور صدام حسین اور اسی طرح مغرب کی مخالفت کرنے والوں کو انہوں نے  
 برداشت کر لیا کہ ان آزادی اظہار رائے کا حق ہے چاہے وہ جس کے خلاف بھی ہو لیں؟

یہ سب ایسے ہی دکھاوے کی باتیں ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی، ورنہ اظہار رائے کا حقیقت میں  
 آزادی تو درکنار ان لوگوں نے تواریخ کو محبوس کیا ہوا ہے۔

۳۲۸۷ - حدثنا صدیة بن الفضل: أخبرنا ابن عبيدة، عن ابن أبي نجيح، عن  
 مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد الله قال: دخل النبي ﷺ مكة يوم الفتح وحول البيت ستون  
 وثلاثمائة نصب لجعل يطعنها بعوْد لِي يده ويقول: ((جَاءَ الْحُقْقُ وَرَأَهُقُّ الْبَاطِلَ، جَاءَ الْحُقْقُ  
 وَمَا يُبَدِّي الْبَاطِلُ وَمَا يُغْيِي)). [راجع: ۲۲۷۸]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ رض نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے، اور  
 بیت اللہ کے اروگردیں سوسائٹیت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ان کو مارتے ہوئے فرماتے تھے "حق  
 آگیا اور باطل ملیا میٹ ہو گیا، حق آیا اور اب باطل نہ آئے گا اور نہ دوبارہ لوٹے گا"۔

## سارے بت گر گئے

اس وقت خانہ کعبہ کے گرد تین سوسائٹیت نصب تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاٹھی ان کے اوپر مارتے  
 تو یہ فرماتے کہ "جَاءَ الْحُقْقُ وَرَأَهُقُّ الْبَاطِلَ الخ" حق آگیا اور باطل ملیا میٹ ہو گیا، حق آیا اور اب باطل نہ  
 آئے گا اور نہ دوبارہ لوٹے گا۔

اور دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ جب کسی بٹ کے سامنے سے تشریف لے جاتے تو اس کی طرف اشارہ کرتے جس سے وہ خود ہی اوندھے منہ گر پڑتا یہاں تک کہ سارے بٹ گئے۔ ۵۶

۳۲۸۸ - حدیثی إسحاق: حدثنا عبد الصمد: حدثني أبي: حدثني أبوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ لما دم مكة أبى ابن يدخل البيت ولية الآلهة فامر بها فاخرجت، فاخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال النبي ﷺ: ((الا لهم الله، لقد علموا ما استقساها بهما قط)). ثم دخل البيت فكبير في نراحى البيت وخرج ولم يصل فيه. تابعه معمر، عن أبوب. وقال وهب: حدثنا أبوب، عن عكرمة عن النبي ﷺ. [راجع: ۳۹۸]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مکہ تشریف لائے تو کعبہ میں بُت تھے، آپ ﷺ کعبہ میں داخل ہونے سے رکے رہے، تو آپ ﷺ نے ان بتوں کے نکالنے کا حکم دیا تو انہیں نکالا گیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی تصویریں نکالی گئیں، جن کے ہاتھوں میں پانسہ کے تیر تھے، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ ان کافروں کو ہلاک کرے، انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے ان دونوں بزرگوں نے کبھی پانسہ کے تیر نہیں چھینکے، پھر آنحضرت ﷺ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے گوشوں میں تکمیر کی، اور اس میں بغیر نماز پڑھے باہر تشریف لے آئے۔ میرنے ابوب سے اس حدیث کی متابعت کی ہے اور وہیب کہتے ہیں کہ ہم سے ابوب روایت کرتے ہیں کہ عکرمه نبی کریم ﷺ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔

## شرح

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر جب کعبہ سے بتوں کو نکلا جا رہا تھا تو اس میں

۶۷ قولہ: ((يَعُودُ لِي يَدُهُ وَيَقُولُ: جَاءَ الْحَقُّ))، فی حدیث أبی هریرۃ عند مسلم ((عنهیہ بسیة القوس)) وفی حدیث ابن عمر عند المأکہی وصححه ابن حبان ((لِي سلطَ الْحُصْنَ وَلَا يَمْسِهِ))، وللماکہی والطبرانی من حدیث ابن عباس ((لَمْ يَلْمِنْ وَلَنْ اسْتَبْلِدْ الا سُقْطَ لِقَاهُ، مَعَ الْهَا كَاتَ لَاهَةً بِالْأَرْضِ، وَلَدَدْ لَهُمْ الْمُسْ الدَّامَهَا بِالرَّحَاصِ))، وفعل النبي ﷺ ذلك لاذلال الانساني وعابدهما، ولا ظهار أنها لا تتبع ولا تتضرر، ولا تدفع عن نفسها شيئاً... عند ابن أبی ذئبة من حدیث جابر نحو ابن مسعود قوله ((فَأَمَرَ بِهَا الْكِتَبَ لِرَجْوِهَا)). فتح الباری، ج: ۸، ص: ۷، وعمدة القاری، ج: ۷، ص: ۱، ص: ۳۰۳

حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی تصویریں بھی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں ازلام دیکھائے گئے تھے یعنی وہ تیر جن سے وہ استقسام بالازلام کیا کرتے تھے۔

## تیروں کے ذریعے فال نکالنا

”الازلام“ جمع ہے ”ذلم“ کی جس کے معنی ہیں بے پر کا تیر، وہ تیر جس سے کفار فال نکالتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا طریقہ تھا کہ بے پر تیروں پر لکھتے تھے اور فال نکالتے تھے، جس کا طریقہ کاریہ تھا کسی تیر پر ”العل“ اور کسی پر ”لائفعل“ لکھتے اور کسی تیر کو سادہ چھوڑ دیتے تھے، پھر ان تمام تیروں کو ایک ترکش میں جمع کر دیتے تھے۔

پھر جب سفر کا قصد کرتے یا شادی کا ارادہ کرتے یا اور کسی بھی بڑے کام ارادہ کرتے تو اس ترکش سے ایک تیر نکال لیتے تھے۔

اگر ”العل“ والا تیر نکلتا تو وہ کام کرتے تھے، اور اگر ”لائفعل“ والا تیر نکلتا تو اس کو بد فائی شمار کرتے تھے اور اس کام کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی سادہ تیر نکلتا تو اس کو بار بار نکلتے یہاں تک کہ کرنے کا یانا کرنے کا تیر نکل جاتا۔ ۷۵

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”فَاتْلُهُمُ اللَّهُ، لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَقْسَمُوا بِهَا قُطُّ“ اللدان کافروں کو مارے یا رہلاکت میں ڈالے یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے کبھی بھی ان تیروں سے فال نہیں نکالا۔

”لَمْ دُخُلْ الْبَيْتَ لِكَبْرٍ فِي نَوَاحِي الْبَيْتِ الْحَمْرَاءِ“ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ ﷺ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے مختلف گوشوں میں تکمیر فرمائی اور آپ ﷺ باہر تعریف لے آئے جب کہ آپ ﷺ نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔

**بعن لرسوله:** ((الازلام)) جمع: ذلم، وهو الشهان الذي كالوا يستقسمون بها الخير والشر، وتسمى: اللداح المكتوب عليهما الأمر والنهي: العل ولا لافعل، كان الرجل منهم يضعها على وعاء له، وإذا أراد ملرأً أو زواجه أو أمرأ مهماً أدخل بيده فاخترج منها لمان خرج الأمر مرض لشائه، وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعله. حمدة الفارسي،

## (۵۰) باب دخول النبی ﷺ من اعلیٰ مکہ نبی کریم ﷺ کا اعلیٰ مکہ کی جانب سے داخل ہونے کا بیان

۳۲۸۹ - وَقَالَ الْلَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ: أَخْبَرَنِي نَافعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْلَى يَوْمَ الْفَتحِ مِنْ أَعْلَى مَكَةَ عَلَى رَاحْلَتِهِ مِرْدَفًا أَسَامِةً أَبْنَى زَيْدَ وَمَعَهُ بَلَالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ مِنْ طَلْحَةَ حَتَّى أَنَّا خَلَقْنَا مَسْجِدًا لِأَمْرِهِ أَنْ يَأْتِي بِمَفْتَاحِ الْبَيْتِ لِلْدُخُولِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ أَسَامِةً بْنَ زَيْدَ وَبَلَالًا وَعُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَمَكَثَ فِيهِ لِهَارَا طَوِيلًا، ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوْجَدَ بَلَالًا وَرَاءَ الْبَابِ قَالَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ؟ أَبِنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَشَارَ لِهِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَنْ يَسْتَقِي أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى مِنْ مَسْجِدَةٍ؟ [راجع: ۳۹۷]

ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نجح کہ کے دن مکہ کے اوپر والے حصے سے اپنی سواری پر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بٹھائے ہوئے تشریف لائے، آپ ﷺ کے ساتھ بلال ﷺ اور حاجب کعبہ عثمان بن طلحہ تھے، آپ نے مسجد میں اپنی سواری کو بٹھا دیا اور عثمان بن طلحہ کو کعبہ کی چابی لانے کا حکم دیا، آنحضرت ﷺ کے ساتھ اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ ﷺ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، اور اس میں بہت دیر تک ظہرے رہے، پھر آنحضرت ﷺ باہر تشریف لے آئے، اب لوگ دوڑے، سب سے پہلے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اندر گئے، انہوں نے دروازے کے پیچے حضرت بلال ﷺ کو کھڑا ہوا دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ تو بلال ﷺ نے آنحضرت ﷺ کے نماز پڑھنے کی جگہ بتا دی، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں بلال ﷺ سے یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔

### روایات میں تطہیق

پچھلے باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت یہی ہے کہ آپ ﷺ نے بیت اللہ میں جا کر نمازوں میں پڑھی لیکن حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال ﷺ کی روایتیں صریح ہیں کہ آپ ﷺ نے وہاں جا کر

نماز پڑھی اور ان حضرات نے وہ جگہ بھی بتائی جہاں پر نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔  
صحیح بات ہے کہ آپ ﷺ نے داخل بیت اللہ نماز پڑھی تھی، اصول یہ ہے کہ ”المثبت مقدم علی النافع“ یعنی ثابت کو منفی پر ترجیح حاصل ہے تو اس واسطے یہ روایت زیادہ صحیح ہے کہ آپ نے نماز پڑھی تھی۔

## بیت اللہ کی پاسبانی

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ قع کے دن اعلیٰ کہے سے تشریف لائے آپ اپنی سواری پر سوار تھے آپ نے اپنے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بٹھایا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ حضرت بلاں ﷺ بھی تھے اور عثمان بن طلحہ بھی تھے جو ”حججه“ بھی تھے۔  
یہ ”حججه“ کی جمع ہے یعنی بیت اللہ کے پاسبان۔

یہاں تک کہ آپ ﷺ نے مسجد میں اپنی ناقہ کو بٹھایا اور عثمان بن طلحہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی چابی لے کر آئیں، کیونکہ عثمان بن طلحہ اس خاندان سے تھے جس خاندان کے پاس بیت اللہ کی چابی مدت دراز سے چلی آرہی تھی، جن کو بتوثیبہ کہتے ہیں، ان سے فرمایا کہ جاؤ چابی لے کر آؤ۔

بعض روایتوں میں یہ تفصیل آئی ہے کہ حضور ﷺ انتظار کرتے رہے اور عثمان بن طلحہ چابی لینے کیلئے گرفتگی اور آنے میں بہت در کردی، جب چابی لیکر آئے تو پتہ چلا کہ دری کی وجہ یہ تھی کہ بیت اللہ کی چابی ان کی ماں کے پاس رکھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ آج اگر چابی تمہارے ہاتھ سے چلی گئی تو زندگی بھر واپس نہیں آئے گی اس واسطے تم نہ دو، گویا وہ اسکے ساتھ آخر تک مراحت کرتی رہیں کہ چابی نہیں دینی، عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اب چابی دینی پڑے گی۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، یوں وہ چابی لے کر آئے اور بیت اللہ کا دروازہ کھلا، پھر رسول اللہ ﷺ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔

جب بیت اللہ باہر تشریف لائے اور پانی پلانے کے مقام پر تشریف فرمابوئے تو حضرت علی ﷺ نے کہا کہ ہماری قوم سے بڑھ کر عظیم قوم کون سی ہوگی؟ ہم وہ لوگ ہیں جن میں نبوت عطا کی گئی، اور سماں زمزم (حرم میں زمزم کا پانی پلانے کی ذمہ داری) اور بیت اللہ کی پاسبانی کی سعادت بھی ہمیں حاصل ہے، اس بات کو نبی کریم ﷺ نے ناپسند فرمایا۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی ﷺ نے آپ ﷺ سے درخواست کی تھی کہ چاہیاں ہمیں عطا کر دیجئے اب بنو ہاشم کو بیت اللہ کی پاسبانی کا منصب بھی عطا ہو جائے۔

لیکن چاہی حضور اقدس ﷺ نے عثمان بن طلحہ کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس چاہی کو ہمیشہ کیلئے لے لو یعنی قیامت کے دن تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، اور تم سے واپس نہیں لی جائے گی سوائے یہ کہ کوئی ظالم تم سے چھین لے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے ہنی شیبہ! تمہیں ہمیشہ کیلئے دیتا ہوں، کسی ظالم کے سوائے یہ چاہی تم سے کوئی نہیں لے گا۔ ۲۸

بعض روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت علیؓ نے کمرے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ کنجی ہم کو عطا فرمادیجئے تا کہ سقاوت زمزم کے ساتھ بیت اللہ کی دربانی کا شرف بھی ہم کو حاصل ہو جائے تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ جل شانہ نے امانت کو ان کے حق داروں کی طرف واپس لوٹانے کا حکم فرمایا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْذِنُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا  
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ ۲۹

ترجمہ: (مسلمانو!) یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔

اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور چاہیاں ہمیشہ کیلئے ان کے خاندان کے حوالے فرمادیں۔ اس واقعہ کے بعد عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ۲۹

۲۸) قوله: ((فَأَمْرَهُ أَنْ يَأْكُلْ بِمَكَابِحِ الْبَيْتِ)) روى عبد الرزاق والطبراني من جهته من مرسل الزهرى ((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُثْمَانَ يَوْمَ الْفُتحِ: الَّتِي بِمَكَابِحِ الْكَعْبَةِ، فَابْطِأْ عَلَيْهِ رَوْسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَظِرُهُ، حَتَّىْ أَنْ لَيَبْخُرَ مِنْهُ مَلِلُ الْجَمَانِ مِنَ الْعَرْقِ وَيَقُولَ: مَا يَحْصِبُهُ؟ لَسْمَى إِلَيْهِ رَوْسُولُهُ رَجُلًا، وَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي عَنْهَا الْمَكَابِحَ وَهِيَ أُمُّ عُثْمَانَ وَاسْمُهَا سَلَالَةُ بْنَ سَعِيدٍ تَقُولُ: إِنَّ أَخْدَهُ مِنْكُمْ لَا يَعْطِيكُمْ أَهْدَاءً، فَلَمْ يَرْزُلْ بِهَا حَتَّىْ أَعْطَتِ الْمَكَابِحَ؛ لِجَاءَ بِهِ الْفُتحُ، لَمْ دَخُلْ الْبَيْتَ، لَمْ خَرُجْ لِجَلْسِ عَنْ السَّقَايَا فَلَمَّا قَالَ عَلَيْهِ أَعْطِنَا الْبَيْوَةَ وَالسَّقَايَا وَالْحِجَابَةَ، مَاقْرُمْ بِأَعْظَمِ لَصَبَّاهَا مَنَا، لَكَرَهَ النَّبِيُّ ﷺ مَا لَدَهُ. ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَلَدَعْ الْمَكَابِحَ عَلَيْهِ الْمَوْرِبِيُّ أَبْنَ عَالَمٍ مِنْ مَرْسَلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ سَابِطْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَلَعَ مَكَابِحَ الْكَعْبَةِ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمَّا خَلَعَهَا خَالِدَةً مُخْلِدَةً، إِنَّ لَمْ ادْلَعْهَا الْحِكْمَ وَلَكِنَّ اللَّهَ دَلَعَهَا الْحِكْمَ، وَلَا يَبْرُزُهَا عَنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ، فَلَعْنَ الْبَارِيِّ، ج: ۸، ص: ۱۹، ۱۸)

۲۹) (النَّاءُ: ۵۸)

وَمَنْ طَرِيقَ أَبْنَ جَرِيعَ أَنْ عَلِيًّا لَالَّلَّهُ لِلَّهِ ﷺ: اجْمَعَ لَنَا الْحِجَابَةَ وَالسَّقَايَا، فَنَزَلتْ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْذِنُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النَّاءُ: ۵۸) لِدَعَا عُثْمَانَ فَلَالَّ: خَلُوْهَا يَا بَنِي ذِيْبَى خَالِدَةً فَالَّدَّةَ، لَا يَبْرُزُهَا عَنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ، فَلَعْنَ الْبَارِيِّ، ج: ۸، ص: ۱۹)

## بنو شيبة کا اعزاز

اسی واسطے علماء نے فرمایا کہ اس دنیا میں کسی بھی خاندان کے قیامت تک باقی رہنا یقینی کی نہیں ہے سوائے بنو شيبة کے، یہ خاندان ایسا ہے جس کے بارے میں حضور اقدس ﷺ نے گویا خبر دے دی کہ چاپی ہمیشہ اس خاندان کے پاس رہے گی، تو یہ خاندان ہمیشہ رہے گا۔

یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو عطا فرمایا ہے جو دنیا میں کسی بھی خاندان کو حاصل نہیں ہے اور آج بھی انہی کے پاس ہے۔ بادشاہ بھی اگر آئے گا تو انہی سے درخواست کرے گا کہ ہمارے لئے دروازہ کھول دو، وہ اگر انکار کر دیں گے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان سے کھلوالے۔

ابھی کچھ عرصہ پہلے مکہ مکرمہ میں جب بیت اللہ کی تجدید ہو رہی تھی تو سب لوگوں کو بار بار اندر حاضری کا موقع دیا جا رہا تھا، جب یہ بات امیر مکہ کی خواتین کو معلوم ہوئی تو وہ بھی آگئیں کہ یہ اچھا موقع ہے ہم بھی بیت اللہ کی اندر سے زیارت کر لیں لیکن جب وہ خواتین آئیں تو بیت اللہ کے سبان نے ان امیر مکہ کی خواتین کو منع کر دیا اور کہا کہ اگر تم داخل ہو گئیں تو نہ جانے اور کتنی خواتین بھی آئیں گی اور ہمارے لئے دشواری ہو جائے گی، بہت مت سماجت کی لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت چلی جاؤ پھر کسی وقت آنا۔

یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اس بنو شيبة کو عطا فرمایا ہوا ہے کہ بیت اللہ میں داخل کے لئے بادشاہ بھی ان کی خوشامد کرنے پر مجبور ہے اور اگر یہ منع کر دیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔

”لَدْخُلِّ رَسُولَ اللَّهِ وَمَعَهُ أَسَمَّةً بْنَ زِيدَ الْخَ“ پھر آنحضرت ﷺ کے ساتھ اسامہ بن زید، بلاں اور عثمان بن طلحہؑ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، اور کعبہ میں بہت دیر تک مٹھرے رہے، پھر آنحضرت ﷺ باہر تشریف لے آئے۔

”فَاسْبِقُ النَّاسَ لِكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ الْخَ“ حضور اقدس ﷺ کے باہر نکلنے کے بعد لوگوں نے اندر داخل ہونے میں جلدی کی اور سب سے پہلے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اندر داخل ہوئے، انہوں نے حضرت بلاںؓ کو دیکھا کہ وہ دروازے کے پیچے کھڑے ہیں تو حضرت بلاںؓ سے پوچھا ”ایمن صلیٰ رسول اللہ ﷺ الخ“ کہ رسول اللہ ﷺ نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ تو حضرت بلاںؓ نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ جہاں حضور ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔ ”قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَسْمَتِ الْخ“ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں حضرت بلاںؓ سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے کتنی رکعتیں پڑھیں۔

## (٥١) باب منزل النبي ﷺ يوم الفتح فتح مکہ کے دن نبی کریم ﷺ کے اتنے کی جگہ کا بیان

٣٢٩٢ - حدثنا أبوالوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن ابن أبي لمي قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي ﷺ يصلى الضحى غير أم هاشم، فإنه ذكرت أنه يوم فتح مكة احتسل لى بيتهما، ثم صلى ثمان ركعات. قالت: لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يعم الركوع والسجود. [راجع: ١١٠٣]

ترجمہ: ابن ابی لمی سے روایت ہے کہ ہمیں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے سوا کسی نے نہیں بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں غسل فرمائے اسٹھر کتعیں نماز پڑھی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو اس نماز سے ہلکی کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، مگر یہ کہ آپ ﷺ کو ع و وجود پوری طرح ادا فرمائے تھے۔

## عارضی اور مستقل قیام کی وضاحت

اس روایت میں ابن ابی لمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے سوائے ام ہانی رضی اللہ عنہا، حضرت علی ﷺ کی ہمیرہ، کسی نے یہ بات نہیں بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے چاشت کی نماز اداء کی ہو۔

فتح مکہ کے دن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ ﷺ تشریف لے گئے ان کے گھر میں غسل فرمائے اسٹھر کتعیں نماز پڑھی۔

یہاں پر آپ ﷺ نے عارضی طور پر قیام فرمایا تھا ورنہ مستقل قیام تو وہی خیف کے مقام میں تھا جیسا کہ یقینے گز را ہے یعنی شعب ابی طالب میں۔ ای

اعرض ولا مذيرة بيهى الله لم يقم في بيت ام هانى والعازل به حتى احتسل وصلى ثم ربع الى حيث ضربت خيمته عند همب ابى طالب، وهو المكان الذى حضرت فيه فرشت المسلمين. عمدة القارىء، ج: ٢، ص: ٢٠ و لمع

## (۵۲) باب

## یہ باب بلا عنوان ہے

۳۲۹۳ - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يقول في ركوعه وسجوده: ((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لى)). [راجع: ۷۹۳]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے رکوع و سجود میں یہ دعاء پڑھا کرتے تھے، اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے پورو دگار ہم تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔

## تکمیل نعمت پر حمد واستغفار کا حکم

یہ حدیث یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے مختصر بیان کی ہے، کتاب الفیہر میں مکمل بیان کی ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جب آنحضرت ﷺ پر سورۃ النصر یعنی ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ الْغَلِيلُ﴾ نازل ہوئی تو آپ ﷺ ہر نماز میں یہ دعاء پڑھتے تھے:

”سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لى“

اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے پورو دگار ہم تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔

اس میں اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے رب کی حمد بیان کریں اور استغفار کریں، اور یہ سورۃ قرآن کی سب سے آخری سورت ہے لیکن اس کے بعد کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی۔

بعض آیات کا نزول اسکے منافی نہیں، یہ سورت اخیر زمانہ یعنی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور حضور اقدس ﷺ کا رکوع اور سجدہ میں یہ دعاء پڑھنا حق تعالیٰ کے اسی حکم کی بجا آوری اور تسلیم تھی۔ ۲۷

۳۲۹۴ - حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوالة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهمَا قال: كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إله من قد علمتم فلدعاهم ذات يوم ودعالي

معهم قال: وما أریتہ دعائی یومند الا لیریهم منی، فقال: ما تقولون فی ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرًا اللَّهُ وَالْفَقْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا هُمْ؟ حتی ختم السورة، فقال بعضهم: امرنا ان نحمد الله ونستهفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندری، ولم یقل بعضهم شيئا. فقال لی: يا ابن عباس، أکذا کے قول؟ قلت لا، قال: فما تقول؟ قلت: هر اجل رسول الله ﷺ اعلم الله له ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرًا اللَّهُ وَلَعْنُه﴾ لعن مکة للدعاک علامۃ اجلک ﴿لَسَيِّدِ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَآءَاهُ﴾ قال عمر: ما اعلم منها الا ما اعلم. [راجع: ۳۶۲۷]

## نزول سورت؛ فتح کی علامت یا وفات کی خبر؟

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ مجھے مشائخ بدر کے ساتھ بٹھاتے تھے، تو بعض نے ان میں سے کہا کہ آپ اس لڑکے کو جس کے برابر ہماری اولاد ہے، ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ پھر آپ لوگ ابن عباس کو کن لوگوں میں سے سمجھتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ پھر ایک دن انہیں اور ان کے ساتھ مجھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، صرف اس لئے بلا یا کہ انہیں میری طرف سے (علیٰ کمال) دکھادیں، چنانچہ حضرت عمر ﷺ نے ان لوگوں سے کہا کہ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرًا اللَّهُ وَالْفَقْحُ الْخَ﴾ کے بارے میں تھاری کیارائے ہے؟ بعض نے کہا جب اللہ ہماری مدد کرے، اور فتح عطا فرمائے، تو اس نے ہمیں حمد و استغفار کا حکم دیا ہے، بعض نے کہا ہمیں معلوم نہیں، بعض نے کچھ بھی نہیں کہا، تو حضرت عمر ﷺ نے مجھ سے کہا اے ابن عباس! کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا جب اللہ کی مدد اور فتح مکہ حاصل ہوئی تو اللہ نے اپنے رسول ﷺ کو وفات کی خبر دی ہے، تو فتح کے آپ ﷺ کی وفات کی علامت ہے، ﴿لَسَيِّدِ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَآءَاهُ﴾ لہذا آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح سمجھے اور استغفار کیجئے، اللہ قبول کرنے والا ہے، حضرت عمر ﷺ نے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے جو تمہارا ہے۔

## شرط

ان دونوں حدیثوں کا تعلق بظاہر فتح مکہ سے نظر نہیں آرہا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے پیش نظر یہ بات ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو آپ ﷺ کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے رب کی حمد و ثناء بیان کریں اور استغفار

کریں، تو اس کو بتارہے ہیں کہ بنی کریم ﷺ نے کس طرح اس پر عمل کیا۔

۳۲۹۵ - حدثنا سعید بن شرجیل: حدثنا الليث، عن المقبری، عن أبي شریع العدوی: أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبَعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: إِذْنَنِ لِي أَبِيهَا الْأَمِيرِ أَحَدِنَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُدْعُ إِلَيْهِ الْمَوْلَى الْمُفْتَحُ، سَمِعَتْهُ أَذْنَانِي وَوَعَاهَ قَلْبِي وَأَبْصَرَهُ عَيْنَانِي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ. أَنَّهُ حَمَدَ اللَّهَ وَأَنْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ مَكَّةَ حَرَمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يَحْرِمْهَا النَّاسُ. لَا يَحْلُّ لِأَمْرِي يَؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِنْ يَسْفَكُ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضُدُ بِهَا شَجَرًا، فَلَمَّا أَذْنَنَ لَهُ فِيهِ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَلَدَعَادَتْ حَرَمَتْهَا الْيَوْمُ كَحْرَمَنَهَا بِالْأَمْسِ، وَلَيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْمَائِبَ)) فَقَيلَ لِأَبِي شریع: مَاذَا قَالَ لَكَ عُمَرُ؟ قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبا شریع، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يَعْيَدُ عَاصِبَاهَا وَلَا فَارَابَدَمَ وَلَا فَارَابَخْرَبَةَ.

قال ابو عبد الله: الحزية: البلية. [راجع: ۱۰۳]

ترجمہ: حضرت ابو شریع عدوی رض نے عمرو بن سعید سے جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا، تو کہا اے امیر! مجھے اجازت دی دیجئے کہ میں آپ سے رسول اللہ ﷺ کا دو قول جو آپ رض نے فتح مکہ کے دوسرے دن فرمایا تھا آپ سے بیان کروں، وہ بات میرے کافی نہیں، دل نے محفوظ رکھی، اور جب آپ رض وہ بات فرمائے تھے تو آپ کو میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں، آپ رض نے اللہ کی حمد و شکر کے بعد فرمایا اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے، لوگوں نے نہیں بنایا ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لئے مکہ میں خون ریزی کرنا اور مکہ کے درخت کا شاخ جائز نہیں، اگر کوئی رسول اللہ رض کے فتح مکہ کے دن قاتل سے استدلال کرے تو تم اسے یہ جواب دی دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس کی اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی صرف تھوڑی دیر کے لئے اجازت دی تھی، پھر آج اس کی حرمت دیکھیں ای لوٹ آئی جیسے کل تھی، اور یہ بات موجود لوگ غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں، ابو شریع سے پوچھا گیا کہ پھر عمرو نے آپ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عمرو نے یہ جواب دیا کہ اے ابو شریع! اس بات کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن حرم کسی گناہ گار، قاتل اور مفسد کو پناہ نہیں دیتا ہے۔

## ابو شریع رض کی نصیحت کا پس منظر

اس روایت میں حضرت ابو شریع عدوی رض فرماتے ہیں کہ انہوں عمرو بن سعید سے بات کرنے کی اجازت چاہی، جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا۔

یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت امیر معاویہؓ کے انقال کے بعد یزید بن معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی، یزید کے ہاتھ پر ایک تو حضرت حسین بن علیؑ نے بیعت نہیں کی تھی جس کا واقعہ مشہور و معروف ہے، اور دوسرے حضرت عبد اللہ بن زیبر رضی اللہ عنہما نے بھی بیعت نہیں کی تھی اور مکہ مکرمہ اور بعض دوسرے شہروں میں ان کی خلافت قائم ہو گئی تھی۔

یزید کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ عبد اللہ بن زیبر رضی اللہ عنہما نے مکہ مکرمہ میں اپنی حکومت قائم کر لی ہے: چنانچہ اس نے حضرت عبد اللہ بن زیبر رضی اللہ عنہما کا مقابلہ کرنے کیلئے لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا اور مختلف جگہوں پر اس کے جو عمل تھے ان سے کہا کہ وہ سب اپنی اپنی طرف سے فوجیں بھیجنیں تاکہ وہ مکہ مکرمہ میں حضرت عبد اللہ بن زیبر رضی اللہ عنہما پر حملہ آور ہوں۔

عمرو بن سعید مدینہ منورہ میں یزید کی طرف سے حاکم تھا، چنانچہ اس کو بھی حکم دیا کہ تم بھی عبد اللہ بن زیبر پر چڑھائی کرنے کیلئے اپنے یہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف فوج روانہ کرو۔

جس وقت یزید کی طرف سے عمرو بن سعید مکہ مکرمہ کی طرف حضرت عبد اللہ بن زیبر رضی اللہ عنہما سے لٹای کیلئے لشکر بھیج رہا تھا، اس وقت ابو شریح نے اس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ۳۷

### سلطان چابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کا انداز

حضرت ابو شریح عدویؓ نے عمرو بن سعید سے کہا "الذن لی ایها الا امیر احدیک لول السخ" اے امیر ذرا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے رسول اللہؐ کا وہ قول جو آپؐ نے سخ کر کے دوسرے دن فرمایا تھا بیان کروں۔

دیکھو! ابو شریحؓ یہاں ایک ایسے حکر ان کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں جس کو وہ باطل پر اور غلط کا رسیجوہ رہے ہیں لیکن کیا طریقہ اختیار فرمایا کہ اس کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے خطاب کیا، اے امیر! اجازت دیجئے کہ میں آپ کو وہ حدیث سناؤں جو رسول اللہؐ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمائی تھی۔

تو معلوم ہوا "کلمۃ حق عند سلطان جائز" اس کے معنی یہ نہیں کہ کلمہ حق کو ایک لڑکا کر سر پر مار دو یا اس کا بڑا سا پھر انہا کر پھینک دو بلکہ معنی یہ ہیں کہ حکمت و مصلحت سے اور نرم بات سے حتی الامکان کام لیتے ہوئے اس کو نصیحت کی جائے۔

## دعوت وتبیغ کا اسلوب و انداز

مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ﷺ کو فرعون کے پاس بیجا تو کیا فرمایا؟

**﴿فَقُولَا لَهُ قُولًا لَيْنَا لَعْلَةٌ يَتَذَكَّرُ أُو يَغْشَى﴾**

ترجمہ: جا کر دنوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ صحیح قبول کر لے، یا (اللہ سے) ڈرجائے۔

فرماتے تھے کہ تم موسیٰ ﷺ سے زیادہ بڑے مصلحت نہیں ہو سکتے اور تمہارا مقابل فرعون سے بڑا گراہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی ارشاد ہے قولہ لہنا۔ ۱

لہذا یہ جو طریقہ ہے کہ گالی دے دینا، بر ابھلا کہہ دینا، فقرے کس دینا، طعن آمیز جملے کہہ دینا، یا اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے تصحیح ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے کہ یہ بہت بڑا مجاہد ہے، جس نے حکمران کو لکارا اور اس کو بر ابھلا کہا اور اس کو اتنی گالیاں دیں اور اتنی کھری کھری سنائیں، اپنے لوگوں میں تو یہ تعریف اور شہرت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔

لیکن مقصود اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر تفسیر ابن حجر العسقلانی طریقہ یہ ہے اور صحابہ کرام ﷺ کا طریقہ تفسیر ہو کا طریقہ تھا کہ وہ "کلمۃ حق عند سلطان جائز" ضرور ہے لیکن کلمہ حق، حق طریقے سے، حق نیت سے ہو، اس کیلئے کوئی لٹھ مارنا ضروری نہیں ہے۔ ۲

چنانچہ حدیث میں صراحتاً فرمایا ہے کہ با او شاہ کو سر عام رسوائی کرو، مجمع الزوائد میں علامہ یہشمی رحمہ اللہ نے سے حدیث تقلیل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "من أراد أن ينصح لذی سلطان بما مر فلا يهدله علانية، ولكن يأخذ بيده فیخلوا به، فإن قيل منه لذاك، ولا كان قد أدى الذي عليه". ۳

۱) لائق اللہ تعالیٰ قال لموسیٰ وہارون ﴿فَقُولَا لَهُ قُولًا لَيْنَا﴾ (طہ: ۲۲) فالليل لیس بالفضل من موسیٰ وہارون والظاهر لیس باعیث من فرعون ولہ امر حما اللہ تعالیٰ باللین الخ تفسیر القرطبی، ج: ۲، ص: ۱۶، الکاظمی ۱۳۷۲ھ

۲) سنن الترمذی، باب ماجاهۃ الفضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائز، رقم: ۲۱۷۳

۳) مجمع الزوائد وطبع المؤواد، کتاب العمالۃ، باب النصیحة للآمة وکفیتها، رقم: ۹۱۶۱، ج: ۵، ص: ۲۲۹

یعنی جب تم نے کسی صاحب اقتدار کو نصیحت کرنی ہو تو اس کو علائیہ رسوانہ کرو بلکہ اس کو تھائی میں لے جا کر نصیحت کرو۔

تو کسی کی تذلیل مقصود نہیں، انہا سکہ جما نامقصود نہیں، اپنی بہادری دکھانا مقصود نہیں، بلکہ مقصود اللہ جل جلالہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ جلالہ کے دین کیلئے جو صورت زیادہ مفید اور مصلحت پر بنی ہو اس کو اختیار کرنا ہے، اور آج لوگ اس تغیرانہ طریقہ دعوت سے غافل ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اکثر دیشتر نفع نہیں ہوتا۔

اپنی، اپنے حامیوں میں واہ واہ ہو جاتی ہے کہ کیا شاندار تقریر کی، خوب لتاڑاً وغیرہ وغیرہ، لیکن لفظ نہیں ہوتا، اس لئے دیکھو لو مقصود اپنے لوگوں کو خوش کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے۔

اس کیلئے دیکھو کہ کہاں کیا طریقہ ہے؟ بعض مجھے سختی کی ضرورت بھی چیز آتی ہے لیکن وہ سختی بھی اللہ کیلئے ہوئی چاہیے اور اس وقت ہوئی چاہیے جب دین کی مصلحت کا تقاضا ہو، جہاں دین کی مصلحت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ آدمی کو یہ خیال ہے کہ یہاں پر زرم طریقہ سے بات کرنا ہی فائدہ مند ہے اس سے میں کچھ کام نکال سکتا ہوں اور عام اسلوب نرمی ہی کا ہونا چاہئے، سختی بوقت شدید ضرورت کے ہو اور شدید ضرورت بھی بقدر ضرورت ہو ورنہ عام اصول یہی ہے کہ نرمی سے بات کرو۔

صحابۃ کرام ﷺ کے دعوت و تبلیغ اور نصیحت کے طریقہ کا رپورٹ کرنا چاہیے کہ کس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ "الدن لی ایها الامیر" اے امیر ذرا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو حدیث سناؤں۔

اور یہ شخص کون ہے جس سے صحابی رسول ابو شریع عدوی ﷺ اجازت مانگ رہے ہیں؟

وہ ہے عمرو بن سعید جو زید کی طرف سے مدینہ کا گورنر ہے، ایک بدنام شخص جس کا ابن حزمؓ نے لقب لشیم الشیطان رکھ دیا تھا تو یہ اپنے زمانے میں بدنام تھا۔ علیٰ  
علامہ بدیعتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عمرو بن سعید صحابی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اچھا تابعی ہے۔ ۸۱

عَلِيٌّ وَقَدْ شَيْعَ عَلَيْهِ أَبْنُ حَزَمٍ لِّذِلْكَ لِمَ ((الْمُحْلِلِ)) لِمَنْ كَتَبَ الْجَنَاحِيَّاتِ، فَقَالَ: لَا كِرَاءَةَ لِلشَّيْطَانِ الشَّرِطِيِّ  
الْفَاسِقِ، بِرِيدَانَ يَكُونُ أَعْلَمُ مِنْ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ، وَهَذَا الْفَاسِقُ هُوَ الْعَاصِيُّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَمِنْ رِلَاهُ أَوْ قَلَّدَهُ،  
وَمَا حَاصَلَ الْعَزِيزُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا هُوَ مِنْ أَمْرِهِ وَصَوْبُ لَوْلَهِ، وَكَانَ أَبْنُ حَزَمٍ الْمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لَأَنَّ عَمَرًا ذَكَرَ  
ذَلِكَ هُنَّ اهْتِفَادُهُ لِمَنْ الزَّبِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَمَدةُ الْمَارِيِّ، ج: ۲، ص: ۲۱۱

۸۱) قوله: (عمرو بن سعید) أى : ابن العاص بن محمد العاص بن أمية القرشى الأموى، يُعرف بالأشدق ولهمت له

صحبة ولا من التابعين بحسان. عمدۃ الماری، ج: ۲، ص: ۳۱۰

اس بدنام حکمران سے بھی جب خطاب کرنے کی نوبت آئی تو کیا کہا کہ "المدن لی ایها الامیر" دیکھو دل پر کتنا اثر انداز ہونے والا انداز اختیار فرمایا "احد لک اللول قائم بہ رسول اللہ ﷺ" الحدمن یوم الفتح "میں آپ کو وہ ارشاد سناتا ہوں جو نبی کریم ﷺ نے مل کے اگلے دن ارشاد فرمایا تھا۔

"سمعہ اذای ووعاہ قلبی الخ" دیکھو دل سے بات تکل رہی ہے کہ حضور ﷺ کے اس ارشاد کو میرے کافوں نے سنا، دل نے یاد رکھا، میری آنکھیں آپ ﷺ کو دیکھ رہی تھیں جب آپ یہ ارشاد فرمائے تھے۔ "اَنَّهُ حَمْدُ اللَّهِ وَالنَّى عَلَيْهِ لَمْ قَالَ : اَنْ مَكَةً حَرَمَهَا اللَّهُ الْخَ" آپ ﷺ نے اللہ کی حمد و شکر بعد فرمایا اللہ نے مکہ کو حرم بنا یا ہے، لوگوں نے نہیں بنا یا ہے یعنی اگر لوگوں نے بنا یا ہو تو جب دل چاہے اس پر عمل کر لیں اور جب دل چاہے اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دیں، پھر آگے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لئے مکہ میں خون ریزی کرنا اور مکہ کے درخت کاشنا جائز نہیں۔

"فَإِنْ أَحَدٌ تَرَكَ خصًّا لِقَاعًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلَّهِ الْخَ" اگر کوئی شخص یہ رخصت حاصل کرنا چاہے اور رسول اللہ ﷺ کے فتح کم کے دن تعالیٰ سے استدلال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا تھا، تو اس کو جواب میں کہہ دو "إِنَّ اللَّهَ أَذْنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذُنْ لَكُمْ" اللہ نے اس روز صرف اپنے رسول کے لئے حلال کیا تھا تمہارے لئے حلال نہیں کیا ہے۔

"وَإِنَّمَا أَذْنَ لِهِ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدَ الْخَ" اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے بھی صرف تھوڑی دیر کے لئے اجازت دی تھی، پھر آج اس کی حرمت دیکی ہی لوث آئی جیسے کل تھی، اور یہ بات موجود لوگ غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں یعنی آنے والے لوگوں تک بھی پہنچا دیں۔

"لَقَبِيلٌ لِي اهْيٰ شَرِيعٍ : مَاذَا قَالَ الْخَ" حضرت ابو شریع رض سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اس حدیث سنانے کے بعد جواب میں عمر بن سعید نے کیا کہا؟

"قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِهِ لَكَ الْخَ" حضرت ابو شریع عدوی رض نے فرمایا کہ عمر بن سعید نے یہ جواب دیا کہ اے ابو شریع! اس بات کا مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے یعنی حرم کی حرمت کے مسئلہ کے بارے میں پتہ ہے کہ "إِنَّ الْحُرُمَ لَا يَعْيَدُ عَاصِمًا وَلَا فَارَادَمَ الْخَ" حرم کسی نافرمان کو یا کسی باغی کو پناہ نہیں دیتا اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو جو کسی کا خون کر کے بھاگ گیا ہو اور جو کوئی تحریکی کارروائی کر کے بھاگ گیا ہو اس کو پناہ نہیں دیتا اس واسطے ہم جا رہے ہیں تو کوئی غلطی نہیں کر رہے۔

ایک صاحب فرمائے گئے کہ دیکھو آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ زمی سے بات کرنی چاہیے اور زمی کا نتیجہ یہ تکلا کر جواب ماننے کے بجائے کہا کہ میں مسئلہ زیادہ جانتا ہوں اور حرم کسی نافرمان کو پناہ نہیں دیتا۔ آپ کی زمی کا تو یہ نتیجہ تکلا، تہذیب اختیار کرنی چاہئے، پھر مارنا چاہیے۔

یہ کلمہ حق کہنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لئے ہے اور تم اس کے مکلف ہو یا اس کلمہ حق کے مذاق بھی کے مکلف ہو؟ ہم کہنے کے مکلف ہیں مذاق بھی کے نہیں، آخرت میں یہ سوال نہیں ہو گا کہ تمہارے کہنے کے نتیجے میں اس نے مانا کیوں نہیں۔

**لست علیہم بمحض طریقہ۔** تمہارا کام کیا ہے؟ بندہ کا کام یہ ہے کہ دعوت پہنچائے، امالہ کی کوشش کرنے کے ازالہ کی کہ اس پر داروغہ بن کر مسلط ہو۔

**المعالی رسولنا البلاغ المبعین۔** حق بات پہنچادیتا، حق نیت سے، حق طریقے سے حق بات پہنچا دیتا، یہ اصل مقصد ہے۔

### دعوت میں موثر حکمت بالغہ

شیخ الاسلام علامہ شمسیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بری پیاری بیان بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر حق بات ہو، حق طریقے اور حق نیت سے پہنچائی جائے تو کبھی مضر نہیں ہوتی، جہاں کہیں دیکھو کہ فتنہ پیدا ہوا تو حق نہیں تھا، یا بات حق تھی مگر نیت حق نہیں تھی، نیت اللہ کو راضی کرنے کے بجائے مخلوق کو راضی کرنا تھا، یا طریقہ حق نہ تھا کہ غیرہ انہ طریقہ نہیں تھا تو سب وہ مضر ہوتی ہے لیکن جہاں یہ ہو تو مضر نہیں ہوتی۔

ٹھیک ہے ہو سکتا ہے نہیں مانا فرعون نے بھی نہیں مانا تھا، اللہ کو بھی پڑھتا کہ یہ نہیں مانے گا۔

جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے ﴿لَفُوْلَا لَهُ كُوْلَا لَيْنَا لَعْلَةٌ يَعْدَ كُثُرٌ أَوْ يَعْخَسِيْنَ﴾ تو اللہ کو پڑھتا کہ یہ مانے گا نہیں۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ مانے گا نہیں لہد اتم جا کر لڑھ بر سانا بلکہ یہ کہا کہ تم اپنا کام کرو یعنی نرم انداز میں بات کرو، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ شاید نصیحت مان لے لیکن مذاق بھی اللہ کے اختیار میں ہیں اس کو چھوڑ دو، طریقہ اپنی طرف سے حق اختیار کرو۔

### حرم میں پناہ کا مسئلہ اور اختلاف ائمہ

#### امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ حرم اس کو پناہ نہیں دے گا، تو اس کو حرم میں قتل کرنا جائز ہے۔

#### امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاتل کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ وہ خود بخود نکلنے،

مجبور ہو جائے اور جب وہ نکل جائے تو پھر اس سے قہاں لیا جائے۔<sup>۱۹</sup>

### (۵۳) باب مقام النبی ﷺ بمکة ز من الفتح نبی کریم ﷺ کا فتح کے وقت مکہ میں ظہرنے کا بیان

۷۔ ۳۲۹۔ حدثنا أبو عليعيم: حدثنا سفيان ح و حدثنا أبي يحيى قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس رضي الله عنه قال: ألم ناعم النبی ﷺ عشراً لقصر الصلاة. [راجع: ۱۰۸۱]

ترجمہ: حضرت انس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ دس روز تک مکہ میں ظہرے رہے، اور نماز قصر کرتے رہے۔

۸۔ ۳۲۹۸۔ حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألم النبی ﷺ بمکة تسعة عشر يوماً يصلی ركعتين. [راجع: ۱۰۸۰]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ مکہ میں اٹس دن ظہرے، دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

۹۔ ۳۲۹۹۔ حدثنا أحمد بن يولس: حدثنا أبو شهاب، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألم النبی ﷺ في سفر تسعة عشرة لقصر الصلاة. [وقال ابن عباس: ونحن لقصر ما بيننا وبين تسعة عشرة فإذا زدنا أتممنا. [راجع: ۱۰۸۰]] ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ بحال سفر انہیں روز ظہرے کہ نماز قصر ادا کرتے تھے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے اٹس دن کے درمیان نماز قصر ہی پڑھی، اگر اور زیادہ ظہرے تو پوری پڑھتے۔

<sup>۱۹</sup> حیدر مل اور مفصل بحث کیلئے مراجعت فرمائیں: العام الباری، ج: ۲، ص: ۱۶۹، کعب العلم، رقم: ۱۰۳، والعام الباری،

## روايات میں تعارض کا جواب

حضرت انس بن مالک رض کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں دس دن قیام فرمایا اور جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں روایتوں میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں انہیں دن قیام فرمایا، درحقیقت یہ دونوں روایتیں الگ الگ ہیں۔

حضرت انس رض کی روایت کہ دس دن قیام فرمایا، یہ وجہ الوداع کا واقعہ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایات جن میں انہیں دن کا قیام کا ذکر ہے، یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔  
قصر کی وجہ یہ ہے کہ مکمل پندرہ دن رکنے کا رادہ نہیں تھا جب تک ارادہ نہ ہوتا آدی جتنے دن قیام رہے وہ تصریح کر سکتا ہے۔ ۵۰

## (۵۳) باب

### یہ باب ترجمۃ الباب سے خالی ہے

اس باب کا کوئی ترجمہ قائم نہیں کیا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ فتح مکہ میں جو حضرات شامل تھے ان کے بارے میں جو روایتیں آرہی ہیں وہ بیان کی ہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ فلاں آدمی فتح مکہ کے سفر میں شامل تھا۔  
۳۳۰۰ - وَقَالَ الْلَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَلَبَةِ أَبْنِ شَهَابٍ

صعیر، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الْفُتحِ . [الظر: ۶۳۵۶]

ترجمہ: ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبد اللہ بن ثعلبہ بن صیرہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے سال ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، بطور شفقت۔

۳۳۰ - حَدَّثَنِي أَبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هَشَامٌ، عَنْ مُعْمَرٍ، عَنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَنِينَ أَبْنِي جَمِيلَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا وَلْحَنُ مَعَ أَبْنِ الْمُسَبِّبِ قَالَ : وَزْعُمَ أَبْنُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفُتحِ .

۵۰ ان احادیث میں تنہی مسئلہ پر گفتگو ہے یعنی مدست قصر، مائف تصریح قصر عزیت ہے یا رخصت، اس پر مزید مدلل اور مفصل بحث کیلئے مراجعت

فرمائیں: العام الباری، کتاب تفصیر الصلة، ج: ۳، ص: ۲۶۷

ترجمہ: زہری بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سے ابو جملیہ رض نے حدیث بیان کی تو ہم سعید بن مسیب کے ساتھ تھے، کہتے ہیں کہ ابو جملیہ رض نے فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و آله و سلم کی صحبت پائی اور فتح کے سال آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کے ہمراہ لکلے۔

۳۳۰۲ - حدیث سلیمان بن حرب: حدیث حماد بن زید، عن ایوب، عن ابی قلاۃ، عن عمر بن سلمة قال: قال لى أبو قلاۃ: الا تلقاه فتسأله؟ قال: للقيته فسألته فقال: كنا بما مسر الناس وكان يمر بنا الركبان فسألهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ ليقولون: يزعم أن الله أرسله، أو حى إلية، أو حى الله بكم. لكنه أحفظ ذاك الكلام لكانما يقرأه صدرى وكانت العرب تلوم بسلامهم الفتح ليقولون: الرکوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبی صادق: فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بسلامهم وبدر أبی قوسی بسلامهم فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلی اللہ علیہ و آله و سلم حقا. فقال: ((صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا). فإذا حضرت الصلاة للبيون أحدكم وليرمكم أكثركم قرآن)). لنظر والعلم يكن أحداً أكثر قرآنًا مني لما كنت أتلقي من الركبان فقد مولى بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت على بردة كنت إذا سجدت تقلصت عنى، فقالت امرأة من الحمى: ألا تهطون علينا است قارئكم؟ فاشتروا فقط على قميصاً لما فرحت بشئ فرحى بذلك القميص. ۱۵

ترجمہ: حضرت عمر بن سلمہ سے مردی ہے، ایوب کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو قلاۃ نے کہا کہ آپ عمر بن سلمہ سے مل کر کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ملا، اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک چشمہ پر جہاں لوگوں کی گزرگاہ تھی، رہتے تھے، ہمارے پاس سے قافی گزرتے تھے، تو ہم ان قافلوں سے پوچھتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ اور آدمی (نبی کریم صلی اللہ علیہ و آله و سلم) کی کیا حالت ہے؟ تو وہ جواب دیتے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، جس کی طرف وحی ہوتی ہے، یا یہ کہا کہ اللہ سے وحی بھیجتا ہے۔ میں وہ کلام یاد کر لیا کرتا، گویا وہ میرے سینہ میں محفوظ ہے، الی عرب اپنے اسلام لانے میں فتح کہ کا انتظار کرتے تھے، اور یہ کہتے

۱۵ وفى مسن ابى داود، كتاب الصلاة، باب من احب بالامامة، رقم: ۵۸۵، ومسن النسائي، كتاب الاذان، باب اجزاء المرة باذان غبره فى الحضر، رقم: ۶۳۶، وكتاب الفضة، باب الصلاة فى الاذار، رقم: ۷۶۶، وكتاب الامامة، باب امامۃ الفلام قبل این بختلم، رقم: ۷۸۹، ومسند احمد، باب حدیث عمر بن سلمی، رقم: ۲۰۲۳۲، ۲۰۲۳۳

تھے کہ ان کو (یعنی رسول اللہ) اور ان کی قوم (قریش) کو چھوڑ دو، اگر وہ غالب آگئے تو وہ بچے نبی ہیں۔ چنانچہ جب فتح مکہ کا واقعہ ہوا تو ہر قوم نے اسلام لانے میں سبقت کی، اور میرے والد بھی اپنی قوم کے مسلمان ہونے میں، جلدی کرنے لگے اور جب واپس آئے تو کہا اللہ کی قسم امیں تمہارے پاس نبی برحق ﷺ کے پاس سے آیا ہوں، انہوں نے فرمایا ہے کہ فلاں فلاں وقت، ایسے ایسے نماز پڑھو۔ جب نماز کا وقت آجائے تو ایک آدمی اذان کہے، اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امام بنے۔ چونکہ میں قافلہ والوں سے قرآن یکھ کریا دکر لیتا تھا، اس لئے ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے زیادہ قرآن یاد نہ تھا، میں چھوپا یا سات سال کا تھا کہ انہوں نے مجھے امامت کیلئے آگئے بڑھا دیا، اور میرے جسم پر ایک چادر تھی، میں سجدہ کرتا تو وہ اوپر چڑھ جاتی، تو قبلیہ کی ایک عورت نے کہا تم اپنے قاری کے سرین ہم سے کیوں نہیں چھپائے؟ تو انہوں نے کپڑا خرید کر میرے لئے ایک قیص بنا دی، میں اتنا کسی چیز سے خوش نہیں ہوا جتنا اس قیص سے۔

## شمود حق کے متلاشی

حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو قلابہ نے کہا کہ ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ چلو آؤ جا کر ذرا عمر بن سلمہ سے ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا قصہ ہوا تھا  
ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعہ تھا، کس طرح آپ مسلمان ہوئے تھے؟

”فقال: کنا بعاصرا الخ“ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے کنوں کے پاس رہتے تھے کہ جو لوگوں کی گزر گاہ تھا مختلف قاتلے ہمارے پاس سے گزرا کرتے تھے تو ہم ان سے پوچھتے تھے، ”لنسا لهم مال الناس؟ مال الناس؟ الخ“ لوگوں کی خبریں معلوم کیا کرتے تھے جہاں سے قافلہ آتا اس سے معلومات کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ یہ آدمی جس کی مکمل مدد میں شہرت ہو رہی ہے اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ کیسے آدمی ہیں؟ یعنی نبی کریم کے احوال لیا کرتے تھے۔

وہ کہتے تھے کہ ”بزعم ان الله أرسله الخ“ وہ شخص یعنی نبی کریم ﷺ یہ دعویٰ کرتے تھے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے، جن کی طرف وحی ہوتی ہے، یا یہ کہ اللہ انہیں وحی بھیجتا ہے اور فلاں وحی نازل کی ہے، ”فَكُنْتَ أَحْفَظَ ذَاكَ الْكَلَامَ الخ“ میں وہ آیتیں جو قافلے والے بتاتے تھے ان کو یاد کریا کرتا تھا تو وہ ایسا ہو جاتی تھیں کہ جیسے میرے سینے میں پڑھی جا رہی ہوں۔

مطلوب یہ کہ سینے میں محفوظ ہو جاتی تھی تو گویا وہ پڑھی جا رہی ہوں۔

بعض روایتوں میں ہے ”یقہر“ جیسا کہ وہ میرے سینے میں قرار پا گئی ہوں۔

بعض روایتوں میں ہے ”لکانما یقرا الی صدری“ تو اس کے معنی بھی وہی ہیں جمع کرنے کے ”لرا یقرا - تقریبا“ کے معنی جمع کرنا گویا وہ میرے سینے میں جا کر جمع ہو رہی ہیں۔

”وَكَانَتِ الْعَرْبُ تَلَوُمَ النَّخَ“ اور اہل عرب اپنے اسلام لانے میں فتح کے کا انتظار کرتے تھے۔

”تلوم - یعلوم“ کے معنی ہیں انتظار کرنا۔ ۵۲

یہ مطلب ہے کہ مختلف قبائل عرب تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے اور اگر مکہ فتح نہ ہوا تو مسلمان ہونے کا ارادہ نہیں تھا اس لئے وہ انتظار میں تھے کہ مکہ فتح ہو یا اس وجہ سے کہ ان میں سے بعض وہ تھے جو شخص طاقت اور ڈھنے کے پیچاری تھے اور پھر مرد ہو گئے تھے اور بعض اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کا غلبہ ہو جانا یا ان کے صدق نبوت کی دلیل ہو گا۔

”فَهُوَ لَوْنٌ: الْرُّكُوهُ وَقُومُهُ لَانَ النَّخَ“ لہذا قبائل عرب یہ کہتے تھے کہ ان کو یعنی رسول اللہ ﷺ اور ان کی قوم قریش کو بھی انکے حال پر چھوڑ دو ہم ابھی نجی میں دخل نہیں دیتے، حضور اقدس ﷺ اگر قریش پر غالب آگئے اور ان پر فتح یا ب ہو گئے تو وہ سچے نبی ہیں۔

”لَلَّمَا كَاتَ وَلَعْةً أَهْلَ الْفَعْنَالِنَخَ“ جب فتح مکہ کا واقعہ ہوا تو ہر قوم آکر جلدی جلدی مسلمان ہونے لگی، ”وَبَدَرَ أَهْمَى قَوْمِي الْنَخَ“ اور میرے والد بھی اپنی قوم کے مسلمان ہونے میں، جلدی کرنے لگے اور اسلام میں سبقت لے گئے، یعنی ابھی میری قوم مسلمان نہیں ہوئی تھی کہ میرے والد پہلے چلے گئے اور حضور ﷺ کے پاس جا کر مسلمان ہو گئے۔

”لَلَّمَا قَدِمَ قَالَ: جَنِّتُكُمْ وَاللَّهُ الْغَ“ اور جب وہ وہاں سے واپس آگئے یعنی حضور ﷺ کے پاس اسلام قبول کر کے واپس آئے تو آکر کہا کہ اللہ کی قسم! میں ایسے نبی کے پاس سے ہو کر آیا ہوں جو سچے اور برق نبی ہیں، ”فَقَالَ: صَلُوا صَلْوَةً كَذَا الْغَ“ انہوں نے فرمایا ہے کہ فلاں فلاں وقت، ایسے ایسے نماز پڑھو یعنی نمازوں کے اوقات ہیان فرمائے اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا۔

”لَذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْغَ“ اور جب نماز کا وقت آجائے تو ایک آدمی اذان کہے، ”وَلِيُؤْكِمْ أَكْفَرَكُمُ الْغَ“ اور یہ فرمایا کہ تمہاری امامت وہ کریں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو جب انہوں نے آکر یہ حکم سنایا۔

”فَنَظَرُوا إِلَّمْ يَكُنْ أَحَدًا الْغَ“ تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے علاقے میں کس کو قرآن زیادہ یاد ہے، سب سے زیادہ قرآن مجھ کو یاد تھا اور مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو بھی نہیں یاد آتا تھا۔

۵۲ ((یعلوم)) بفتح العاء المفتاة من لفوي وفتح اللام وتشديد الواو: وأصله تعلم، فلعللت احدى العاءين ومعناه:

سسطر. عددة الفاری، ج: ۱، ص: ۳۱۳

”لما كنْت أَنْلَقِي مِنَ الرُّكْبَانِ النَّخْ“ مجھے سب سے زیادہ قرآن اس وجہ سے یاد تھا کیونکہ میں قافلہ والوں سے قرآن سیکھ کر اس کو یاد کر لیتا۔

”لَقَدْ مُولِيَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا النَّخْ“ حالانکہ میں چھ یا سات سال کا بچہ تھا کہ انہوں نے مجھے امامت کے لئے آگے بڑھا دیا اور مجھے امام بنادیا، ”وَكَانَتْ عَلَىٰ هُرَدَةٍ كَنْتُ النَّخْ“ اس وقت میرے پاس ایک چادر ہوتی تھی وہی سارے جسم پر پہنے رہتا تھا، جب سجدے میں جاتا تو وہ مجھے سے ہٹ جاتی تھی اور میرے جسم طاہر ہو جاتا تھا یعنی وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سجدہ میں جانے کی وجہ سے پچھے سے وہ اوپر ہو جاتی تھی اور ستر نظر آتا تھا۔ ”لَكَانَتْ اُمْرَأَةٌ مِنَ الْحَقِيقَةِ الْمُهْفَطُونَ النَّخْ“ قبیلے کی ایک عورت نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا تم اپنے قاری کے سرین ہم سے کیوں نہیں چھپاتے؟ اس کوم نے امام اور قاری تو بنا دیا ہے تو اب کم از کم اس کا ستر تو چھپا دو۔

”لَا هُنَّا لِفَطْعَوْنَ إِلَىٰ لِمَصَافِهِمَا النَّخْ“ تو لوگوں نے ایک کپڑا خریدا اس کی ایک قیص بنا کر دی، اس سے پہلے اتنی خوش مجھے کسی بات کی نہیں ہوئی تھی کہ یہ قیص مجھے مل گئی۔

## نابالغ کی امامت کا مسئلہ

یہ اختلافی مسئلہ ہے، بظاہر امام بخاری رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت جائز سمجھتے ہیں اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔

خفیہ، مالکیہ اور حنابلہ فرائض میں عدم جواز پر تفقی ہیں، البتہ حنابلہ نوافل میں جائز کہتے ہیں اور مالکیہ کہتے ہیں کہ جائز تو نہیں مگر نوافل میں نماز صحیح ہو جائے گی۔

خفیہ کے نزدیک فی اصح القولین نوافل میں بھی جائز نہیں، مجوزین حضرت عمرو بن سلمہ رض کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ابتداء اسلام کا واقعہ ہے، ورنہ کشف عورت کے باوجود نماز کو جائز کہنا پڑے گا اور ”رفع القلم عن ثلات“ سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ کے اعمال غیر معتری ہیں۔

پھر وہ امامت کیسے کر سکتا ہے؟

نیز حضرت عبد اللہ بن مسعود رض اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے نابالغ کی امامت کو ناجائز قرار دیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے ”لَا يُؤْمِنُ الْفَلَامُ حَتَّىٰ يَعْلَمُ“ اور حضرت ابن مسعود رض

کا ارشاد ہے "لا یوم الہلام حتی یجتب علیہ الحدود"۔ ۵۳

۳۳۰۳ - حدیثنا عبد الله بن مسلم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبیر، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ. وقال الليث: حدیثنا یوسف، عن ابن شهاب: حدیثنا عروة بن الزبیر: أن عائشة قالت: كان عقبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن ولیدة زمعة، وقال عقبة: إنه ابنی. فلما تقدم رسول الله ﷺ مكة في الفتح أخذ سعد ابن ولیدة زمعة فاقبل به إلى النبي ﷺ وأقبل معه عبد ابن زمعة، فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عهد إلى أنه ابنه، فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي، هذا ابن ولیدة زمعة ولد على فراشه، فنظر رسول الله ﷺ إلى ابن ولیدة زمعة فإذا أشبه الناس بعقبة بن أبي وقاص. فقال رسول الله ﷺ: ((هولك، هو أخوك يا عبد بن زمعة)) من أجل أنه ولد على فراشه. وقال رسول الله ﷺ: ((احتجب منه يا سودة))، لمارأى من شبه عقبة بن أبي وقاص. قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله ﷺ - ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)). وقال ابن شهاب وکان أبو هریرہ یصیح بذلك.

[راجع: ۲۰۵۳]

ترجمہ: حضرت عروہ بن زبیر ﷺ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عقبہ بن أبي وقاص نے اپنے بھائی سعد بن أبي وقاص سے کہا تھا کہ زمودی کے لڑکے کو لے لیتا، اور عقبہ نے کہا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ ایام فتح میں مکہ میں تشریف لائے تو حضرت سعد بن أبي وقاص زمودی کے لڑکے کو لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور ان کے ساتھ عبد بن زمعہ بھی آیا، حضرت سعد بن أبي وقاص ﷺ نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ اس کا لڑکا ہے۔ عبد بن زمودی نے کہا یا رسول اللہ!

۵۳ ويفهم منه أن البخاري يجوز امامته، وهو مذهب الشافعى أيضاً، ومذهب أبي حنيفة: أن المكتوبة لا تصح خللها، وبه قال أحمد واسحاق، وقال أبو داود: في النقل روایتان عن أبي حنيفة، وبالجواز في النقل قال أحمد واسحاق، وقال دارد: لا تصح فيما حکاه ابن أبي حنيفة عن الشعري ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعطاء، وأما قوله: ابن المنذر عن أبي حنيفة وصاحبہ الہامکروحة لا يصح هذا النقل، وعبد الشافعی في الجمعة قولان، وفي غيرها يجوز لحديث عمرو بن سلمة الذي فيه: أو م لهم وأنا ابن سبع وثمان سنين، وعن الخطابي أن احمد كان يضعف هذا الحديث، وعن ابن عباس: لا يلزم الہلام حتی یجتب علیہ الحدود، وذکر الأئمہ بسند له عن ابن مسعود أنه قال: لا يلزم الہلام حتی یجتب علیہ الحدود، وعن ابراهیم: لا یامس أن یوم الہلام لیل أن یحتمل فی رمضان، وعن الحسن مثله ولم یلینه. عمدة القاری، ج: ۵، من: ۳۳۶

یہ میرے بھائی زمود کا بیٹا ہے، اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس پر کی طرف دیکھا تو وہ عتبہ بن ابی و قاص کے زیادہ مشابہ تھا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسے لے لو، اے عبد بن زمود! یہ تمہارا بھائی ہے، کیونکہ یہ اسی کے فراش پر پیدا ہوا ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسے سودہ! اس سے پرودہ کرو، کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اس کی مشابہت عتبہ بن ابی و قاص کے ساتھ دیکھی تھی۔ ابن شہاب بواسطہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے فراش پر پیدا ہوا اور زانی کے لئے پھر ہیں۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ اس حدیث کو با آواز بلند بیان کرتے تھے۔

### مشاعع بخاری

امام بخاری رحمہ اللہ نے فتح مکہ کے سلسلے میں جو آخری باب قائم فرمایا اس کا منشاء یہ ہے کہ کون کون لوگ فتح مکہ میں شریک تھے، اس وقت موجود تھے اور اس موقع پر جو خاص خاص واقعات پیش جن کا اعلان برآہ راست لڑائی سے نہیں ہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر پیش آئے ہیں ان کو بھی اس باب میں ذکر فرمایا ہے۔

### عبد بن زمود کا قصہ جو فتح مکہ میں پیش آیا

ایک واقعہ حضرت سعد بن ابی و قاصؓ کا ہے کہ انہوں نے زمود کی جاریہ کے بیٹے کے بارے میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ بقول ان کے بھائی عتبہ بن ابی و قاص کا بیٹا ہے۔ یہ حدیث اس لئے پیش کی ہے کہ جو آخری فیصلہ نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ قضیہ سامنے آیا کہ حضرت سعد بن ابی و قاصؓ نے زمود کی جاریہ کے لڑکے کو اپنے قبضے میں لینا چاہا۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ یہ عبد بن زمود کا بیٹا ہے۔

یہ واقعہ بخاری میں متعدد مقامات پر آیا ہے، یہاں مقصود چونکہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ واقعہ فتح مکہ کے موقع پر پیش آیا، لہذا اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا اصل محل کتاب الطلاق ہے اور اس سے بڑے پیچیدہ اور طویل فتحی مباحث متعلق ہیں۔ ان شاء اللہ کتاب الطلاق میں ان کی تفصیل آئے گی۔

یہاں صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ واقعہ فتح مکہ کے موقع پر پیش آیا تھا اور یہ بڑی پیچیدہ احادیث میں سے ہے اور یہ حدیث مشکلات میں سے ہے۔ ۵۳

۵۳) اس حدیث کی حقیقت تفصیل اور تشریح ملاحظہ فرمائیں: «العام المبارى»، ج: ۲، کتاب الہموع، باب تفسیر المشبهات، رقم:

۲۰۵۲، ۲۰۵۳، ص: ۸۳، و تکملة فتح المهم، ج: ۱، ص: ۶۸

٣٣٠٣ - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يوبلس، عن الزهرى: أخبرنى عروة بن الزبير أن امرأة سرقت لي عهد رسول الله ﷺ فى غزوة الفتح، لفزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. قال عروة: فلما كلمه أسامة ليها تلون وجه رسول الله ﷺ فقال: ((إن الكلمى فى حد من حدود الله؟)) قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشى قام رسول الله خطيباً فألقى على الله بما هو أهله ثم قال: ((أما بعد فإنما أهلك الناس لبلكم أنهم كانوا إذا سرقوا منهم الشريف تركوه، وإذا سرقوا لهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذى نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)، ثم أمر رسول الله ﷺ بعلك المرأة، فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة: فكانت تائيني بعد ذلك فارفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ.

[راجع: ٢٦٣٨]

ترجمہ: حضرت عروہ بن زیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں غزوہ فتح کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی (حضور ﷺ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا) اس کی قوم کے لوگ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے پاس سفارش کرنے کے لئے آئے، حضرت عروہ ﷺ کہتے ہیں جب اسامہ ﷺ نے ان عورت کے بارے میں گفتگو کی تو رسول اللہ ﷺ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ تم مجھ سے اللہ کی حدود میں سفارش کرتا ہو؟ اسامہ ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ ! میرے لئے بخشش کی دعا کیجئے۔ شام کو رسول اللہ ﷺ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء اس کی شایان شان بیان کرنے کے بعد فرمایا اما بعد! تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا ہے کہ اگر ان میں کوئی شریف بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی ضعیف اور چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے۔ اس ذات پاک کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اس عورت پر حکم جاری فرمایا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر اس کی توبہ مقبول ہو گئی اور اس کے بعد اس نے کسی سے نکاح کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی اور اس کی جو خبر درست ہوتی تھی اسے رسول اللہ ﷺ سے بیان کر دیتی۔

### مشائی حدیث

یہاں پر اس حدیث کا منشاء بھی ہے کہ یہ واقعہ فتح مکہ کے موقع پر پیش آیا تھا اس وقت ایک عورت نے

چوری کی تھی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے اس کی قوم کے کہنے پر رسول اللہ ﷺ سے اس کی سفارش کی تھی تو اس بات کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کا چجزہ انور متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ تم مجھ سے اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ اسامہ ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ امیرے لئے بخشش کی دعا کیجئے۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ خطبہ کیلئے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا ہے کہ اگر ان میں کوئی باحیثیت آدمی چوری کوتا تو اسے چھوڑ دیتے اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے۔ اللہ کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں۔

حدیث میں ذکر ہے کہ حد جاری ہونے کے بعد اس عورت نے تو بہ بھی کر لی تھی، اور اس نے نکاح کر لیا تھا، اس کا نام فاطمہ مخزوں میہ تھا۔ روایت میں ہے کہ اس عورت نے خود حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا تھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ آج تو ایسی ہے، جیسی اس دن تھی جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی "کما جاء فی الحديث : العائب من الذبب کما لاذب له"۔ ۵۴

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ بعد میں حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں آیا کرتی تھی تو اس کو کچھ کام ہوتا تھا وہ میں حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیتی تھی کہ یہ عورت فلاں کام کیلئے آلی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کلنے کے بعد ٹھیک ہلاک ہو گئی تھی۔

"الحسنت توبتها" سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اقامت حدود کی اصل وضع کفار معاصی اور تطہیر نہیں بلکہ زجر و توعیہ ہے۔ ۵۵

یہ معروف واقعہ ہے اور یہ بھی متعدد جگہ پر جماری میں آیا ہے۔

۵۵ - حدثنا عمر و بن خالد: حدثنا زهير: حدثنا عاصم، عن أبي عثمان: حدثني مجاشع قال: أتيت النبي ﷺ بأخي بعد الفتح فقلت: يا رسول الله، جئتكم بأخي لتباييعه على الهجرة، قال: ((ذهب أهل الهجرة بما فيها)). فقلت: على أى شيء تباييعه؟ قال: ((أبايده على الإسلام والإيمان والجهاد)). فلقيت معبداً بعده و كان أكبرهما، لسائله فقال: صدق مجاشع. [راجع: ۲۹۶۲، ۲۹۶۳]

۵۵ سن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر التربة، رقم: ۲۲۵۰

۵۶ قوله: ((الحسنت توبتها)), لأن له دلالة على أن السارق إذا ثاب وحسن حاله قبل شهادته، فالبخاري الحق القاذف بالسارق لعدم الفارق عنده، ولكل الطحاوى الاجماع عليه بقول شهادة السارق اذا ثاب. عمدة القارىء، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزالى، ج: ۱۳، ص: ۳۱۵

ترجمہ: ابو عثمان روایت کرتے ہیں حضرت مجاشع رض نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ فتح مکہ کے بعد میں اپنے بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں اپنے بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کی خدمت میں لا لایا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام اس سے بھرت پر بیعت لیں، آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھرت کی فضیلت تو مہاجرین نے حاصل کر لی، میں نے عرض کیا کہ پھر کس چیز پر آپ اس سے بیعت لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے فرمایا: اسلام، ایمان اور جہاد پر۔ ابو عثمان کہتے ہیں پھر میں نے ابو معبد رض سے ملاقات کی جوان دونوں میں سب سے بڑے تھے، ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجاشع رض نے بیع کہا ہے۔

۷۔ ۳۳۰۸، ۳۳۰۹۔ حدیثاً محدث بن مسعود: حدیثنا فضیل بن سلیمان: حدیثنا عاصم، عن أبي عثمان النہدی، عن مجاشع بن مسعود: الطلاقت يا بني معبد إلى النبي ﷺ ليهابعه على الهجرة قال: ((مضت الهجرة لأهلها، أبا يعده على الإسلام والجهاد)). فلقيت أبا معبد السالقه فقال: صدق مجاشع. وقال خالد، عن أبي عثمان، عن مجاشع: أله جاء به أخيه مجالد. [راجع: ۲۹۶۲، ۲۹۶۳]

ترجمہ: ابو عثمان نہدی روایت کرتے ہیں کہ حضرت مجاشع بن مسعود رض نے بیان کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کی خدمت میں ابو معبد کو بھرت پر بیعت لینے کے لئے لیکر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھرت تو مہاجرین پر ختم ہو چکی، میں اس سے اسلام اور جہاد پر بیعت لوں گا۔ پھر میں نے ابو معبد سے ملاقات کر کے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجاشع نے بیع کہا۔ خالد بواسطہ ابو عثمان، حضرت مجاشع رض سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی مجالد کو لے کر آئے۔

## فتح مکہ کی اہمیت و حیثیت

حضرت ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ جو تابعین میں سے ہیں۔

وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام حضرت مجاشع رض نے یہ حدیث سنائی کہ فتح مکہ کے بعد میں اپنے بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کے پاس لے کر گیا، ان کے بھائی کا نام مجالد رض تھا اور ان کی کنیت ابو معبد تھی، تو اپنے بھائی ابو معبد کو فتح مکہ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کے پاس لے کر گئے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنے بھائی کو اس غرض سے لایا ہوں کہ آپ ان سے بھرت پر بیعت کر لیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے فرمایا کہ "مضت الهجرة لأهلها" بھرت والے اس بھرت کے احکام اور فضائل کے ساتھ اب چلے گئے، جس نے بھرت کرنی تھی اور اس کی فضیلت حاصل کرنی تھی وہ اس نے کر لی۔

معنی یہ ہے کہ اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کا وہ مقام باقی نہیں رہا جو فتح مکہ سے پہلے تھا۔ فتح مکہ سے پہلے ہر صاحب ایمان کیلئے ہجرت واجب تھی بلکہ قرآن کریم میں ہجرت کو ایمان کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا گیا تھا اور ہجرت ترک کرنے والوں پر قرآن میں سخت وعید نازل ہوئی، لیکن فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا، وہ فرض رہی نہ واجب رہی۔

ابتدئہ ہجرت کا یہ حکم اب بھی باقی ہے کہ آدمی اگر ایسے دارالکفر میں ہو جہاں اپنے دین کے احکام پر وہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا ہو تو اس صورت میں اس کو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے، لیکن عام حالات میں ہجرت واجب نہیں۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی حالت تھی وہ ختم ہو گئی، اہل ہجرت اس کے احکام کے ساتھ چلے گئے جن کو وہ فضیلت اور مقام حاصل کرنا تھا انہوں نے کر لیا تو اس لئے اب میں ہجرت پر بیعت نہیں کروں گا۔

حضرت مجاشع ﷺ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا پھر کس چیز پر بیعت لیں گے؟  
حضور اقدس ﷺ نے فرمایا "ابا ایمہ علی الاسلام والجهاد" اب جو میں بیعت لوں گا تو وہ اسلام، ایمان کی اور جہاد کی لوں گا، اب ہجرت کی بیعت نہیں ہے۔

## ہجرت ختم ہونے کا نکتہ نظر

یہاں اس روایت کے لانے کا تصور یہ ہے کہ فتح مکہ اس لحاظ سے ایک اہم حیثیت کا حامل ہے کہ اس نکتہ تاریخ سے ہجرت کے احکام جو پہلے تھے وہ منسوخ ہو گئے اور اس لئے کہا گیا کہ "لا هجرة بعد الفتح" فتح مکہ کے بعد ہجرت اس معنی کی نہیں ہے۔

حضرت ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے حضرت مجاشع ﷺ سے سئی تھی، اس کے بعد "فلقیت ابا عبد بعد ذلك" میری ملاقات برادر است حضرت ابو معبد ﷺ سے ہوئی، "و کان اکبرهم" ابو معبد دونوں بھائیوں میں بڑے تھے۔

میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت مجاشع ﷺ ان کو حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں لے گئے تھے اور کیا یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا "صدق مجاشع" مجاشع نے حق بات کہی، حق واقعہ بیان کیا۔

یہی ہوا تھا کہ وہ مجھے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں لے گئے اور بعد میں آپ نے منع کر دیا کہ ہجرت کی بیعت نہیں ہوگی ہاں! اسلام، ایمان اور جہاد کی بیعت ہوگی۔

٢٣٠٩ - حديثى محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد: قلت لابن عمر رضى الله عنهما: إنى أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة لكن جهاد فاطلق فأعرض نفسك فلان وجدت شيئاً ولا رجعت. [راجع: ٣٨٩٩]

ترجمة: مجاهد فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کیا کہ میں شام کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہجرت تو ختم ہو چکی، اب توجہا دے، لہذا تم جاؤ اور خوکو پیش کرو اگر تم نے کچھ پالیا (یعنی جہاد کی طاقت) پا تے ہو (تو بہت اچھی بات ہے) ورنہ واپس آ جاؤ۔

## شرح

مجاهد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ "إنى أريد أن أهاجر إلى الشام" میں شام کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا "لا هجرة" اب ہجرت نہیں ہے یعنی اس معنی میں مشروع نہیں رہی جس میں فتح مکہ سے پہلے مشروع تھی۔

"لا هجرة" دیے بھی ہجرت کہاں سے کرتے؟ کیا مدینہ منورہ سے؟

ہجرت تو "دارالکفر" سے کی جاتی ہے، نہ کہ "دارالاسلام" سے۔

## ہجرت تو ختم، لیکن جہاد باقی

تو اس لئے فرمایا "لا هجرة ولكن جهاد" ہجرت تو اب باقی نہیں رہی لیکن جہاد اب بھی باقی ہے۔

"فاطلق فأعرض نفسك" لہذا تم جاؤ اپنے نفس کو پیش کر دو، "فلان وجدت شيئاً" اگر کچھ پاؤ۔ یعنی جہاد کا موقع ملے اور جہاد کی طاقت پاؤ تو تھیک ہے، "والارجعت" ورنہ واپس آ جاؤ۔

کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شام اگر ہجرت کی غرض سے جاری ہے ہوتو یہ مقصد بیکار ہے البتہ جہاد کے مقصد سے جانا چاہو تو جاسکتے ہو، اگر وہاں جہاد کا کوئی موقع اور طاقت تھیں ملے تو جہاد کے اندر شامل ہونا بہت اچھی بات ہے اور اگر نہ ملے تو پھر لوٹ آتا۔ ۴۵

٢٣١٠ - وقال النضر: أخبرنا أبو بشر: سمعت مجاهدا: قلت لابن عمر فقال: لا هجرة اليرم - أو بعد رسول الله ﷺ - مثله. [راجع: ٣٨٩٩]

کے قولہ: ((فلان وجدت شيئاً)) ای: من الجهاد أو من القدرة عليه، فذاك هو المطلوب. عمدة القاري، ج ١٧، ص: ٣١٧

ترجمہ: مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہجرت کرنے کو کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اب ہجرت باقی نہیں رہی یا یہ فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد ہجرت نہیں رہی۔

۳۳۱۱ - حديثنا إسحاق بن يزيد: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني أبو عمرو الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن مجاهد بن جبر: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهمَا كان يقول: لا هجرة بعد الفتح. [راجع: ۳۸۹۹]

ترجمہ: مجاہد بن جبر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔

۳۳۱۲ - حديثنا إسحاق بن يزيد: حدثنا يحيى بن حمزة: حدثني الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عطية مع عبيد بن عمر لصالها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر أحد هم بدينه إلى الله وإلى رسوله ﷺ مخافة أن يفتن عليه فاما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يبعد ربه حيث شاء، لكن جهاد ونية. [راجع: ۳۰۸۰]

ترجمہ: عطاء بن أبي رباح کہتے ہیں کہ میں عبید بن عمر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا، ان سے ہجرت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، اب ہجرت نہیں ہے، مسلمان اپنے دین کو فتنہ سے محفوظ رکھنے کیلئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف بھاگتا تھا، لیکن اب تو اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے، لہذا مؤمن جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کرے، ہاں لیکن جہاد اور نیت اب بھی باقی ہے۔

## واعظِ مکہ

حضرت عبید بن عیسر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں اور اہل مکہ کے واعظین میں سے تھے۔

واعظ کو اس زمانے میں "معاظ" تصور کو کہا جاتا تھا، کیونکہ واعظ لوگ قصہ بہت ساتے ہیں اس لئے "معاظ" لفظ بول کر واعظ مراد لیتے تھے۔

Ubaid bin Ussir رحمہ اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے "كان قاصِ أهل مکہ" اہل مکہ کے واعظ تھے۔ ۵۸

<sup>۵۸</sup> عبید ابن عمر ابن قادة الليثی أبو عاصم المکی ولد على رحمہ النبی ﷺ، قاله مسلم وعده غیرہ فی کثار التابعين وکان قاصِ اهل مکہ مجمع علی لفته مات قبل ابن عمر ع. تصریح الحدیث، ص: ۷۳، ومسیر اعلام البلااء، ج: ۵، ص: ۳۸

## ہجرت کا مقصد

حضرت عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عبد بن عسیر رحمہ اللہ کے ہمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملنے گیا اور ہجرت کے بارے میں پوچھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اب ہجرت نہیں ہے، اور اس بات کی وضاحت یوں کی کہ "کان المؤمن بپھر احدهم بدینه الی الله والی رسولها" پہلے مؤمن اپنے دین کو لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف بجا گا کرتا تھا اور اس کے رسول کی طرف، "مَعَالَةً أَن يَفْعَلْ عَلَيْهِ" اس ڈر سے کہ اس کو آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے، اس لئے وہ ڈر سے بجا گتا تھا۔

"لَامَا الْيَوْمَ فَلَقِدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْأَسْلَامَ الْخَ" اب جبکہ اللہ نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمادیا ہے تو مؤمن اپنے پروارگار کی عبادت جہاں چاہے کر سکتا ہے، لہذا اب وہ ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا، "لَكِنْ جِهَادُ وَلِيَةٍ" لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ ۵۹

## ہجرت کی نیت

جہاد کے معنی یہ کہ اللہ کے راستے میں آدمی جہاد کر لے قتال کرے اور اس بات کی نیت رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کام فرض ہو گا تو میں وہ انجام دوں گا۔

اگر پھر کبھی دوبارہ ہجرت کی ضرورت پیش آگئی تو دوبارہ ہجرت کروں گا، جہاد کی ضرورت پیش آگئی تو جہاد کروں گا اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہجرت کی نیت ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔

## خلاصہ کلام

ان حدیثوں کی روشنی میں یہ بات ذہن لشیں فرمائیں کہ یہ حکم صرف مکہ سے ہجرت کے متعلق ہے، چونکہ

۵۹ قولہ: ((لا هجرة)) شیران معاک: بعد الفتح، وہنا: لا هجرة الی المرم، ومعناها یہ لزول الی معنی واحد.

قول: ((یصر بدینه)) ای: بحسب حلظل دینہ، قولہ: ((معالله)) لقب علی العلیل، قولہ: ((ولکن جہاد)) ای: ولکن

الہجرة الیوم جہاد فی سبیل اللہ، عمدۃ المواری، ج: ۷، ص: ۱۸۰

فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ دارالاسلام ہو گیا، اس لئے کہ معظم سے ہجرت ختم، لیکن مسلمانوں کے لئے کسی بھی ملک میں اگر کہ جیسے حالات پیدا ہو جائیں تو دارالحرب سے ہجرت کا حکم قیامت تک لازم رہے گا۔  
شرط یہ ہے کہ ہجرت کا مقصد دین کی حفاظت و بقاء اور اصلاح ہو۔

ہجرت کا سوال فتح مکہ کے بعد تھا، اس لئے جواب "لا هجرة بعد الفتح" کہہ کر دیا، سواب مکہ معظمه سے ہجرت کا حکم ختم ہو گیا، لیکن عام حیثیت سے حالات کے تحت دارالحرب سے ہجرت کا حکم باقی ہے اور یہ حکم تاقیامت باقی رہے گا۔

٤٠ قوله: ((كان المُؤمنون يلْهُ أحادِعهم بِدِينِهِ (الغ)) أشارت عائلة إلى بيان مشروعية الهجرة وأن سببها معرف الفتح والحكم يدور مع عنته، فلتنتبه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع للق لم يجب عليه الهجرة منه إلا وجبت، ومن ثم قال المأوزدي: إِذَا قدرَ عَلَى إِظْهَارِ الدِّينِ فِي مَلَدِ مِنْ مَلَادِ الْكُفَّارِ لِمَدْحَارِ الْمُهَاجِرَةِ مِنْهُ إِلَّا وَجَبَتْ، فالإِقامةُ لِهَا الْمُهَاجِرَةُ مِنْ الرُّحْلَةِ مِنْهَا مَا يَرْجُى مِنْ دُخُولِ غَيْرِهِ فِي الإِسْلَامِ، وَلَمْ تَنْدُمْ الْإِدَارَةُ إِلَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْجَهَادِ فِي بَابِ وَجْهِ النَّفِيرِ، لِيَ الْجَمِيعُ بَيْنَ حَدِيثِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ((لَا هُجْرَةُ بَعْدَ الْفَتحِ)) وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ ((لَا تَنْقِطُ الْهُجْرَةُ)) وَقَالَ الْعَطَابِيُّ: كَانَتْ الْهُجْرَةُ أَيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي أُولِيِّ الْإِسْلَامِ مَطْلُوبَةً، ثُمَّ الْعَرْجَةُ لِمَا هَاجَرَ إِلَيْهِ الْمَدِينَةُ إِلَى حُضُورِهِ لِلْقَتَالِ مَعَهُ وَتَعْلُمُ شَرْاعَ الدِّينِ، وَقَدْ أَكَدَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي عَدَّةِ آيَاتٍ حَتَّى قُطِعَ الْمَوَالَةُ بَيْنَ مَنْ هَاجَرَ وَمَنْ لَمْ يَهَاجِرْ لِقَالَ تَعَالَى ﴿وَالَّذِينَ آتُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَهَاجِرُوا﴾ فَلَمَّا قُطِعَتْ مَكَّةُ وَدَخَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ الْإِسْلَامَ مِنْ جَمِيعِ الْقَبَائِلِ سَلَطَتْ الْهُجْرَةُ الْوَاجِبَةُ وَهُنَّ الْمُسْتَحْيَابُ. وَقَالَ الْبَهْرَوِيُّ فِي ((طَرِحِ الْسَّنَةِ)): يَحْتَمِلُ الْجَمِيعُ بَيْنَهُمَا بِطَرِيقِ أَخْرَى بِقَوْلِهِ ((لَا هُجْرَةُ بَعْدَ الْفَتحِ)) أَيْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَوْلِهِ ((لَا تَنْقِطُ)) أَيْ مِنْ دَارِ الْكُفَّارِ فِي حَقِّ حَقِّ مَنْ أَسْلَمَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: وَيَحْتَمِلُ وَجْهًا آخَرَ وَهُوَ أَنْ قَوْلَهُ لَا هُجْرَةُ أَيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِيثُ كَانَ بِهِ نَهْيٌ عَنِ الدُّرُجَاتِ إِلَى الْوَطَنِ الْمَهَاجِرُ مِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَقَوْلَهُ ((لَا تَنْقِطُ)) أَيْ هُجْرَةُ مَنْ هَاجَرَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَصْفِ مِنَ الْأَعْرَابِ وَلِحَوْرَمِ. لِكُلِّ: الْذِي يَظْهِرُ أَنَّ الْمَرَادَ بِالشَّقِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُنْتَهَى مَا ذُكِرَ لِي الْاحْتِمَالُ الْأَعْيُرُ، وَبِالشَّقِّ الْآخِرُ الْمُبْلِغُ مَا ذُكِرَهُ فِي الْاحْتِمَالِ الْذِي لَمْ يَلْهُ، وَقَدْ أَصْبَحَ أَبْنَى عَمَرَ بْنَ الْمُرَادِ لِمَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِلِفَظِ ((الْقَطْعَةُ الْهُجْرَةُ بَعْدَ الْفَتحِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا تَنْقِطُ الْهُجْرَةُ مَا لَوْلَلِ الْكَلَارِ)) أَيْ مَا دَامَ فِي الدِّنِهَا دَارِ كُفَّارَ، فَالْهُجْرَةُ وَاجِبَةٌ مِنْهَا عَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَعَنِيَ أَنْ يَلْقَنَ عَنِ دِينِهِ، وَمَلْهُومُهُ أَنْ لَوْلَرَ أَنْ يَلْقَى فِي الدِّنِهَا دَارِ كُفَّارَ أَنَّ الْهُجْرَةَ تَنْقِطُ لَا تَنْقِطُ لَا تَنْقِطُ مُوجِبَهَا وَالْأَعْلَمُ. وَاطْلَقَ أَبْنُ الْعَيْنِ أَنَّ الْهُجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ كَاتِ وَاجِبَةٌ وَانْ مِنَ الْأَمَمِ بِمَكَّةَ بَعْدَ هُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ بِهِرُ عَلَرَ كَانَ كَافِرًا، وَهُوَ إِطْلَاقٌ مَرْدُودٌ، وَالله أَعْلَمُ. فتح المباري، ج: ٢، ص: ٢٣٠

٣٣١٣ - حدثنا إسحاق: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج: أخبرني حسن بن مسلم، عن مجاهد: أن رسول الله ﷺ قام يوم الفتح فقال: ((إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فلهي حرام بحرام الله إلى يوم القيمة، لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لطيلاً إلا ساعة من الدهر، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلي خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد)). فقال العباس بن عبدالمطلب: (الإلا إلآخر يا رسول الله، فإله لا بد منه للقين والبيوت، فسكت ثم قال: ((الإلا إلآخر فإله حلال)). وعن ابن جريج: أخبرني عبدالكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس بمعنى هذا أو نحو هذا. رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ. [راجع: ۱۳۳۹]

ترجمہ: مجاہد رحمہ اللہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے دن کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے مکہ کو حرم قرار دیا ہے، لہذا یہ قیامت تک اللہ کے حکم کے مطابق حرمت والا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کیلئے حلال ہوا، نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا، اور سوائے تھوڑے وقت کے میرے لئے بھی حلال نہیں ہوا، نہ اس کے شکار کو دوڑانا جائز ہے، نہ اس کے کائنات کا اکھیزنا درست ہے، نہ اس کی خود روگھاس کاٹنا جائز ہے، اور اس کا لقطہ بھی جائز نہیں ہے علاوہ اس کے جو لوگوں کو اطلاع دیدے، تو عباس بن عبدالمطلب ﷺ نے کہا سوائے گھاس کے یا رسول اللہ! کیونکہ لوہاروں کو اور ہمارے گھروں میں اس کی ضرورت رہتی ہے، تو حضور ﷺ خاموش ہوئے، پھر فرمایا سوائے گھاس کے، کہ وہ حلال ہے۔ ابن جرجی روایت کرتے ہیں کہ مجھے عبدالکریم نے بیان کیا، انہوں نے عکرمه سے بواسطہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی طرح یہ روایت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے نبی ﷺ سے اسی جیسی روایت کی ہے۔

## فتح مکہ کے روز نبی کریم ﷺ کا خطبہ

حضرت مجاہد رحمہ اللہ اس روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن کھڑے ہو کر خطاب فرمایا "ان الله حرم مكة يوم خلق السموات الخ" اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے مکہ کو حرم قرار دیا ہے، لہذا یہ قیامت تک اللہ کے حکم کے مطابق حرم ہے یعنی یہ مکہ قیامت تک حرمت والا شہر ہے گا، اللہ تعالیٰ کی حرمت اس کو عطا کی ہوئی ہے۔

"لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدي الخ" اس میں قال کرنا مجھ سے پہلے کسی کیلئے حلال نہیں کیا گیا اور نہ آئندہ کسی کیلئے حلال ہوگا اور میرے لئے بھی صرف تھوڑی دیر کیلئے حلال ہوا تھا۔

”لَا يَنْهَا حِصْدَهَا“ حرم کے شکار کو بھگایا نہیں جا سکتا یعنی شکار کرنا تو جائز ہی نہیں ہے کوئی آدمی اس کو بھگائے اور بھگا کر یہ چاہے کہ جب حرم سے نکل آئے تو بعد میں اس کو مارلوں اس غرض کے لئے بھگانا بھی جائز نہیں۔

”وَلَا يَعْضُدُ شَجَرَهَا“ اور اس کا کاشا بھی نہ توڑا جائے۔

حزم کی کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ شان بیان کی ہے کہ

**﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾**

ترجمہ: اور جو اس میں داخل ہوتا ہے اسکن پا جاتا ہے۔

یہاں تک کہ کائنتوں کو بھی اسمن دیا گیا کوئی کاشا بھی یہاں سے نہ توڑے۔

”وَلَا يَخْتَلِي خَلَاهَا“ اور اس کی خود روگھاس بھی نہ اکھاڑی جائے۔

”خلال“ سے مراد خود روگھاس ہے جو خود اگتی ہے اس کو اکھاڑنا بھی جائز نہیں ہے۔

”وَلَا سُحلٌ لِّفَطْعَهَا إِلَّا لِمُنْشَدٍ“ اور اس میں کوئی شخص اگر لقطہ چھوڑ کر چلا گیا تو دوسرے کے لئے اٹھانا جائز نہیں ہے مگر سوائے اس شخص کے کہ جو اعلان کر لے، معلومات کر لے کہ یہ کس کی چیز رہ گئی ہے تو اعلان کرنے والے کے علاوہ کسی اور کیلئے لقطہ اٹھانا بھی حلال نہیں۔

اللٰہ تعالیٰ نے شروع سے اس گھر کو ظاہری و باطنی، جسی و محتوی برکات سے معمور کیا اور سارے جہاں کی ہدایت کا سرچشمہ شہر یا ہے۔ روئے زمین پر جس کی مکان نہیں برکت و ہدایت پائی جاتی ہے، اسی بیت مقدس کا ایک عکس اور پرتو سمجھنا چاہئے۔

یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، مناسک حج ادا کرنے کے لئے سارے جہاں کو اسی کی طرف و موت دی۔

عاصیکر ذہب اسلام کے پروں کو شرق و مغرب میں اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، اس کے طواف کرنے والوں پر بیک دفریب برکات و الوار کا افاضہ فرمایا۔ انبیاء سبقین بھی حج ادا کرنے کے لئے نہایت شوق و ذوق سے تلبیہ پکارتے ہوئے اسی شیعے کے پرداں بنے اور طرح طرح کی ظاہر و باہر نشانیاں قدرت نے بیت اللہ کی برکت سے اس سر زمین میں رکھ دیں۔

اسی لئے ہر زمانہ میں مختلف مذاہب والے اس کی غیر معمولی تعظیم و احترام کرتے رہے اور ہبہ وہاں داخل ہونے والے کو امور سمجھا گیا۔ اس کے پاس مقام ابراہیم کی موجودگی پھاڑے رہی ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم بھی آئے ہیں اور اس کی تاریخ جو تمام رب کے نزو دیک بناکیم سلم چلی آرہی ہے ٹھلانی ہے کہ یہ دو تقریبے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا اور خدا کی قدرت سے اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان پر گمراحتا جو آج تک محفوظ چلا آتا ہے۔

گویا اولادہ تاریخی روایات کے اس مقدس پتھر کا وجود ایک ٹھوس دلیل اس کی ہے کہ یہ گھر طوفان (وح کی جائی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاک ہاتھوں سے تعمیر ہوا جن کی مدد کے لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام شرکت کا رہے۔ (فائدہ نمبر: ۷، آل عمران: ۷۶ و تفسیر علی)

## لقط کا حکم

**سوال:** سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لقط کا تحرم کے علاوہ بھی یہی حکم ہے یعنی حرم سے باہر بھی اگر کسی کو کوئی لقط ملے تو حکم یہ ہے کہ اٹھانا حلال نہیں اللایہ کہ اس نیت سے اٹھائے کہ اس کا اعلان کر لے اور پتہ لگائے کہ کس کا ہے، تو پھر یہ خاص طور سے حرم کے بارے میں کیوں ارشاد فرمایا گیا ہے؟

**جواب:** فقهاء کرام نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔

اس کی صحیح توجیہ یہ ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ حکم حرم کے ساتھ خاص ہے لیکن خاص طور سے حرم میں اس کی اہمیت زیادہ ہونے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ حرم میں اس کی اہمیت زیادہ ہے۔

اس لئے کہ حرم میں جو لوگ آتے ہیں عام طور سے وہ باہر (بیرونِ مکہ کرمہ) سے آتے ہیں کوئی حج کرنے آیا ہے کوئی عمرہ کرنے آیا تو تقریباً سب مسافر ہوتے ہیں (بطور استعمال کے لئے محدود چیزیں ہوتی ہیں)، ان کا مستقل کوئی شکانہ نہیں ہوتا، اگر ان کی کوئی چیز کہیں گم ہو جائے تو ایک قویہ کہ ان کو بسبت میتم لوگوں کے پریشانی زیادہ ہوگی۔

دوسری یہ کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کا کوئی سامان گم ہو جائے، تو جو مسافر آدمی ہے اس کو اور جگہوں کا توپتہ نہیں ہوتا کہ کہاں جا کر جلاش کریں وہ تلوث کروہاں جائے گا جہاں اس نے چھوڑا تھا تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ جہاں سے جو چیز ملے اس کو اٹھاؤ مت، وہیں چھوڑ دو کیونکہ جلاش کرنے والا بھی نہ کبھی آئے گا۔ جب آئے گا تو اسی جگہ پہنچے گا جہاں اس نے چھوڑی تھی تاکہ اس کو مل جائے۔ وہاں سے ناٹھانے کی علت بھی ہے۔

البتہ جہاں یہ خیال ہو کہ اس نے لوث کر آئا نہیں ہے یا چیز بہت دریے سے پڑی ہوئی ہوا اور کوئی نہ آ رہا ہو، پھر آدمی اعلان کی غرض سے اٹھا سکتا ہے۔

تو حکم اگرچہ عام ہے، حرم اور غیر حرم دونوں میں یکساں ہے۔ لیکن حرم میں اس کی اہمیت زیادہ ہے اور اس کے اسباب زیادہ ہیں کہ آدمی اس میں زیادہ احتیاط سے کام لے۔

جب حضور اقدس ﷺ نے یہ حکم "ولَا يَخْتَلِي خَلَّاهَا" بیان فرمایا اس کی خود رو گھاس کو نہ اکھاڑا جائے تو حضرت عباس ﷺ جو آنحضرت ﷺ کے چچا ہیں انہوں نے عرض کیا کہ "لَا إِلَّا ذُخْرٌ بِأَرْسَلَ اللَّهُ" اے اللہ کے رسول! خود رو گھاس کو اس حکم سے مستثنی فرمادیجئے، کویا انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ جو آپ نے تمام گھاسوں کو کاش منع فرمادیا ہے تو اس سے اذخر کو مستثنی فرمادیجئے، "لَا إِلَّا ذُخْرٌ بِأَرْسَلَ اللَّهُ" کیونکہ

اذخر گھانس کی لوہار کوخت ضرورت ہوتی ہے اور گھروں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔

”لستک“ یہ بات سن کر تھوڑی دری کے لئے آنحضرت ﷺ خاموش ہو گئے، خاموش اس لئے ہوئے کہ غالباً وہی کا انتظار تھا۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا ”لَا إِلَّا دُخْرُ فِتَنَةِ حَلَالٍ“ وہی آگئی تو آپ ﷺ نے اس کا استشاف کر دیا، چنانچہ فرمایا کہ اذخر حلال ہے، اور یہی حکم اب مجمع علیہ ہے۔

## نبی کریم ﷺ کی طرف حلت و حرمت کی نسبت

سوال: بات یہ ہے کہ بعض روایتوں میں حلت اور حرمت کی نسبت نبی کریم ﷺ نے اپنی طرف سے فرمائی کہ میں حلال کرتا ہوں میں حرام کرتا ہوں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو حلال و حرام کرنے کا اختیار تھا۔

جواب: یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی نص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آجائی ہے تو وہاں پر تو کوئی اختیار نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمادیا اسی کے مطابق آپ ﷺ حکم دیتے تھے۔

اگر نص آنے کی موقع ہوتی تھی کہ اس بارے میں کوئی حکم آجائے گا تو اس وقت بھی حضور اقدس ﷺ کوئی بات اپنی طرف سے ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ

(وَمَا يَنْبَطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ يُوَحَّىٰ)

ترجمہ: اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو خالص

وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

لیکن جہاں دونوں باتیں نہیں ہیں کہ نہ تو کوئی نص آئی اور نہ فی الحال موقع ہے تو اس وقت حضور اقدس ﷺ نے اپنے اجتہاد سے بھی بعض احکام نافذ فرمائے۔ اور نبی کریم ﷺ کا وہ اجتہاد بھی اس لحاظ سے ” شامل من السوسي“ تھا کہ اگر اس کے خلاف کوئی وہی نہیں آئی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آپ کو تقریر فرمادی، اس واسطے اس کا درجہ بھی وہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ حکم کا ہوتا ہے۔

۲۲) یعنی کوئی کام نہ کیا، ایک حرف بھی آپ کے دہن مبارک سے ایسا نہیں لکھا جو خواہش نفس پر منی ہو۔ بلکہ آپ ﷺ جو کچھ دین کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وہی اور اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں وہ حلو کو ”تران“ اور غیر حلا کو ”حدیث“ کہا جاتا ہے۔ (تفصیر مٹانی، فائدہ نمبر: ۵، الجم: ۳، ۲)

اسی وجہ سے بعض حضرات نے نبی کریم ﷺ پر شارح کے لفظ کا اطلاق کیا ہے اور قرآن شریف میں بھی نسبت کی گئی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

**وَإِنْجُلْ لَهُمُ الْطَّيَّبَاتِ وَهُنَّ عَزِيزُهُمْ  
الْغَنَّامُ**

ترجمہ: اور ان کیلئے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا۔

یہاں تحریم اور تحملیل کی نسبت نبی کریم ﷺ کی طرف کی گئی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بعض جگہ آپ ﷺ کی طرف تحریم اور تحملیل کی نسبت مجازی ہے اس معنی میں کہ حقیقت میں تو حلال و حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا تھا آپ ﷺ نے اس حکم کو پہنچایا تو حلت اور حرمت کی نسبت آپ کی طرف مجازاً کر دی گئی اور بعض مرتبہ جہاں نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی اجازت دی تھی وہاں آپ ﷺ نے اجتہاد کی بناء پر کوئی حکم جاری فرمایا تو اس وقت میں حلت اور حرمت کی نسبت آپ ﷺ کی طرف حقیقی ہے۔

لیکن وہ بھی بالآخر اللہ ہی کے حکم کی طرف راجح ہوتا ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو اللہ اس حکم کو باقی نہ رکھتے بلکہ وہی کے ذریعے اس کی تردید فرمادیتے۔

بَاب

غُزوَةٌ حُنَيْنٌ،

غُزوَةٌ أَوْطَاسٌ وَغُزوَةُ الطَّائِفِ

## (۵۵) باب قول الله تعالى:

﴿وَنَوْمٌ خَنِينٌ إِذَا أَغْبَجْتُكُمْ كَفَرْتُكُمْ فَلَمْ تُفْنِيْنِمْ شَيْئاً وَضَائِقْتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَعَارِثِكُمْ فُمْ وَلَيْسُ مُدَبِّرِينَ﴾ الی قوله: ﴿لَهُفْوَرُ زِحْمِهِ﴾

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اُور (خاص طور پر) خنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مکن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے سچے کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر بیک ہو گئی، پھر تم نے پیشہ دکھا کر میدان سے رُخ موڑ لیا ہے یہاں سے آگے اس آیت تک ﴿اُر اللہ بہت بخشنے والا، بِرَاحْمَانٍ ہے﴾

غزوہ خنین کا پس منظر

یہ غزوہ خنین، فتح مکہ کے بعد شوال ۸ھ میں ہوا، آپ ﷺ بارہ ہزار کے لکھر ساتھ مکہ معظمه سے روانہ ہوئے اور خنین کا قصد فرمایا جہاں قبائل ہوازن ثقیف آباد تھے، دس ہزار جانباز تو وہی تھے جو مدینہ منورہ سے آنحضرت ﷺ کے ہمراہ آئے تھے اور باقی اہل مکہ تھے۔

یہاں اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ غزوہ خنین سے متعلق احادیث شروع فرمائے ہیں اور غزوہ خنین چونکہ فتح کہ کے متصل بعد پیش آیا، اسی واسطے فتح کہ کے بعد امام بخاری نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔

اس غزوہ کا سبب یہ ہے کہ جب کہ مکرمہ فتح ہو گیا اور آپ ﷺ کہ مکرمہ میں ہی قیام فرماتھے تو اس وقت کسی شخص نے خدمت میں آ کر آنحضرت ﷺ کو یہ اطلاع دی کہ بنو ہوازن اور بنو ثقیف کے قبیلے، جو طائف کے آس پاس آباد تھے، ان دونوں قبیلوں نے مل کر ایک بہت بڑا لکھا کیا ہے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ اور مسلمانوں پر حملہ آ در ہوں، کیونکہ ان کو مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی خبر مل گئی تھی اور ان کو اس بات کا اندریشہ ہوا تھا کہ اب ہماری باری ہے تو انہوں نے سوچا کہ خود جمع ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے، اس غرض کے لئے انہوں نے ایک بڑی تعداد میں لکھر جمع کیا۔

آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع میں تو آپ نے اپنے صحابہ کرام ﷺ سے فرمایا کہ چلو اب فتح کہ کے بعد

ان کی طرف روانہ ہوں، چنانچہ مسلمانوں کے ہمراہ نبی کریم ﷺ شوال کے مہینہ میں حنین کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص عبد اللہ بن ابی حدراءasl نے آکر آپ ﷺ کو بتایا کہ بنا ہوازن اور بنو ثقیف نے بڑی زبردست شان و شوکت کے ساتھ لشکر اکٹھا کیا ہوا ہے اور اس آنے والے نے یہ بتایا کہ ہزاروں کا لشکر ہے اور جو لوگ مقابلے کے لئے آئے ہیں اس میں اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، عورتیں ہیں اور مرد ہیں، اس طرح یہ سارا لشکر جمع ہے۔

جب یہ بات بتائی تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے تبسم فرمایا کہ "تلک خلیمة المسلمين عدوًا۔ ان شاء الله" جو کچھ سامان انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے یہ کل مسلمانوں کا مال خیمت ہو گا ان شاء اللہ، اور اس کے بعد آنحضرت ﷺ روانہ ہوئے۔

حنین کے مقام پر یہ مقابلہ ہوا جہاں یہ معرکہ پیش آیا اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد پچھلے تمام غزوات سے کہیں زیادہ تھی، بارہ ہزار مسلمان اس وقت لشکر میں موجود تھے تو کسی کے منہ سے نکل گیا کہ آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے اس واسطے کہ انہوں نے بدر کے قیمت سوتیرہ بے سرو سامان کو ایک ہزار پر غالب آتے ہوئے دیکھا تھا، اب تو بارہ ہزار آدمی ہیں اس واسطے کسی کے منہ سے نکل گیا۔ حضور اقدس ﷺ نے اس جملے کو پسند نہیں فرمایا اور پھر شاید اسی جملے کا اثر تھا کہ حنین میں عارضی طور پر مسلمانوں کو پیچھے ہٹا پڑا۔

اس باب میں غزوہ حنین کی تفصیل آرہی ہے۔

**(وَيَوْمَ حَنِينٍ إِذَا أَخْجَجْتُمْ كُفَّارَكُمْ إِلَيْهِ)**

آیت کو امام بخاری<sup>رض</sup> نے ترجمۃ الباب بتایا، اس میں مسلمانوں کی اسی عارضی لکھت کی طرف اشارہ ہے۔

۳۳۱۲ - حدثنا محمد بن عبد اللہ بن سعید: حدثنا یزید بن هارون: أخبرنا إسماعيل قال: رأيت بيد ابن أبي أولی ضربة قال: ضربها مع النبي ﷺ يوم حنین، لكت شهدت حنینا؟ قال: قبل ذلك.

ولابن داود بأسناد حسن من حديث سهل بن الحنظلة ((أنهم صاروا مع النبي ﷺ إلى حنین فأطربوا السير، فجاء رجل فقال: إلى انتلقت من بين أيديكم حتى طلت جمل كلادا وكلادا، فإذا أنا بهازن عن بكرة أبدهم بظعنهم ولعنهم وحالهم قد اجتمعوا إلى حنین، فتبسم رسول الله ﷺ وقال: تلک خلیمة المسلمين عدوًا ان شاء الله تعالى)). وعند ابن اسحاق من حديث جابر ما يدل على أن هذا الرجل هو عبد اللہ بن ابی حدراءasl. لفتح الباری، ج: ۸، ص: ۲۷

۲ سيرة ابن هشام، ج: ۲، ص: ۲۷۷ - ۳۳۷ و کتاب المغاری للروالدی، ج: ۳، ص: ۸۸۵

۳ ولی مسند احمد، باب بقیة حديث عبد اللہ بن اولی عن النبي ﷺ، رقم: ۱۹۱۳۱

ترجمہ: یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن الہی اوفی رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر چوت کاشن دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ میرے یہ چوت خین کے دن حضور ﷺ کے ہمراہ گئی تھی، میں نے کہا کیا آپ خین میں شریک تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔

## شرح

یہ اساعیل ابن الہی خالد رحمہ اللہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر تکوار کے زخم کا نشان دیکھا۔

”ضربة“ تکوار کی ضرب کو کہتے ہیں۔

”قال حضرۃہامع النبی ﷺ یوم حین“ انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ تکوار کا زخم نبی کریم ﷺ کے ساتھ غزوہ خین کے موقع پر لگا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا ”شہدت حیناً“ کیا آپ غزوہ خین میں شامل تھے؟

”قال قبیل ذالک“ انہوں نے کہا کہ میں خین کے غزوے سے بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا لیکن اس سے پہلے غزوات میں بھی شریک تھا۔

یہاں ”قبیل ذالک“ کے معنی ہیں ”اسلمت قبل ذالک“ میں خین سے بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔

۳۳۱۵. حدثنا محمد بن كثیر: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء جاءه رجل فقال: يا أبا عمارة، أتو ليت يوم حين؟ قال: أما أنا فأشهد على النبي ﷺ ألم يوْلِي. ولكن عجل سرعان القوم لرشقتهم هوازن وأبو سفيان بن العمار ثَأْخَدَ برأس بعلته البيضاء يقول: ((أَلَا النَّبِيُّ لَا كَذَبَ، أَلَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلَّبِ)). [راجع: ۲۸۶۳]  
ترجمہ: ابو اسحاق سے مردی ہے میں ناکہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے، جس نے آکران سے پوچھا تھا کہ اے ابو عمارہ! کیا آپ نے خین کے دن پشت دکھادی تھی؟ فرمایا کہ دیکھو میں گواہ ہوں کہ نبی ﷺ نے پشت نہیں پھیری، لیکن قوم میں سے جلد بازوں نے جلدی کی، تو قوم هوازن نے ان پر تیر اندازی شروع کر دی اور حضرت ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے خچر کا سر پکڑے ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کہ میں سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

۳۳۱۶. حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق: قبیل للبراء وأنا أسمع: أولئك مع النبي ﷺ یوم حین؟ فقال: أما النبي ﷺ فلا، كالوارمة فقال: ((أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذَبَ، أَلَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلَّبِ)). [راجع: ۲۸۶۴]

ترجمہ: ابو اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت براء بن عازب ﷺ سے پوچھا گیا اور میں سن رہا تھا کہ کیا آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حنین کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ تو نہیں بھاگے، وہ لوگ تیر انداز تھے، تو آپ ﷺ نے فرمائے تھے کہ میں سچانی ہوں، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

## شرح

یہ حضرت براء بن عازب ﷺ کی روایت ہے۔

ان کے پاس ایک شخص آیا اور آکر عرض کیا "بما بنا عمارة" اے ابو عمرہ! یہ حضرت براء ﷺ کی کنیت ہے، "الولیت یوم حنین" کیا حنین کے دن آپ پیٹھ پھر کر بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا "اما أنا لأشهد على النبي ﷺ ألا لم يول" کہ جہاں تک بات ہے رسول اللہ ﷺ کی تو میں اس بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پشت نہیں پھیری۔ "ولکن عجل سرعان القوم" لیکن قوم کے لوگوں میں بعض جلد باز لوگ تھے انہوں نے جلدی کی، "فرشقتم هوازن" جب ان لوگوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا تو بنو ہوازن کے لوگوں نے ان کو تیروں کا نشانہ بنایا۔

**"رشقت ضرب بالسهم"** تیر مارنا کو کہتے ہیں۔ ۵

"ابوسفیان بن الحارث آخذ برأس بغلة" اس وقت حضرت ابوسفیان بن حارث ﷺ، جو نبی کریم ﷺ کے چچازاد بھائی تھے، جیسا کہ چچے ان کے اسلام لانے کا اتفاق گزر چکا ہے، انہوں نے نبی کریم ﷺ کے سفید خجر کو اس کے سر پکڑا ہوا تھا اور حضور ﷺ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے  
 میں سچانی ہوں، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں  
 أنا النبي لا كدب أنا بن عبدالمطلب

## واقعہ غزوہ حنین

یہ واقعہ یوں تھا کہ ہوازن اور ثقیف کے لوگوں کے جمع ہونے کی اطلاع آنحضرت ﷺ کو ملی تو آپ نے ان کے خلاف ایک لشکر ترتیب دیا، جب آپ ان کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ حضور اقدس ﷺ کا لشکر ہماری طرف آ رہا ہے۔

انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک وادی، جس کا نام حنین ہے، یہ وادی مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے، وہاں ایک جگہ ایسی تھی جہاں اترائی آتی تھی۔

ان کو پتہ لگ گیا کہ حضور اقدس ﷺ تشریف لارہے ہیں اور اس راستے سے جائیں گے، چونکہ اترائی تھی اس لئے انہوں نے اونچی جگہ پر جا کر پہلے سے بقدر جمالیا اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔

جب صحیح کے وقت حضور اقدس ﷺ کا لشکر گزر اور اترائی سے نیچے اتر گیا تو انہوں نے اوپر سے تیروں کی بارش کر دی، اور اس طرح حملہ کیا کہ تینوں اطراف سے تیر انداز تھے ایک طرف زمی فوج تھی تو گویا مسلمانوں کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا اور ایک دم سے بله بول دیا۔

چونکہ صحیح کا ابتدائی وقت تھا، ابھی کچھ اندر ہیر اسابھی تھا، اس وجہ سے مسلمانوں کو ایک دم سے غیر متوقع صورت حال کا سامنا کرنا پڑا تو کچھ مسلمان یچھے ہٹ گئے، لیکن نبی کریم ﷺ اس وقت میں اپنی جگہ پر ڈالے رہے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی ڈالے رہے۔

البتہ اس میں روایات مختلف ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صرف تین صحابی رہ گئے تھے، بعض میں آتا ہے کہ دس تھے، بعض میں آتا ہے کہ پچاس تھے اور بعض میں آتا ہے کہ سو تھے۔

لیکن جن صحابہ کرام ﷺ کا خاص طور پر ذکر آتا ہے جو اس وقت حضور اقدس ﷺ کے ساتھ موجود تھے ان میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوسفیان بن حارث، حضرت عباس بن عبدالمطلب ﷺ تھے، ان حضرات کا خاص طور پر نام آتا ہے اور باقی صحابہ جن کے نام روایات میں آتے ہیں۔

ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا وقت کا آیا تھا جس میں آپ ﷺ کے ساتھ رہنے والے بہت کم رہ گئے تھے لیکن پھر رفتہ رفتہ واپس آتے رہے، تو اس طرح وہ تعداد بڑھتی گئی۔

جس نے جو تعداد دیکھی تو کہہ دیا کہ سورہ گئے تھے جس نے کم دیکھے اس نے کم کی روایت نقل کر دی۔ اس طرح روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام ﷺ کی تعداد آپ ﷺ کے ساتھ تھی۔<sup>۱</sup>

اس وقت حضور اقدس ﷺ نے فرمایا "أَلَا النَّبِيُّ لَا كَذَبٌ - أَلَا بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبٍ" اس واسطے آپ نذرے اور نہ اپنی جگہ سے بٹے بلکہ ڈالے رہے۔

بالآخر آپ ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ آواز دی اور حضرت عباس ﷺ کے ذریعے آواز دلوائی، حضرت

<sup>۱</sup> ولست معده من أصحابه لریب من ماله، وقليل: لمالون، منهم: أبو بكر وعمر والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو

مسلمان بن العمار وآیمن وآسامه بن زید وغيرهم ﷺ. عمدة القارئ، ج: ۱، ص: ۳۲۰

عباس ﷺ جہر الصوت تھے، ان کے ذریعے آواز دلوائی تو آواز درستک پہنچ گئی لہذا صحابہ کرام ﷺ و اوس آئے اور پھر باقاعدہ مقابلہ شروع ہوا اور اس میں نبی کریم ﷺ نے ایک مٹھی پھینک کر کفار کی طرف پھینکی۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ ہوازن کی لکست اور پسپائی سے کچھ ہی پہلے ایک سیاہ چادر آسمان سے اترتی دیکھی گئی۔ وہ چادر مسلمانوں اور ان دشمنوں کے مابین آکر گری، دفعہ اس میں سے سیاہ جیونٹیاں لٹکیں اور تمام وادی میں پھیل گئیں۔

وہ درحقیقت ملائکہ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غبی نصرت تھی، جس کے نتیجے میں بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ۸

## ایک اشکال کا ازالہ

یہاں جو نبی کریم ﷺ نے فرمایا "أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذَبٌ، أَنَا بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبٍ" یہ موزون ہے یعنی بھر میں آتا ہے، چنانچہ یہ وزن کے اندر پورا شعر ہے۔  
ای واسطے بعض حضرات اس کے اوپر سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ

**هُوَ مَا عَلِمْنَاهُ الشَّعْرُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ**

یہ تم امر رسول اللہ ﷺ، عمه العباس، و کان جہر الصوت، یا نبادی یا علی صورہ: یا أصحاب الشجرة، یعنی: هجرہ بہمن الرضوان، یا أصحاب سورة البقرۃ لجعلوا یقولون لیک بالیک، لترابع شرڈمة من الناس الى رسول اللہ ﷺ، فامرهم ان یعملوا العملة، و اخذ لبنة من التراب بعد ما دعا به واستصره، وقال: اللہم الجز لی ما وعديتی، لم رمى القوم بها فما یلقی انسان منهم إلا أصابه منها لی عبده ولهم ما یسئلله عن القیال، لم الہزموا ولهم المصلمون الکفیلهم یأسرون و یتعلون، وما تراجع بالیہ الناس الا والأساری مجده، ای: ملاقاة بین يدي النبي ﷺ. عمدة القاری، ج: ۷، ص: ۳۲۰

۸ وفی ((مسند أحمد)) من حدیث یعلی بن عطاء، قال: فلحدثني أهناكم عن آباءهم أنهم لا لروا: لم يرقى هنا أحد إلا اندلعت عیناه ولم يره تراها، وسمعوا صلصلة بين السماء والأرض كما روا العجید على الطمت العجید. وقال محمد بن اسحاق: حدثني والدی اسحاق بن بشار عن جہر بن مطعم قال: الالمع رسول اللہ ﷺ، یوم حین و الناس یقتلون الانظرات الى مثل النجاد الأسود یہوی من السماء حتى رقع بینا وبين القروم، فإذا نعل منفر اللہ ملاً الوادي، للہم یکن الاهزيمة القروم، فما شک انها الملائکة. عمدة القاری، ج: ۷، ص: ۳۲۰

ترجمہ: اور ہم نے (اپنے) ان (پنیر) کو ن شاعری سکھائی ہے، اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے۔

اور یہ حضور اقدس ﷺ نے شعر ارشاد فرمایا ہے اور یہی اشکال اس وقت پر بھی ہوتا ہے جہاں روایت میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”**هَلْ أَلْأَصْبِعُ دَمْتَ – وَلَمْ يَسْبِلِ اللَّهُ مَالْقِيتَ**“ ۱۱  
تو ہے کیا ایک انگل کے سوا جوز خی ہو گئی، اور اللہ کی راہ میں یہ زخم جو تھے پہنچا۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ شعر کی تعریف یہ کی گئی ہے ”**الْكَلَامُ الْمَوْزُونُ الْمَقْفُى عَمَدًا**“ یعنی اس کلام کو شعر کہا جائے گا جس میں وزن اور قافیہ جان بوجہ کر شعر کے قصد سے پیدا کیا گیا ہو۔ اگر بغیر قصد شعر کے وزن اور قافیہ پیدا ہو گیا تو وہ شعر نہیں ہوتا۔

یہاں پر بھی حضور اقدس ﷺ نے جوار شاد فرمایا یہ قصیدہ شعر کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ جو جملہ زبان سے نکلا وہ اتفاق سے موزون اور مفہومی تھا۔

مجھے آج تک یہ خیال نہیں آیا تھا، توجہ نہیں تھی کہ میرا نام بھی موزون ہے۔ محمد تقی العثمانی۔  
یہ موزون ہے۔ ملک شام میں میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک قصیدہ لکھ کر بھیجا اور اس کا پہلا شعر نہیں سے شروع کیا:

— محمد تقی العثمانی..... ریحانۃ الہند و ہاکستان۔ —

اگر یوں پڑھا جائے تو یہ وزن میں آ جاتا ہے۔ بھر میں ہم وزن ہے۔  
قصیدہ اس طریقے سے لکھ کر بھیجا تو پہلی بار خیال آیا کہ واقعی یہ وزن کے اندر بھی آسکتا ہے، اس لئے بعض اوقات انسان کوئی لفظ یا جملہ بولتا ہے لیکن اس سے قصیدہ شعر کا نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ:

**﴿لَكُنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ ۱۲**

ترجمہ: تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے (اللہ کے لئے) خرچ نہ کرو جو شہمیں محبوب ہیں۔

یہ بھی موزون ہے لیکن قصیدہ شعر کا نہیں ہے اس واسطے اس کو شعر نہیں کہا جائے گا۔

۱۱: صحیح البخاری، کتاب الجهاد والسریر، باب من ينكث في سبل الله، رقم: ۲۸۰۲

۱۲: آل عمران: ۹۲

اس لئے حضور اقدس ﷺ کا زبان سے یہ جملہ تکل آتا ہے **(وَمَا عَلِمْنَاهُ الشَّفَرَ)** کے منانی نہیں۔ اگر بالفرض اس بات کو بھی تسلیم بھی کر لیا جائے کہ سرکار دو عالم ﷺ نے یہ قصد افرما�ا تب بھی **(وَمَا عَلِمْنَاهُ الشَّفَرَ)** کے معنی یہ ہیں کہ آپ کوشاعرنہیں بنایا۔ شاعر وہ ہوتا ہے جو کثرت سے شعر کہے، اتفاقاً کا دکا کوئی شعر زبان پر جاری ہو جائے تو اس کوشاعرنہیں کہہ سکتے تو اس واسطے قرآن کریم کی آیت کے منانی نہیں ہے۔ ۲۱

## حسب حال و حقیقت حال کا بیان تقاضہ نہیں

اب یہاں اس جملے کو اگر تقاضہ کے طور پر بیان کیا ہو تو منع ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد ہو کہ اپنی حقیقت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بتانا مقصود ہو کہ میں الحمد للہ ایک اعلیٰ نسب سے ہوں اور تحدیث بالعمت کے طور پر یہ بات کہتا ہوں، تو عام آدمی کیلئے بھی جائز ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، البتہ اس کو تکبر اور عجب کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تحدیث کے طور پر کہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

جواب تقاضہ کے معنی یہ ہیں کہ دشمن کے سامنے تواضع نہیں چلتی، اگر دشمن کے سامنے بھی آدمی تواضع کرنے لگے تو مارا جائے گا تو وہاں پر تقاضہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا پڑتا ہے۔

ہمارے ایک بزرگ نے واقعہ سنایا کہ ایک صاحب بھوپال کے بڑے مفتی اور قاضی تھے۔ ایک نواب صاحب ان کے معتقد تھے تو نواب صاحب نے ان کو اپنے گھر بیایا آدمی رات کے وقت ان کو استجواب وغیرہ کی ضرورت پیش آئی تو استجواب کرنے کے لئے باہر نکلے ویکھنے کے لئے کہ چہاں استجواب مناسب ہو۔

وہاں نواب صاحب کے چوکیدار پھر رہے تھے کہ کوئی چورڈا کو وغیرہ نہ آجائے، تو یہ مولانا صاحب کو نہیں پہنچانے تھے۔ مولانا صاحب استجواب کرنے جا رہے تھے تو چوکیدار نے ایک دم لٹکر کہا کہ کون ہے؟

۲۱ قولہ: ((إِنَّ النَّبِيَّ لَا كَذَبٌ، إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِفَحْضِ الْبَاءِ مِنْ قَوْلِهِ)) قال ابن عثیمین: كان بعض أهل العلم يقولون بفتح الباء من قوله ((لا كذب)) ليخرجه عن الوزن، ولقد أجبه عن مطالعه **هذا الرجل بأجوبته أخذها الله نظم غيره**، وأنه كان فيه: إنَّ النَّبِيَّ لَا كَذَبٌ إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِفَحْضِ الْبَاءِ مِنْ قَوْلِهِ هـ هذا الرجز بأجوبته أخذها الله نظم غيره، وأنه كان فيه: إنَّ النَّبِيَّ لَا كَذَبٌ إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِفَحْضِ الْبَاءِ مِنْ قَوْلِهِ هـ فاللهما أن هذا رجز وليس من السالم الشعر، وهذا مردود. فاللهما أن لا يكرن هنراً حتى يعم لطمة، وهذه كلمات بسيرة ولا تسمى هنراً. رأي بها أن هنر عرج موزوناً ولم يقصد به الشعر، وهذا أعدل الأجرمية. فتح الباري، ج: ۸، ص: ۳۱

انہوں نے کہا کہ ہم ہیں بڑے مولانا صاحب۔ بعد میں کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے خود اپنے آپ کو بڑے مولانا صاحب کہا۔ کہنے لگے یا را! اس وقت میں اگر تو اضع کر لیتا تو میرے سر کے اوپر لٹھ لگ جاتا، تو جہاں لڑائی ہو، جہاد اور حرب و ضرب ہو وہاں عبد مکین نہیں چلتا، وہاں تھوڑا اساقفا خرا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے حضرت ابو دجانہؓ کو جب آنحضرت ﷺ نے بدر میں تکوار عطا فرمائی تو ذرا اکڑ کر چلتے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ عام حالات میں یہ دقار و چال پسندیدہ نہیں لیکن اس وقت میں یہی چال محبوب ہے اس لئے کہ اس وقت دشمن سے مقابلہ ہے۔

### دین اور نبی ﷺ پر کوئی عار نہیں

اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ حضرت براء بن عازبؓ سے سوال تو خود ان کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں ہوا تھا کہ کیا آپ بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ نہیں! حضور اقدس ﷺ نہیں بھاگے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب بظاہر سوال کے مطابق نہیں نظر آتا۔

درحقیقت بات یہ ہے کہ ان کے پیش نظریہ بات تھی کہ میاں ہم بھاگے یا نہیں بھاگے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ نہ دین پر کوئی الزام آتا ہے نہ اسلام پر کوئی الزام آتا ہے۔

الزام اگر آسکتا ہے تو اس صورت میں آسکتا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کے بارے، خدا نہ کرے، کسی موقع پر یہ ثابت ہو کہ آپ نے پیشہ پھیر لی تھی۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اس کو بھول جاؤ، لیکن نبی کریم ﷺ ذئے رہے اور آپ پچھے نہیں ہیں۔

گویا یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے کہ ہماری تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ ہم بھاگے تھے یا نہیں بھاگے تھے، ہم بھاگے بھی ہوں تو اس سے حضور اقدس ﷺ پر کوئی آنچ نہیں آتی، دین پر اور اسلام پر آنچ نہیں آتی لیکن نبی کریم ﷺ نہیں بھاگے تھے۔

۲۳۱۔ حدیث بن بشیر: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق: سمع البراء  
و سأله رجل من قيس: ألم رترم عن رسول الله ﷺ يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله ﷺ لم يهرب،

كَلَّا لَيْلَةَ: جوابه لا يطابق سؤال الرجل، لأنَّه سأله هل توليت أم لا؟ ولم يسأل عن حال النبي ﷺ، بل سأله: لهم بشرى بالحال أنه سأله عن فرار الكل، لم يدخل فيه النبي ﷺ، ويلبيه مالى الطريق الذي يأتى عليه: أو ليعتمد على الشيء؟ وأجاب بقوله: ((أذهب على رسول الله ﷺ ألا له لم يهرب)). عمدة القاري، ج: ۷، ص: ۳۲۲

کانت هوازن رماة وإنما حملنا عليهم الكثفو لا كينا على الفنائم فاسعقولنا بالسهام ولقد رأيت النبي ﷺ على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بزماتها وهر يقول: ((ألا النبي لا كذب)) قال إسرائيل وزهير: نزل النبي ﷺ عن بغلته. [راجع: ۲۸۶۲]

ترجمہ: ابو اسحاق سے مردی ہے کہ انہوں نے حضرت براءؓ سے سنا، جب ان سے قبیلہ قیس کے ایک آدمی نے پوچھا کیا آپ رسول اللہ ﷺ کو خین کے دن چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا مگر رسول اللہ ﷺ تو نہیں بھاگ گئے، (ہوا یہ کہ) قوم ہوازن بہت زیادہ تیر انداز تھے، جب ہم نے ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے، ہم مال غنیمت جمع میں مصروف ہو گئے، تو ہمارے سامنے سے تیر آنے لگے، اور میں رسول اللہ ﷺ کو آپ کے سفید چھپ پر دیکھا، جس کی لگام ابوسفیان ﷺ پکڑے ہوئے تھے، اور آپ ﷺ فرمائے تھے کہ میں سچانی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اسرائیل اور زہیر نے یہ روایت کی ہے کہ نبی ﷺ اپنے چھر سے اتر آئے تھے۔

### روایتوں میں تطبیق

یہاں پر حضرت براءؓ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ہوازن پر حملہ کیا تھا، اور پہلے حملے میں قبیلہ ہوازن کے لوگ پاپا ہو گئے، اس پاپائی کے بعد ہم غنیمت کے مال کی طرف چلے گئے تاکہ غنیمت کامال اکٹھا کر سکیں۔

”فاسعقولنا بالسهام“ وہاں ہمارا مقابلہ تیروں سے ہوا یعنی جب مسلمان مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے تو کفار کے تیر اندازوں نے دوبارہ حملہ کر دیا۔

پچھے غزوہ خین کی تفصیل گزری ہے، جو کہ اصحاب سیر و مغازی بیان کرتے ہیں کہ ابتداء ہی میں مشرکین گھات لگائے بیٹھے تھے اور مسلمانوں کا محاصرہ کر کے حملہ کر دیا تھا، جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ تو دونوں باتوں میں تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ شروع میں یہ ہوا اور بعد میں پھر مسلمان غالب آنے لگے اور ان کو پچھے ہٹا دیا، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر گویا کفار کی طرف تیر اندازی ہوئی جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کیلئے وقتی طور پر مسلمان پاپا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کیلئے نصرت عطا فرمائی۔

۳۳۱۸، ۳۳۱۹۔ حدثنا سعيد بن عفیر قال: حدثني الليث بن سعد: حدديثي

عن ابن شهاب ح. و حدثني اسحاق: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن أخي  
ابن شهاب: قال محمد بن شهاب: وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخربة  
أخبراه أن رسول الله ﷺ قام حين جاءه وقد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أمرا لهم  
وسيهم فقال لهم رسول الله ﷺ: ((معى من ترون، وأحب الحديث إلى أصدقه فاخغاروا

احدى الطائفين، وإنما السبى وإنما المال. وقد كنت استائلاً بكم). وكان أنظرهم رسول الله ﷺ بضع عشرة ليلة حين لفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله ﷺ غير دار إليهم إلا أحدى الطائفين قالوا: قلنا لختار سبينا، فقام رسول الله ﷺ في المسلمين فالتي على الله بما هو أهله لم قال: ((أما بعد، فإن إخوانكم قد جازوا تائبين، وإلى قد رأيت أن أرد إليهم سبיהם. فمن أحب منكم أن يطيب ذلك لليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى إياه من أول ما يفهى الله علينا لليفعل)). فقال الناس: قد طيبنا ذلك بما رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: ((إلا لا لدرى من أذن منكم في ذلك من لم ياذن فارجعوا حتى يرفع إليانعرا ذكركم أمركم)) فرجع الناس لكلمهم عرفاً ذرهم. ثم رجعوا إلى رسول الله ﷺ فأخبروه أنهم قد طيبيوا وأذلوا. هذا الذي بلغني عن سبى هوازن. [راجع: ۷۰۸، ۲۳۰]

ترجمہ: حضرت عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں مروان اور سور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما نے انہیں خبر دی کہ جب نبی ﷺ کے پاس ہوازن کا وفد مسلمان ہو کر آیا اور آپ ﷺ سے درخواست کی کہ ان کے قیدی اور مال انہیں واپس کر دیئے جائیں، تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس اور بھی لوگ جنہیں تم دیکھ رہے ہو اور مجھے سب سے زیادہ سچی بات پسند ہے، لہذا تم دو میں سے ایک چیز پسند کر لو، یا قیدی یا مال، اور میں نے تم لوگوں کا انتظار بھی کیا تھا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے طائف سے واپس تشریف لاتے وقت دس سے زیادہ دن تک قوم ہوازن کا انتظار کیا تھا، جب ان پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ نبی کریم ﷺ صرف ایک ہی چیز واپس کریں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ ﷺ مسلمانوں کو خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور آپ ﷺ نے اللہ کی شایان شان تعریف کر کے فرمایا اما بعد! تمہارے بھائی کفر سے توبہ کر کے ہمارے پاس آئے ہیں، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دیئے جائیں، لہذا تم میں سے جو شخص احسان کے طور پر چھوڑنا چاہے وہ ایسا کرے، اور جو اپنے حصہ کو نہ چھوڑنا چاہے، بلکہ وہ یہ چاہے کہ ہم اس کے عوض میں اگلے اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ مال فی میں ہمیں عطا فرمائے گا، اسے دیں گے، تو ایسا کرے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول! ہم احسان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہمیں معلوم نہیں کہ تم میں سے کس نے اس بات کو پسند کر کے اجازت دی ہے، کس نے نہیں؟ لہذا تم واپس چلے جاؤ، یہاں تک کہ تمہارے سردار آ کر ہمارے پاس یہ معاملہ پیش کریں، لوگ واپس چلے گئے اور ان سے ان کے سرداروں نے گفتگو کی، پھر وہ سردار رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آئے، آپ کو بتایا کہ سب لوگ خوشی سے اس کی اجازت دیتے ہیں، یہ وہ حدیث ہے جو مجھے ہوازن کے قیدیوں کے بارے میں معلوم ہوئی ہے۔

## غینمت کی تقسیم کا واقعہ اور قبیلہ ہوازن کا قبول اسلام

غزوہ خین کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بالآخر فتح عطا فرمائی اور اس فتح کے نتیجے میں بلوں ہوازن کے بہت سے اموال غینمت کے طور پر مسلمانوں کو حاصل ہوئے اور بہت سے قیدی بھی ہیں۔

قیدیوں کے بارے میں امام کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کو غلام بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دے۔ ہوازن سے حاصل ہونے والے غینمت میں بہت سے اموال بھی تھے اور بہت سے قیدی بھی تھے جن کو غلام بنایا جا سکتا تھا۔

حضور اقدس ﷺ کو شروع سے کچھ اندازہ تھا اور امید تھی کہ یہ ہوازن کے لوگ اگر چہ ہم سے لڑ رہے ہیں، لیکن بالآخر یہ لوگ مشرف بالسلام ہوں گے۔

اس واسطے آنحضرت ﷺ نے، اگرچہ مال غینمت جو مسلمانوں کے پاس الگ تھا اور جمع بھی کر لیا گیا تھا، لیکن آپ نے فوری طور پر تقسیم نہیں فرمایا اور یہ سوچا کہ شامدیہ لوگ آکر مسلمان ہو جائیں تو ان کو یہ مال واپس کر دیں گے، کیونکہ جہاد کا اصل مقصد مال غینمت تو نہیں ہے۔

شہادت ہے مطلوب مقصود مومن  
مال غینمت نہ کشور کشائی

مقصود تو اعلاء کلمۃ اللہ اور دین کی سربندی ہے، اگر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کا مال غینمت ان کو واپس کر دیتے ہیں، یوں آپ ﷺ نے کئی دن تک اس معاملہ کو ٹالا۔

سب سے پہلے خین میں فتح حاصل ہوئی تھی، اس کے بعد او طاس کا غزوہ پیش آیا جس کا ذکر آگے آنے والا ہے۔ او طاس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح ہی عطا فرمائی، اس کے بعد پھر آپ ﷺ نے طائف پر حملہ کیا اور کافی دن وہاں محاصرہ جاری رکھا، پھر محاصرہ انھا کرو اپس تشریف لائے اور آکر ہر انہ میں قیام فرمایا۔

جب تک ہر انہ میں قیام فرمایا اس وقت تک آپ ﷺ نے خین کے غینمت کو تقسیم نہیں فرمایا، انتظار فرماتے رہے کہ شاید قبیلہ ہوازن کے لوگ آجائیں اور مسلمان ہو جائیں، لیکن جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ وہ لوگ اب تک نہیں آئے تو آپ ﷺ نے ہر انہ میں قاعدے کے مطابق مال غینمت تقسیم فرمایا۔

مال غینمت کی تقسیم کے بعد ہوازن کے لوگ آئے اور کہا کہ ہم کفر و شرک سے توبہ کرتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب اسلام لے آئے تو درخواست کی کہ آپ ہمارا مال اور ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ میں نے مجبور ہو کر مالی غینمت تقسیم کر دیا ہے، اب یہ ہو سکتا ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز بند کر لو یا تو تمہارا مال تمہیں واپس کر دیا جائے، اور جن قیدیوں کو باندی اور غلام بنایا

گیا ہے، وہ باندی اور غلام بنے رہیں۔

مطلوب یہ کہ مال واپس کر دیا جائے تو قیدی نہیں واپس ہوں گے اور قیدی واپس کئے جائیں تو مال واپس نہ کیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ اگر دو میں سے ہمیں ایک ہی چیز لئی ہے تو ہم اپنے قیدی واپس لے لیتے ہیں، انسانوں کو واپس لینا اور ان کی عزت کا سوال اہم ہے وہ واپس لیتے ہیں مال نہیں لیتے۔

پھر آپ ﷺ نے اپنا حصہ تو اسی وقت دے دیا فرمایا کہ میں اپنا حصہ تو دیدتا ہوں اور جو لوگ خوشی سے دینا چاہیں گے وہ دیں گے۔

## اسلام میں ایشارہ و قربانی کی بے نظیر مثال

چونکہ قیدی بھی تقسیم ہو چکے تھے، غلام بن کر کوئی کسی کے حسے میں آگیا تھا، کوئی کسی کے حسے میں آگیا تھا، آنحضرت ﷺ نے اپنے وعدنے کے ایفاء کیلئے، جو بنو ہوازن سے کیا تھا، مسلمانوں میں خطبہ دیا۔

ارشاد فرمایا کہ اگر چہ یہ قیدی اب تقسیم ہو چکے ہیں اور جس کو دے دیا گیا وہ قیدی اس کی ملکیت میں آگیا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور تائب ہو کر آئے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دیتے جائیں۔

اگر کوئی شخص خوش دلی سے واپس دینے کو تیار ہو تو وہ مجھے بتا دے تو اس کا قیدی ان کو بلا معاوضہ واپس کر دیا جائے گا اور اگر کوئی شخص خوش دلی سے دینے کو تیار نہ ہو تو میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ وہ اس قیدی کو ان کو دیدیں اور آئندہ جو پہلا مال فی حاصل ہو گا اس میں سے اس کو اتنا معاوضہ دیا جائے گا جس سے اس کے نقصان کی تلاشی ہو جائے۔

پہلے مہاجرین صحابہ کرام ﷺ نے کہا کہ ہم واپس کرتے ہیں پھر انصاری صحابہ کرام ﷺ نے کہا کہ ہم واپس کرتے ہیں یعنی سب لوگوں نے کہا کہ ہم خوش دلی سے واپس دیتے ہیں۔ محمد عربی ﷺ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ﷺ تھے اس لئے کہا کہ خوش دلی سے دیتے ہیں۔

لیکن حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اس طرح مجمع عام میں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، پہنچنیں چلا کہ کس آدمی نے خوشدنی سے نہیں دیا، لہذا یہ مجمع برخاست کیا جاتا ہے اب ہر شخص اپنے جو ورثاء ہیں یعنی ان کے خاندان یا قبیلے کے جو بڑے ہیں تو ان سے رابطہ قائم کر لے پھر ہر خاندان یا قبیلے کے سردار ہمارے پاس آئیں اور آکر بتائیں کہ اگر کسی کو اعتراض ہے یا اگر کسی کو معاوضہ لینا ہو تو وہ بتا دے۔

چنانچہ پھر وہاں نے آپ ﷺ کے پاس معاملہ پیش کیا تو تقریباً سارے صحابہ ﷺ نے کہہ دیا کہ ہم تو خوش دلی سے دیتے ہیں، ہمیں کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ سوئے عینہ بن حصن کے واقعہ کے کہ انہوں نے مال غنیمت کے معاوضہ کے مطالبہ پر آپ ﷺ نے ان کو معاوضہ دیا۔ یہ واقعہ ہے جو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ ۵۱

## حدیث کی تشریح

اس روایت میں حضرت عروہ بن زبیر ﷺ نے تلیا کہ حضرت مردان بن حکم اور حضرت سورہ بن محمد رضی اللہ عنہما نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے "جہن جاء و فدھوازن مسلمون" جب ہوازن کا وفد مسلمان ہو کر حضور انس ﷺ کے پاس آیا اور آکر یہ سوال کیا کہ آنحضرت ﷺ ان کے اموال اور ان کے قیدی ان کو لوٹادیں۔

تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا "معی من ترون" کہ میرے پاس اور بھی لوگ جنہیں تم دیکھ رہے ہو، یعنی میں اکیلانہیں ہوں یہ سب صحابہ میرے ساتھ ہیں، "واحب الحديث الى الصدقه" اور مجھے سب سے زیادہ پچی بات پسند ہے یعنی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آدمی صاف، سیدھی، پچی اور کھری بات کر لے۔ "فاختاروا احدى الطائفتين" لہذا تم دوں سے ایک چیز پسند کرلو۔ یعنی میں میرے پاس دو صورتیں ہیں ان میں کسی ایک کو تم لوگ اختیار کرلو۔

"ولما السبی واما المال" یا تو اپنے بال بچوں کو لے لو یا اپنا مال لے لو۔

"وقد كنت اصحابت بکم" اور میں نے تم لوگوں کا انتظار بھی کیا تھا یعنی میں نے تمہارے معاملے میں احتیاط کا خیر کی تھی کہ شاید تم لوگ اسلام لے آؤ۔

۵۱. هٰنِي لقال رسول الله ﷺ أیسا کم ولیسا کم احباب المکم ام اموالکم؟ لقالوا: یا رسول الله، خیرنا ہم امرالاراحسانا، بل ترد الہناساء لا و اہناء نا، فهو احباب الہنا، للحال لهم: اما کان لى ولہی عبدالمطلب فهو لكم، و اذا ما اصلحت الظہر بالناس، للقوموا للقولوا: الا تستلیع بررسول الله الى المسلمين، وبالمسلمين الى رسول الله في اہننا ولیسانا، ف ساعطيکم عند ذلك، و اسأل لكم. للما صلی رسول الله ﷺ بالناس الظہر، قاموا العکلموا بالذی امرهم ۴۷، للحال رسول الله ﷺ: راما ما کان لى ولہی عبدالمطلب فهو لكم. لقال المهاجرین: وما کان لى فهو لرسول الله ﷺ. و قالات الانصار: وما کان لى فهو لرسول الله ﷺ۔ الـ و قال عینہ بن حصن اماماً و بنو فرازة فلا. سيرة ابن هشام، ج: ۲، ص:

”استانیت“ کے معنی ”آخرت“ کے ہیں، ”الات“ سے لکا ہے، ”الات“ کے معنی ہیں کسی کام کو طینان سے، دری سے انجام دینا۔

”استانیت لكم“ یعنی میں نے اس معاطلے کو تمہارا انتظار کرتے ہوئے مُؤخر کیا۔ لہ درمیان میں یہ جملہ مفترضہ آیا ہے۔

”وَكَانَ الظَّرِهْمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى بَعْضُ عَشْرَةِ لَيْلَةٍ حِينَ قَلَّ فِلْ مِنَ الطَّائِفِ“ جب طائف سے واپس تشریف لائے تو آپ ﷺ نے ان کو دس سے زیادہ راتوں تک مہلت دی تھی یعنی ان کا انتظار کرتے رہے تھے۔

”لَمْ يَأْتِهِنَّ لَهُمْ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى غَيْرَ دَارِ إِلَيْهِمْ إِلَّا حَدِيَ الطَّائِفَيْنِ“ جب ہوازن کو یہ پتہ لگ گیا کہ رسول اللہ ﷺ ان کی طرف دونوں میں سے ایک چیز ہی واپس لوٹائیں گے یعنی قیدی یا مال۔ ”قَالُوا: قَلَّا لِخَعَارٍ سَبِّينَا“ تو بنو ہوازن نے کہا کہ ہم اپنے قیدیوں کو واپس لیتے ہیں۔

”لَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فِي الْمُسْلِمِينَ فَالَّتِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ“ تو رسول اللہ ﷺ مسلمانوں سے خطاب کرنے کیلئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی اس طرح حمد و ثناء بیان کی جیسا کہ اس کا حق ہے۔

”لَمْ قَالْ: أَمَا بَعْدُ، لِمَنِ إِخْرَاجُكُمْ لَدْ جَاءُنَا قَالَبِينَ“ حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا کہ! یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آئے ہیں ہمارے پاس آئے ہیں۔

”وَالِّي لَدْرَأْيَتْ أَنْ أَرْدَالَهِمْ سَبِّيهِمْ“ اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دیجے جائیں، ”لَمْ أَحْبَبْ مِنْكُمْ أَنْ يَطْهِيْبْ ذَلِكَ فَلِيَفْعُلْ“ تم میں سے جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ خوش دلی سے یہ کام کر دے یعنی اپنے حصے میں آئے ہوئے قیدی واپس کر دے، تو وہ ایسا کر لے۔

”وَمَنْ أَحْبَبْ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ“ اور تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ اپنے حصے پر برقرار رہے یعنی جو حصہ اس کو دے دیا گیا ہے وہ اسی کی ملکیت میں رہے، ”حَتَّى إِيَاهُ مِنْ أَوْلَ مَا يَفْرِيَ اللَّهُ عَلَيْنَا لِيَفْعُلْ“ یہاں تک کہ اس کے معاوضے میں ہم سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ ہم کو آئندہ مال فی عطا فرمائیں گے اس میں سے دیں گے تو ایسا کرلو یعنی اگلے مال فی سے اس کا معاوضہ ادا کر دیا جائے گا۔

”فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَبِّينَا ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ“ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! ہم نے یہ بات خوش دلی سے منظور کر لی ہے۔

اللَّوْلَه: ((وَلَدَ كَنْتَ اسْتَانِتَ بِكُمْ)) وَفِي رِوَايَةِ الْكَشْمِيْهِ: اسْتَانِتَ لَكُمْ، أَى: اسْتَانِتَ لِلْآخِرَةِ، وَلَدَ أَبْطَأْتُمْ وَكَانَ تَرَكَ السَّبِيلَ بِهِرَ لِسَمَةً وَتَوَجَّهَ إِلَى الطَّائِفَ لِهَاصِرَاهَا، كَمَا سَيَّانِي، لِمَ رَجَعَ عَنْهَا إِلَى الْجَرَالَه، لِمَ لَسَمَ الْفَنَائِمَ هَنَاكَ، فَجَاءَ وَلَدَ ہوازنَ بَعْدَ ذَلِكَ، عَمَدةُ الْفَارَى، ج: ٢٧، ص: ٢٢٥

”إِنَّا لَنَا دُرْيٌ مِّنْ أَذْنِنَا كُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ لَمْ يَأْذُنَ“ آپ ﷺ نے فرمایا، میں معلوم نہیں کہ تم میں سے کس نے اس بات کو پسند کر کے اجازت دی ہے، کس نے نہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کے کس نے خوشی سے یہ بات کہی اور کس نے نہیں۔ ”فَارْجِعُوا هَنَّى يَرْفَعُ إِلَيْنَا عِرْفَاؤْكُمْ أَمْرُكُمْ“ پس اپنی جگہ پر لوٹ جاؤ یہاں تک کہ تمہارے سردار تمہارا معاملہ ہمارے سامنے لیکر لا گئیں اور بتائیں کہ کس نے حقیقت میں دل سے اجازت دی اور کس نے نہیں۔

”لَرْجَعُ النَّاسِ لِكَلْمَهِمْ عِرْفَاؤْهُمْ“ لوگ لوٹ گئے، ان کے سرداروں نے ان سے بات چیت کی کہ کون اجازت دیتا ہے کون اجازت نہیں دیتا۔

”لَمْ رَجُعوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَبَّيْوَا أَذْنَوْا“ پھر وہ سردار رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آئے، بتایا کہ سب لوگ خوشی سے اسکی اجازت دیتے ہیں یعنی طیب نفس کے ساتھ اجازت دی ہے۔

## مجمع میں اجتماعی منظوری کا فی نہیں

اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ عمومی اجتماع میں کسی بات کی منظوری لے لینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان میں سے ہر شخص منظور کر رہا ہے جیسا کہ سیاسی جلسوں میں ہوتا ہے۔ ارے بھائی ہاتھ کھڑے کرو اور لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تو کیا کہہ دیا کہ عوامی عدالت نے فیصلہ دے دیا اور عوام نے فیصلہ کر دیا۔

یہ عوام کا فیصلہ اس طرح معتبر نہیں، اس واسطے کہ کچھ پتہ نہیں کس شخص نے کس جذبے سے ہاتھ اٹھایا، ایسے ہی دوسرے کے دباؤ میں آ کر ہاتھ اٹھایا۔ یہ سوچ کر کہ اگر ہاتھ نہیں اٹھاؤں تو لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔

ان لئے منظوری لینے کا یہ طریقہ مجمع میں پسندیدہ نہیں ہے، اس لئے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ نہیں ہمیں پتہ، حالانکہ سب ہتھہ دیا تھا کہ ”طَبَّيْنَا ذَالِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ“ لیکن آپ ﷺ نے کہا نہیں ہمیں پتہ نہیں لگا کہ کس نے اجازت دی اور کس نے اجازت نہیں دی۔

اس لئے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کل مجمع عام میں چندہ کرنا بھی صحیح نہیں کیونکہ جس مجمع عام میں چندہ کیا جاتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں نے دیا ہے اگر میں نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائیں گی تو اس لئے شرماشیری میں دے دیتے ہیں تو یہ طیب نفس کے ساتھ نہ ہوا۔ اسی طرح یہ شرط بھی ہے کہ چندہ دینے والی کی طبیعت پر گرانی بھی نہ ہو یعنی ان طریقوں سے بچ جن میں دینے والے کی طبیعت پر باڑ پڑنے کا احتمال ہو۔

کیونکہ حدیث میں ہے رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "لَا يَحْلِمُ مَالُ امْرِي إِلَّا بِطَهِبٍ لِفَسِينَ مِنْهُ" یعنی کسی بھی مسلمان سے اس کی ولی رضا مندی کے بغیر مال لینا حلال نہیں۔ حال اس لئے صرف زبانی اجازت کافی نہیں ہے بلکہ طیب نفس ضروری ہے اور طیب نفس کا اس طرح مجمع عام میں پڑھنے نہیں لگتا، تو اس واسطے حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس نے اجازت دی کس نے نہیں دی۔ ۵۸

## اسلامی سو شل ازم اور اس کی حقیقت

جس زمانے میں سو شل ازم کا بازار گرم تھا، چاروں طرف اس کا طوطی بولتا تھا۔ اس زمانے میں نیشنلائزیشن (Nationalization) یہ فیشن بنا ہوا تھا تو اس زمانے میں بہت سے لوگ جن میں افسوس ناک بات یہ ہے کہ بعض اچھے خاصے اہل علم بھی داخل ہیں یہ کہنے لگے کہ اسلام تو یعنی اشتراکیت کا سبق دیتا ہے اور اسی زمانے میں یہ اصطلاح بھی گھڑی گھٹی اسلامی سو شل ازم، اور کہا کہ ہم تو اسلامی سو شل ازم کے علمبردار ہیں۔ اس سو شل ازم کی بنیاد اس پر تھی کہ لوگوں کی الاملاک قومی ملکیت کی تحویل میں لے لی جائیں۔

سو شل ازم کے حاوی کہتے تھے کہ جتنے بھی کارخانے، زمینیں ہیں، یہ سب کسی کی انفرادی ملکیت میں نہیں ہونا چاہئے اور یہ سب اٹھا کر حکومت کو دے دینا چاہئے اور حکومت اپنی پلانگ کے ذریعے کام انجام دے۔ اس وقت جو لوگ اسلامی سو شل ازم کے علمبردار تھے انہوں نے متعدد آدیت قرآنی اور احادیث کا سہارا لیا۔

اگر کوئی شخص قرآن و حدیث پر اپنے مقصد کے لئے استعمال کرنے پر اتر آئے تو جس طرح چاہے استدلال کرے تو ان میں سے ایک استدلال جو پیش کیا گیا وہ یہ بھی تھا کہ دیکھو یہاں پر قیدی تقسیم کردیے گئے تھے اور وہ ہر ایک شخص کی انفرادی ملکیت میں آگئے تھے لیکن نبی کریم ﷺ نے ان کو یہ فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو واچس کر دیا جائے، لہذا لوگوں سے واپس لے کر ہوازن کے لوگوں کو لوٹا دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کی انفرادی املاک کو قومی ملکیت میں لے لینا جائز ہے اور لوگوں کی الاملاک کو قومی تحویل (Nationalization) میں کر کے حکومت اپنے مصلحت کے تحت استعمال کر لے، انہوں نے اس واقعہ سے یہ استدلال کیا ہے۔

حالانکہ اس واقعے کا اس سو شل ازم سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ حکومت املاک کو قومی تحویل میں لے سکتی ہے۔

اس واسطے کہ اول تو حضور ﷺ نے اعلان فرمایا، اگر قومی ملکیت میں لینا ہوتا تو سیدھی طرح حکم جاری کر دیتے کہ واپس کرو اور جو تقسیم کی گئی ہے اس کو ہم باقی نہیں رکھتے۔ اگر آپ ﷺ یہ حکم جاری کر دیتے کہ واپس کرو تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا، ایسے جان شار صحابہ تھے۔

لیکن اسکے باوجود سرکار دو عالم ﷺ نے حکم جاری نہیں فرمایا اور انکو جمع کیا، خطاب کیا، ان کی مرضی معلوم کی سارے مجمع نے کہہ دیا کہ ہم راضی ہیں، آپ ﷺ نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا کہا کہ میں اس اجتماعی رضا مندی کو معتبر نہیں مانتا جاؤ اور جا کر اپنی رائے بتاؤ کہ کون راضی ہے کون راضی نہیں، تب آپ ﷺ نے یہ کام کیا۔ کیسے اس بات پر استدلال ہو سکتا ہے کہ حکومت زبردستی کسی کی ملکیت کو قبضے میں لے سکتی ہے؟

یہ دلخواہ تو صراحتاً تردید کر رہا ہے کہ قومی ملکیت میں لینا جائز نہیں، اس لئے کہ اگر جائز ہوتا تو آپ ﷺ صاحبہ کرام ﷺ سے اس طرح مرضی معلوم نہ فرماتے اور یہ اہتمام نہ فرماتے جو آپ نے اس مجمع میں اہتمام فرمایا۔ اس سے زیادہ بڑی قومی ضرورت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نوسلم قوم ہے جس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی وہ نادم ہو کر، تائب ہو کر اور مسلمان ہو کر آئی ہے تو اس کو اس کے قیدی واپس کر دینا عین شرعی مصلحت بھی تھی، قومی مصلحت بھی تھی، پوری امت کی مصلحت بھی تھی، تو اس امت کی مصلحت کی خاطر اگر قومی ملکیت میں زبردستی لے لینا جائز ہوتا تو سرکار دو عالم ﷺ یہ سارا اہتمام نہ فرماتے۔

لیکن آپ نے اتنا اہتمام فرمایا تو معلوم ہوا کہ کسی حکومت کیلئے جائز نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی ملکیت جو اسے حلال طریقے سے حاصل ہوئی ہو، مشروع طریقے سے حاصل ہوئی ہو ان کو قبضے میں لے اور بغیر معاوضہ کے قومی ملکیت میں لے جیسا کہ سو شل ازم کا دعویٰ تھا یا اسلامی سو شل ازم والوں کا دعویٰ تھا۔ معاوضہ کے بغیر لینے کا تو یہاں کوئی استدلال ہو ہی نہیں سکتا زیادہ سے زیادہ یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ معاوضہ دے کر وہ مال واپس لیا جاسکتا ہے۔

آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ بات ساری سیاسی جماعتوں کے منشور میں لکھی ہوئی ہے کہ جب ہم آئیں گے تو تمام جا گیرداروں سے ان کی زمینیں بلا امتیاز لے لیں گے اور قومی ملکیت میں داخل کر دیں گے۔ ساری سیاسی جماعتوں بلا احتشام ان کے منشور میں یہ بات داخل ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی حکومت آتی ہے تو وہ خود جا گیردار ہوتی ہے، خود زمیندار ہوتی ہے۔ وہ اپنی زمینوں کے تحفظ کے لئے ایسے جیلے اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس کا کام چل جاتا ہے لیکن یہ بات سب کے منشور میں لکھی ہے کہ بلا معاوضہ لے لی جائیں۔ یہ شریعت کا تقاضہ نہیں ہے!

شریعت کا تقاضہ یہ ہے کہ جس نے حرام طریقے سے حاصل کی، رشوت کے ذریعے حاصل کی، کرپش کے طریقے سے حاصل کی، حتیٰ بھی حرام طریقے سے حاصل کی ہوئی جائیداد ہے وہ سب ضبط کرلو، کوئی سو، پچاس

ایکثر کی بات نہیں اور جس نے جائز طریقے سے حاصل کی، حلال طریقے سے حاصل کی اس کی جائیداد کو ضبط کرنے کا شرعاً کوئی جواز نہیں ہے، الایہ کہ اس نے کسی جرم کا رتکاب کیا ہو تو اس کو قومی ملکیت میں لے لینا اور اس کے اوپر قبضہ کر لینا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔

یہاں پر اس لئے تنبیہ کی گئی کہ جب سو شل ازم کا دور تھا، تو یہ واقعہ کثرت سے پیش کیا جاتا تھا اور بھی چند دفعات جو صحیح بخاری میں آتے ہیں، وہ استدلال میں پیش کئے جاتے تھے۔

اس حوالے سے کتاب "ملکیت زمین اور اس کی تحدید" بھی ہے، مزید تفصیل کیلئے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔

آج کل یہ فیشن ہے کہ ہم تحدید ملکیت کے قائل ہیں کہ ملکیت کو مدد و کرنا چاہیے تو اس فیشن کے تحت ہر سیاسی جماعت یہاں تک کہ تمام دینی جماعتیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ تحدید ملکیت کی جائے گی اور ملکیت کی حد مقرر کر دی جائے گی اس سے زیادہ جو ہو گا وہ ضبط کر لیا جائے گا۔

اس کتاب میں تحدید ملکیت کے سلسلہ میں جتنے دلائل پیش کئے جاتے ہیں سب جمع کر دیے ہیں۔ اصل میں وہ کتاب نہیں ہے بلکہ عدالتی فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ میں کیا گیا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کے جو قوانین زرعی اصلاحات کے نام سے تھے اس کو شریعت کے مطابق قرار دینے کا جو فیصلہ تفصیل سے کیا گیا تھا اس کتاب میں ان سارے دلائل کی تردید آگئی ہے، اسی میں یہ واقعہ بھی داخل ہے۔

۲۳۲۰. حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع: أن عمر قال: يا رسول الله. وحدثني محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قفلنا من حنين سال عمر النبي ﷺ عن لدر كان للدر في الجاهلية اعتكاف، فأمره النبي ﷺ بولاته. وقال بعضهم: حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ. و

۱۹ ولی مصحح مسلم، کتاب الایمان، باب نظر الكالرو ما يفعل فيه اذا اسلم، رقم: ۱۶۵۳، وسنن ابی داؤد، کتاب الصوم، باب المفتکف بغير دينه، رقم: ۲۳۴۳، وکتاب الایمان والنذر، باب من نظر في الجاهلية ثم ادرك الاسلام، رقم: ۳۲۲۵، وسنن الترمذی، ابیاب النذر والایمان، باب ماجاء في ولاء النذر، رقم: ۱۵۳۹، وسنن النسائي، کتاب الایمان والنذر، باب اذا نظر لم اسلم قبل ان يلقى، رقم: ۳۸۲۰، ۳۸۲۱، ۳۸۲۲، وسنن ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب اعتكاف يوم او ليلة، رقم: ۱۷۷۱، وکتاب الکفارات، باب ولاء بالنذر، رقم: ۲۱۲۹، ومسند احمد، باب مسند الخلفاء الراشدين، اول مسند عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، رقم: ۲۵۵، ومسند عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما، رقم: ۳۵۷۴، ۳۹۲۲، ۳۹۰۵، وسنن ابی الدارمی، کتاب النذر والایمان، باب الولاء النذر، رقم: ۲۳۷۸، ۵۵۳۹، ۵۳۲۳

## زمانہ جاہلیت کی نذر کا حکم

سفرخین میں جو متفرق و افات پیش آئے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بیان فرمائے ہیں۔

”سال عمر النبی ﷺ عن نذر کان ندرہ فی الجاهلیة اعتکاف“ حضرت عمر رض نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی نذر مانگی تھی تو نبی کریم ﷺ سے اس نذر کو پورا کرنے کے متعلق سوال کیا۔

”لَا مَرْهُوْنَ بِهِ لَهُ بُولَالَهُ“ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کو پورا کرو۔

اگرچہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو کفر کی حالت میں اس نے جو کچھ کیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت مانی ہوئی نذر اب اسلام لانے کے بعد معین نہیں ہے، لیکن حضور انس رض نے اس لئے حکم فرمایا کہ پورا کرو، کیونکہ بہر حال ایک نیک ارادہ تو ہتا تو اس نیک ارادے کو پورا کرنے کا موقع بھی ہے کہ یہاں پڑائے ہوئے ہیں اور حرم قریب ہے تو جا کر اعتکاف کر لیں۔

۳۳۲۱. حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر ابن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قحافة، عن أبي قحافة قال: خرج جناع النبي ﷺ عام حنين، للما التقيينا كالت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين فضربه من ورائه على جبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع. وأقبل على فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، لم أدركه الموت فأرسلني للحقت عمر، فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله عز وجل. ثم رجعوا وجلس النبي ﷺ فقال: ((من قتل قبيلا له عليه بيته فله سلبه)), فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، قال: ثم قال النبي ﷺ مثله فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، قال: ثم قال النبي ﷺ مثله فقلت: ((ما لك يا أبي قحافة؟)) فأخبرته، فقال رجل: صدق وسلبه عندي فارضه منه. فقال أبو بكر: لا ها الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله رسوله ﷺ ليعطيك سلبه، فقال النبي ﷺ: ((صدق فاعطه)), لاعطائه ثابت به مخرفا فيبني بنى سلمة، فانه لأول مال تألكه في الإسلام. [راجع: ۲۱۰۰]

ترجمہ: حضرت ابو قحافة رض نے فرماتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ خین کے سال نکلے، جب ہم کفار کے مقابل ہوئے تو مسلمانوں میں انتشار سا ہوا، میں نے ایک مشرک کو ایک مسلمان پر غالب دیکھا، میں نے اس

کے عقب سے اس کی گردن پر تکوار ماری، تو اس کی زرد کاٹ دی۔ وہ پلٹ کر مجھ پر آیا، اور مجھے اتنے زور سے دبوچا کہ مجھے موت نظر آنے لگی، پھر وہ مر گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ پھر میں حضرت عمر رض سے ملا، تو میں نے ان سے کہا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ منتشر ہو رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ایسے ہی ہے، پھر سلمان پلٹے، اور اب نبی ﷺ بیٹھ گئے اور فرمایا جس نے کسی کا فرکوٰٰ کیا اور اس کے پاس گواہ بھی ہو تو اسے ہتوں کا تمام سامان ملے گا، تو میں نے کہا کہ میری گواہی کون دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر نبی ﷺ نے اسی طرح فرمایا، میں پھر کھڑا ہوا اور میں نے کہا، میری گواہی کون دے گا؟ اور میں بیٹھ گیا، پھر نبی ﷺ نے اسی طرح فرمایا، پھر میں کھڑا ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا، ابو قاتدہ کیا ہوا؟ تو میں نے آپ ﷺ کو واقعہ بتا دیا، ایک آدمی نے کہا کہ یہ حق کہتا ہے، اور اس کے مقتول کا سامان میرے پاس ہے، لیکن آپ ﷺ میری طرف سے اسے راضی کر لیجئے، تو ابو بکر رض نے کہا اللہ کی قسم! یہ ارادہ نہیں کریں گے کہ اللہ کے ایک شیر سے، جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی جانب سے لڑتا ہے، اس باب لے کر تجھے دیدیں۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا، یہ بات بالکل صحیح ہے، لہذا یہ اس باب اس کو دیدو۔ اس نے وہ اس باب مجھے دے دیا میں نے اس سے بنو سلمہ میں ایک باغ خریدا، اسلام میں یہ پہلا مال ہے جسے میں نے جمع کیا۔

## حضرت ابو قاتدہ رض کا واقعہ

حضرت ابو قاتدہ رض فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھیوں کے سال نکلے "اللما التقينا" جب ہمارا مقابلہ کافروں سے ہوا، "کانت للملئین جولة" تو مسلمانوں کے لئے ایک گردش پیش آئی۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں:

ایک تو بعض اوقات یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے "کان له جولة" مطلب یہ کہ وہ بہت جوش و خروش سے کام کر رہا تھا، بہت جوش و خروش کے ساتھ لڑ رہا تھا اور دوسروں کے مقابلے میں دوسروں پر غالب بھی ہو رہا تھا تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ حنین میں ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور مسلمان غالب آئے۔ دوسری یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ "جولة" کا اطلاق گردش پر ہو، مطلب یہ کہ مسلمانوں کو کچھ پیچھے ہنا پڑا تھا تو مسلمان گردش میں آگئے تھے، یہ معنی بھی بعض اوقات لئے جاتے ہیں۔

"فرأيت رجال من المسلمين قد على دجلان من المسلمين" میں نے دیکھا کہ مشرکین میں سے ایک آدمی کسی مسلمان کے اوپر چڑھ دوڑا ہے یعنی اس کو شہید کرنے کے ارادے سے اس پر چڑھ گیا، "فصرعه من ورائه على حبل عائقه بالسيف فقطعت الدرع" تو جب میں نے دیکھا کہ یہ کافر کسی مسلمان کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو میں نے پیچے سے اس پر تکوار کا وار کیا، اس کے کندھے کی رگ کے۔

اوپر اور ایسا وار کیا کہ میں نے اس کی زرع کاٹ دی۔

**وَالْبَلْ عَلَىٰ فِضْمَنِي ضَمَّةٌ وَجَدَتْ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ** "جب اس نے دیکھا کہ پیچھے سے میرے اوپر تکوار کا دار ہوا ہے اور وہ زخمی ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اسی حالت میں اس نے مجھے پیچھے سے آ کر اتنی زور سے دبوچا گویا موت کی بوآنے لگی یعنی اس نے اتنی زور سے دبوچا کہ مجھے اپنی موت قریب محسوس ہونے لگی، "لِمَ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَلَأَرْسَلَنِي" پھر اسی حالت میں اس کو موت نے آ لیا اور مجھے چھوڑ دیا یعنی پہلے زدر کا دبوچا اور دبوچنے کے بعد جو نکلہ زخم تو لگ ہی چکا تھا اور خون بہہ رہا تھا تو اسی حالت میں اس کو موت آ گئی۔

**لِلْحَقْتُ عَمْرًا، فَلَقْتُ: مَا بَالَ النَّاسُ** "میری ملاقات حضرت عمرؓ سے ہو گئی تو میں ان کے پیچھے گیا، میں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یعنی مسلمانوں کو جو تھوڑی دیر کے لئے پسپائی ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں۔

"قَالَ: أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے اس لئے ہو رہا ہے۔  
خلاصہ یہ ہے کہ اس حالت پر بھی صبر کرنا چاہئے۔

**لِمَ رَجَعُوا جَلْسَ النَّبِيِّ** "اس کے بعد پھر مسلمان لوٹ آئے یعنی سنجھل گئے اور کفار پر غالب آگئے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد آپؐ تشریف فرمائے، "لِقَالَ: مَنْ لَعْلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ بَيْنَهُ فَلَهُ سَلَبٌ" اور یہ اعلان فرمایا کہ جس شخص نے کسی آدمی کو قتل کیا ہواں کا گواہ کوئی ہو تو اس کا سلب اس کو ملے گا۔ سلب کے معنی اس مقتول کا سامان اس کا گھوڑا، اس کے ہتھیار وغیرہ قاتل کو ملیں گے۔

## مقتول کے سلب کا حکم

امام شافعی اور امام احمد بن جبل رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تشریعی حکم ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ قاعدہ اور اصول وقتی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لئے مقتول کا سلب عام مال غیرت میں شامل کر کے تمام افراد میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے بلکہ ہر مقتول کا سلب عام مال غیرت سے الگ کیا جائے گا اور صرف قاتل ہی اس کا حق دار ہو گا۔ امام شافعی رحمہما اللہ حضرت ابو قاتدةؓ کی اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں واضح طور رسول اللہؐ نے حکم دیا ہے اور یہ حکم تشریعی اور ابدی ہے۔

٢) مختصر المحتاج الى معرفة معالم الفاظ المنهاج، الفصل في النسمة وما يبعدها، ج: ۳، ص: ۱۵۳، والمعنى لا ين

امام ابوحنیفہ، امام مالک، اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن خبل رحمہم اللہا جمعین فرماتے ہیں کہ یہ کوئی تشریعی اور ابدی حکم نہیں ہے بلکہ یہ امام کی طرف سے انعام کا اعلان ہے۔  
احتاف اور مالکیہ اس آیت مبارکہ سے استدلال فرماتے ہیں کہ:

﴿وَأَغْلَمُوا أَلْمَاءَ غِنِيمَةٍ قَنْ هَنِيْهُ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ  
وَلِرَسُولِ وَلِلَّهِيِ الْقُرْبَىِ وَالْيَتَامَىِ وَالْمَسَاكِينِ  
وَأَئِنِ السَّبِيلُ﴾<sup>۱۰</sup>

ترجمہ: اور (مسلمانو!) یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مالی غنیمت حاصل کرو، اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول اور آن کے قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے (جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے،)۔

اس آیت میں "ما هُنِيْمَةٌ" میں لفظ "ما" کلمہ عام ہے، اس وجہ سے سلب بھی اس میں داخل ہے اور خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کی تہذید یا تخصیص نہیں ہو سکتی۔<sup>۱۱</sup>

یہ ضروری نہیں ہے کہ سلب ہمیشہ قاتل ہی کو ملے بلکہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ سلب بھی مال غنیمت میں شامل ہو گا اور دوسرے مال غنیمت کی طرح اس کو بھی تمام مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن اگر کسی وقت امام لوگوں کو ہمت دلانے کیلئے مناسب سمجھے تو یہ اعلان کر سکتا ہے کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا تو اس سلب ہم اسی کو دیں گے۔ لہذا دونوں پر اپنے محل پر عمل کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ سلب بھی مال غنیمت کا حصہ ہے، لیکن اگر امام چاہے تو کسی وقت یہ اعلان کر سکتا ہے کہ مقتول کا سامان قاتل کو ملے گا۔

اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے عہد مبارک میں بعض اوقات ایسے واقعات پیش آئے جن میں سلب قاتل کو نہیں دیا گیا، مثلاً غزوہ بدر میں ابو جہل کو دو بھائیوں موزڈ اور معاذ رضی اللہ عنہما نے قتل کیا لیکن حضور اقدس ﷺ نے ابو جہل کا سلب کپڑے وغیرہ ان دو میں سے ایک کو دیئے، ابو جہل کی تکوار عبد اللہ بن مسعود کو دی اور ایک بھائی کو کچھ بھی نہیں دیا حالانکہ وہ بھی قتل میں شریک تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلب کو قاتل کو ملنا کوئی ابدی حکم نہیں ہے۔

۱۰ [الأمثال: ۳۱]

۱۱ مداعع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج: ۷، ص: ۱۱۵، رفتح القدير للكمال ابن الهمام، ج: ۵، ص: ۵۱۳-۵۱۲

وبداية المجتهد والنهائية المقصود، ج: ۲، ص: ۱۵۹

اس کے علاوہ بعض روایات اس پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ جن میں سلب کو عام مال غنیمت کی طرح تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور قائل کے لئے اس کو مخصوص نہیں کیا گیا۔

لہذا ان دلائل کی روشنی میں یہ کہا جائے گا کہ اس روایت میں آپ ﷺ نے جو حکم فرمایا ہے وہ بطور امام کے ارشاد فرمایا ہے، بطور شارع حکم نہیں فرمایا۔ اس لئے اس کو ابدی حکم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ۳۵

## سلب کے بارے میں کس وقت اعلان کیا جائے گا؟

پھر اس بارے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے کہ سلب کے بارے میں اعلان امام کو کس وقت کرنا چاہئے؟

اختلاف کے بہاء اس میں امام کو اختیار ہے جب چاہے اعلان کر دے، چاہے جہاد یعنی لڑائی کی ابتداء میں کرے، یادو ران لڑائی کرے، یا لڑائی ختم ہونے کے بعد کرے، یا مال غنیمت کی تقسیم کے وقت اعلان کرے۔ مالکیہ کے نزدیک امام کو سلب کے بارے میں لڑائی کے آغاز سے پہلے اعلان نہیں کرنا چاہئے بلکہ لڑائی کے ختم ہونے کے وقت یا مال غنیمت کی تقسیم کے وقت اعلان کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ ابتداء میں اعلان کرنے کے نتیجے میں جہاد کے اندر دینوی غرض شامل ہو جائے گی، لہذا جہاد کو خالص رکھنے کے لئے شروع میں اعلان نہ کرے بلکہ بعد میں کرے۔

اختلاف کہتے ہیں کہ کوئی شخص صرف سلب حاصل کرنے کی خاطر اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالتا، کیونکہ جہاد کرنے والے کی اصل نیت اعلاء کلمۃ اللہ ہی ہوتی ہے البتہ سلب کے اعلان کی وجہ سے اس کے اندر تبعیج کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے نہیں کہیں گے کہ جہاد خالص نہیں رہا، کیونکہ اخلاص کے لئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کام کے کرنے کا اصل محرك کیا ہے؟

اگر اصل محرك اللہ کو راضی کرنا ہے تو اخلاص حاصل ہے، چاہے بعد میں اس کے اندر ضمی طور پر دوسری باتیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔

مثلاً ایک شخص علم حاصل کر رہا ہے، اب علم حاصل کرنے کا اصل محرك تو یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات جان کر ان پر عمل کروں گا، اللہ کے دین کی خدمت پڑے گی وہ میں سرانجام دوں گا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا۔

لیکن بعض اوقات درمیان میں کچھ دوسرے خیالات بھی شامل ہو جاتے ہیں مثلاً یہ کہ میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے انعام لوں گایا پوزیشن حاصل کروں تاکہ اساتذہ میری تعریف کریں، یہ چیزیں چونکہ اصل محرك نہیں ہیں، لہذا اس کی وجہ سے اخلاص فوت نہیں ہو گا۔ جب تک اصل محرك اللہ کو راضی کرنا ہے اس وقت تک ان چیزوں کے درمیان میں آنے سے اخلاص فوت نہیں ہو گا ان شاء اللہ۔

لیکن اگر پڑھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں پڑھنے کے بعد عالم بنوں گا اور لوگوں کا مقتدا بنوں گا تاکہ میں مخدوم بن جاؤں اور لوگ میری خدمت کریں اور میرے لئے تخفیف تھائے لایا کریں تو اس صورت میں اخلاص فوت ہو جائے گا۔ ۳۷

”لَقْلَتْ: مِنْ يَشْهَدُ لِي؟ لَمْ جَلَسْتَ“ تو میں نے کہا کہ کون میری گواہی دے گا؟ کہ میں نے اس آدمی کو مارا تھا؟ پھر بیٹھ گیا، کیونکہ اس وقت کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا جو میرے اس قتل کی گواہی دے۔  
”لَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَعْلِهَ“ تو نبی کریم ﷺ نے دوبارہ وہی بات فرمائی۔

”فَقَمْتَ لَقْلَتْ: مِنْ يَشْهَدُ لِي؟ لَمْ جَلَسْتَ“ تو میں کھڑا ہو گیا اور یہی بات کہی کہ کون میں میری گواہی دے گا؟ پھر بیٹھ گیا، کیونکہ اس وقت بھی کوئی آدمی میری گواہی کے لئے کھڑا نہیں ہوا۔  
جب آپ ﷺ نے تیسری بار یہ بات کہی اور مجھے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، ”لَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا لَعَادَةَ؟ فَأَخْبَرَهُ“ اے ابو قادہ کیا بات ہے؟ یعنی یوں بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہو، تو میں نے بتایا کہ اس طرح قصہ پیش آیا تھا اور میرا گواہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔

”لَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ وَسَلَّهُ عَنْدِي فَأَرْضَهُ مِنْهُ“ تو ایک شخص نے کہا یہ سچ کہہ رہے ہیں واقعی انہوں نے آدمی کو قتل کیا تھا اور جس کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کا سامان میرے پاس ہے یعنی سچ بات بتا دی کہ انہوں نے قتل کیا تھا اور سامان میرے پاس ہے، ساتھ ہی یہ درخواست کی کہ آپ ﷺ ان کو راضی کر دیجئے کہ ابو قادہ مجھے دینے پر راضی ہو جائیں اور میرے حق سے دستبردار ہو جائیں وہ سامان میں لینا چاہتا ہوں۔

## لفظ ”لَا هَا اللَّهُ أَذَا“ پر بحث

حضرت ابو بکر صدیق ﷺ وہاں پر موجود تھے آپ نے فرمایا ”لَا هَا اللَّهُ أَذَا“۔

الإِبْدَاعُ الْمُتَابِعُ فِي تَرتِيبِ الشَّرَائِعِ، ج: ۷، ص: ۱۱۵، المفہوم الاین فدامہ، ج: ۸، ص: ۲۳۸، والمجموع ضرع

المهدب، ج: ۹، ص: ۳۲۱

یہ اہل عرب کا محاورہ ہے، یہاں پر "ہا" واد قسم کے قائم مقام ہے، "لاہا اللہ" یعنی "لا و الله" لیکن عام طور سے محاورے کے اندر "لا" اسکے ساتھ ضرور ہوتا ہے یعنی "لاہا اللہ اذا" نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو گا۔ "ذا" اس کے ساتھ ہو گا۔

لیکن یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے "لاہا اللہ اذا" تو عام طور پر "ذا" ہوتا ہے نہ کہ "اذا" اس واسطے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس پر کافی بحث کی ہے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ "لاہا اللہ اذا" ہے یا "اذا" ہے؟

فرماتے ہیں کہ محاورے میں تو "ذا" ہوتا ہے اور جو روایت ہم کو پہنچی ہے وہ "اذا" کی ہے تو بڑا مسئلہ بن گیا کہ روایت کا اعتبار کریں تو جملہ صحیح نہیں بیٹھتا اور محاورے کا "ذا" کے اوپر۔

علامہ بدر الدین یعنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواہ مخواہ کی طول بیان کی ہے، دو لفظ ہیں وہ کہہ دیتے تو کافی تھا اور وہ یہ کہ اگر یہ "ذا" ہے ہو سکتا ہے کہ کسی ناخ سے غلطی ہو گئی ہے یا راوی سے غلطی ہو گئی ہے اس نے "اذا" لکھ دیا اصل میں یہ "لاہا اللہ اذا" تھا جب تو محاورہ صحیح ہے۔

اور اگر یہ "اذا" ہی ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ اس محاورے میں "لاہا اللہ" یعنی "ذا" حذف کر دیا اور "اذا" کے معنی یہیں "حین اذن" اس صورت میں اس کا تعلق اگلے جملے سے ہے۔ "لاہا اللہ ای لا و الله" اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ ۵۱

"إِذَا لَا يَعْمَدُ إِلَى أَسْدٍ مِّنْ أَسْدِ اللَّهِ يَقْاتِلُ عَنِ الْفَوْرَسُولِهِ" اس صورت میں اگلا جملہ یوں ہو گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کا قصد کرے جو اللہ اور اسکے رسول ﷺ کی طرف ہے جنک کر رہا ہو، "لِيُعْطِيكَ سَلَبَهُ" اور حضور ﷺ تھہارے کو اس کا سلب دے دیں۔

یعنی مطلب یہ ہوا کہ اس الشیہ کے شیر نے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول ﷺ کی طرف سے جہاد کرتے ہوئے ایک کافر کو قتل کیا تو اس کا سامان و اساب اخہار کر تھیں دے دیں ایسا نہیں ہو گا، حضور اقدس ﷺ ایسا نہیں کریں گے۔ ۵۲

۵۱) قوله: ((إِذَا)) بـكسر الهمزة وـبـالـدالـ المعجمـةـ المـسـوـنةـ ..... إـلـىـ فـلـاـ يـعـتـاجـ إـلـىـ الـأـطـالـةـ الـفـيـرـ الطـائـلـةـ. عمـدةـ الفـارـيـ، جـ: ۱ـ، صـ: ۳۲۸ـ، ۳۲۷ـ، ۳۲۶ـ، وـلـفـحـ الـمـأـرـيـ، جـ: ۱ـ، صـ: ۳۰ـ، ۳۹ـ، ۳۸ـ، ۳۷ـ.

۵۲) قوله: ((لا يَعْمَد))، أـیـ: لـاـ يـقـصـدـ النـيـرـ، إـلـىـ رـجـلـ كـاـنـهـ أـسـدـ فـيـ الشـجـاعـةـ يـقـاتـلـ عـنـ دـيـنـ اللـهـ وـرـسـوـلـهـ، فـيـاـخـدـ حـظـ وـيـعـطـيـكـ بـهـيـرـ طـيـةـ مـنـ لـفـهـ. عمـدةـ الـلـارـيـ، جـ: ۱ـ، صـ: ۳۲۸ـ.

**لقال النبي ﷺ:** صدق فاعطه، نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے بھی کہا پس دے دو یعنی حضرت مددیق اکبر ﷺ کی تصدیق فرمائی، پھر آپ ﷺ نے اس شخص سے خطاب کر کے کہا کہ دے دو، یعنی جو سلب تمہارے پاس ہے وہ ابو قادہ کو دے دو۔

**لاعطا یہ فابتعدت به مخراجاً فی بني سلمة** "حضرت ابو قادہ ﷺ فرماتے ہیں اس شخص نے وہ سلب مجھے دے دیا، اس سے میں نے بنی سلمہ میں ایک باغ خریدا، "فأله لأول مال تأللحة في الإسلام" وہ پہلا مال تھا جو میں نے اپنے اسلام میں بنایا اسلام لانے کے بعد پہلی جائیداد تھی جو میں نے بنائی۔ "تأللحة" یعنی مال بنانا جائیداد بنانا جسے کہتے ہیں۔ ۱۷

۳۳۲۲ - **وقال الليث:** حدثني يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قعادة أن أبي قعادة قال: لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلاً من المشركين وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتلها، فما سرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضربيه وأضرب يده لقطعها، ثم أخذني لضماني فيما شددا حتى تخوفت ثم برُك لتعمل ودفعته لم قلعه والهزم المسلمين والهزمت معهم، فإذا بعمري بن الخطاب فالناس، فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله ﷺ فـ**لقال رسول الله ﷺ:** ((من أقام بيته على قتيل قتله فله سلبه)), فلقت لا تمس بيته على قتيلي فلم أر أحداً يشهد لى لجلست. ثم بدا إلى ذلك كرت أمره لرسول الله ﷺ فـ**لقال** رجل من جلسائه: ملاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه منه، فـ**لقال** أبو بكر: كلا لا يعطيه أصيبح من قريش ويدع أسدًا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، قال: **لقام رسول الله ﷺ** فـ**لأداء إلى** فاشترىت منه خرافاً فـ**لكان أول مال تأللحة في الإسلام.** [راجع: ۳۱۰۰]

## شرح

یہ واقعہ بعینہ وہی ہے جو پھری روایت میں گزرا ہے، لیکن یہاں سر روایت میں دو الفاظ نئے ہیں۔  
**"وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتلها"** اور ایک دوسرا مشرک یچھے سے مسلمان کو قتل

کرنے کے لئے گھات رداوگار ہا تھا۔

”خعل۔ بخعل“ کے معنی ہیں کہ ایسا داؤ گانا کہ جس سے کسی دوسرے کو دھوکہ دینا مقصود ہو یعنی وہ بچھے سے داؤ گار ہا تھا۔ ۸۵

اس روایت کے آخر میں جو حضرت ابو بکر رض کا جملہ پچھلی روایت میں ”لا ها اللہ ذا“ تھا اور یہاں پر ”کلا لا يعطيه أصيغ من قريش و يدع أسدًا من أسد الله“ کہ ہرگز یہ مال و اسباب آپ نہ دیں قریش کے ایک حقیر ہوئے آدمی کو، اور اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو چھوڑ دیں جو اللہ اور اس کے رسول کیلئے قیال کرتا ہے۔

”اصیغ“ یہ ”اصبیح“ کی تصریح ہے اور کسی کی تحقیر کیلئے کہا جاتا ہے اور ”اصبیح“ یہ ایک پرندے کو کہتے ہیں جسے حقارت کی مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ ۹۶

حضرت صدیق اکبر رض کے اس جملہ کا مقصد یہ ہے کہ قریش کے ایک حقیر شخص کو دیں اور اللہ کے شیر کو چھوڑ دیں اس کو اسکا حق نہ دیں آپ فیصلہ ایسا ہرگز مت کریں۔

”وتدع“ اور داؤ جو ہے یہ ”واو صرف“ ہے۔

داو صرف وہ ہوتا ہے جو معطوف نہ بن سکتا ہو، اس میں ”ان“ مقدر ہوتا ہے، ”ان“ مقدر ہونے کی وجہ سے اس کا مابعد منصوب ہوتا ہے۔

۸۵) التوله: ((بختله)), بالخطاء العجمة والباء المفتاة من الفرق: أى يخدعه. عحدة الفارى، ج: ۱، ص: ۲۲۹

۹۶) التوله: (اصبیح) بهمبلة لم معجمة عند الثاہن، وبمعجمة لم مهملة عند أبي ذر، وقال ابن التین: وصله بالضعف

والجهالة، والاصبیح نوع من الطير. فتح الہاری، ج: ۸، ص: ۲۱

## (۵۶) باب غزوة او طاس

## غزوة او طاس کا بیان

پس منظر: غزوة او طاس کا ذکر اس باب میں مقصود ہے، غزوة او طاس کا پس منظر یہ ہے کہ غزوة ہجین میں بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور بنو هوازن جو آپ کے مقابل تھے ان کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا تو ملکست خورده بنو هوازن بھاگتے وقت تین حصوں میں منقسم ہو گئے:

ایک حصہ اپنے سردار درید بن صدر کی سربراہی میں او طاس کی طرف چلا گیا۔

دوسرا حصہ بنو هوازن کے سردار مالک بن عمرو کی سربراہی میں طائف جا کر پناہ گزین ہو گیا۔

تمیرا حصہ مقام تکیلہ کی طرف چلا گیا تھا مگر وہ کم ہجڑیا دہ قابل ذکر نہیں تھا، اس کی خاص اہمیت نہیں تھی۔

لیکن پہلے دونوں فریق، ایک دہ جو او طاس چلا گیا تھا اور دوسرا دہ جو طائف جا کر پناہ گزین ہوا تھا،

تو حضور اقدس ﷺ نے ان دونوں کو مغلوب کرنا مناسب اور ضروری سمجھا۔

چنانچہ او طاس والوں کی طرف حضرت ابو عامر اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس

لشکر نے بالآخر او طاس کے اندر بھی فتح پائی اور کفار کو ملکست ہوئی۔ ۱۱

حضرت ابو عامر اشعری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو موسی اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے جیسا کہ حضرت ابو موسی اشعری

رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت میں ہے اور ابن اسحاق کے قول کے مطابق ان کے بھائی تھے، حضرت ابو عامر اشعری رحمۃ اللہ علیہ

اس غزوه میں شہید ہو گئے۔ ۱۲

بعد میں جب او طاس کی طرف نکلنے والے لوگوں سے فارغ ہو گئے تو حضور اقدس ﷺ نے خود طائف پر

چڑھائی کی جس کا ذکر آگئے مستقل باب میں آئے گا۔ یہ واقعات کی ترتیب ہے۔ تو اس غزوه او طاس کے سلسلے میں

حضرت ابو موسی اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔

۲۳۲۳ - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن هريد بن عبد الله، عن أبي

۱۱ وَانْ هَوَازَنَ لِمَا اهْزَمُوا صَارَتْ طَائِلَةُ مِنْهُمْ إِلَى الطَّائِلَ وَطَائِلَةُ إِلَى بَحْرِيَةٍ وَطَائِلَةُ إِلَى أَوْ طَاسٍ، فَارْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ

عَسْكَرًا مَلَدَمَهُمْ أَبْرَأَ إِلَى مِنْ مَضِيَ إِلَى أَوْ طَاسٍ كَمَا يَدْلُ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَابِ، فَتْحُ الْبَارِي، ج: ۸، ص: ۳۳

۱۲ قولہ: ((قال باہن اخن)) هذا يبرد قول ابن اسحق الله ابن عمہ. فتح الباری، ج: ۸، ص: ۳۳

بردة، عن أبي موسى رض قال: لما فرغ النبي صل من حنين بعث أبا عامر على جيش الى أوطاس للفتني دريد بن الصمة لقتل دريد وهزم الله أصحابه . قال أبو موسى : وبعثني مع أبي عامر فرمى أبو عامر في ركبته ، رماه جسمى بهم فأبنته في ركبته فاتهت إليه لقتل : يا عم امن رماك ؟ فأشار إلى أبي موسى فقال : ذاك قاتلى الذى رمانى ، لقصدت له للحق عنه ، فلم ير آنى ولی لاتبعنه وجعلت القول له : ألا تستحي ؟ ألا تثبت ؟ فلما خالفنا ضربعن بالسيف لقتله ، لم تلت لأبي عامر : قتل الله صاحبك ، قال : فائز ع هذا السهم ، فنزل عنه فنزا منه الماء ، قال : يا ابن أخي ، أفرى النبي صل السلام وقل له : استغفر لي . واستخلفني أبو عامر على الناس لمكث يسرا نم مات . فرجعت للدخلت على النبي صل في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبه ، فأخبرته وخبر أبو عامر وقال : قل له : استغفرلي ، لدعابياء فعرضأتم رفع يديه فقال : ((اللهم اغفر لعبدك أبا عامر)) ، ورأيت بياض إبطيه . ثم قال : ((اللهم اجعله يوم القيمة فوق كثير من خلقك من الناس)) . فقلت : ولی فاستغفر ، فقال : ((اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ، وأدخله يوم القيمة مدخلاً كريماً)) . قال أبو بردة : إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى .

[راجع: ٢٨٨٣]

ترجمہ: حضرت ابو موسی اشعری رض سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صل غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ صل نے ابو عامر کو ایک لشکر کا سردار بنا کر قوم او طاس کی جانب بھیجا، ان کا مقابلہ درید بن صہبہ سے ہوا، درید مارا گیا اور اس کے ساتھیوں کو اللہ نے شکست دی، ابو موسی اشعری رض کہتے ہیں کہ آنحضرت صل نے مجھے بھی ابو عامر کے ساتھ بھیجا، تو ابو عامر کے گھلنے میں ایک تیر آ کر لگا، جو ایک جیشی آدمی نے پھینکا تھا، وہ تیر ان کے زانوں میں اتر گیا، میں ان کے پاس گیا اور پوچھا چکا جان آپ کو کس نے تیر مارا ہے؟ انہوں ابو موسی کو اشارہ سے بتایا کہ میرا قاتل وہ ہے، جس نے میرے تیر مارا ہے، تو میں اس کی تاک میں چلا، جب اس نے مجھے دیکھا تو بھاگا، میں نے اس کا پیچھا کیا، اور اس سے کہتا جا رہا تھا کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ٹھہرتا کیوں نہیں؟ وہ ٹھہر گیا، میں اور وہ ایک دوسرے پرتواروں سے حملہ اور ہوئے، تو میں نے اسے قتل کر دیا، پھر میں نے ابو عامر سے کہا کہ اللہ نے آپ کے قاتل کو ہلاک کر دیا ہے، انہوں نے کہا میرا یہ پیوست شدہ تیر تو نکالو، میں نے وہ تیر نکالا تو اس زخم سے پائی لکلا، انہوں نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے ابی رض سے میرا اسلام کہنا اور آپ صل سے عرض کرنا کہ میرے لئے دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضرت ابو عامر صل نے مجھے اپنی جگہ امیر لشکر نامزد کیا، تھوڑی دیر زندہ رہ کر شہید ہو گئے۔ میں واپس لوٹا اور ابی رض کے پاس حاضر ہوا، آپ صل اپنے مکان میں ایک بانوں والی چار پائی پر

لیئے ہوئے تھے، اس پر برائے نام ایسا بستر تھا کہ چار پاؤں کے بانوں کے نشانات آپ کی پشت مبارک اور پہلو میں پڑ گئے تھے، چنانچہ میں نے آپ ﷺ کو اپنے اور ابو عامر ﷺ کے حالات کی اطلاع دی اور میں نے کہا کہ انہوں نے آپ سے یہ عرض کرنے کا کہا ہے کہ میرے لئے دعائے مغفرت کیجئے، آپ ﷺ نے پانی منکوا کروضو کیا، پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ! اپنے بندے ابو عامر کی مغفرت فرم۔ اور آپ کے ہاتھ اتنے اوپنے تھے کہ آپ ﷺ کے بغلوں کی سفیدی میں دیکھ رہا تھا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا اے اللہ! اسے قیامت کے دن اپنی بہتی خلق پر فضیلت عطا فرم۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرے لئے بھی دعاء مغفرت فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے اللہ! عبد اللہ بن قيس کے گناہوں کو بخش دے اور قیامت کے دن اسے معزز جگہ داخل فرم۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک دعا حضرت ابو عامر ﷺ کے لئے تھی، اور دوسری دعا حضرت ابو موسیؑ کے لئے۔

## ابو عامر اشعریؑ کی شہادت

اس روایت میں حضرت ابو موسی اشعریؑ غزوہ او طاس کا قصہ بیان فرمائے ہیں کہ "لما رأى  
النبي ﷺ من حديث بعثة أبي عامر على جيش إلى أو طاس" جب نبی ﷺ غزوہ حین سے فارغ ہو گئے تو آپ ﷺ نے حضرت ابو عامر اشعریؑ کو ایک لکر کا امیر بنانا کرو طاس کی طرف روانہ فرمایا۔

"للقى دريد بن الصمة ففعل دريد وهزم أهل أصحابه" تو او طاس پہنچ کر وہاں ان کا مقابلہ ہوا، مشرکین کا سردار درید بن صمد مارا گیا اور اللہ نے اسکے ساتھیوں کو تکلیف سے دوچار کیا، چنانچہ وہ بھی تکلیف کھا کر رواہ فرار اختیار کر گئے۔

"قال أبو موسى: وبعثي مع أبي عامر" حضرت ابو موسی اشعریؑ کہتے ہیں کہ حضور اقدس نے مجھے بھی حضرت ابو عامر اشعریؑ کے ساتھ او طاس کی لڑائی میں بھیجا تھا، "فرمى أبو عامر لى ركبته، رماه جسمى بسهم لاليته فى ركبته فالنتهت إله" تو لڑائی کے دوران ایک جیشی نے ابو عامر اشعریؑ کو تیر مارا جو ان کے گھنٹے میں لگا تو میں ان کے پاس گیا۔

"فقلت: يا عم! من دماك؟ لأشادر إلى أبى موسى فقال: ذاك قاتلى الذى رمىلى" تو میں نے کہا کہ پچا جان! آپ کو کس نے مارا؟ انہوں نے ابو موسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا قاتل وہ ہے، جس نے میرے تیر مارا ہے۔

یہاں پر حالانکہ خود دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ راوی کو ان کے صحیح الفاظ یاد نہ رہے اس واسطے انہوں نے یہاں پر خود اپنے الفاظ میں صیغہ غائب کے طور پر ان کو ابو موسیؑ کہہ دیا۔

”لقدت له للحقته“ تو میں اس کی تاک میں چلا اور اس کے پیچھے بھاگا، ”فلمار آنی ولی فاتحہ و جعلت الأول له: الا ستحی؟ الا ثبت؟“ جب مجھے آتے ہوئے دیکھا تو وہ پیشہ پھر کر بھاگا، میں نے اس کا پیچھا کیا، اور اس سے کہتا جا رہا تھا کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو پھر تاکیوں نہیں تاکہ میں تجھے مقابلہ کر سکوں؟

”لکف فاختلفنا ضربین بالسیف لقتلته“ میرے غیرت دلانے پر وہ بھاگنے سے رک گیا، تو ہم نے ایک دوسرے کوتوار سے ضرب میں لگائیں، بالآخر میں نے اس کو قتل کر دیا۔

”لِمْ قَلْتَ لِأَبِي عَامِرٍ: قَتْلَ اللَّهُ صَاحِبَكَ“ پھر میں نے ابو عامرؑ سے جا کر کہا کہ آپ کے ساتھی یعنی قاتل کو اللہ نے قتل کر دیا۔ ”قَالَ: فَالْنَّزَعُ هَذَا السَّهِيمُ، فَنَزَعْتُهُ فِي نَزَاعِ الْمَاءِ“ انہوں نے کہا یہ تیر میرے گھٹنے میں سے نکال دو، وہ تیر میں نے نکلا دیا تو اس سے پانی اچھل کر سامنے آگیا۔ مطلب یہ ہے کہ خون تو نکل ہی رہا تھا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ خون اتنا کم رہ گیا ہو گا کہ بعد میں پھر خون کی جگہ پانی نکل آیا۔

”قَالَ: يَا أَبَنَ أَخِي، أَقْرَى النَّبِيَّ السَّلَامَ وَقَلَ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي“ انہوں نے کہا تجھے میں تو جارہا ہوں، رخصت ہو رہا ہوں، تم نبی کریمؐ کو میر اسلام کہنا اور آپؐ سے درخواست کرنا کہ وہ میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں۔

”وَاسْتَخْلَفْتَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ لِمَكْثٍ يَسِيرًا لِمَ مَاتَ“ اور ابو عامر چونکہ لشکر کے سربراہ تھے تو انہوں نے مجھے اپنا خلیفہ بنادیا، کہا کہ میرے بعد تم لشکر کی قیادت کرو، یہ کہنے کے بعد تو تھوڑی دری وہ پھر ہے رہے پھر ان کی روح پرواز کر گئی یعنی شہید ہو گئے۔

”لَرْجَعَتْ فِدْخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرِ مَرْمَل“ حضرت ابو موسی اشعریؓ کہتے ہیں کہ جب غزوہ سے واپس لوٹ کر میں نبی کریمؐ کے پاس آیا اور حاضری کی غرض سے آپؐ کے گھر میں داخل ہوا اس وقت آپؐ اپنے گھر میں ایک بان کی چار پائی پر تشریف فرماتے۔

”مَرْمَل“ اس چار پائی کو کہتے ہیں جو بان کی رسیوں سے بنی ہوتی ہے۔

”وَعَلَيْهِ فِرَاشْ قَدْ أَلْوَرْ مَعَالِ السَّرِيرِ بَظُهُورِهِ وَجَنْبِيهِ“ اور اس چار پائی کے اوپر ایک بستر بھی تھا لیکن چار پائی کے بان کے نشان آپؐ کے پہلو اور پشت مبارک پر ظاہر ہو گئے تھے۔

چار پائی کے سخت بان ہوں گے اور بستر ہلکا ہو گا، تو اس کے نشانات جسم الٹھر پر ظاہر ہو گئے تھے۔

”لَا خَبْرَ لَهُ وَخَبْرَ أَبِي عَامِرٍ وَقَالَ: قَلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي“ تو میں نے آپؐ کو احوال سنائے یعنی غزوہ کے حالات سے آگاہ کیا اور یہ بات بھی بتائی کہ ابو عامر نے کہا تھا کہ حضور اقدسؐ سے درخواست کرنا کہ میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں۔

”لَدُعَا بِمَا فَتَوْحَدَ مِنْ رَبِّهِ“ تو آپ ﷺ نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر دعاء کی غرض سے ہاتھ اٹھائے، ”لَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ عَامِرٍ“ اور پھر آپ ﷺ نے دعاء فرمائی کہ اے اللہ! اپنے بندے ابو عامر کی مغفرت فرم۔ ”وَرَأَيْتَ بِهَا ضَرِبَةً إِبْطِيهً“ حضرت ابو موسی اشعری ﷺ کہتے ہیں کہ اور آنحضرت ﷺ نے ہاتھ مبارک اتنے اور پڑھائے کہ میں نے آپ ﷺ کے بغل کی سفیدی بھی دیکھ لی۔

”لَمْ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا اے اللہ! اسے قیامت کے دن اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائیں ان کے درجات کی بلندی کی دعاء فرمائی۔

”لَقُلْتَ: وَلِيٌّ لَمْ أَسْتَغْفِرْ“ پھر حضرت ابو موسی اشعری ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرے لئے بھی مغفرت کی دعا کر دیجیے۔

”لَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَلِبَهُ، وَادْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدْخَلًا كَرِيمًا“ آپ ﷺ نے حضرت ابو موسی اشعری ﷺ کے لئے بھی دعاء کی اور فرمایا اے اللہ! عبد اللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دے اور قیامت کے دن اسے معزز جگہ داخل فرم۔

”لَقَالَ أَبُو بُرَدَةَ: إِحْدَا هُمَا لَأَبِي عَامِرٍ وَالْأُخْرَى لَأَبِي مُوسَى“ حضرت ابو موسی اشعری ﷺ کے بیٹے ابو بردہ رحمہ اللہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک دعا آپ ﷺ نے ابو عامر ﷺ کیلئے فرمائی تھی اور ایک ابو موسی اشعری ﷺ کے لئے فرمائی تھی۔

## (۷۵) باب غزوة الطائف فی شوال سنة ثمان

غزوہ طائف کا بیان، جو شوال ۸ھ میں ہوا

”قاله موسى بن عقبة“

ترجمہ: موسی بن عقبہ کہتے ہیں کہ غزوہ طائف شوال ۸ھ میں ہوا۔

## طائف کا محاصرہ

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے غزوہ طائف کے احوال بیان کئے ہیں۔

اس غزوہ کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ ختن میں ہوا زن کے جو سردار تھے وہ طائف جا کر پناہ گزیں ہو گئے تھے۔ تو حضور اقدس ﷺ نے طائف جا کر خود بخش نفس حملہ کیا اور اس کا محاصرہ کیا، لیکن طائف بڑا شہر تھا اور اس کا قبیلہ بھی بڑا مضبوط تھا کیونکہ طائف شہر بلندی پر آباد تھا۔

## شہر طائف کا محل و قوع

جب حضرت ابراہیم ﷺ نے یہ دعا فرمائی کہ اس شہر یعنی مکہ کے باشندوں کو چلوں کا رزق عطا فرمائیے:

وَرِإِذْ كَالَ إِنْرَاهِيمُ رَبُّ اجْعَلْ هَلَدًا بَلَدًا آمِنًا  
وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الْفَمَرَاتِ مَنْ أَمْنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمُ الْآخِرُ طہ ۲۴

ترجمہ: اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب ابراہیم نے کہا تھا کہ:  
”اے میرے پروردگار! اس کو ایک پُر امن شہر بنادیجئے، اور  
اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان  
لا کیں انہیں قسم قسم کے چلوں سے رزق عطا فرمائیے۔“

مکہ مکرمہ کے آس پاس کی زمین نہ کسی باغ و چمن کی محمل تھی، نہ وہاں ذور دوستک پانی کا نام و نشان تھا، مگر حق تعالیٰ نے دعاء ابراہیم کو قبول فرمایا اور مکہ کے قریب ہی طائف کا ایک ایسا خطہ بنادیا جس میں ہر طرح سے کے بہترین چھل بکثرت پیدا ہوتے اور مکہ مکرمہ آنکہ فروخت ہوتے ہیں۔

بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ طائف دراصل ملک شام کا خطہ تھا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین ﷺ نے اس خطہ کو شام سے اٹھا کر اس جگہ رکھا اور جب یہاں پر لاتے ہوئے مکہ مکرمہ کے قریب سے گزرے تو حضرت جبرائیل امین ﷺ نے اس شہر کو اٹھانے ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا تھا، اس لئے اس کو طائف کہتے ہیں، جس جگہ مستقر ہوا وہ پہاڑی علاقہ ہے۔ ۳۴

مکہ مکرمہ سے آج کل اگر آدمی کار میں جائے تو صرف ایک گھنٹے کا راستہ ہے، مکہ مکرمہ میں مسی، جو ن، جولائی کے دنوں میں سخت گری ہوتی ہے لیکن اگر ایک گھنٹہ کا سفر کر کے آدمی طائف پہنچ جائے تو بالکل سخندا اور اعلیٰ درجے کا موسم اور بہترین آب و ہوا اور بہترین سبز و شاداب علاقہ۔

خود طائف شہر میں اتنا سبزہ نہیں ہے، لیکن طائف سے آگے ایک جگہ ہے ”شفا“ دہ بہت سر بزیر ہے اور وہاں بہت ہریاں ہے۔

چونکہ یہ بلندی پر واقع ہے جو بھی شہر بلندی پر واقع ہوتا ہے اور اس کا قلعہ بلندی پر ہوتا ہے تو حملہ آور کے لئے اس کا فتح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس واسطے آنحضرت ﷺ نے طائف کا محاصرہ کر لیا لیکن طائف والے قلعہ بند ہو کر لڑے اور تیر انداز بھی تھے، جب مسلمان آگے بڑھتے تو اپر سے تیروں کی بارش ہوتی، حالانکہ وہاں پر حضور اقدس ﷺ نے کچھ نہ تھیا رنجیق اور دبابة وغیرہ بھی نصب فرمائے تھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت اس کی فتح مقدر نہیں تھی۔

## طائف سے واپسی

حضور اقدس ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ سے فرمایا کہ اب کافی دن ہو گئے ہیں تھے، اب واپس چلو اللہ کو منظور ہو گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ صحابہ کرام ﷺ بڑے جوش میں تھے انہوں نے عرض کیا کہ طائف کو بغیر فتح کئے ہوئے چلے جائیں؟

حضور ﷺ نے فرمایا اچھا چلو فتح کرو یعنی ابھی جانے کو دل نہیں چاہ رہا تو ابھی اور تھہر و اور حملہ کرو۔

مزید حملہ کرنے کی کوشش کی مگر بے انتہا تیروں کی بارش پیش آجائی تھی یہاں تک کہ صحابہ کرام ﷺ بھی تحکم گئے۔ جب بہت زیادہ تحکم گئے اور کچھ زخمی بھی ہوئے تو ایک دن حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ کل چلیں؟ اس وقت جواب میں کوئی نہ بولا اور سب کو ایک طرح سے یہ بات پسند آئی، آنحضرت ﷺ اس پر مسکرائے کہ دیکھو پہلے میں نے کہا تھا کہ چلو تو اس وقت بڑا جوش و خروش تھا لیکن اب سب سب خنثیٰ ہے پڑ گئے ہیں۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ تشریف لے گئے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کو اس شہر طائف کے لوگوں کو مسلمان کرنا تھا اور غالباً حضور ﷺ کو بذریعہ وحی اس بات کا علم ہو گیا ہو گا کہ یہ لوگ خود ہی مسلمان ہو جائیں گے اس لئے یہاں پر اٹائی کا ضرورت نہیں۔ اس واسطے آپ ﷺ واپس تشریف لے آئے، بعد میں یہ لوگ خود آپ ﷺ کی خدمت میں پیش ہوئے اور مشرف بالاسلام ہو گئے۔ غزوہ کے متعلق واقعات کا یہ خلاصہ ہے، پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو ذکر کیا ہے۔

۳۳۲۳ - حدثنا الحمیدی: سمع سفیان: حدثنا هشام، عن أبيه عن زینب ابنة أبي سلمة، عن أمها أم سلمة: دخل على النبي ﷺ وعندی مختى فسمعته يقول عبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف خدا فعليك باينة غيلان فإنها تقبل باريح وتذبر بشام. فقال النبي ﷺ: ((لا يدخلن هؤلاء عليكن)). قال ابن عبيدة: وقال ابن جريج: المختى: هي. حدثنا محمود: حدثنا أبو أسامه، عن هشام بهدا وزاد: وهو محاصر الطائف يومئذ. [النظر: ۵۲۳۵، ۵۸۸۷] [۳]

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک مختی بیٹھا تھا کہ نبی ﷺ تشریف لائے، پھر میں نے اس مختی کو عبد اللہ بن امیہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے عبد اللہ دیکھو تو، اگر کل کو اللہ تعالیٰ تمہیں طائف پر فتح عطا فرمائے، تو غیلان کی بیٹی کو لے لیتا (کیونکہ وہ اتنی گدرا بدن ہے کہ) جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ پر چار مل پڑتے ہیں، اور جب پیٹھے موڑتی ہے تو آٹھ مل پڑتے ہیں، تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا یہ لوگ تمہارے پاس نہ آنے پائیں (ان سے پردہ کرو)۔ ابن عبیدہ اور ابن جرج نے کہا کہ اس مختیؑ میں ہیت تھا۔ محمود کہتے ہیں کہ ابو اسامہ نے هشام سے بھی یہی روایت کی ہے، مگر اتنی زیادتی ہے کہ آپ ﷺ اس وقت طائف کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔

## مخت کو عورتوں کے پاس آنے کی ممانعت

زوجہ رسول اللہ ﷺ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میرے پاس ایک مخت بیٹھا ہوا تھا۔

یہ کیونکہ مخت تھا اور مخت ہونے کی وجہ سے غیر اولیٰ الارجحہ میں داخل تھا حضور اقدس ﷺ اس کو آنے سے منع نہیں کرتے تھے اور یہ ازواج مطہرات کے پاس بھی آ جایا کرتا تھا۔

ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ "السمعتہ یقُول لعبد الله بن أبي أمية" اس وقت یعنی جب طائف کا محاصرہ کیا ہوا تھا، میں نے سنا کہ یہ مخت عبد اللہ بن امیہ سے کہہ رہا تھا۔

"لَا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف خدا" وہ مخت عبد اللہ بن امیہ کو یہ پڑھا رہا تھا کہ دیکھو عبد اللہ! اگر کل طائف کا فتح اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔

عبد اللہ بن امیہ ﷺ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی تھے، نبی کریم ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی

فتح مکہ کے سفر کے دوران مقام ابواء پر ابوسفیان بن حارث، اُخْنَضْرَت ﷺ کے چچا زاد بھائی، کے ہمراہ اسلام قبول کیا، اور اسی غزہ طائف میں محاصرہ کے دوران کفار کی تیر اندازی کا نشانہ بنے اور شہید ہوئے۔ ۶۷

یہ مخت ہیبت، عبد اللہ بن امیہ ﷺ سے کہہ رہا تھا کہ اگر طائف فتح ہوتا "فعليک باينة غیلان" ایک کام ضرور کرنا کہ تم سب سے پہلے غیلان کی بیٹی کو لے لینا۔

"تقبل باربع و تدبر بشمان" کیونکہ وہ چار شکنون کے ساتھ سامنے آتی ہے اور آٹھ شکنون کے ساتھ پیچھے جاتی ہے۔

مطلوب یہ ہے کہ اس وقت عرب لوگوں کا یہ ذوق تھا کہ عورت جتنی زیادہ موٹی ہو اتنی ہی زیادہ خوبصورت سمجھی جاتی تھی تو کہتے ہیں کہ یہ عورت بڑی موٹی تازی ہے اس کے کمر میں جو شکن پڑتے ہیں وہ اس کے موٹا پے کی زیادتی کی وجہ سے پڑتے ہیں تو سامنے چار شکن ہیں اور پیچھے آٹھ ہیں کیونکہ سامنے دو شکن پڑتے ہیں جب پیچھے چلے گئے تو دہرے ہو گئے تو وہ شکن چار سامنے اور آٹھ پیچھے کے ہیں۔

طائف میں ایک عورت تھی جس کا نام بادیہ بنت غیلان تھا، اس مخت کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں

۶۷) قوله: ((لَا عبد الله)) هو اعتراف اُم سلمة راوية الحديث، وكان اسلامه مع ابى سليمان بن العمار في غزوة الفتح واستشهد بالطائف أصابه سهم الممات منه. عَدَدُ الْفَارِيِّ، ج: ۷، ص: ۲۲۲

کے حصے میں جو قیدی آئیں گے تو تم اس غیلان کی بیٹی پر قبضہ کر لینا۔ <sup>۷۶</sup>  
**”فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَدْخُلُنَّ هُؤُلَاءِ عَلَيْكُنْ“** توجہ نبی کریم ﷺ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ یہ لوگ تمہارے پاس نہ آئیں۔

کیونکہ ان کو غیر اولیٰ الاربة ہونے کی وجہ سے گھر میں آنے جانے کی اجازت تھی تو جب اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ یہ تو بڑے دقاں ہیں کہ اس فن سے واقف ہیں تو اس واسطے آپ نے اس کو فرمایا کہ اب آئندہ یہ نہ آئے۔

سفیان بن عینہ اور ابن جریج رحمہما اللہ نے اس مختصر کا نام ہیث بیان کیا ہے۔ <sup>۷۷</sup>

**٣٣٢٥ - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي العباس الشاعر الأعمى، عن عبدالله بن عمر قال: لما حاصر رسول الله ﷺ الطائف فلم ينل منهم شيئاً، قال: ((إِنَّا لَنَا لِلنُّونِ إِنْ شاءَ اللَّهُ))، عليهم وقالوا: لذهب ولا فتحة؟ وقال مرة: ((القفل))، فقال: ((اغدوا على القفال))، فهدوا فأصابهم جراح فقال: ((إِنَّا لَنَا لِلنُّونِ غَدَا إِنْ شاءَ اللَّهُ)) فاعجبهم، فضحك النبي ﷺ. وقال سفيان مرتاً: لتبسم. قال: قال الحميدى: حدثنا سفيان الخبر كله.** [الظر: ٦٠٨٢، ٧٣٨٠] <sup>۷۸</sup>

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے طائف کا محاصرہ کیا اور ان سے آپ ﷺ کو کچھ حاصل نہ ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا ہم ان شاء اللہ و اپس جائیں گے، مسلمانوں پر یہ بات گراں سی گز ری اور کہنے لگے کہم چلے جائیں اور اسے فتح نہ کریں اور راوی نے ایک مرتبہ (”لذهب“) کی جگہ جگہ (”القفل“) کہا ہم واپس لوٹ جائیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اچھا صبح جا کر لڑنا۔ چنانچہ صبح وہ لڑے تو زخمی ہو گئے، آپ ﷺ نے فرمایا کل ان شاء اللہ ہم واپس جائیں گے۔ اب مسلمانوں کو آنحضرت ﷺ کا یہ فرمان اچھا معلوم ہوا تو اس بات پر آنحضرت ﷺ نہیں۔ حدیث کے راوی سفیان ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے قبسم فرمایا۔ اور حمیدی کہتے ہیں کہ سفیان نے پوری سند کو خبر کے ساتھ بیان کیا ہے۔

<sup>۷۶</sup> واسم اہنسه: بادیۃ - خدالحاضرۃ - ولیل: بادنة، باللون بعد الدال ، عمدة القاری، ج: ۷، ص: ۳۳۳۔

<sup>۷۷</sup> وفي (صحیح ابن حبان): عن عائشة رضی اللہ عنہا: دخل النبي ﷺ و هي مت بنت امرأة من بهود، فاخرجه لكان بالبهاء، بدخل كل حمامة يستطعم. كل اذکره العلامة بدر الدين أبي محمود بن احمد العيسى رحمة الله عليه في العمدة۔

ج ۷، ص: ۳۳۳

<sup>۷۸</sup> وفي مسن احمد، مسن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم: ۵۵۸۸

## نبی کریم ﷺ کا واپسی کا ارادہ

یہ واقعہ ہے کہ جب حضور اقدس ﷺ نے طائف کا محاصرہ فرمایا تو "فلم لیل منه شینا" اور اس سے کچھ حاصل نہ ہو سکا تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم ان شاء اللہ واپس جائیں گے۔

"علیهم ولالوا: لذهب ولا نفعه؟" و قال مرة: "نفل" صحابہ کرام ﷺ پر یہ بات گراں گزری کہ ہم چلے جائیں اور اسے فتح نہ کریں، اور ایک مرتبہ راوی نے یوں کہا "لذهب" کے بجائے "نفل" ولا نفعه؟" ہم اسے فتح نہ کریں اور واپس لوٹ جائیں؟

تو آپ ﷺ نے فرمایا "اھدوا علی القفال" صبح کو ایک بار پھر قوال کرنا یعنی ابھی جانے کو دل نہیں چاہ رہا تو ابھی اور شہر و او رسم کو پھر حملہ کرو، "لھدوا لاصاصابهم جراح" چنانچہ صبح وہ لڑتے تو بعض صحابہ زخمی ہو گئے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ "إذ ألق اللون غدا إن شاء الله" کل ان شاء اللہ ہم واپس جائیں گے۔ "لأعجبهم" اب مسلمانوں کو آنحضرت ﷺ کا یہ فرمان اچھا معلوم ہوا العذر و سری و فدیری بات صحابہ کرام ﷺ کو پسند آئی، "فضحك النبي ﷺ" اس بات پر آنحضرت ﷺ نے۔

"ولال مسفیان مرہ: فبسم" حدیث کے راوی سفیان بن عینہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ تبسم فرمایا یعنی راوی نے بجائے "فضحک" کے "تبسم" کا لفظ کہا۔

"قال الحمیدی: حدثنا سفیان الخبر کله" حمیدی کہتے ہیں کہ سفیان بن عینہ رحمہ اللہ نے پوری حدیث کو خبر کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی پوری حدیث کو عنده کے بجائے حدثاً اور اخبارنا کے ساتھ روایت کیا ہے۔

٢٣٢٧، ٢٣٢٦ - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبہ، عن عاصم قال: سمعت ابا عثمان قال: سمعت سعداً وهو أول من رمى بهم في سبيل الله وأبا بکرة، وكان سور حصن الطائف في الناس لجاء إلى النبي ﷺ، فقال: سمعنا النبي ﷺ يقول: ((من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام)) وقال هشام: وأخبرنا معمراً، عن عاصم، عن أبي العالية أو أبي عثمان التهدى قال: سمعت سعداً أو أبا بكره عن النبي ﷺ، قال عاصم: لله: لقد شهد عندك رجال حسبك بهما، قال: أجل، أما أحدهما فأول من رمى بهم في سبيل الله، وأما الآخر للنزل إلى النبي ﷺ ثالث ثلاثة وعشرين من

الظافر. [الظرف: ۶۷۶۷، ۶۷۶۸] [۶۰]

ترجمہ: ابو عثمان روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ حضرت سعد رض سے جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر پھینکا تھا، اور حضرت ابو بکر رض سے جو چند آدمیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کی خدمت میں آئے کیلئے طائف کے قلعے کی دیوار کو پھلاند کرائے تھے، یہ دونوں حضرات نبی صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کرے باوجود یہ کہ اسے علم ہوتا اس پر جنت حرام ہے۔ اور ہشام روایت کرتے ہیں کہ ان سے میرنے بیان کیا کہ انہوں نے عاصم سے سنا کہ وہ ابو عالیہ یا ابو عثمان نہدی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد رض اور حضرت ابو بکر رض سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کی روایت سنی۔ عاصم کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے روایت ایسے دو آدمیوں سے بیان کی ہے، جو آپ کے یقین کیلئے کافی ہیں، انہوں نے کہا ہاں! اور کیوں نہ ہو، جب کہ ایک ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا، اور دوسرے وہ جو طائف سے باعیس آدمیوں کے ہمراہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کے پاس آگئے تھے۔

## مشاء امام بخاری<sup>ر</sup>

امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث یہاں بیان کی ہے، اس حدیث کا جواہل متن ہے اس کا کوئی تعلق

غزوہ طائف سے نہیں ہے۔

لیکن حدیث بیان کرتے ہوئے ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے یہ حدیث جن دو بزرگوں سے سنی ہے، ان میں سے انحضرت سعد بن ابی واقص رض ہیں جنہوں نے پہلا تیر اللہ کے راستے میں چلایا تھا اور دوسرے حضرت ابو بکر رض ہیں جو طائف کے قلعے کی دیوار کو پھلاند کرائے تھے۔

چونکہ یہ جملہ صحیح میں کہہ دیا کہ طائف کے قلعے کی دیوار کو پھلاند کرائے تھے، اس واسطے اس جملے کی مناسبت سے یہاں پر یہ حدیث لے آئے، ورنہ آگے جو حدیث بیان کی ہے اس کا تعلق غزوہ طائف سے نہیں ہے

عن ولی صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان حال الیمان من رغب عن ابیه وهو یعلم، رقم: ۶۳، ومن ابی داود، کتاب الأدب، باب فی الرجل بیتمی الى غیر مواليه، رقم: ۵۱۱۳، ومن ابن ماجہ، کتابہ المحدود، باب من ادعی الى شیراہی او تولی غیر مواليه، رقم: ۲۲۱۰، ومسند احمد، مسند ابی اسحاق سعد بن ابی واقص رضی اللہ عنہ، رقم: ۱۳۹۶، ۱۳۵۳، تولی غیر مواليه، رقم: ۱۵۵۳، ۱۵۰۳، ۱۳۰۰، وحدیث ابی بکرۃ للیث بن العارث بن کلدة، رقم: ۲۰۳۶۶، ۲۰۳۹۶، من الدارمی، کتاب السیر، باب فی الذى بیتمی الى شیراہی، رقم: ۲۵۷۲، وکتاب الفراتض، باب من ادعی الى شیراہی، رقم: ۲۹۰۲

لیکن اس میں حضرت ابو بکرہ رض کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے طائف کے قلعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔

## ابو بکرہ رض کا قلعہ طائف کی فصیل پھاند کر آنا

"وَكَانَ لِسُورِ حَصْنِ الطَّائِفِ فِي أَنَّاسٍ لِجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَرْكَحُهُ الْوُجُونَ كَمَا تَحْتَ طَائِفٍ<sup>۱۷</sup>" کے پاس تشریف لائے تھے۔

"سور" کے معنی سور پر چڑھنا کے آتے ہیں، سور قلعے کی فصیل کو کہتے ہیں۔ ۱۷

حضرت ابو بکرہ رض کا نام ہے نفابن حارث اور اصل میں یہ غلام تھے۔ طائف میں ایک مشہور نصرانی طبیب رہتا تھا جس کا نام حارث بن کلدہ تھا، یہ اس کے غلام تھے۔

جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ فرمایا تو یہ اسی طائف کے قلعے میں محبوس تھے لیکن ان کے دل میں خیال آیا اور ان کے ساتھ کچھ اور غلام تھے ان کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غالبہ ہوتا جا رہا ہے تو جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں اور اگر وہ واقعی سچے نبی ہیں تو ان کے اوپر اسلام لا دیں۔

اس غرض کیلئے وہ سب اندر سے دیوار کے اوپر چڑھ گئے اور فصیل پر چڑھ کر وہاں سے لٹک کر کو دیگے اور مسلمانوں کے پاس آ گئے تھے۔ حضرت ابو بکرہ رض جب قلعے کی دیوار سے کو دے تو اپنے ساتھ ایک اونٹ کا بچہ بھی لے آئے، اونٹ کے بالکل نوجوان بچے کو "بکرۃ" کہتے ہیں، یہ چونکہ عجیب بات تھی کہ فصیل پر سے اتنا خود ہی مشکل کام ہے، چہ جائیکہ ایک اونٹ کا بچہ بھی ساتھ اٹھا لائے۔

اس واسطے ان کی کنیت "ابو بکرۃ" پڑ گئی یعنی اونٹ کے بچے والا ان کا نام مشہور ہو گیا یہ اصل معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی بیٹا ہے جس کا نام "بکرۃ" ہو، بلکہ اس وجہ سے ان کو ابو بکرۃ کہتے ہیں کہ یہ ساتھ میں اونٹ کا بچہ اٹھا لائے تھے۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ۱۸

۱۷ قوله ((سور)) أى صعد الى أعلى، لفتح البارى، ج: ۸، ص: ۳۶

۱۸ أبو بكرۃ اسمه للبيع، بضم الون وفتح الفاء وسكون الماء آخر العروف ولدى آخره عین مهملة: ابن مسروح، بقال: للبيع بن كلدة، وكان من عبيد العارث بن كلدة بن عمرو الثقلی ثبت عليه كنهه، وأسم امه سمحة امه للعارض بن كلدة، وهي أم زياد بن ابي سفيان.. وتدلى أبو بكرۃ من حصن الطائف ببکرۃ ونزل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، فكتها صلی اللہ علیہ وسلم، ابا بکرۃ، عمدة القاری، ج ۷، ص ۲۳۵، وفتح البارى، ج ۸، ص: ۳۵

## باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت

تو یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا "من ادعیٰ  
الی غیر ابیه و هو یعلم فالجنة علیہ حرام" یعنی جس شخص نے جانتے ہو جھتے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور  
کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا تو یہ اپنے آپ کو جنت سے محروم کرنے کے مترادف ہے مطلب یہ ہے کہ ایسے  
شخص کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔

یہاں اس بات سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایسا شخص کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس بات سے  
مرعکب کیروں کے جہنمی اور کافر ہونے کا اشکال ہوتا ہے۔

اس کے دو جواب دئے گے ہیں:

ایک جواب یہ ہے کہ اگر جائز اور حلال سمجھ کر کے گا تو کافر جہنمی ہو گا اور کوئی اشکال نہیں ہو گا۔

دوسرा جواب یہ ہے کہ یہاں اتنی سخت جو وعید آئی ہے وہ علی سہیل التغذیط ہے یعنی مقصد زجر و توعیہ ہے  
جیسا کہ بعض دوسرے اعمال پر بھی وعید آئی ہے "من ترک الصلوة متعمداً فقد كفر" ۔ ۳۴

۳۳۲۸ - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسماء، عن بريد بن عبد الله، عن أبي  
بردة، عن أبي موسى عليهما السلام: كنت عند النبي ﷺ وهو نازل بالجعرالة بين مكة والمدينة  
ومعه بلال، فأتى النبي ﷺ أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: ((أبشر)), فقال:  
قد أكفرت على من ((أبشر)). فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: ((رد  
البشارى فاقبلأ العما)), قالا: قلنا. ثم دعا بقدر ليه ما في الفسل يديه ووجهه ليه ومحليه لم  
قال: ((أشرب منه، وأفرغا على وجراه كما ونحور كما وأبشر)). فأخذوا القدر ففعلوا  
فنادت أم سلمة من وراء الستر أن الصلاة لا مكما، فأفضلا لها منه طائفه. [راجع: ۱۸۸]

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ عليهما السلام فرماتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ تھا جب آپ ﷺ کے اور مدینہ کے  
درمیان مقام جعرانہ میں فروش ہوئے تھے، اور آپ ﷺ کے ساتھ حضرت بلال ﷺ بھی تھے، ایک اعرابی نے  
آپ ﷺ کی خدمت میں آ کر کہا کیا آپ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ فرمائیں گے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا بشارت

۳۴) قوله: ((من ادعیٰ الی غیر ابیه)), ای: من اتبّع الی غیر ابیه ((فالجنة علیہ حرام)) اما علی سہیل التغذیط، واما

الله اذا اسعحل ذلك. عمدة القارئ، ج: ۱، ص: ۲۳۶

حاصل کر، اس اعرابی نے کہا آپ تو کئی بار بشارت فرمائے ہیں۔ تو اس بات پر آپ ﷺ نے غصہ کی حالت میں ابو موسیٰ اور بال رضی اللہ عنہما کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس نے تو بشارت کو قبول نہ کیا، لہذا تم اس کو قبول کرو، انہوں نے کہا، ہم نے قبول کیا، پھر آپ ﷺ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ اور منہ وہ کراں میں کل کی، پھر ان دونوں سے فرمایا کہ اس سے پیو، اور اپنے چہروں اور سینوں پر چھڑک لو، اور بشارت حاصل کرو۔ انہوں نے پیالے لیا اور ایسا ہی کیا، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے پردہ کے چیچھے سے پنکار کر کہا کہ اپنی ماں کے (یعنی میرے) لئے بھی کچھ چھوڑ دینا، تو انہوں نے ان کیلئے بھی ایک حصہ چھوڑ دیا۔

## بھرانہ کی حدود

حضرت ابو موسیٰ اشعری رض فرماتے ہیں میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تھا "وہ نوازل بالجعرۃ بین مکہ والمدینۃ و معہ بلال" اور اس وقت آپ ﷺ کمہ اور مدینہ کے درمیان بھرانہ میں قیام پذیر تھے، حضرت بلال رض آپ ﷺ کے ہمراہ تھے۔

یہاں پر جو کمہ اور مدینہ کے درمیان کہا ہے اس سے بعض لوگ سمجھتے کہ بھرانہ مکہ مکرہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بھرانہ مکہ مکرہ اور طائف کے درمیان ہے۔ یہ دراصل اس نے کہا کہ اس وقت آنحضرت ﷺ بھرانہ سے سیدھا و اپنی مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ ۲۷

## تبرک مال وزر سے بہتر ہے

"لَأَنِّي النَّبِيُّ أَعْرَابِيُّ لِقَالَ: إِلَا تَنْجُزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي؟" ایک دیہاتی آپ ﷺ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ مجھ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے؟ دیہاتی لوگ ایسے ہی اکھڑتا تھا کرتے ہیں۔ "لِقَالَ لَهُ: أَبْشِرْ" آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حادروہ ہے "ابشر" کہ تسلی رکھو اور خوش ہو جاؤ جو وعدہ کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا، جلدی ہو یا دری ہو لیکن یہی ہو گا۔

<sup>۲۷</sup> اما الجعیرانہ وہی بین الطائف و مکہ والی مکہ القرب للہ عبا عن، ولال الفاسکہی: بینها وہی مکہ بربد، ولال الباجی: فیما یہ عشر مہلا. وقد انکر الداودی الشارح لولہ ان الجعیرانہ بین مکہ والمدینۃ و قال: الصاعی بین مکہ والطائف وكذا جزم التزویی بان الجعیرانہ بین الطائف و مکہ و هو یقتضی ما تقدم لقله عن الفاسکہی وغیرہ. فتح الباری،

**”لَقَالَ: لَدَ أَكْثَرَتْ عَلَىٰ مِنْ أَبْشَرَ“** دیہاتی شخص کہنے لگا مجھے آپ اس سے پہلے بھی بہت بار خوشخبری دیتے رہے ہیں۔

یہاں پر جس وعدہ کے پورا کرنے کا اعرابی نے مطالبہ کیا، اس کے متعلق دو باتوں کا اختال ہو سکتا ہے:  
ایک اختال یہ کہ وعدہ اس اعرابی کے ساتھ خاص ہو کہ آپ ﷺ نے کچھ مال دینے کا یا مال غیرمبتدا دینے کا وعدہ فرمایا ہو۔

دوسری اختال یہ ہے کہ وعدہ عام تھا، ختن کے غنائم کی تقسیم کے متعلق کہ طائف سے واپسی کے بعد جزا نہ میں مال غیرمبتدا کیا جائے گا۔

لیکن اس نے جلد بازی کی اور تاخیر ہونے پر سوال کر ڈالا تو اس پر اعرابی کو صبر کی تلقین فرمائی، کیونکہ اس میں رسول خوشخبری نہیں آئی تھی اس وقت تک، اس لئے ایسے الفاظ و حرکات صادر ہوئے۔ ۵۵

**”فَاقْبِلَ عَلَىٰ أَبْنَىٰ مُوسَىٰ وَبِلَالَ كَهْبَةَ الْفَضْبَانِ“** اس دیہاتی کی یہ بات سن کر آنحضرت ﷺ

حضرت ابو موسیٰ اشتری ﷺ اور حضرت بلاں ﷺ کی طرف متوجہ ہوئے ایسے جیسے شدید غصے کی حالت میں ہوں۔

**”فَقَالَ: رَدَ الْبَشْرِيَّ فَاقْبِلَا أَسْمَا“** آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس آدمی نے تو بثارات کو رد کر دیا میں نے اس کو خوشخبری دینی چاہی تھی اور یہ رد کر رہا ہے تو تم دونوں قبول کرلو، ”قَالَا: قَبِلْنَا“ ان دونوں حضرات نے کہا کہ ہم قبول کرتے ہیں۔

**”لَمْ دُعَا بِقَدْحٍ فِيهِ مَاءٌ لِفَسْلٍ يَدِيهِ وَوِجْهِهِ فِيهِ وَمَعْ فِيهِ“** پھر آپ ﷺ نے پیالہ مٹکوا کیا اس میں پانی تھا، آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک اور چہرہ مبارک اس میں دھویا اور پھر کلی فرمائی، ”لَمْ قَالَ: اَشْرِبَا مِنْهُ، وَأَفْرِشَا عَلَىٰ وَجْهِهِ كَمَا وَأَبْشِرَا“ اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ پیا اور اپنے چہروں پر ڈالو پھر خوشخبری سن لیتی حاصل کرو۔

**”لَا يَحْدُدُ الْقَدْحُ لِلْفَعْلِ“** انہوں نے اس پیالے کو لے لیا اور پھر یہی کیا یعنی اس کو پیا بھی اور اپنے چہرے اور سینہ پر ڈالا بھی۔

**”فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَنَّ الْفَضْلًا لِأَمْكَمَا“** تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو پردے کے پیچھے موجود تھیں، انہوں نے آواز دی کہ اپنی ماں کو بھی تھوڑا سا بچا کر دینا، تو پیالہ میں پانی

۵۵ لولہ: ((الاتسجر لی؟)) ای: الا تو لی لی ما وعدتی؟ وهذا الوعد الذي ذكره يتحمل ان يكون وعداً خاصاً لهذا الأعرابي، ويتحمل ان يكون من الوعد العام الذي وعد ان يقسم عذالم حين بالجعرالة بعد رجوعه من الطائف، وكان طلبه التعجيل بتصبیه. عمدة القارئ، ج: ۱، ص: ۳۲۷، وفتح المباري، ج: ۸، ص: ۴۶

کا تھوڑا سا حصہ بچا کر انہوں نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھی دیا۔  
 ”ابشر“ کا حاصل یہ تھا کہ خوش خبری لو ان شاء اللہ ملے گا جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ دیہاتی  
 اپنی خدمت پر اڑا رہا تو حضور اقدس ﷺ نے ان دو حضرات سے فرمایا کہ تم قبول کرو۔  
 خوش خبری اس سے بڑی اور کیا ہو گی کہ نبی کریم ﷺ کا تبرک اس طرح نصیب ہو جائے باقی مال شیمت  
 بعد میں تقسیم ہو گی تو اس میں سے بھی ملے گا۔ ۶۲

۳۳۲۹ - حدثنا یعقوب بن ابراہیم: حدثنا إسماعیل: حدثنا ابن جریح أخباری عطاء:  
 أن صفوان بن يعلى بن أمیہ أخبره أن يعلى کان يقول: ليتنی أرى رسول الله ﷺ حين ينزل عليه.  
 قال: لبینا النبي ﷺ بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به معه طیہ ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابی  
 عليه جبة متضمخ بطیب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحزم بعمره في جبة بعد ما  
 تضمخ بالطیب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي ﷺ محمر  
 الوجه يفطر كذلك ساعة ثم سری عنه فقال: ((أین الدی یسائلی عن العمرۃ آلفا)), فالتمس  
 الرجل فأتی به فقال: ((أما الطیب الدی بک فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها. لم اصنع  
 في عمرک کما لصنع في حجک)). [راجع: ۱۵۳۶]

ترجمہ: ابن جریح، عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ صفوان بن یعلیٰ بن امیہ کہتے ہیں کہ حضرت یعلیٰ ﷺ  
 کہا کرتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ ﷺ کو نزول وحی کے وقت دیکھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ تمام ہزانہ  
 میں تھم، اور آپ ﷺ پر کچھرے کا ایک سائبان تھا، جس میں آپ ﷺ کے ساتھ آپ کے اصحاب ﷺ بھی تھے،  
 آپ ﷺ کے پاس ایک دیہاتی آیا جو خوبیوں کا، ایک جبہ پہنے ہوئے تھے، اس نے کہا اے اللہ کے رسول! اس  
 شخص کے بارے میں جس نے عمرہ کا احرام ایک ایسے جبہ میں جس میں خوبیوں کی ہے، باندھا ہو، آپ ﷺ کا اس  
 کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت عمر ﷺ نے یعلیٰ کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بلایا کہ ادھر آؤ، یعلیٰ ﷺ نے  
 آکر اس سائبان میں سرڈال کر دیکھا تو آنحضرت ﷺ کا چہرہ مبارک شرعاً تھا، اور زور زور سے سانس چل رہا  
 تھا، تھوڑی دری یہ کیفیت رہ کر پھر ختم ہو گئی، تو آپ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے ابھی میرے سے عمرہ کے بارے میں  
 مسئلہ پوچھا تھا وہ کہاں ہے؟ اس آدمی تلاش کر کے لایا گیا۔ تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ اس خوبیوں کو دھوک جبہ  
 کو اتار ڈالو، اور عمرہ میں اپنے حج کی طرح تمام افعال ادا کرو۔

۱) لولہ ((ابشر))، بهمزة الطبع یعنی: ابشر ایہا الاعرابی بقرب القسمة او الثواب العجزیل على الصبر. عده

الفاری، ج: ۱، ص: ۳۳۷، ولیع المباری، ج: ۸، ص: ۳۶

## نزوں و حجی کی کیفیت کا مشاہدہ

حضرت یعلیٰ بن امیہؓ فرماتے ہیں کہ "الیتی اوری رسول اللہ ﷺ حین ینزل علیہ" "میری تمناً تھی کہ میں نبی کریمؐ کو اس حالت میں دیکھوں جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو یعنی اس وقت دیکھوں کر کیا منظر ہوتا ہے۔ حضرت یعلیٰؓ کہتے ہیں کہ "لَبِينَ النَّبِيَّ بِالْجُمْرَةِ وَعَلَيْهِ تُوبَ قَدْ أَظَلَّ بِهِ مَعْدَفِهِ لَاسْ مِنْ أَصْحَابِهِ" ایک مرتبہ نبی کریمؐ ہمراں میں تھے کہ آپؐ پر ایک کچھ اکاسایہ کیا گیا تھا، اس میں آپؐ کے ہمراہ صحابہ کرامؓ میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔

"إذ جاءَهُ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جَبَّةٌ مَتَضْمِنَ بَطِيبٍ" اتنے میں ایک اعرابی آگیا جس نے جبہ پہن رکھا تھا اور وہ اپنی خوشبو میں لترھا ہوا تھا یعنی سارے جسم پر خوشبو میں ہوئی تھی۔

"كَيْفَ تَرَى لِي رَجُلٌ أَحْرَمَ بِعُمْرَةِ فِي جَبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضْمِنَ بَطِيبٍ؟" پھر وہ اعرابی کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے جبہ میں عمرے کا احرام باندھا؟ اس اعرابی نے جبہ پہنا ہوا تھا اور اسی حالت میں تلبیہ پڑھی، احرام کی چادر میں پہننے کے بجائے جبہ کی حالت میں عمرہ کر لیا اور خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی تو پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

"فَأَشَارَ عُمَرَ إِلَيْيَّا یَعْلَیٰ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ" جب اس نے سوال کیا تو حضرت عمرؓ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے حضرت یعلیٰ بن امیہؓ کو اشارہ کیا کہ تم کہہ رہے تھے کہ وحی کے نازل ہونے کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں تو شاید ابھی وحی نازل ہو، اس لئے دیکھنے کا موقع ہے۔

"فَجَاءَ یَعْلَیٰ فَادْخَلَ رَأْسَهُ" چنانچہ حضرت یعلیٰ بن امیہؓ آئے اور اپنے سر کو اس چادر کے اندر ڈال کر آنحضرتؓ کی زیارت کرنے لگ گئے۔

"لَمَّا دَلَّ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ يَغْطِي كَدَلِكَ سَاعَةً لَمْ سُرِّيْ عَنْهُ" تو اچانک دیکھا کہ نبی کریمؐ کا چہرہ انور سرخ ہو رہا تھا اور آپ اس طرح سانس لے رہے تھے جیسے کوئی آدمی سونے میں یا مشقت کے کام کے وقت سانس لیتا ہے، چونکہ نزوں و حجی کے وقت آپؐ کو مشقت ہوتی تھی اس لئے سانس پھول جاتا تھا کچھ دیر آپ کی یہ حالت رہی، پھر آپؐ سے یہ حالت رفع کر دی گئی۔

## حالت احرام میں خوشبو کا حکم

پھر نبی کریمؐ نے پوچھا کہ "إِنَّ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَلْفًا" وہ شخص جو ابھی عمرہ کے

بارے میں سوال کر رہا تھا وہ کہاں ہے؟ "فالتمس الرجل فأتى به" چنانچہ اس شخص کو تلاش کیا گیا اور اس کو لایا گیا۔

نبی کریم ﷺ نے اس کے جواب میں کہا کہ "اما الطیب الذی بک لاغسله لثلاث مرات، واما العجبة فائز عها" جب خوشبوگ جائے تو اس کو تین مرتبہ دھولو اور جہاں تک جبکہ کا تعلق ہے اس کو اتار دو۔ "لَمْ أصْنَعْ لِي عُمْرِكَ كَمَا تَصْنَعْ لِي حِجَّكَ" پھر عمرہ میں وہی کام کرو جو حج میں کرتے تھے یعنی طواف و سعی کرو۔

ظاہر ہے کہ دم بھی لازم ہو گا، اس کا راوی نے اختصار اذکرنیں کیا اور یہ جو فرمایا کہ خوشبو کو تین مرتبہ دھو مطلب یہ ہے کہ جو جسم پر لگی ہوئی خوشبو ہے اس کو تین مرتبہ دھو دو ورنہ احرام سے پہلے کپڑوں پر اگر خوشبو لگائی ہے اور اس کے اثرات باقی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ جو جسم پر لگی ہوئی ہے اس کا یہی حکم ہے۔

٢٣٣٠ - حدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا وهب، حدثنا عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله ﷺ يوم حنين قسم لى الناس ل المؤلفة للوبيهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: ((يا معاشر الأنصار أجدكم ضلالاً فهذا كم الله بي؟ وكنتم متفرقين فالفككم الله بي، وكنتم عالة فاغناكم الله بي؟)) كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ((لو شتم قلت جنتاً كذا وكذا، إلا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي ﷺ إلى رجالكم؟ لو لا الهجرة لكتت أمراً من الأنصار، ولو ملك الناس، وادها وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار. إنكم ستلقون بعدي أثراه فاصبروا حتى تلقولى على العوض)). [النظر: ٢٣٥ [٢٣٥]]

ترجمہ: عباد بن تمیم روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زید بن عاصم ﷺ فرماتے ہیں کہ جنیں کے دن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول ﷺ کو مال غنیمت عطا فرمایا تو آپ ﷺ نے ان لوگوں کو جن کے دل کو ایمان پر جہا نامقصود تھا، وہ مال انکو دیدیا اور انصار کو بالکل بھی نہ دیا، جب مال دوسرے لوگوں کو ملا اور انہیں نہ ملا

<sup>٤٤</sup> مزید تفصیل و صفات کے لئے مراجعہ فرمائیں: العام الباری، کتاب الحج، باب غسل الخلوق لثلاث مرات من الشاباب.

رقم: ١٥٣٢، ج: ٥، ص: ١٩٥ - ١٩٦

<sup>٤٥</sup> ولی صحیح مسلم، کتاب الكسوف، باب اعطاء المؤلفة للوبيهم على الاسلام وتصبر من قوى ایمانه، رقم:

١٤٢٠، ومنند احمد، حدیث عبد الله بن زید بن عاصم الصازنی، رقم: ١٤٣٧٠

تو، انہیں کچھ رنج ہوا۔ تو آپ ﷺ نے ان کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے گروہ النصارا! کیا میں نے تم کو گراہ نہیں پایا تھا؟ تو اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت بخشی اور تم میں نا اتفاق تھی، تو اللہ نے میری وجہ سے تم میں الفت پیدا کر دی، اور کیا تم فقیر نہیں تھے؟ تو اللہ نے میری وجہ سے تمہیں بالدار بنادیا۔ آپ ﷺ جب بھی کچھ فرماتے تو النصار جواب میں عرض کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا گمراہ تم چاہو تو مجھ سے کہہ سکتے ہو کہ آپ ﷺ ہمارے پاس ایسی ایسی حالت میں تشریف لائے تھے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو اوتھ اور بکریاں لے جائیں، اور تم اپنے گھروں میں نبی کریم ﷺ کو لے کر جاؤ؟ اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں النصار کا ایک فرد ہوتا، اگر اور لوگ کسی میدان اور گھٹائی میں چلیں، تو میں النصار کے میدان اور گھٹائی میں جاؤں گا۔ النصار استر (اندر کا کپڑا) ہیں اور دہرے لوگ ابرا (باہر کا کپڑا) تم میرے بعد دوسروں کی ترجیح کو دیکھو گے، تو صبر کرنا حتیٰ کہ حوض کوڑ پر میری ملاقات ہو۔

## مؤلفة القلوب کونوازنے کی حکمت

حضرت عبد اللہ بن زید بن عاصم ﷺ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ختنی کے دن مال عطا فرمایا یعنی مال غیرت ہاتھ آیا تو "مؤلفة القلوب" کو رسول اللہ ﷺ نے عطاء کیا اور النصار کو کچھ نہیں دیا۔

"مؤلفة القلوب" سے قریش کے وہ لوگ اور قائل کے سردار ان مراد ہیں جو فتح کہ کے وقت اسلام لائے لیکن ابھی ایمان میں ضعیف تھے، اسی طرح ان میں بعض وہ لوگ بھی تھے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے یہ تو قع تھی کہ اگر انہیں انعام سے نوازا گیا تو اسلام قبول کر لیں جیسے صفوان بن امیہ وغیرہ۔

ان "مؤلفة القلوب" کی تعداد چالیس کے لگ بھگ ہے۔<sup>۴۹</sup>

غزڈہ ختنی کے مال میں سے صرف ان "مؤلفة القلوب" لوگوں کو مال عطاء کیا گیا، اب اس بات کے بیہاں پر دو مفہوم مراد لئے جاسکتے ہیں:

<sup>۴۹</sup> وتوله: ((فِي الْمُؤْلَفَةِ الْقُلُوبِ)) بدل بعض من کل، ولمراد بالمؤلفة ناس من الریش اسلموا يوم الفتح اسلاماً ضعیفی، وقلل کان لهم من لم یسلم بعد کصلوان بن امیہ۔ وقد اختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم احد المستحقين للزكاة لقليل: كفار يعطون ترغيباً في الاسلام، وقليل مسلمون لم أتياع كلار لحال قلوبهم، وقليل مسلمون اول ما دخلوا على الاسلام ليتمكن الاسلام من قلوبهم. وأما المراد بالمؤلفة هنا فهو لهذا الامير. الفتح الباري، ج: ۸، ص: ۳۸،

ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مال غیرت قاعدہ کے مطابق تقسیم کیا، لیکن جو خس تھا اس میں سے "مؤلفہ القلوب" کے سوا کسی کو نہیں دیا، اس میں سے حضرات انصار کو نہیں دیا، بعض لوگ یہ مفہوم مراد لیتے ہیں۔ اس صورت میں کوئی شبہ اور اعتراض کی بات نہیں ہے۔ ۵۰

دوسرامفہوم یہ ہے کہ سارا مال غیرت اس طرح تقسیم کیا کہ انصار کو کچھ بھی نہیں دیا اور "مؤلفہ القلوب" کو سب کچھ دے دیا، بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں۔

اس صورت میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے جائز ہوا کہ جو مجاہدین ہیں ان کو کچھ بھی نہ دیا جائے اور جو نووارد "مؤلفہ القلوب" ہیں ان کو دیا جائے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس موقع پر یہ حضور اکرم ﷺ کی خصوصیت تھی اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ یہ تازہ تازہ اسلام لائے ہیں اور ان کے دلوں میں صحیح طور پر اسلام راح نہیں ہوا ہے تو میں نے یہ چاہا کہ یہ کسی طرح مانوس ہوں قریب آئیں، جملہ محسن اخلاق پیدا ہوں۔

کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت تو تکوار کے خوف سے مسلمان ہو گئے اور بعد میں مرتد ہو جائیں (العیاذ باللہ) اور عالم اسلام کیلئے فتنہ نہیں، اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس وقت ان کو ثابت قدم رکھنے کے لئے یہ تدبیر اختیار کی جائے اس واسطے ان کو میں نے دیئے۔ اس مقصد کے تحت اس خاص موقع پر مال کی تقسیم کا جو عام قاعدہ ہے اس سے اس غزوے کو مستثنیٰ کر دیا گیا۔

بعض لوگوں نے اس کی وجہ یہ بھی بیان کی کہ اس میں انصار کو یہ تنیہ کرنا مقصود تھا کہ خنین کے موقع پر جو لوگ پیچے ہٹے تو کہا جاتا ہے کہ سب انصار تھے تو اس تنیہ کی غرض سے ان کو اس سے حصہ نہیں دیا گیا۔

لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی اس لئے کہ آگے حضرت انس بن مالک رض روایت میں صراحت ہے کہ آپ ﷺ کے قریب بعض صحابہ کرام رض ہی رہ گئے تو آپ نے دائیں طرف دیکھ کر فرمایا "یا ماعشر الانصار؟" اے انصار کے جانشی و تم کہاں ہو؟ جواب میں انصار نے کہا "لیک و سعدیک یا رسول اللہ نحن معک" ہم حاضر ہیں اے اللہ کے رسول! ہر حکم کی تعلیل کے لئے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔

پھر دائیں طرف متہ کر کے فرمایا "یا ماعشر الانصار؟" جواب میں انصار نے کہا "لیک و سعدیک یا رسول اللہ نحن معک" ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ! ہر حکم کی تعلیل کے لئے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔

وَأَيُّ: لِمَا أَعْطَاهُ خَالِمُ الَّذِينَ لَا يَلِهُمْ بِرْمَ حَنْنَ، وَأَصْلَلَ اللَّهُ الْجَوْعَ، وَمَنْ سَمِيَ الظَّلْلَ بَعْدَ الزَّوَالِ لَهَا لَالَّهُ بِرْجَعٍ مِنْ جَانِبِ الْجَالِبِ، وَمَنْ سَمِيتَ أَمْوَالَ الْكُفَّارِ لَهَا لَانَّهَا كَانَتْ لِي الْأَصْلُ لِلْعَلَمِيْنِ، لَأَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْأَصْلُ وَالْكُفُرُ إِلَى طَارِيْ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ غَلِيْبًا عَلَيْهَا بِالْعَدْدِ لِإِذَا غَنِمَهَا الصَّلَمُونَ لِكَانُوا رَجَعُتْ إِلَيْهِمْ. عَمَدةُ الْقَارِيِّ، ج: ۷، ص: ۳۳۹

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار نے حضور اکرم ﷺ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اس واسطے یہ کہنا کہ وہ بیچپے ہٹ گئے تھے یعنی بات درست نہیں ہے۔

چنانچہ اس وقت جو تمام مالی خدمت دیا گیا وہ اُس وقت کی خصوصیت تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ عالم اسلام کو ان لوگوں کے شر او رفتن سے بچانے کے لئے اس وقت ضرورت تھی کہ ان کی تالیف قلب کی جائے، ان کو اپنی جانب راغب کرنے کے لئے مالی خدمت اور انعام سے نوازا جائے تاکہ یہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنا سکے اور اس میں اگر ایک مرتبہ مالی خدمت کی تقسیم کے عام قاعدہ کو اٹھا دیا گیا تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اہ

إن قوله: ((ولم يعط الانصار شيئاً)) ظاهرًا في أن العطية المذكورة كانت من جميع الفئمة، وقال الفرطبي: في ((المفهم)): الإجراء على أصول الشريعة أن العطاء المذكور كان من الخمس، ومنه كان أكثر عطاءه، ولد قال في هذه الغزوة للأعرابي ((مالى مصالاً إله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم)) أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو، وعلى الاول لم يذكر ذلك مخصوصاً بهذه الواقعه. وقد ذكر السب في ذلك في رواية قيادة عن انس في الباب حيث قال ((أن لريشاً حديث عهد بجهالية ومصيبة، وإلى أردت أن أجبرهم وأنا لهم)). للت: الأول هو المعتمد، وسيأتي ما يزيد كده. والذى رجحه الفرطبي جزم به الرواىدى، ولكن ليس بحججة إذافرد لكيف اذا خالف، وتيل إنما كان تصرف في الفئمة لأن الأنصار كانوا انهزموا لهم برجعوا حتى ولعنت الهزيمة على الكفار لرده الله أمر الفئمة لنبيه. وهذا معنى القول السابق بأنه خاص بهذه الواقعه، واختار أبو عبيدة أنه كان من الخمس، وقال ابن القيم: القuesta حكمة الله أن فتح مكة كان سبباً للدخول كثير من قبائل العرب في الإسلام وكالوا يقولون: دعوه ولرمه، فان غلبهم دخلنا في دينه، وان غلوبه كفوناه أمره. للما فتح الله عليه استمر بعضهم على ضلاله فجمعوا له وتأهلاوا للحربه، وكان من لا حكمة في ذلك أن يظهر أن الله نصر رسوله لا بكرة من دخل في دينه من القابل ولا بالكاف فرمى عن قتاله، لم لما قدر الله عليه من غلبه ايامه للدر ولوغ هزيمة المسلمين مع كثرة عددهم ولوع عددhem لم يبين لهم أن النصر الحق إنما هو من عنده لا يقوتهم، ولو قدر أن لا يطلبوا الكفار ابتداء لرجوع من رجع منهم شامخ الرأس مظالما، لقدر هزيمتهم لم أعيقهم النصر ليدخلوا مكة كما دخلها النبي ﷺ يوم الفتح متواضعأً متخشعاً، والتضيع حكمته أيضاً أن غالبية الكفار لما حصلت لهم قسمت على من لم يكن الإيمان من الله لما يبقى له من الطبع البشري في محبة المال لقسمه لهم لتطمئن قلوبهم وتجمع على مجده، لأنها جعلت على حب من أحسن إليها، ومنع أهل الجهاد من أكابر المهاجرين ورؤساء الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها لانه لوقسم ذلك لهم لكان مقصوراً عليهم، بخلاف قسمه على المزملة لأن فيه استجواب للرب أبا عهم الذين كانوا يرضون اذا رضى ربهم، للما كان ذلك العطاء سبباً للدخول لهم في الإسلام ولتفويبة قلب من دخل فيه قبل بعدهم من دربهم في الدخول، فكار في ذلك عظيم المصحة - الخ. كما ذكره

## حِبِّ مَالٍ پر حضور ﷺ کی صبر و اصلاح کی تلقین

”لَكُلْهُمْ وَجَدُوا إِذْلِمْ يَصِيْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ“ جب مال دوسرے لوگوں کو ملا اور انہیں نہ ملا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض الانصار غمگین ہوئے۔

”وَجَدَ يَعْجَدُ“ یہ ضد ادیں سے ہیں اسکے معنی غم کرنے اور خوشی کرنے دونوں معنی آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ الانصار کو یہ بات ناگوارگز ری کہ ہمیں کچھ نہیں دیا گیا، یعنی ان کو وہ چیز نہیں ملی جو دوسرے لوگوں کو ملی۔ ۲۹  
اگلی حدیث میں جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہے ہیں، اُس میں اس طرح ہے کہ کچھ الانصاری آدمیوں نے کہا اللہ اپنے رسول ﷺ کی مغفرت فرمائے، ہمیں نظر انداز کر کے قریش کو مال دے رہے ہیں، حالانکہ قریش کا خون ہماری ٹکواروں سے پیک رہا ہے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہر مرحلہ پر ہم ساتھ رہتے ہیں کچھ نہ ملا۔

حضور اقدس ﷺ نے الانصار کو جمع کر کے خطبہ فرمایا ”يَا مِعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَجَدْ كُمْ ضَلاَّلًا لِهَا كُمْ أَلَّهَبِي؟“ اے گروہ الانصار! کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا تھا اور میرے ذریعہ اللہ نے تم کو ہدایت دی۔  
”وَكَتَمْ مُتْفَرِقِينَ فَالْفَكْمُ أَلَّهَبِي؟“ تم آپس میں بٹے ہوئے تھے، منتشر تھے تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میری وجہ سے تمدنیں کر دیا؟

”وَكَتَمْ عَالَةً فَاخْنَاكْمُ أَلَّهَبِي؟“ اور تم لوگ نقر و فاقہ کی حالت میں تھے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ تم کو مال و دولت عطا فرمایا؟

”كَلِمَا تَالَ شَيْنَا تَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْنٌ“ رسول اللہ ﷺ جب بھی کچھ فرماتے تو انصاری حضرات جواب میں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول اور زیادہ ہم پر احسان کرنے والے ہیں اور یہ ہمارے اوپر سارا احسان اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔

”تَال: لَوْ شَتَمْ قَلْتُمْ جَتَنَا كَذَا وَكَذَا“ آپ ﷺ نے فرمایا مگر تم چاہو تو مجھ سے کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس ایسی ایسی حالت میں تشریف لائے تھے یعنی آپ ﷺ نے فرمایا تمہیں کیا چیز مانع ہے کہ تم رسول اللہ ﷺ کو جواب دو تو جواب میں وہ لوگ یہ کہتے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم پر زیادہ احسان فرمانے والے ہیں۔

۲۹ قوله : ((وَجَدُوا)) ای: حزن لوا، یقال: وَجَدَ فِي الْحُزْنِ وَجَدَ، بِهَذِهِ الْوَادِ، وَجَدَ فِي الْعَالَمِ وَجَدَ، بِالْفَطْحِ وَجَدَ، بِالْكَرْ وَجَدَ ای: استنبتی، وَجَدَ مطلوبہ بِهَذِهِ وَجَدَ، وَجَدَ حَالَهُ وَجَدَهَا، وَجَدَ عَلَيْهِ فِي الْفَطْحِ موجدة وَجَدَانَا ایضاً، حکاها بعضهم. عمدۃ القاری، ج: ۱، ص: ۳۳۹

یہاں راوی نے اختصار کر لیا ہے، جبکہ دوسری روایتوں میں یہ آیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم چاہو تو جواب میں یہ کہو کہ آپ کی آپ کے خاندان، گھروں والوں نے مکنذیب نہیں کی تھی اور ہم نے آپ کی تصدیق کی اور کیا آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو نکال نہیں دیا تھا کہ ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا، کیا تم جواب میں یہ کہنا چاہتے ہو؟ انصار نے جواب میں فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم یہ بھی نہیں کہتے، آپ کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا اس واسطے ہم یہ نہیں کہنا چاہتے۔ آپ ﷺ ہمیشہ سے مصدق تھے اور ہمیشہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانا دیا ہوا تھا۔ ۵۳

جب انصار نے یہ کہہ دیا تو حضور ﷺ نے فرمایا "الا تو هر من ان يذهب الناس بالشدة والبعير" کیا یعنی جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں تو ان کے ساتھ بکریاں اور اونٹ وغیرہ ہوں۔

"وَتَدْهِبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَى رَحْالِكُمْ؟" اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو نبی کریم ﷺ تھارے ساتھ ہوں۔ گویا ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ تو اونٹ بکری لے کر جا رہے ہیں اور میں تو تھارے ساتھ بیٹھا ہوں، میری زندگی اور موت تھارے ساتھ ہے تو میں ہر وقت تھارے ساتھ ہوں یہ لوگ تو جائیں گے بکریاں اور اونٹ لے کر اور تم جاؤ گے اللہ کے رسول کو لے کر۔

"لولا الهجرة لكت امرا من الانصار" اگر ہجرت کی فضیلت مقصود نہ ہوتی تو میں انصار میں کا ایک آدمی ہوتا، یا یہ مطلب ہے کہ انصار کی طرف خود کو منسوب کرتا۔

اس طرح سے کہنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں:

ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوتا کہ مجھے ہجرت کی نعمت سے سرفراز فرمائیں تو مجھے انصار میں پیدا کرتے اور انصار میں پیدا ہو کر وہیں سے اپنی دعوت کا آغاز کرتا۔

دوسرًا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس کو زیادہ تر شراح نے اختیار کیا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو انصار کی طرف منسوب کر دوں نسبت بلدانی کہہ لیں یا نسبت اختیاری کہہ لیں کہ اپنے آپ کو یہ کہوں کہ قریشی نہیں ہوں بلکہ انصاری ہوں۔

۵۳ قولہ: ((کدا و کدا)), کنایہ عما یقال: جتنا مکدھا الصدقہ اک، و مخدول لا للصرناک، و طریداً فاقویناک، و عاللأنوار اسناک، و صرح بذلك فی حدیث ابی سعید، و روی احمد بن حدیث ابن ابی عدی عن حمید عن انس بن مالک قبولون: جتنا خالفاً لامناک، و طریداً فالمباک، و مخدول لا للصرناک؟ قالوا: بل المن علمہ اللہ ولرسوله،

لیکن اس کو کہنے سے بھرت کی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہیں اس سے اعراض لازم نہ آجائے اس لئے انصار کی طرف منسوب نہیں کرتا ورنہ میں اپنے آپ کو انصار کی طرف منسوب کرتا۔ ۵۴  
”ولو سلک الناس، وادیا و شعباً لسلکت وادی الانصار وشعبها“ اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹ میں جائیں تو میں انصار کی وادی کی طرف جاؤں گا۔

”الأنصار شعار الناس دلار“ فرمایا کہ انصار میرے لئے شعار کا درجہ رکھتے ہیں اور دوسرا ہے لوگ دثار ہیں یعنی ان کو اتنا قرب حاصل نہیں ہے۔

”شعار“ بیان کو کہتے ہیں ہے اور اور پر جو میش پہنچتے ہیں اس کو ”دلار“ کہتے ہیں، تو انسان کے قریب ترین شعار ہوتا ہے۔

دوسرا روایت میں آیا ہے کہ میں نے ان کو اس وقت تأثیف قلب کے لئے دی ہے فرمایا کہ اس وقت تو تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا اللہ کے رسول نے صحیح حکمت کے تحت فیصلہ کیا ہے۔

”إِنَّكُمْ مُّتَلَقِّوْنَ بَعْدِي أَرْهَهُ فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ“ تم میرے بعد دوسروں کی ترجیح کو دیکھو گے، تو صبر کرنا حتیٰ کہ حوض کوڑ پر میری ملاقات ہو۔

یعنی میرے بعد دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گئی اس وقت بھی کچھ ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں، تحفظ حقوق انصار کے نام پر ایک جماعت بنالا اور جھنڈا لے کر ہڑتاں کرو اور توڑ پھوڑ کر و بلکہ فرمایا صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر جاملو۔

یہ تلقین فرمائی کہ ابھی تو تم پر ظلم نہیں ہوا لیکن میرے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ دن دیکھنا پڑے کہ دوسرے لوگوں کو تم پر ترجیح دی جا رہی ہو تو اس وقت بھی تمہارا کام یہی ہونا چاہیے کہ صبر کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فتنہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو فتنہ پیدا کر کے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرے اور مسلمانوں کی صفوں میں اختشار پیدا کرے اس سے باز رہو، لہذا صبر کرو یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر جاملو۔ ۵۵

۵۴ قوله: ((لولا الهجرة)) أي: لولا وجود الهجرة. قال الخطابي: أراد بهذا الكلام تألف الانصار وتطهير للربهم والشدة عليهم في دينهم حتى رضى أن يكون واحداً منهم لولا ما يمتنعه من الهجرة لا يجوز تبديلها، ولسبة الانسان على وجود الرلاذبة: كالقرىنة، والبلادبة كالكونية، والاعقادية: كالسنة، والصناعية: كالصهرية. عمدة الفارسي، ج: ۷، ص: ۳۳۰، ۳۳۹، رفع الباري، ج: ۸، ص: ۵۱

۵۵ وفي رواية الزهرى: حتى تلقوا الله ورسوله فالي على الحوض، أي: اصبروا حتى تموتوا فإنكم متعددون عند الحوض، فليحمل لكم الاتصال منه، ظلمكم، والغراب الجزيل على الصبر. عمدة الفارسي، ج: ۷، ص: ۳۳۰

اس تفصیل کے بعد احادیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

٣٣٣ - حدیث عبد اللہ بن محمد: حدیث هشام: أخبرنا هشام: أخبارنا معمر، عن الزهری: حدیث انس بن مالک قال: قال ناس من الأنصار حين آتاه الله على رسوله مالاً آتاه من أموال هوازن، فلطفق النبي ﷺ يعطي رجالاً المائة من الأهل . فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشاً ويتراكم وسيوفنا تقطير من دمائهم؟ قال انس: فحدث رسول الله ﷺ بمقابلتهم فارسل الى الأنصار لجمعهم لى قبة من ادم ولم يدع معهم غيرهم للما اجتمعوا قام النبي ﷺ فقال: ((ما حدیث بلغت عنکم؟)) فقال لفهاء الأنصار: أما رسالا يا رسول الله للهم يقولوا شيئاً، وأما ناس میں حدیثه أسانیهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشاً ويتراكم وسيوفنا تقطير من دمائهم؟ فقال النبي ﷺ: ((فاني أعطی رجالاً حدیثی عهد بکفر افالفهم، أما ترضون أن یذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي الى رحالکم؟ فوالله لما تقلبون به خيراً مما ينقلبون به)). قالوا: يا رسول الله، قد رضينا. فقال لهم النبي ﷺ: ((مسجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فانی على الحوض)). قال انس: للهم يصبروا. [راجع: ۳۱۲۶]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو ہوازن کا مال عطا فرمایا اور آپ ﷺ نے بعض آدمیوں کو سو اوٹ دئے تو کچھ انصاریوں نے کہا اللہ اپنے رسول کی مغفرت فرمائے، ہمیں نظر انداز کر کے قریش کو مال دے رہے ہیں، حالانکہ قریش کا خون ہماری تکواروں سے پیک رہا ہے۔ حضرت انس ﷺ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو انصار کی یہ بات معلوم ہو گئی تو آپ ﷺ نے انہیں چڑے کے خیہ میں بلا کر جمع کیا اور ان کے ساتھ کسی غیر انصاری کو نہیں بلا کیا، جب وہ آکر جمع ہو گئے، تو آنحضرت ﷺ نے کھڑے ہو کر فرمایا وہ کیسی بات ہے جو مجھے تمہاری مجھ تک پہنچیے؟ انصار کے علماء نے جواب دیا یا رسول اللہ! ہمارے بڑوں نے تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا، ہاں ہم میں کچھ نو عمر ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مغفرت فرمائے، ہمیں نظر انداز کر کے قریش کو مال دے رہے ہیں، حالانکہ ہماری تکواروں سے قریش کا خون پیک رہا ہے، تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا میں نو مسلم آدمیوں کو تالیف قلب یعنی اسلام پر دل جمانے کے لئے دینا ہوں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو مال لیکر جائیں اور تم اپنے گھروں میں نبی کریم ﷺ کو لے کر جاؤ؟ اللہ کی قسم! تم جو لے کر جاؤ گے ان کی لے جائی ہوئی چیز سے بہت بہتر ہے۔ انصار نے کہا اے اللہ کے رسول! ہم راضی ہیں۔ پھر انصار سے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہم میرے بعد (اپنے اوپر دوسروں کی) بے انتہا ترجیح دیکھو گے، تو صبر کرنا یہاں تک کہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے مل جاؤ اور میں تمہیں حوض کوڑ پر ملوں

گا۔ حضرت انس بن مالک رض فرماتے ہیں کہ لیکن انصار نے صبر نہیں کیا۔

۳۳۳۲ - حدثنا سلیمان بن حرب: حدثنا شعبہ، عن أبي التیاح، عن أنس رض قال: لما كان يوم فتح مکة لسم رسول الله صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ غنائم لى قریش لفضحت الانصار، قال النبي صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ: ((ما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله؟)) قالوا: بلى، قال: ((لو ملک وادیاً أو شعباً سلکت وادی الانصار أو شعبهم)). [راجع: ۳۱۳۶]

ترجمہ: حضرت انس رض فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ نے قریش کے درمیان غنائم کو تقسیم فرمایا تو انصار اس بات پر ناراضی ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ لوگ تو اپنے ساتھ ہونیا کو لیکر جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لیکر جاؤ؟ انصار نے کہا کیوں نہیں ہم اس پر راضی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ نے فرمایا اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹی میں جائیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی کی طرف جاؤں گا۔

۳۳۳۳ - حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا أزہر، عن ابن عون: أبا هشام بن زید بن أنس، عن أنس رض قال: لما كان يوم حنين العقی وهو اذن ومع النبي صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ عشرة الآف والطلقاء فأدبروا، قال: ((يامعشر الانصار)), قالوا: ليك يا رسول الله وسعديك، لحن بين يديك. نزل النبي صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ فقال: ((أنا عبد الله ورسوله)), فانهزم المشركون. فاعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الانصار شيئاً. فقالوا للداعم فادخلهم في قبة، فقال: ((أما ترضون أن يذهب الناس بالشامة والبعير وتذهبون برسول الله؟)) فقال النبي صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ: ((لو ملک الناس وادیاً وشعباً سلکت الانصار شعباً لاخترت شعب الانصار)).

[راجع: ۳۱۳۶]

ترجمہ: حضرت انس رض فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں جب ہن ہوازن سے مقابلہ ہوا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ کے ہمراہ دس ہزار کا لشکر اور طلاقاء تھے پھر سب نے پیٹھ پھر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا اے انصار کے لوگو! انہوں نے جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں اے اللہ کے رسول! اور ہر حکم کی تتمیل کے لئے حاضر ہیں اور ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ سواری سے اترے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے بعد کفار کو تکست ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ نے طلاقاء اور مهاجرین میں مال تقسیم کیا اور انصار کو کچھ نہیں دیا، انصار نے اس بارے میں باتیں کیں، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ نے انصار کو بلا یا اور ایک خیرہ میں جمع کیا اور فرمایا کیا تم اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ لوگ تو اپنے ساتھ اونٹ اور بکریوں کو لیکر جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ کو لیکر جاؤ؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹی میں جائیں تو میں انصار کی یا گھاٹی کو اختیار کروں گا۔

## طلقاء سے مراد

یہ اس باب میں حضرت انس بن مالک رض کی تیسری حدیث ہے۔ اس حدیث میں ایک جملہ ہے کہ ”وَمَعَ النَّبِيِّ عَشْرَةُ الْأَلْفِ وَالْطَّلْقَاءُ“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دس ہزار کا لکھر اور طلقاء تھے۔

”طلقاء“ جمع ”طلیق“ اسکے اصل معنی ہیں وہ قیدی جس کو حاکم صرف احسان کی غرض سے چھوڑ دے۔ یہاں ”طلقاء“ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں فتح کہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احساناً چھوڑ دیا تھا، قتل کیا، نہ قید کیا، نہ فدیری لیا، جیسے ابوسفیان بن حرب، حکیم بن حزام وغیرہ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے فتح کہ کے روز فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا («لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ») یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ۵۶

۳۳۳۲ - حدیثی محمد بن بشار: حدیثنا غندر: حدیثنا شعبۃ قال: سمعت قتادة، عن انس بن مالک قال: جمع النبي ﷺ ناسا من الانصار فقال: ((ان فريشا حدیث عهد بجهالیة ومصیبة والی أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدین وترجعون به رسول الله ﷺ الى بيوتكم؟)) قالوا: بلى، قال: ((لوسلک الناس وادیا ولسلکت الانصار شعباً للسلکت وادی الانصار)). [راجع: ۳۱۳۶]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الانصار کو جمع کیا اور فرمایا قریش کے کفر اور مصائب کا دور قریبی اور تازہ ہے اس لئے میں نے چاہا کہ انہیں انعام دوں اور ان کو تالیف قلب یعنی اسلام پر دل جمانے کیلئے دوں کیا تم اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ لوگ تو اپنے ساتھ دنیا کو لیکر واپس جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس جاؤ؟ انصار نے کہا کیوں نہیں ہم اس پر راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ کسی وادی یا گھائی میں جائیں تو میں انصار کی وادی کی طرف جاؤں گا۔

۳۳۳۵ - حدیثنا تبیصہ: حدیثنا سفیان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله لال: لِمَا قَسِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَسَمَ حَنِينٌ لَالْأَنْصَارَ مِنْ رِجْلِهِ مَا أَرَادَ بِهَا اللَّهُ وَجْهَ اللَّهِ، فَأَتَمَتْ

۶۶ وَالْطَّلْقَاءُ جَمْعٌ: طَلْقَاءٌ، وَهُوَ الْأَسِيرُ الْأَدِيُّ أَطْلَقَ عَنْهُ الْأَسْرَ وَعَلَى سَيْلِهِ، وَبِرَادِهِمْ أَهْلُ مَكَّةَ فَانِهِ أَطْلَقَ عَنْهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ: الْوَلِيُّ لَكُمْ مَا قَالَ يُوسُفُ: («لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ») [یوسف: ۹۲]. عمدة القارئ، ج: ۷، ص: ۱، ۳۳۲.

النبي ﷺ فأخبرته لنغير وجهه ثم قال: ((رحم الله على موسى، لقد أودى بأكثراً من هذا الصبر)). [راجع: ۳۱۵۰]

ترجمة: ابو واکل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ رض فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام غنیمت تقسیم فرمائے تھے تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا اس تقسیم سے اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہے۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کی خبر دی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسی صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام پر اللہ کی رحمت نازل ہوا نہیں اس سے بھی زیادہ ایذا پہنچائیں گے اور انہوں نے اس پر صبر کیا۔

۳۳۳۶ - حدثنا التیۃ بن معید: حدثنا جریر، عن منصور، عن أبي والل، عن عبد الله قال: لما كان يوم حنين آخر النبي صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام ناسا، أعطى الأقرع مائة من الأبل، وأعطى عبيدة مثل ذلك، وأعطى ناسا. فقال رجل: ما أريد بهذه القسمة وجه الله، لقلت: لا يخون النبي صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام، قال: ((رحم الله موسى قد أودى بأكثراً من هذا الصبر)).

[راجع: ۳۱۵۰]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ رض فرماتے ہیں کہ حنین کے روز آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے چند لوگوں کو ترجیح دی، چنانچہ اقرع کو سوا دش دیئے اور عبیدہ کو اسی کے مثل دیئے اور بھی چند لوگوں کو دیئے۔ اس پر ایک شخص نے کہا اس تقسیم میں اللہ کی خوشنودی کا کوئی خیال نہیں کیا گیا۔

حضرت عبد اللہ رض فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کو اس بات کی ضرور خبر کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے فرمایا موسی صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام پر اللہ کی رحمت نازل ہو انہوں نے اس سے بھی زیادہ ایذا پہنچائیں گے اور انہوں نے اس پر صبر کیا۔

۳۳۳۷ - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا معاذ بن معاذ: حدثنا ابن عون، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك [عن أنس بن مالك] رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين البليت هوازن وغطfan وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف ومن الطلقاء فأدبروا عليه حتى يقى وحده فقادى يومئذ لداء بن لم يخلط بينهما، العفت عن يمينه فقال: ((يامعشر الأنصار)), قالوا: ليك يا رسول الله، أبشر لعن معك، لم العفت عن يساره فقال: ((يامعشر الأنصار)), قالوا: ليك يا رسول الله، أبشر لعن معك، وهو على بصلة بيضاء فنزل فقال: ((أنا عبد الله ورسوله)), فانهزم المشركون وأصاب يومئذ خنائم كثيرة فقم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئاً، فقالت

الأنصار: اذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الفنية غيرنا؟ فبلغه ذلك فجمعهم في لية فقال: ((بِاِمْعَشِرِ الْأَنْصَارِ، مَا حَدِيثُ بِلْهَنِي عَنْكُمْ؟)) فسكتوا، فقال: ((بِاِمْعَشِرِ الْأَنْصَارِ، أَلَا تَرْضُونَ أَنْ يَدْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا، وَتَذَهَّبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْزُونُهُ إِلَى بَيْوَتِكُمْ؟)) قالوا: بلى، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْسَكَ النَّاسُ وَادِيَّاً وَنَلَكَ الْأَنْصَارُ شَبَابًا لَا خَدْتَ شَعْبَ الْأَنْصَارِ)). وقال هشام، قلت: يا أبا حمزة وانت شاهد ذلك. قال: وأين أهيب عنه؟ [راجع: ۳۱۳۶]

ترجمہ: ہشام بن زید بن انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ جب جنگ خین کا دن ہوا تو قبلہ ہوازن اور غطفان اپنے مویشی اور اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ آئے اس وقت نبی کریم ﷺ کے ساتھ دس ہزار کا شکر تھا اور کچھ طلقاء، پھر سب نے پیٹھ پھیر لی یہاں تک کہ آنحضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تنہایا تی رہ گئے تو حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اس روز دو مرتبہ پکارا دونوں پکاریں ایک دوسرے سے الگ الگ تھیں آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنے دائیں طرف متوجہ ہو کر پکارا۔ چنانچہ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا اے گروہ انصار! تو انہوں نے جواب دیا ہم حاضر ہیں اے اللہ کے رسول! آپ کو بشارت ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بائیں طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے گروہ انصار! تو انہوں نے بھی جواب دیا ہم حاضر ہیں اے اللہ کے رسول! آپ کو بشارت ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

اور آنحضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس وقت ایک سفید چھپ سوار تھے پھر آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتر گئے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔

پھر مشرکین کو نکست ہوئی اور اس لڑائی میں بہت زیادہ غنیمت حاصل ہوا۔ جو حضور اکرم ﷺ نے مہاجرین اور طلقاء میں تقسیم کر دیا اور انصار کو اس میں سے کچھ نہیں دیا، اس پر (بعض) انصار نے کہا کہ سخت وقت آتا ہے تو ہمیں بلا یا جاتا ہے اور غنیمت ہمارے سواء دوسروں کو دی جاتی ہے۔

یہ خبر آپ ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے انصار کو ایک خیمه میں جمع کیا اور فرمایا اے انصار کے لوگو! کیا وہ بات صحیح ہے جو تمہارے بارے میں مجھے معلوم ہوئی؟ اس پر وہ خاموش رہے۔

پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا اے انصار کے لوگو! کیا تم اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ لوگ تو اپنے ساتھ دنیا کو لیکر جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول ﷺ کو اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے جاؤ؟ انصار نے کہا کیوں نہیں ہم اس پر راضی ہیں۔

پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر لوگ کسی وادی میں چلیں تو میں انصار کسی گھائی میں چلیں تو میں انصار ہی

کی گھاٹی کو اختیار کروں گا۔

ہشام نے کہا اے ابو حمزہ! (حضرت انس بن مالکؓ کی کنیت) کیا آپ وہاں موجود تھے؟ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ ﷺ سے غائب ہی کب ہوتا تھا؟

بَاب

السُّرِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَجْدٍ

إِلَى

بَابِ حَجَّ أَبْنَى بَكْرٍ بَالنَّاسِ

## (٥٨) باب السرية النبى ﷺ قبل نجد

## نبى ﷺ کا نجد کی طرف سریہ بھیجنے کا بیان

٣٣٣٨ - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد: حدثنا أبوب، عن صالح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي ﷺ سرية قبل نجد لكتن فيها، بل هفت سهمًا لنا التي عشر بعيرا، ولقيلنا بعيرا، فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا. [راجع: ٣١٣٢]

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے نجد کی طرف جو سریہ روانہ فرمایا تھا، میں اس میں بھی شریک تھا، مال غنیمت میں ہمارے حصہ میں بارہ بارہ اونٹ آئے، پھر ایک اونٹ ہمیں زیادہ ملا، تیرہ اونٹ لے کر ہم واپس ہوئے۔

## سریہ نجد

یہ سریہ نبی کریم ﷺ نے نجد کی طرف بھیجا تھا۔ یہ سریہ کس سال روانہ فرمایا؟  
اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔

جمهور اہل سیر و مغمازی کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کی روائی سے پہلے کا واقعہ ہے۔

ابن سعد کے نزدیک شعبان ٨ھ میں رسول اللہ ﷺ نے غزوہ مودعہ سے قبل یہ سریہ روانہ فرمایا۔

ابن سعد کہتے ہیں کہ اس سریہ کا امیر حضرت ابو قحافة رض کو مقرر فرمایا اور ان کو نجد کے علاقہ ارض مغارب کی طرف بھیجا تھا۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ غزوہ طائف کے بعد یہ سریہ بھیجا گی۔ اس لئے فتح مکہ کے بعد اس کو ذکر کیا اور روایت میں اس کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں۔

ل و كانت هذه السرية قبل توجه النبي ﷺ للفتح مكة. وهكذا ذكرها أهل المغازى، والبخارى ذكرها بعد الطائف، وقال ابن سعد: كانت فى شعبان سنة ثمان، وذكر غيره أنها كانت قبل مذلة، ومؤنة كانت فى جمادى من السنة المذكورة. وقال ابن سعد: ركان أميرهم أنها قادمة أرسله النبي ﷺ إلى أرض مغارب بتجدد. عمدة القاري، ج: ٢، ص: ٣٢٥، وطبقات ابن سعد، ج: ٢، ص: ١٣٢، وكتاب المغازى للروايدى، ج: ٢، ص: ٢٢٩.

صرف اتنا ذر ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نجد کی طرف سری یہ بھیجی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی اس میں شریک تھا اور اس سری یہ میں اہم سب کے حصے میں براہ اونٹ آئے تھے اور اہم میں سے ہے جو ایک کو ایک اونٹ بطور انعام دیا گیا تھا، تو ہر آدمی تیرہ اونٹ لے کر آیا تو بڑی بات ہے اتنا مال نہیں ملا۔

## (٥٩) باب بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلىبني جذيمة بئي جذيمه کی طرف نبی ﷺ کا خالد بن ولید کو روانہ کرنے کا بیان

٣٣٣٩ - حدثنا محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معاشر: وحدثني نعيم: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه قال: بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة لدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلحنا، فجعلوا يقولون: صياماً، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت: والله لا أفعل أسيرى. ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى تدعا على النبي ﷺ لذكرنا له فرفع النبي ﷺ يديه فقال: ((اللهم إلى أهراً إليك مما صنع خالد))، مرتين. [الظرف: ١٨٩]

ترجمہ: سالم اپنے والد (حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہنی کریم ﷺ نے خالد بن ولید ﷺ کو بوجذیمہ کی طرف بھیجا، خالد بن ولید ﷺ نے انہیں دعوت اسلام دی تو انہوں نے یہ دعوت تو قبول کر لی، مگر اپنی زبان سے انہوں نے ہم مسلمان ہو گئے کہنے کو اچھا نہ سمجھا، تو یوں کہنے لگے کہ ہم نے اپنادین چھوڑ دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید ﷺ انہیں قتل و قید کرنے لگے، اور قید یوں کو ہم میں سے ہر ایک کے حوالہ کر دیا، ایک دن حضرت خالد بن ولید ﷺ نے ہمیں اپنے قیدی قتل کر دینے کا حکم دیا تو میں نے کہا اللہ کی قسم! نہ میں اپنے قیدی کو، اور نہ میرے ساتھی اپنے اپنے قیدیوں کو قتل کریں گے۔ یہاں تک کہ ہم نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں واپس آگئے، تو میں نے آپ ﷺ سے یہ واقعہ ذکر کیا تو آنحضرت ﷺ نے ہاتھ اٹھا کر دو مرتبہ فرمایا اے اللہ! میں خالد کے فعل سے بری ہوں۔

سریئہ بوجذیمہ

تمام اہل سیر و مغازی کے نزدیک فتح مکہ کے بعد اور غزوہ حنین سے پہلے نبی کریم ﷺ نے بئی جذیمہ کی

طرف حضرت خالد بن ولید رض کی سرکردگی میں مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو اسلام کی دعوت دینے کی غرض سے روانہ کیا۔ ۱

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مذکورہ روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رض کو صحابہ کرام رض کی ایک جماعت کے ہمراہ بتو>jذیہ کی طرف بھیجا تھا اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رض کو جنگ کیلئے نہیں بھیجا تھا بلکہ اسلام کی دعوت کیلئے بھیجا تھا۔

## اجتہادی غلطی کے سبب قتل

حضرت خالد بن ولید رض نے وہاں جا کر بتو>jذیہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔

"لَمْ يَحْسُنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا" لیکن بتو>jذیہ کے لوگ بے چارے یہ کہہ سکتے کہ ہم اسلام لے آئے، "الجَعْلُوا يَقُولُونَ: صَبَّانَا" بلکہ کہنے لگے ہم نے اپنادین چھوڑ دیا۔

کیونکہ کافروں کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے وہ صابی ہو جاتا ہے۔ صابی عام طور پر ستارہ پرست قوم کو کہا جاتا تھا، لیکن مشرکین عرب جو شخص بھی اتنے دین سے نکل جاتا تو کہتے یہ صابی ہو گیا۔ تکوارٹھی ہوئی ہے لوگ بے چارے پریشان ہیں تو جلدی میں "اسْلَمْنَا" کہنے کے بجائے "صَبَّانَا" کہنا شروع کیا۔ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم اسلام لے آئے لیکن یہ کہنا شروع کیا کہ ہم صابی ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رض نے سمجھا کہ یہ ایسے ہی جان بچانے کی خاطر "صَبَّانَا، صَبَّانَا" کہہ رہے ہیں۔

لیکن میرے خیال میں یہ وجہ نہیں تھی کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ان کو قتال کیلئے نہیں بھیجا تھا بلکہ اسلام کی دعوت کیلئے بھیجا تھا تو حضرت خالد بن ولید رض نے محسوس کیا کہ یہ تو ہمارے دین کی توہین کر رہے ہیں، "صَبَّانَا" کہہ کر کہ ہمارے دین کا نام صابی ہونا رکھ رہے ہیں، یہ اسلام کی توہین ہے اور اسلام کی توہین قابل برداشت چیز نہیں ہے وہ آدمی کو واجب القتل بنادیتی ہے۔ ۲

۱) وهذا البعث كان عقيباً لفتح مكة في شوال قبل العروج إلى حينه عند جميع أهل العذاري، وكانوا يأكلون مكة من ناحية بملزم، وقال ابن سعد: بعث النبي ﷺ اليه خالد بن الوليد لـ للالمالة وخمسمائين من المهاجرين والأنصار داعياً إلى الإسلام لا مقاتلاً. عمدة القاري، ج: ۷، ا، ص: ۳۳۶

۲) قوله: ((صَبَّانَا)) من: صَبَّاء، اذا سرخ من دين الى دين، وفريش كانوا يهلكون لكل من اسلم: صَبَّاء. عمدة القاري

”فجعل خالد يقتل منهم وباسر“ لہذا حضرت خالد بن ولید رض نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، کسی کو قتل کیا اور کسی کو قیدی بنایا۔

”ودفع الی کل رجل منا اسپرہ“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک قیدی دے دیا کہ اس کی حفاظت کرو، ”حتیٰ اذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا اسپرہ“ یہاں تک کہ ایک دن حضرت خالد بن ولید رض نے حکم دیا کہ جسکے پاس جو قیدی ہے اس کو قتل کر دو۔

”لقلت: والله لا أقتل اسپری ولا يقتل رجل من اصحابی اسپرہ“ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور میرے ساتھیوں کے جو اسپر ہیں ان میں سے بھی کسی کو قتل کرنے نہیں دوں گا۔

”حتیٰ قدمنا علی النبی ﷺ فلذ کرنا وله فرفع النبی ﷺ یدیه“ یہاں تک کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالم کے پاس آئے تو ہم نے اس معاملہ کا ذکر کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسالم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ ”اللهم إلی أہرا إلیک معاصرنے خالد“ خالد نے جو کچھ کیا اے اللہ میں اس سے بری ہوتا ہوں۔

یعنی انہوں نے ”صباہا، صباہا“ کا مطلب صحیح نہ سمجھا وہ بے چارے اسلام لانا چاہتے تھے اور کم از کم زبان سے تو کہنا چاہتے تھے کہ اسلام لانا چاہتے ہیں اور ہم ظاہری حال پر عمل کرنے کے مامور ہیں، لہذا ہمارے لئے ان کو قتل کرنا جائز نہیں تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید رض کے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسالم نے برأت کا اظہار تو فرمایا لیکن ساتھ میں یہ بھی محسوس فرمایا کہ خالد نے یہ جو کچھ کیا وہ دشمنی کی وجہ سے قتل نہیں کیا بلکہ غلط نہیں میں کیا، یہ اجتہادی غلطی ہوئی اس واسطے ان کے اوپر بھی بڑی تشنج نہیں فرمائی۔ البتہ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسالم نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسالم کو مال دیکر بخو جذبہ کی طرف روانہ کیا اور ان مقتولین کی دیت ادا کی گئی۔ ۵۷

وَمِنْ ذَلِكَ لِهُمْ أَهْنَ عَمَرَ الْهَمْ أَرَادُوا إِلَّا إِسْلَامَ حَلِيقَةَ، وَأَمَا خَالِدَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكْفُ بِذَلِكَ حَتَّى يَصْرُحُوا بِالْإِسْلَامِ،  
وَلَالْعَطَابِيُّ: يَحْسُمُ أَنْ يَكُونُ خَالِدُ لِقَمَ عَلَيْهِمُ الْعُدُولُ عَنْ لِفْظِ الْإِسْلَامِ لَأَنَّهُ لِهُمْ عَنْهُمْ أَنْ ذَلِكَ وَلَعْنُهُمْ عَلَى  
سَبِيلِ الْأَيْمَنِ وَلَمْ يَقْدِرُ إِلَى الدِّينِ، فَلَعْنُهُمْ مَغَارِلًا، وَالْعَالَمُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسالم عَلَى خَالِدٍ مَوْضِعُ الْأَسْلَمِ وَتَرْكُ الطَّبَتِ فِي

امرهم. *حمدہ القاری*، ج: ۱، ص: ۳۲۶، ولیعہ الہاری، ج: ۸، ص: ۵۷

۱. *حمدہ القاری*، ج: ۱، ص: ۳۷

## (۶۰) باب سریة عبد الله بن حذافہ السهمی،

وعلقمة بن مجزز المدلجمی. ويقال: إنها سریة الأنصاری  
عبدالله بن حذافہ کہی ہے اور علقمة بن مجزز مد لمجی کے سریے کا بیان اور  
اس کو سریے انصاری بھی کہا جاتا ہے

## سریے انصاری کا پس منظر

اس سریے کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کو پتہ چلا تھا کہ جدہ کے باشندوں نے اہل جبشہ کو دیکھا کہ وہ مشتبہ حالت میں جدہ کے اردوگرد کشتوں میں گشت کرتے ہوئے پائے گئے، جدہ کے ساحل کے بال مقابل جبشہ ہے جس کو آج کل "ای تھوپیا" کہتے ہیں، جبشہ کے لوگ زیادہ تر نظر ان تھے، جبشہ کے لوگ کچھ مشتبہ حرکتیں کرتے دیکھے گئے، جس سے یہ شبہ ہوا تھا کہ شاید ان کا جدہ پر حملہ کرنے کا ارادہ ہے۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے حضر علقمة بن مجزز مد لمجی کو بھیجا کر کچھ معلومات لے کر آؤ اور اگر ان کا لڑنے کا ارادہ ہو تو مار پیٹ کر بھگا دینا۔ یہ کچھ صحابہ کرام ﷺ کو لے کر گئے اور کشتی میں سوار ہوئے اور ایک جزیرہ تک ان لوگوں کا پیچھا کیا، جب جزیرہ میں جا کر دیکھا تو وہ لوگ بھاگ گئے۔ اس دوران حضور اقدس ﷺ نے ان کی مدد کے لئے کمک پیشی، اور اس دوسرے دستے کا امیر حضرت عبد اللہ بن حذافہ کہی ہے کو بنایا تھا۔ یہ اسی واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں حضرات کا نام ایک ساتھ ذکر کر دیا، اگرچہ اہل سیر اس کو "سریة علقمة بن مجزز المدلجمی" کہتے ہیں "سریة عبد الله بن حذافہ السهمی" نہیں کہتے، لیکن معتمد اوقات میں ساتھ بھیجے گئے تھے اس لئے ان کا نام اکھڑا ذکر دیا۔

اس کے علاوہ اس کو "سریة الأنصاری" بھی کہتے ہیں اس لئے کہ یہ دونوں صحابی انصاری تھے۔

ي و ذكر ان سبها أنه بلغ النبي ﷺ ان ناسا من العبيدة تراً اهم اهل جده، فبعث اليهم علقمة بن مجزز في ربيع الآخر  
في سنة تسع لى لللامانية فالتهى الى جزيرة في البحر، للماخاض البحر اليهم هربوا. فتح الباري، ج: ۸، ص: ۵۹،

٣٣٣٠ - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش: حدثني سعد بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن، عن علي عليهما السلام: بعث النبي ﷺ سرية واستعمل عليها رجال من الأنصار وأمرهم أن يطعنوا فلهم فلهم أن تطعنوني؟ قالوا: بلّى، قال: فاجتمعوا إلى حطبا، لجعوا فقال: أورقدوا النار، فأورقدوها فقال: ادخلوه، لهموا وجعل بعضهم يمسك ببعضه ويقولون: لرولا إلى النبي ﷺ من النار لما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه فبلغ النبي ﷺ فقال: ((لو دخلوا ما خرجوا منها إلى يوم القيمة، الطاعة في المعروف)). [الظر: ۱۸۳۵] [۵]

ترجمہ: حضرت علی ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک سریہ بھیجا اور اس کا امیر ایک انصاری صحابی کو بنایا اور سریہ کے لوگوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیا، ان امیر کو غصہ آیا تو کہنے لگے کہ کیا آنحضرت ﷺ نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ لوگوں نے کہا بالکل دیا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے لئے لکڑیاں جمع کرو اچنانچہ لکڑیاں جمع کر دی گئیں۔ امیر نے کہا ان میں آگ کا دو، چنانچہ آگ کا دو گئی، پھر انہوں نے کہا اس کرو اچنانچہ لکڑیاں جمع کر دی گئیں۔ امیر نے گھنے کا ارادا کیا، مگر ایک دوسرے کو گھنے سے روکتا رہا اور کہا ہم دوزخ سے بھاگ کر ہی تو آنحضرت ﷺ کی پناہ میں آئے ہیں، وہ بر ایشی شش دفعہ میں رہے حتیٰ کہ آگ بھی گئی، اور امیر کا غصہ بھی ختم ہو گیا، جب نبی کریم ﷺ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر وہ اس آگ میں گھس جاتے تو قیامت تک اس سے نہ نکلتے، اطاعت نیک کام میں ہوتی ہے۔

## آگ میں داخل ہونے کا حکم

اس روایت میں حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک سریہ بھیجا تھا اور ایک انصاری صحابی کو عامل بنًا کر بھیجا۔ مراد اس سے حضرت عبد اللہ بن حذافہ گھی ﷺ ہیں اور ساتھ جانے والے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو تمہارا امیر بنارہ ہوں ان کی اطاعت کرنا۔

۵. وفي صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب وجوب طاعة الأمر في غير معصيه والحريمها في المعصيه، رقم: ۱۸۳۰، وسنن أبي داود، كتاب الجود، باب في الطاعة، رقم: ۲۲۲۵، وسنن النسائي، كتاب البيعة، باب جزاء من أمر بعصيه فاطاع، رقم: ۳۲۰۵، ومسند أحمد، مسند على ابن أبي طالب رضي الله عنه، رقم: ۱۰۱۸، ۷۲۳، ۶۲۲

عبداللہ بن حذافہؓ کو اپنے ساتھیوں کی کسی بات پر غصہ آگیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں حضورؐ نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا انہوں نے جواباً کہا جی ہاں بالکل تمیں آپ کی اطاعت کا حکم دیا تھا، حضرت عبد اللہ بن حذافہؓ کی تھیں سریہ والوں کو کہا کہ اچھا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرو انہوں نے لکڑیاں جمع کیں اور پھر حکم دیا کہ اس میں آگ لگادو اور کہا کہ اس میں ٹھس جاؤ کہ تمہیں اطاعت امیر کا حکم ہے۔ بعض صحابہؓ کرامؓ کا ارادہ ہو گیا تھا کہ اس آگ میں داخل ہو جائیں تو ان میں سے بعض بعض کو پکڑنے لگئے کہ اس آگ میں مت جاؤ اور کہنے لگئے کہ ہم تو حضور اقدسؐ کے پاس آگ سے بھاگ کر آئے تھے اور اب آگ میں داخل ہو جائیں اور اپنے آپ کو جلا دیں، اسی تردی کی حالت میں تھیکہ آگ بھگتی تو ان کا غصہ بھی خنثدا ہو گیا۔

جب آخر حضرتؐ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اگر آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک آگ سے باہر نہ نکلتے مطلب یہ کہ خود کشی کا خت گناہ ہوتا کیونکہ "الطاوعة فی المعروف" یعنی اطاعت معروف میں ہے، نیکی کے کام میں ہے معصیت کے کام میں نہیں اور خود کشی معصیت کا کام ہے۔

### امیر اور حاکم کی اطاعت واجب ہے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امیر اور حاکم خواہ کیسا بھی ہو، جب تک وہ امیر کفر یا حج کا ارتکاب نہ کرے، اس وقت تک مباحثات میں اس کی اطاعت واجب ہے، البتہ اگر اسکے کسی حکم سے گناہ کا ارتکاب لازم آئے تو پھر اس کی اطاعت واجب نہیں رہتی یادہ کسی گناہ کا حکم دے تو پھر اس کی اطاعت واجب نہیں، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا "لَا طَاعَةٌ لِّمَخْلُوقٍ فِي مُعْصِيَةِ الْخَالقِ" مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی مت کرو۔ و لہذا امیر کے حکم کے بعد وہ مباح کام واجب بن جاتا ہے۔

اس کی اصل نر آن کریمؐ کی آیت ہے:

﴿إِنَّمَا يَأْمُرُهُمَا اللَّهُ أَنْتُمْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُو الرَّسُولَ  
وَأَوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ۱۷

۹ مصنف ابن أبي ذیبة، کتاب الجناد، باب فی امام السریہ یامرهم بالمعصیة، من قال: لاطاعة له، رقم: ۱۷۲۷

ترجمہ: ا۔، ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں، ان کی بھی۔

اس آیت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ "اولیٰ الامر" کی بھی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور "اولیٰ الامر" یعنی صاحب اختیار کی اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے الگ کر کے ذکر کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر "اولیٰ الامر" اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ بھی کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے۔

اسی لئے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر امام کسی مباح کا حکم دیدے تو وہ مباح کام واجب ہو جاتا ہے اور امام کسی مباح کام سے روک دے تو وہ مباح کام ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مباح امور میں قانون کی پابندی ضروری ہے۔

غرض یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ قاعدة کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ اطاعت معروف میں ہے محصیت میں کسی کی اطاعت نہیں، نہ امیر، استاذ، شیخ اور کسی کی بھی نہیں۔

## حکومت پر دباؤ ڈالنے کا موجودہ طریقہ

ہمارے ہاں ایک مصیبت یہ چل پڑی ہے کہ عوام کو حکومت سے اپنے حقوق حاصل کرنے اور ان سے جائز مطالبات پورے کرنے کے لئے حکومت پر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ آج جو جمہوری نظام قائم ہے، اس کا ایک لازمی حصہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عوام اپنے مطالبات تسلیم کرنے کے لئے حکومت پر دباؤ ڈالیں۔

اب یہ کہ اس دباؤ ڈالنے کے لئے کیا راستے اختیار کیا جائے؟

وہ راستہ بھی نہیں انگریز سکھا گیا کہ دباؤ ڈالنے کے لئے ہڑتاں کرو، جلوس نکالو، راستے بند کرو، چنانچہ ان کی تعلیم و تبلیغ کے نتیجے میں ہم نے سارے وہ کام شروع کر دئے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دباؤ ڈالنے کے یہ طریقے ہماری شریعت کے مطابق جائز ہیں یا نہیں؟

## موجودہ ہڑتاں کا شرعی حکم

ہڑتاں کے بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے یہ اپیل کی جائے کہ فلاں بات کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لئے یا اپنے جذبات کے اظہار کے لئے لوگ فلاں دن اپنی دکانیں اور کاروبار

بندر کھیں، پھر اس ایجیل کے بعد کوئی شخص اپنی دکان بندر کھے تو ٹھیک ہے اور اگر نہ بندر کھے تو اس سے کوئی تعریض نہ کیا جائے اور نہ اس سے زبردستی دکان بند کرائی جائے، اس حد تک ہڑتاں میں کوئی مضائقہ نہیں۔

لیکن آج تک اس جمہوری نظام میں ایسی شریفانہ ہڑتاں نہیں ہوئی اور نہ موجودہ دور میں ایسی شریفانہ ہڑتاں کا کوئی تصور ہے۔

## حکومت پر دباؤ ڈالنے کا صحیح طریقہ

اس کے برخلاف حکومت کے خلاف احتجاج کا جو طریقہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ "لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق" یعنی عوام حکومت سے یہ کہہ دے کہ ہم ان قوانین پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں جو ہمیں کسی گناہ پر آمادہ کرتے ہیں۔

مثلاً اگر تمام نجح صاحبانِ جو عدالت میں بیٹھے ہیں، وہ یہ کہہ دیں کہ ہم مقدمات کے فیصلے اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک شریعت کا قانون نہیں لایا جائیگا، اسی طرح وکلاء یہ کہہ دیں کہ ہم کسی مقدمے کی پیروی نہیں کریں گے جب تک شرعی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا اور تاجر یہ کہہ دیں کہ ہم کسی بینک میں پیسے نہیں رکھوائیں جب تک بینکوں کو سودے پاک نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کسی بینک سے پیسے نہیں گے۔

اگر یہ احتجاج کا طریقہ اپنالیجاۓ تو بڑی سے بڑی حکومیں ایک گھنٹے میں گھنٹے بیک دے، اگر لوگ یہ کہیں کہ ہم آپ کے کسی بھی معصیت کے حکم کو نہیں مانیں گے سارے عوام ملک اس بات کے لئے تیار ہو جائیں تو ایک منٹ کے لئے بھی حکومت نہیں چل سکتی۔ ہی احتجاج کا صحیح طریقہ ہے۔

## حدیث الباب اور آگ میں کون نے کا حکم

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن حذاقؓ کی عليه السلام نے آگ میں داخل ہونے کو کیوں کہا؟

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف مذاق تھا، جیسا حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ اس سری یہ میں راستے میں ایک جگہ ساتھیوں نے سینکنے اور کھانا پکانے کے لئے آگ جلائی، امیر سری ہے حضرت عبد اللہ بن حذاقؓ کی عليه السلام نے بڑے ظریف الطبع تھے یعنی مذاق کرنے والے تھے تو انہوں نے اس موقع پر کہا کہ کیا امیر کی اطاعت تم پر لازم نہیں ہے؟ سب نے کہا کیوں نہیں بالکل لازم ہے، تو انہوں نے پوچھا میں جس کام کا بھی حکم دوں وہ کرو گے؟ سب نے کہا ہاں کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو آگ میں کون نے کا حکم دیتا ہوں۔ جب سب لوگ اس حکم کی تعلیم کرنے لگے اور حضرت عبد اللہ بن حذاقؓ کی عليه السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ

آگ میں کو دجا نہیں گے تو فرمایا کہ رک جاؤ! میں تو صرف مذاق کا ورہا تھا۔ ॥  
لیکن یہاں اس روایت میں جو واقعہ ذکر ہے یہ مذاق نہیں تھا اور مذاق کا واقعہ دوسرا ہے۔  
یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن حذافہؓ کی مغلوب الغصب ہو گئے تھے جب آدمی  
غضب سے اس درجہ مغلوب ہو جائے کہ اپنے حواس کھو بیٹھے تو غلبہ حال کی کیفیت ہوتی ہے جس میں، ان شاء اللہ  
تعالیٰ، اللہ کے ہاں وہ معدور ہو گا۔

### حضرت عبد اللہ بن حذافہؓ کی عزیمت

حضرت عبد اللہ بن حذافہؓ کی وہ بزرگ ہیں جنہیں ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے شام کے قلعہ پر  
حملہ کرنے کے لئے بھیجا تھا، وہاں مسلمانوں کو نکلت ہو گئی اور شام کا جو نصرانی بادشاہ تھا اس نے حضرت عبد اللہ  
بن حذافہؓ کی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور کہنے لگا کہ تم نصرانی مذهب اختیار کرو، تو انہوں نے جواباً کہا  
کہ میں نہیں اختیار کرتا تو اس بادشاہ نے کہا کہ اگر نہیں کرتا تو دیکھو یہ سولی لٹک رہی ہے اس پر لٹکایا جائے گا۔

حضرت عبد اللہ بن حذافہؓ نے کہا کہ لٹکا دو، تو ان کو ہاتھ باندھ کر سولی کے اوپر کھڑا کر دیا اور  
ساتھیوں ہی اپنے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تیر کارو، تو وہ تیر کمانوں میں لگا کر ان کو مارنے کے لئے کھڑے ہو گئے  
بادشاہ نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر اونیٰ اسی پریشانی اور تشویش کا شایئہ بھی نہیں تو اس نے دیکھا کہ ڈرتا ہی نہیں  
اس لئے اتار دیا اور کہا کہ اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا۔

اب ایسا کیا کہ ایک بڑی سی کڑاہی مگواٹی اور اس میں تیل ڈالا اور کڑاہی کے نیچے آگ جلا دی، یہاں  
تک کہ اس میں جوش آگیا تو کہا کہ نصرانی مذهب قبول کر لودرنے اس کھولتے ہوئے تیل میں پھینکتا ہوں، عبد اللہ بن  
حذافہؓ کی نے کہا کہ جو چاہے کرلو، نصرانی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے!  
چنانچہ ایک قیدی کو لایا اور اس کو اس میں ڈال دیا تو جس وقت ڈالا تو تیل ابل رہا تھا اس آدمی کے اس  
میں گرتے ہی اسی لمحے گوشت اور بڑی الگ الگ ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو گا، انہوں نے کہا  
کہ میں اپنادین نہیں چھوڑ سکتا۔

المسنون ماجد، کتاب الجهاد، باب لاطاعة في معصية الله، ج: ۲، ص: ۹۵۵ - وفي حدیث ابی سعید انهم تعجزوا  
حتى ظن أنهم واليرون فيها، فقال: احبوا الفسکم لأنما كث اضحك معكم. عمدة القاري، ج: ۱، ص: ۵۵۸،

بادشاہ نے کہا کہ لے جاؤ اس کو اور ڈال دو، جب لوگ ان کو پکڑ کر لے جانے لگے تو روپڑے، تو اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھانا موت سامنے دیکھ کر رونا آگیا۔ حضرت عبد اللہ بن حذافہؓ کیمؓ نے کہا کہ بے وقوف اس لئے تھوڑا رورہا ہوں بلکہ اس لئے رورہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے جو اس طرح اللہ کی خاطر قربان کر سکتا ہوں تو اس لئے رورہا ہوں کہ دس جانیں اگر ہوتیں تو اللہ کے راستے میں اسی طرح قربان کرتا۔ ایسی اذیت ناک موت آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ دس جانیں ہوتیں تو اللہ کے راستے میں قربان کرتا۔

بادشاہ نے کہا کہ تم عجیب آدمی لگتے ہو چلوا نصرانی شہ بختم صرف میری پیشانی پر بوسہ دے دو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا صرف مجھے یا میرے سب ساتھیوں کو؟ کہا سارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔

انہوں نے کہا پھر بوسہ دیتا ہوں، یہ بوسہ کیونکہ نہ کوئی شرک و کفر تھا نہ کوئی گناہ، اور اپنی اور مسلمان قیدیوں کی جان اس پیچتی تھی اس لئے قبول کر لیا اور جا کر نصرانی بادشاہ کو بوسہ دے دیا اور بوسہ دے کر خود سست سارے ساتھیوں کو چھڑایا اور ساتھیوں کے ہمراہ واپس مدینہ منورہ آگئے۔

حضرت عمر فاروقؓ کو اطلاع میں تو مدینہ منورہ سے باہر نکل کر استقبال کیا اور کہا کہ میں تمہاری پیشانی پر اسی طرح بوسہ دیتا ہوں جس طرح تم نے اس کم بخت اور بد بخت کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس واسطے کہ اس وقت بوسہ دینا واجب تھا اور جہاں کفر پرا کراہ ہو رہا تھا اس میں عزیمت یہ تھی کہ آدمی اکراہ کو قبول نہ کرے جان دیجے، وہاں تم نے عزیمت اختیار کی۔

لیکن یہاں اکراہ تھا، دین چھوڑنے پر نہیں بلکہ ایک کافر کی پیشانی کو چومنا زیادہ سے زیادہ معصیت ہے گناہ پر اکراہ ہو رہا تھا، تو جب گناہ پر اکراہ ہو تو جان بچانے کے لئے گناہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی۔ اللہ اتم نے جو بوسہ دیا یہ تمہارا اس سے انکار کرنا بھی اللہ کے لئے اور یہ تمہارا بوسہ دینا بھی اللہ کے لئے ہے، اللہ امیں تمہاری پیشانی پر بوسہ دیتا ہوں۔

یہ حضرت عبد اللہ بن حذافہؓ کا واقعہ ہے۔ ۱۱، ۱۲

الإصابة في تمييز الصحابة، ذكر من أسماء عبد الله، عبد الله بن حذافه، ج: ۲، ص: ۵۲، و سهر اعلام النبلاء، الطبقة الأولى: الصحابة وكبار التابعين، السابقون الأولون، عبد الله بن حذافه، ج: ۳، ص: ۳۲۵-۳۲۸

الرواية: و سنت يومي اور قدم يومي كمسندر متعلق تفصيل كمسندر مراجعت فرمائين: جواہر الفتن، ج: ۱، ص: ۱۸۱، وباب کسر امة للهبل الرجال والترزامه اخاه عند اللقاء على وجه التحية، بحث القيام التعظيمى والقيام للأكرام، لم: اعلاء السنن، ج: ۱، ص: ۳۲۵-۳۲۸

## (۶۱) باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة

## الوداع

حجۃ الوداع سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کو یمن روانہ کرنے کا بیان

۳۳۳۱ - حدیثنا أبو عوالة: حدیثنا عبد الملک، عن أبي بردۃ قال: بعث رسول الله ﷺ موسیٰ ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مختلف، قال: واليمن مختلفان، لم قال: ((يسراً ولا تعرضا، وبشرا ولا تنفرا)). فانطلق كل واحد منها إلى عمله، قال وكان كل واحد منها إذا سار في أرضه كان قريباً من صاحبه أحدث به عهداً فسلم عليه فسار معاذ في أرضه قريباً من صاحبه أبي موسى فجاءه يسيراً على يده حتى انتهى إليه فإذا هو جالس ولد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عندك قد جمعت يداه إلى عنقه فقال له معاذ: يا عبد الله ابن قيس، أيم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه، قال: لا أنزل حتى يقتل، قال: إنما جئنا به لذلك نالنزل، قال: ما أزال حتى يقتل، فامر به فقتل ثم نزل فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أنفوقه لفوق، قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أيام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فالقرا ما كتب الله لي فاختسبت نومي كما اختسبت قومي. [راجع: ۲۲۶۱، والنظر:

[۳۳۳۵]

ترجمہ: حضرت ابو بردہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن کی طرف بھیجا، ہر ایک کو الگ الگ صوبہ کی طرف بھیجا، یمن کے دو صوبے تھے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا تم دونوں نزی کرنا، تختی نہ کرنا، لوگوں کو خوش رکھنا، رنجیدہ نہ کرنا۔ چنانچہ ہر ایک اپنی اپنی حکومت پر چلا گیا، حضرت ابو بردہ ﷺ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک جب اپنی حدود حکومت کی سیر کرتا، اور وہ حصہ اس کے لئے دوسرے ساتھی سے قریب ہوتا، تو وہ ملاقات کر کے سلام کرتا، حضرت معاذ بن جبل ﷺ، ابو موسیٰ کی حدود کے قریب اپنی حدود میں اپنے خبر پرسیر کرتے کرتے ابو موسیٰ کے پاس آگئے، حضرت ابو موسیٰ ﷺ میشے تھے اور ایک آدمی جس کی

مغلکیں کسی ہوئی تھیں، اور اس کے اروگر لوگ جمع تھے، ان کے پاس تھا، معاذؑ نے ان سے کہا کہ اے عبد اللہ بن قیس یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدمی اسلام لا کر مرتد ہو گیا ہے، معاذؑ نے کہا جب تک اسے قتل نہ کر دیا جائے میں نہیں اتروں گا۔ ابو موسیؑ نے کہا اسے قتل ہی کے لئے لایا گیا ہے، لہذا آپ اتر آئیں، معاذؑ نے کہا جب تک یہ قتل نہ ہو میں نہ اتروں گا، چنانچہ ابو موسیؑ کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا، پھر معاذؑ خبر سے اترے، معاذؑ نے پوچھا اے عبد اللہ! تم قرآن کس طرح پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں شہر شہر کر پڑھتا ہوں، ابو موسیؑ نے کہا اے معاذ! تم کس طرح پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اول رات میں سو جاتا ہوں، پھر ایک نیند لے کر اٹھ جاتا ہوں اور جتنا خدا کو منظور ہوتا ہے پڑھ لیتا ہوں، میں اپنی نیند میں بھی عبادت کے برابر ثواب سمجھتا ہوں۔

## یمن سنجینے کا مقصد

حضور اکرمؐ نے حضرت ابو موسیؑ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو جنة الوداع سے پہلے یمن کی طرف سمجھا تھا، ان دو حضرات کو وہاں سنجینے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں بڑی تعداد مسلمان ہو گئی تھی اس لئے ان کو تعلیم دینا اور دوسری کتب تبلیغ کرنا اور ساتھ مسلمانوں کے انتظامات انجام دینا یہ سارے مقاصد تھے۔

”وبعث کل واحد منهم على مخلاف“ تو حضرت ابو بردہؓ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک صوبہ میں سمجھا۔

”مخلاف“ ایک صوبہ کو کہتے ہیں ”والیمن مخلافات“ یمن کے دو حصے ہیں ہر ایک کو مخالف کہتے ہیں۔ تو آپؐ نے یمن کے مشرقی حصے کی سمت حضرت ابو موسیؑ اشعریؑ کو روانہ فرمایا اور مغربی سمت یعنی عدن اور جند کے اطراف و اکناف میں حضرت معاذ بن جبلؓ کو مقرر کیا۔

”لم قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا“ اور پھر آنحضرتؐ نے دونوں حضرات کو ہدایت فرمائی کہ آسانی پیدا کرنا مشکلات نہیں اور لوگوں کو خوشخبری سنانا نفرت میں بنتا نہیں کرنا یعنی دین کے

”الـ (مخلاف) وهو للیمن كالریف للعراق، اي: الرستاق، والمخاليف الرسائل، اي: الکور. قوله: ((والیمن مخلافات))، اي: ارض الیمن کورستان، وكانت لمعاذ الجهة العليا الى صوب عدن، وكان من عمله الجند، بفتح الجهم والنون، وله بها مسجد مشهور الى اليوم، وكانت جهة اہی مرسی السفلی. عمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۵، ولنفع

بارے میں ایسا انداز اختیار کرو کہ جس سے لوگوں میں امید پیدا ہو، نہ یہ کہ لوگ بھاگ جائیں۔

"وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ الْغُخْ" تو ان میں سے ہر ایک جب اپنے علاقہ میں چلتا اور دوسرے ساتھی سے قریب ہوتا تھا تو اس سے ملاقات پر اک عہد کی تجدید کرتا، "السَّارِ معاذُ  
فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى الْغُخْ" حضرت معاذ بن جبل رض اپنے علاقے میں جا رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رض کے قریب تھے تو اپنے چور پر سوار ہو کر وہ حضرت ابو موسیٰ رض سے ملنے آئے یہاں تک کہ ان سے مل گئے۔

## حدود اللہ کے نفاذ میں جلدی

"فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَلَدَ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ الْغُخْ" جب پہنچے تو دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری رض بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے پاس جمع ہیں، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ "فَقَالَ لَهُ معاذٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَبْنَ قَبِيسٍ، أَيْمَ هَذَا؟" حضرت معاذ بن جبل رض نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رض سے پوچھا کہ اے عبد اللہ بن قبیس! یہ شخص کون ہے؟ عبد اللہ بن قبیس حضرت ابو موسیٰ اشعری رض کا نام ہے۔

"قَالَ: هَذَا رَجُلٌ كُفَّارٌ بَعْدَ اسْلَامِهِ، قَالَ: لَا أَنْزَلْتُهُ حَتَّى يُقْتَلُ" انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام کے بعد کفر اختیار کیا ہے یعنی مرتد ہو گیا۔ حضرت معاذ رض نے فرمایا کہ جب تک اس شخص کو قتل نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں سواری سے نہیں اتروں گا، کیونکہ یہ مرتد ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ "قَالَ: إِنَّمَا جُنَاحَكَ لِلَّذِكَ فَانْزَلْ" ابو موسیٰ اشعری رض نے فرمایا کہ اس شخص کو اسی لئے لا یا گیا ہے تاکہ قتل کیا جائے، لہذا آپ سواری سے اتر جاؤ، "قَالَ: مَا أَنْزَلْتُهُ حَتَّى يُقْتَلُ، لَا مَرْبِهِ لِفَتْلِ لَمْ  
نَوْلٍ" تو حضرت معاذ بن جبل رض نے کہا کہ جب تک اس کو قتل نہ کیا جائے میں سواری سے نہیں اتروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رض کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا، پھر حضرت معاذ رض سواری سے اترے۔ حضرت معاذ بن جبل رض کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے اسی لئے جلد سے جلد نافذ کیا جائے۔

## صحابہ کرام رض کا اعمال کے بارے آپس میں محاسبہ

"فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟" حضرت معاذ رض نے اس کے بعد ابو موسیٰ رض سے کہا آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ یعنی قرآن کی تلاوت کا کیا معمول ہے؟ کن کن اوقات میں اور کتنا پڑھتے ہیں؟

”قال: أتفوقه تفوقا“ انہوں نے کہا کہ تھوڑے تھوڑے وقفہ میں پڑھتا ہوں۔

”تفوقا“ ایک مرتبہ اونٹی کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ دودھ آنے تک جودرمیان کا وقفہ ہوتا ہے اسکو کہتے ہیں، مطلب دن اور رات میں وقفہ وقفہ سے قرأت کرتا ہوں یہ نہیں کہ ایک ہی وقفہ میں پڑھ لوں، جیسے اونٹی کے تھنوں میں دودھ وقفہ وقفہ سے آتا ہے اس طرح وقفہ وقفہ سے قرأت کرتا ہوں۔ ۱۵

”قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟“ حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ نے ان سے پوچھا کہ اے معاذ! تم کیسے قرآن پڑھتے ہو؟

”قال: أنا م أول الليل فاقوم وقد قضيت جزئي من النوم“ حضرت معاذ بن جبلؓ نے کہا کہ میں رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتا ہوں پھر میں جب رات کے ایک حصے میں نیند کر چکا ہوتا ہوں تو پھر کھڑا ہو جاتا ہوں، ”فاقرأ ما كتب الله لي فاختسبت نومي كما أختسبت قومي“ اور جتنا ہو سکتا ہے خلاوت کرتا ہوں اور میں اپنے سونے میں بھی ثواب کی امید رکھتا ہوں اتنی ہی جتنی کھڑے ہونے کی یعنی نماز پڑھنے کی کیونکہ سونا بھی اللہ کیلئے ہے تاکہ وقت پر بیدار ہو کر اپنے فرائض اور عبادات میں لگ جاؤں۔

۳۳۲۳ - حدثنا إسحاق: حدثنا خالد، عن الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري ؓ: أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن لسألة عن أشربة تصنع بها فقال: (( وما هي؟)) قال: التبع والمزر، فقلت لأبي بردة: ما التبع؟ قال: لم يدل العسل، والمزر: لم يدل الشعير، فقال: (( كل مسکر حرام)). رواه جریر وعبد الواحد، عن الشيباني، عن أبي بردة. [راجع: ۲۲۶۱]

ترجمہ: سعید بن ابی بردہ رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ہمیں یمن کی جانب بھیجا تو انہوں نے یمنی شرابوں کا مسئلہ پوچھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا وہ کون سی شرابیں ہیں؟ تو ابو موسیٰ اشعریؑ نے کہا، تبع اور مزر، سعید بن ابی بردہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ تبع کیا؟ انہوں نے کہا کہ شہد کا شیرہ، اور مزر کا جو کا شیرہ۔ تو آپ ﷺ نے انہیں جواب دیا کہ ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ اس روایت کو جریر اور عبد الواحد نے شیبانی سے اور انہوں نے ابوبردہ سے روایت کیا ہے۔

فِي (التفوّل) بالفاء والكاف اي: الازم قراءته للأريهار أهيناً بعد هبّنا، يعني: لا الرا اوردی دفعۃ واحدة بل هو كما يحلب اللبن ساعة بعد ساعة، واصله ماخوذ من لفاظ النافلة وهو ان تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر، ثم تحلب مكدا

٣٣٣٣، ٣٣٣٥ - حدثنا مسلم: حدثنا شعبة: حدثنا سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: بعث النبي ﷺ جده أبي موسى و معاذًا إلى اليمن فقال: ((يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا ولطاؤعاً)), فقال أبو موسى: يا نبی اللہ إن أرضنا بها شراب من الشعير: المزر، و شراب من العسل: البَنْع، فقال: ((كل مسکر حرام)), فانطلقتا. فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟

قال: قاتما و قاعدا و على راحلتي، و اتفوقه تفرقنا. قال: أما أنا فانا فاقوم وأنا.

فاحتسبت نومتي كما احتسب قومتي، و ضرب لسطاطا لجعلها يتزوان، فزار معاذ أبي موسى، فإذا رجل موافق، فقال: ما هذ؟ فقال أبو موسى: يهودي مسلم لم ارتد، فقال معاذ: لأضر بين عنقك. [راجع: ٢٢٦١، ٣٣٣٢]

تابعه العقدي و وهب، عن شعبة. وقال وكيع والنضر وأبو داود، عن شعبة، عن سعيد، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ رواه جرير بن عبد الحميد، عن الشيباني، عن أبي بردة.

ترجمہ: سعید بن ابی بردہ اپنے والد (حضرت ابو موسی اشعری ﷺ کے بیٹے) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے دادا ابو موسی اور معاذ رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف بھیجنے ہوئے فرمایا زمی کرنا، بختی نہ کرنا، لوگوں کو خوش رکھنا، رنجیدہ نہ کرنا اور تم دونوں متفق رہنا۔ ابو موسی ﷺ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمارے ملک میں جو کا جو کی شراب مرز ہے اور شہد کی شراب تج ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر نشر و الی چیز حرام ہے۔ چنانچہ ہم دونوں چلے گئے، معاذ نے ابو موسی سے پوچھا، تم کس طرح قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سواری پر تھہر تھہر کر پڑھتا ہوں، معاذ نے کہا میں تو سوچاتا ہوں اور پھر المحتا ہوں اور اپنی نیزد میں بھی وہی ثواب سمجھتا ہوں، جو اپنی عبادت میں، پھر ابو موسی ﷺ نے ایک خیر نصب کرایا اور ایک دوسرے کی ملاقات ہونے لگی۔

ایک مرتبہ معاذ ابو موسی ﷺ کے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو بندھے ہوئے دیکھا، تو معاذ ﷺ نے کہا یہ کیا قصہ ہے؟ ابو موسی ﷺ نے جواب دیا، یہ یہودی تھا جس نے اسلام قبول کیا پھر مرد ہو گیا، معاذ نے کہا میں اس کی گروں مار دوں گا۔

عقدی اور وہیب نے شعبہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی، اور وكيع، نضر اور ابو داود نے شعبہ سے، انہوں نے سعید سے انہوں نے اپنے والد سے، اپنے دادا سے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی، اور جریر بن عبد الحميد نے اس کو شیبانی سے، انہوں نے ابو بردہ سے روایت کی۔

٤٣٣٦ - حديث عباس بن الوليد هو النرسى: حدثنا عبد الواحد، عن أبوبن عائذ: حدثنا قيس بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: حدثني أبو موسى الأشعري عليه السلام قال: بعذنى رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه إلى أرض فومى لجست ورسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه منيغ بالأبطح، فقال: ((أحججت يا عبدالله بن قيس؟)) قلت: نعم يا رسول الله، قال: ((كيف قلت؟)) قال: قلت: لبيك إهللا كاهلا لك، قال: ((لهل سقت معك مديا؟)) قلت: لم أستق، قال: ((اللطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة ثم حل)), لفعلت حتى مشطت لى امرأة من نساء بنى قيس ومكتنا بذلك حتى استخلف عمر. [راجع: ١٥٥٩]

ترجمة: طارق بن شهاب کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو موسی اشعری عليه السلام نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلوات الله عليه وآله وسلامه نے میری قوم کے ملک میں بھیجا، پھر میں آیا، اس وقت رسول اللہ صلوات الله عليه وآله وسلامه مقام اٹھ میں ظہرے ہوئے تھے، تو آپ صلوات الله عليه وآله وسلامه نے پوچھا اے عبدالله بن قيس! کیا تم نے حج کا احرام باندھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول! آپ صلوات الله عليه وآله وسلامه نے دریافت فرمایا (كلمات احرام) تم نے کس طرح کہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا تھا کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اور آپ صلوات الله عليه وآله وسلامه کی طرح احرام باندھا ہے۔ آپ صلوات الله عليه وآله وسلامه نے فرمایا کیا تم اپنے ساتھ قربانی کا جانور لائے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، آپ صلوات الله عليه وآله وسلامه نے فرمایا بیت اللہ کا طواف کرو، اور صفا و مروہ کی سعی کر کے احرام کھول دو، میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ بنو قيس کی ایک عورت نے میری صلوات الله عليه وآله وسلامه بھی کر دی، اور ہم حضرت عمر صلوات الله عليه وآله وسلامه کی خلافت تک ایسا ہی کرتے رہے۔

## شرح

حضرت ابو موسی اشعری عليه السلام اپنے یمن کی جانب عامل بنا کر بھیجے جانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلوات الله عليه وآله وسلامه نے اپنی قوم کی زمین کی طرف یعنی یمن کی طرف بھیجا۔

”لجست ورسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه منيغ بالابطح“ وہاں میں یمن میں رہا، پھر جب حضور اقدس صلوات الله عليه وآله وسلامه نے جیہے الوداع فرمایا تو میں مکہ مکرمہ اس حالت میں پہنچا کہ حضور اقدس صلوات الله عليه وآله وسلامه نے اٹھ میں اوونٹ بیٹھایا ہوا تھا یعنی وادی بطحاء میں قیام فرمایا ہوا تھا۔

”لقال: أحججت يا عبدالله بن قيس؟“ حضور صلوات الله عليه وآله وسلامه نے ان سے دریافت فرمایا کہ اے عبدالله بن قيس! کیا حج کا ارادہ ہے یعنی کیا تم نے حج کا احرام باندھ لیا ہے؟

”قلت: نعم يا رسول الله، قال: كيف قلت؟“ حضرت ابو موسی اشعری عليه السلام فرماتے ہیں کہ میں

جواب دیا کہ جی ہاں میں حج کا ارادہ کیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے تلبیہ کے وقت کیا کہا تھا؟ یعنی احرام کون سا باندھا تھا قرآن، تمتع یا افراد حج کا یا عمرہ کا؟

”لَالِ: لَبِيكَ إِهْلَ لَا كَاهْلَ لَكَ“ تَوَضُّعَتْ ابُو مُوسَى اشْعُرِيٌّ فَرَمَاتَتْ هِنَّ كَمْ نَكَہَكَ مِنْ نَزَّلَتْ تَلْبِيَةَ لَبِيكَ پُڑَھَا اور دُولَ مِنْ يَنْيَتْ كَتَھِی کَجِیَا تَلْبِيَةَ حَضُورَ أَقْدَسَ ﷺ نَزَّلَتْ پُڑَھَا ہو گا ویسا ہی میرا بھی ہے، اگر حضور اقدس ﷺ نے قرآن کیا ہے تو میرا بھی قرآن ہے اور اگر آپ ﷺ نے تمتع کیا ہو تو میرا بھی تمتع ہو گا۔

”لَالِ: لَهْلَ سَقْتُ مَعَكَ هَدِيَّا؟“ پھر آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیا ہدی چلا کر لائے ہو یعنی کیا تم اپنے ساتھ قربانی کا جانور لائے ہو؟ ”لَلِتْ: لَمْ أَسْقَ“ تو میں نے عرض کیا نہیں۔

”لَالِ: فَطَفَ بِالْبَيْتِ وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ لِمَ حَلَ“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف کرو، سعی کرو اور حلال ہو جاؤ۔

کیونکہ حضور اقدس ﷺ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے، اس واسطے آپ ﷺ حلال نہیں ہو سکتے تھے لیکن دوسرے صحابہ کرام ﷺ کو حلال ہونے کا حکم دیا تھا، حضرت ابو موسی اشعریٰ ﷺ سے کہا کہ جس طرح دوسرے صحابہ کرام ﷺ عمرہ کر کے حلال ہو رہے ہیں تم بھی حلال ہو جاؤ۔

”فَفَعَلَتْ حَتِيٌّ مِشْطَتَتْ لِي امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْمِسٍ“ چنانچہ میں بھی حلال ہو گیا یہاں تک کہ بنو قیمیں کی عورتوں میں سے ایک عورت نے میری بالوں میں لگھی کی، ”وَمَكْثَنَا بِذَلِكَ حَتِيٌّ امْتَحَلَّفُ عَمْرَ“ یہ عمل ہم کرتے رہے یعنی تمتع کرتے رہے یہاں تک حضرت عمر ﷺ خلفیہ بن گعے اور انہوں نے تمتع کرنے سے منع کرنا شروع کر دیا۔

اس کی تفصیل کتاب الحج میں گزر چکی ہے۔

۷۳۳ - حدیثی حبان: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ زَكْرِيَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صِيفِي، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى أَبْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِمَعَاذَ بْنِ جَبَلَ حَيْنَ بَعْثَةَ إِلَيْ الْيَمَنِ: ((إِنَّكَ مَسْأَلٌ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جَنَّتْهُمْ لَا دِعْهُمْ إِلَيْهِمْ أَنْ يَشْهُدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبَرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرِضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلِيلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبَرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ لَدَهُ لِرَضِ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ لَوْ خَدَّمُوا أَغْنِيَاهُمْ، لَتَرَدُ عَلَى لِقَوْنَاهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ، فَإِنَّكَ وَكَرَامُ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقْ دُعَوةَ الْمُظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِيَنْهِ وَبِيَنِ اللَّهِ حِجَابَ)). [راجیع: ۱۳۵۹]

قال أبو عبد الله: طَوَّعْتُ: طَاعَتْ وَأطَاعَتْ لِغَةً، طَعَتْ وَطَعَتْ وَاطَّعَتْ.

ترجمہ: ابی معبد جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل ﷺ کو صحیح وقت برایت فرمائی تھی کہ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہیں، اس لئے جب تم ان کے پاس پہنچو تو پہلے انہیں اس کی دعوت دو کر وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سواہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ اس پر ایمان لے آئیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دوزانہ ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، پھر اگر تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائیگی اور انہیں کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی، جب یہ بات بھی مان لیں تو ان کا سب سے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا اور مظلوم کی آہ سے ہر وقت ذرتے رہنا اس لئے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

ابو عبد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ امام بخاری کہتے ہیں کہ "طَوَّعْتُ" لغت کے اعتبار سے طاعت اور اطاعت کے معنی میں ہے، اسی سے "طَعَتْ وَطَعَتْ وَاطَّعَتْ" واحد شکل کے صفحے ہیں۔

۳۳۲۸ - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن خبيب بن أبي ثابت، عن

سعید بن جبیر، عن عمرو بن ميمون أن معاذا ﷺ لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ:  
﴿وَالْخَدُّاللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾، فقال رجل من القوم: ولقد قرأت عين أم إبراهيم.

زاد معاذ، عن شعبة، عن حبيب، عن سعيد، عن عمرو: أم النبي ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء، فلما قال: ﴿وَالْخَدُّاللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾،  
فقال رجل خلفه: قرأت عين أم إبراهيم. ۱۱

ترجمہ: عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ حضرت معاذ ﷺ جب میں آئے تو لوگوں کو صحیح کی نماز پڑھاتے ہوئے یہ آیت پڑھی کہ ﴿وَالْخَدُّاللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ابراہیم ﷺ کی ماں کی آنکھ شہندی ہو گئی۔

معاذ نے شعبہ سے، انہوں حبیب سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے عمرو بن میمون سے اس روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ ﷺ کو جب میں بھیجا تو معاذ ﷺ نے صحیح کی نماز میں سورہ ناء پڑھی، جب یہ آیت آئی اللہ نے ابراہیم کو اپنادوست بنالیا ہے، تو ایک آدمی نے پیچھے سے کہا حضرت ابراہیم ﷺ کی ماں کی آنکھ شہندی ہو گئی۔

## شرح

اس حدیث میں ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل ﷺ نے فجر کی نماز میں یہ آیت تلاوت فرمائی کہ

**لَوْلَا تَخَدَّدَ اللَّهُ إِلَيْنَا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا**

ترجمہ: اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنالیا ہے۔

ایک شخص نے جو بھچے کھڑا تھا اس نے کہا حضرت ابراہیم ﷺ کی والدہ ماجدہ کی آنکھوں میں مخدود پڑ گئی، آنکھوں کی مخدودگی سے مراد مسرت اور خوشی ہے کہ ان کے بیٹے کو اللہ نے اپنا دوست بنالیا ہے۔ ۱۸

[النساء: ۱۲۵]

۱۸ ((قررت عین ام ابراہیم))، ای حصل لها السرور، وکنی عنه بقررت عینها ای بردت دمعتها لان دمعة السرور باردة بخلاف دمعة العزن لانها حارة. فتح الباری، ج، ۸، ص: ۷۵

(۶۲) باب بعث علی بن ابی طالب و خالد بن الولید رضی

الله عنہما إلى الیمن قبل حجۃ الوداع

علی بن ابی طالب اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حجۃ الوداع سے  
پہلے یمن روائی کا بیان

۳۳۲۹ - حدیثی احمد بن عثمان: حدیثنا شریح بن مسلمہ: حدیثنا ابراهیم بن یوسف بن اسحاق بن ابی اسحاق: حدیثی ابی، عن ابی اسحاق: سمعت البراء رض: بعثنا رسول الله صلی اللہ علیہ و آله و سلم مع خالد بن الولید إلى الیمن قال: ثم بعث عليها بعد ذلك مکاله فقال: ((مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء لم يقبل)). لکن  
یمن عقب معه، قال: فلهمت أولى ذات عدد. و  
ترجمہ: ابن اسحاق کہتے ہیں میں حضرت براء رض سے سنا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے خالد بن ولید رض  
کے ساتھ یمن بھیجا پھر اس کے بعد ان کی جگہ حضرت علی رض کو بھیجا اور فرمایا کہ خالد کے ساتھیوں سے کہہ دینا کہ جو  
تمہارے ساتھ جانا چاہے چلا جائے اور جو واپس آتا چاہے آجائے۔ میں ان کے ساتھ پیچے رہ جانے والوں  
میں سے تھا، کہتے ہیں کہ مجھے قیمت میں سے بہت سے اوقیہ ملے تھے۔

حضرت علی اور حضرت خالد رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجنے کا مقصد

فتح مکہ کے بعد اور حجۃ الوداع سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے مختلف مقامات پر صحابہ کرام رض کو بھیجا،  
کہیں پر دین اسلام کی تبلیغ و تعلیم کے لئے، کہیں پر دشمن کی سرکوبی کے لئے روانہ فرمایا۔

اس روایت میں ہے کہ حجۃ الوداع سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے حضرت خالد بن ولید رض کو اور پھر بعد میں  
حضرت علی رض کو یمن بھیجا تھا، گو کہ یمن میں اسلام کافی حد پھیل چکا تھا لیکن پھر بھی کچھ لوگ مزاحمت کر رہے تھے۔

"بِعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ" حضرت براء رض فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم نے ہمیں پہلے حضرت خالد بن ولید رض کے ساتھ یعنی روائی فرمایا، جب حضرت خالد بن ولید رض کا اٹکر وہاں پہنچ گیا، "قال: لَمْ يَعْثُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانُهُ" پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت علی صلی اللہ علیہ و سلّم کو بھی ان کے پیچھے روائی فرمایا۔

مقصد یہ تھا کہ وہاں جو مال غیرمت جمع ہوا ہے اس کو تقسیم کرنے کے لئے حضرت علی صلی اللہ علیہ و سلّم مذکور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں دعوت، تبلیغ اور ضرورت پڑے تو جہاد میں بھی حضرت علی صلی اللہ علیہ و سلّم حصہ لیں، تو جو لوگ حضرت خالد بن ولید رض کے ساتھ گئے تھے ان میں سے بہت سے لوگ مدینہ منورہ واپس آگئے تھے۔

جب حضرت علی صلی اللہ علیہ و سلّم جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ و سلّم نے ان صحابہ کرام صلی اللہ علیہ و سلّم سیلر مایا "مرأصعاب خالد من شاء العَغْ" جو حضرت خالد بن ولید رض کے ساتھ گئے تھے اور واپس آگئے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی ان کے ساتھ جانا چاہے تو چلا جائے اور اگر نہ جانا چاہے تو کوئی بات نہیں مدینہ منورہ میں رہے۔

"فَكُنْتَ فِي مِنْ عَقْبِ مَعَهُ" چنانچہ حضرت براء رض فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت علی صلی اللہ علیہ و سلّم کے ساتھ دوبارہ لوٹ کر گئے، "فَخَفِتَ أَوْ أَلَى ذَوَاتَ عَدْدٍ" تو مجھے بہت سے اوقیہ چاندی غیرمت میں ملے، ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے۔

۳۲۵۰ – حدیثی محمد بن بشار: حدثنا روح بن عبادة: حدثنا علی بن سوید بن منجوف، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رض، قال: بعث النبي صلی اللہ علیہ و سلّم علیا إلی خالد ليقبض الخمس و كفت أبغض علیا ولد اغتسل، لقلت لخالد: الا ترى إلی هذا؟ فلما قدمنا علی النبي صلی اللہ علیہ و سلّم ذكرت ذلك له فقال: ((يا بريدة، أبغض علیا؟)) لقلت: نعم، قال: لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن بريدة اپنے والد بريدة رض سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم نے حضرت علی صلی اللہ علیہ و سلّم کو حضرت خالد رض کے پاس خمس لینے کو بھیجا، میں ان کا مقابل ہو گیا اور جب انہوں نیخل کیا، تو میں نے خالد رض سے کہا کہ آپ ان کوئی دیکھ رہے ہیں؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ و سلّم کے پاس آئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلّم سے یہ بات ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ و سلّم نے فرمایا اے بريدة! کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ و سلّم نے فرمایا کہ بغض نہ کرو کہ اس کا حصہ تو خمس میں اس سے بھی زیادہ ہے۔

## حضرت علیؑ کو خمس میں اختیار تھا

حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں "بعث النبي ﷺ علیٰ ای خالد لیقبض الخمس" حضورؐ نے علیؑ کو خالد بن ولیدؓ کے پاس بھجا تھا تاکہ وہ خمس پر قبضہ کریں، "وَكُنْتَ أَبْعِضَ عَلَيَا وَلَدَ الْفَسْلِ" حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علیؑ سے بعض تھا یعنی ناراض تھا اور انہوں نے غسل بھی کیا تھا۔ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا اور خمس پر حضرت علیؑ نے قبضہ کیا تو اس میں سے ایک باندی کو حضرت علیؑ نے اپنے لئے لے لیا، کیونکہ خس امام یا اس کے قائم مقام کا حق ہے اور حضرت علیؑ رسول اللہؐ کے قائم مقام بن کر خس لینے کے تھے یا یہ کہ اس میں اہل بیت کا بھی حصہ ہوتا ہے تو اس حق کے طور پر ایک باندی حضرت علیؑ نے لے لی۔

اس بات پر ان سے ناراضگی تھی اور کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے وہ جاریہ اپنے قبضہ میں لے لی اور اگلے دن صبح دیکھا کہ انہوں نے غسل بھی کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جاریہ سے فائدہ بھی حاصل کیا ہے۔

"لقللت لخالد: الا ترى الى هدا؟" میں نے خالدؓ سے کہا کہ آپ دیکھنیں رہے کیا ہو رہے؟<sup>۱۱</sup> دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت علیؑ نے اس جاریہ کو لے لیا پھر ہم نے صبح یہ دیکھا گویا ان کے بالوں سے پانی ٹکر رہا ہے یعنی انہوں نے غسل کیا ہے حضرت خالد بن ولیدؓ نے حضرت بریدہؓ سے کہا کہ آپ دیکھنیں رہے کیا ہو رہے؟ کہ حضرت علیؑ نے عمل کیا کہ جاریہ رکھی اور پھر اس سے قسمت بھی کیا۔<sup>۱۲</sup>

<sup>۱۱</sup> فشن بریدۃ اللہ علی و کان مافعله علی من ذلک سبب بغض بریدۃ اباه قوله: ((وقد اغسل))، کتابۃ عن الوطء، اراد ان علیاً واطیء الجاریۃ التي اخلها من الخمس واصطفاها لنفسه. قوله: ((لقللت لخالد: الا ترى الى هدا)) القائل هو بریدۃ، وأشار: بهذا، الى علیؑ، وقال الخطابی: لیه اشکالان: أحدهما: انه لسم لنفسه. والثانی: انه أصابها لبل الاستبراء، والجواب ان الامام له أن يقسم الفنالم بين اهلها وهو شریکهم، لكنه من يقوم مقامه فيها، وأما الاستبراء فيحصل ان تكون الرصیمة غير بالذمة، او كانت عذراء، وادى اجتهاده الى عدم الاحتياج اليه. عمدۃ القاری، ج: ۱۸، ص: ۱۱۱۲؛

<sup>۱۲</sup> ولد اور ده الاسماعیلی من طرق الى روح بن عبادة الذي اخرجه البخاری من طریقہ فقال فی سواله ((بعث علیٰ الى خالد لیقبض الخمس)) وفى روایة له ((لیقسم اللہی علیٰ فاصطفی علیٰ منه لنفسه میتہ)) بفتح المهملة وکسر المروحة بعدھا تھنایۃ ساکنة، ثم همزة ای جاریۃ من السی، وفى روایة له ((فأخذ منه جاریۃ لم اصبح بالظر راسه، فقال خالد لبریدۃ: الا ترى ما صنع هذا؟ قال بریدۃ: وَكُنْتَ أَبْعِضَ عَلَيَا)). فتح الباری، ج: ۸، ص: ۶۶

”لِمَا لَدْنَا عَلَى النَّبِيِّ ذُكِرَتْ ذَلِكَ لَهُ“ تو اس کے بعد جب ہم حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں نے اس بات کا ذکر آپ ﷺ سے کیا تو ”فَقَالَ يَا بْرِيْدَةُ، أَتَبْغِضُ عَلِيًّا؟“ حضور ﷺ نے فرمایا اے بریدہ! کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟

”فَقَلَّتْ: نَعَمْ“ میں نے کہا جی ہاں!

”قَالَ: لَا تبغضه فَإِنَّ لَهُ فِي الْخَمْسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ“ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم بغض مت رکھو کیونکہ خس میں علی کا حصہ اس سے بھی زیادہ تھا یعنی جو کچھ حضرت علی ﷺ نے لیا وہ کم ہے، اس وجہ سے ان پر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ ۳۲

ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید ﷺ نے با قاعدہ حضرت براء ﷺ کے ہاتھ ایک خط لکھ کر بھیجا کہ حضرت علی ﷺ نے یہ عمل کیا کہ جاریہ رکھی اور تیس بھی کیا ہم نے صحیح یہ دیکھا گویا کہ حضرت علی ﷺ کی شکایت کی، حضرت براء ﷺ نے فرماتے ہیں کہ جب میں حضور ﷺ کی خدمت میں آیا خط پیش کیا تو اس کو پڑھ کر آنحضرت ﷺ کے چہرہ انور پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا ”ما تری فی رجل يحب الله و رسوله ويحبه الله و رسوله“ ایسے شخص کے بارے میں بات کرتے ہو جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت براء ﷺ نے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگ لیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے غصب سے، میں تو صرف ایک قادر ہوں۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت علی ﷺ کے بارے میں یہ بدگمانی، چغلی اور اعتراض کرنا درست نہیں ہے اور ان کا یہ ناجائز عمل نہیں تھا۔ ۳۳

۳۲) قوله: ((ذُكِرَتْ ذَلِكَ لَهُ)), أى: ذُكِرَتْ مَا لَعِلَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ذُكِرَتْ ذَلِكَ لَهُ فِي الْخَمْسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)) أى: فَإِنَّ لَعِيْ منَ الْحَقِّ فِي الْخَمْسِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أَخْدَهُ، وَعَنْدَ أَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّجِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةِ عَنْ أَبِيهِ: لِمَا لَعِيْ لِنَفْسِي مُحَمَّدٌ بِهِ لِنَصِيبِ أَهْلِ عَلِيٍّ فِي الْخَمْسِ الْأَطْلَلِ مِنْ وَصِيلَةٍ، وَزَادَ قَالَ: لِمَا كَانَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَحْبَابِي مِنْ عَلِيٍّ، وَفِي رِوَايَةِ لَاتَّفَعْ فِي عَلِيٍّ فَإِنَّهُ مُنْيٌ وَالآمِنٌ، وَفِي رِوَايَةِ قَالَ: مَنْ كَنْتَ وَلَيْهِ فَعْلَى وَلَيْهِ عَمَدةُ الظَّارِيِّ، ج: ۱۸، ص: ۱۲، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ، بَابُ حِدِيثِ بَرِيدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، ج: ۳۸، رَوْم: ۲۲۰۲۸، ۲۲۰۱۲، ۲۲۹۶۷

۳۳) عن البراء، أن النبي ﷺ بعث جهشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: ((إذا كان الفعال لعلي))، قال: فالتحق على حصاناً لأحد منه جارياً، فلکھب معنی خالد بن الوليد إلى النبي ﷺ يشي به، فلقد علت على ؟ النبي ﷺ، فلترأ الكتاب، فتغير لونه، لم قال: ((ما ترأ في رجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله))، قال: اللهم: اغور بالله من غضب الله، وغضب رسوله، وإنما أنا رسول، سنن العرماني، أبواب الجهاد، باب ماجاه من يحصل على العرب، رَوْم: ۱۷۰۳

## ایک اشکال اور اس کے جوابات

اس بارے میں شرح حدیث کو اشکال پیش آیا ہے کہ حضرت علیؓ نے جاریہ رکھ کر اس کے ساتھ تنقیح کیا اور بعض روایتوں میں صراحت ہے کہ صحیح جب ان کے بالوں سے پانی بیک رہا تھا تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جاریہ میرے حصے میں آئی ہے اور میں نے رات کو اس کے ساتھ تنقیح کیا ہے تو پھر صحیح میں نے غسل جنابت کیا۔

لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی جاریہ کسی کی ملکیت میں آئے تو تنقیح استبراء کے بعد جائز ہوتا ہے، استبراء سے پہلے تنقیح جائز نہیں کیونکہ ارشاد نبویؓ ہے کہ دوسرے کی کھینچی میں پانی مت دو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے شوہر کا نظر ہے اور باندی حاملہ ہے تو جماع مت کرو اسلئے حیض آنے کا انتظار کرنا چاہئے اور استبراء و رحم کم سے کم ایک حیض آنے کے بعد ہوتا ہے۔ آج جاریہ قبضہ میں آئی اور آج ہی تنقیح کیا، یہ بات تو قواعد کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔

اس کے مختلف جوابات ہیں:

**پہلا جواب:** حیض ایک دن ایک رات میں بھی بند ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایک رات میں بند ہو گیا ہو۔

**دوسرा جواب:** یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جاریہ باکرہ ہواں لئے استبراء کی ضرورت نہ تھی۔

**تیسرا جواب:** اسی طرح یہ بھی ممکن ہے یہ جاریہ صیرہ نابالغہ ہو۔

**چوتھا جواب:** اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت علیؓ نے جس وقت قبضہ کیا ہواں وقت حیض میں تھی پھر جب حیض سے پاک ہو کر غسل کیا تو حضرت علیؓ نے اس تنقیح حاصل کیا ہو۔

۵) وَلَدَ اسْتِشْكَلْ وَقُوْعَ عَلَى الْجَارِيَةِ بِهِرِ اسْتِهْرَاءِ، وَكَذَلِكَ لِسَمَّهِ لِنَفْهِ، فَإِمَّا الْأَوَّلُ لِمُحْمَولِ عَلَى إِنْهَا كَاتِبٌ  
بِكُرَاءٍ غَيْرَ بَالِعِ وَرَائِيَ اَنْ مَطْلَهَا لَا يَسْتَهِرُ اَكْمَاصَارَ الْيَهُ شَيْرَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَيَجُوزُ اَنْ تَكُونَ حَاضِرَتُ عَقْبَ صَيْرَوْرَتِهِ لِهِ  
طَهَرَتْ بَعْدَ بِرْمَ وَلِمَلَهَ لَمْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَمْدُلْهُ، وَإِمَّا الْفَسَمَّةُ لِجَائِزَةِ لِمِنْ ذَلِكَ مَنْ هُوَ شَرِيكُ لِهِمَا بِنَسَدِهِ  
كَالْأَمَامُ اَذَا لَسَمَ بَيْنَ الرُّعْيَةِ وَهُوَ مِنْهُمْ، فَكَذَلِكَ مِنْ نَصِبِهِ الْأَمَامُ لَمَ مَلَامَهُ، وَلَدَ أَجَابُ الْخَطَابَيِّ بِالثَّالِثِ، وَاجَابُ عنِ  
الْأَوَّلِ لِاحْتِمَالِ اَنْ تَكُونَ عَدْرَأً، اَوْ دُونَ الْبَلُوغَ اَوْ اَدَاءَ اِجْتِهَادَهُ اَنْ لَا اسْتِهْرَاءَ فِيهَا، وَيَرْجُعُ مِنَ الْحَدِيثِ جُوزُ النَّسَرِيِّ عَلَى  
بَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِغَلَافِ التَّرْزِيِّ عَلَيْهَا لِمَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ الْمَسُورِ فِي كِتَابِ النَّكَاحِ، فَتْحُ الْمَارِيِّ، ح: ۸، ص: ۶۷

اس طرح مختلف تاویلات محدثین عظام نے کی ہیں۔

## اشکال دور کرنے کی آسان صورت

میرے خیال میں ان تکلفات کی حاجت نہیں ہے۔

اس لئے کہ ان روایات میں کہیں یہ صراحت نہیں ہے کہ جس تاریخ میں حضرت علیؓ نے اس کا تمکب کیا تو اسی تاریخ میں وطی بھی کی ہو، ہو سکتا ہے کہ تمکب اور تمشق میں فاصلہ ہو اور روایتوں میں یہ بکثرت قصر مذف ہوتا ہے کہ تمشق کا فاصلہ حذف کر دیا جاتا ہے۔

جیسا کہ اسی روایت میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ "فَقِيلَتْ لِخَالِدٍ: إِلَّا تَرِى إِلَى هَذَا؟" اور اس بات کے فوراً بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ "فَلَمَّا قَدِمَنَا عَلَى النَّبِيِّ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ" حالانکہ یہ بات کہنے میں اور حضورؐ تک آنے میں کچھ زمانہ فاصلہ تو ہو گا۔

بس اوقات راوی حدیث لبے واقعات کو سیست کر مختصر بیان کر دیتے ہیں، اس لئے یہ کہیں صراحت نہیں ہے کہ اسی رات حضرت علیؓ نے تمشق کیا جس وقت تمکب ہوا تھا۔

**۳۳۵۱ - حدثنا عبد الواحد، عن عمارة بن القعاع: حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال:** سمعت أبا سعيد الخدري يقول: بعث على بن أبي طالبؓ إلى رسول اللهؓ من اليمن بدھیۃ فی أديم مفروظ لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة لفر: بين عبيدة بن بدر، وأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع أما علقة واما عامر بن الطفیل. فقال رجل من أصحابه: كان لعن أحق بهذا من هؤلاء، قال، بلع ذلك النبيؓ فقال: ((إِلَّا تَأْمُنُوا وَإِنَّ أَمِينَ مِنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِيُنِي خَبْرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً؟)) قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشر الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الأزار، فقال: يا رسول الله، ألق الله، قال: ((وَيْلَكَ، أَوْلَىتْ أَحَقَ أَهْلَ الْأَرْضِ أَنْ يَتَقَى اللَّهُ؟)) قال: لم ولی الرجل، فقال خالد بن الولید: يا رسول الله، الا ضرب عنقه؟ قال: ((لا، لعله ان يكون يصلی)). فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ماليس لی قلبہ. قال رسول اللهؓ: ((إِنِّي لَمْ أُمِرْ أَنْ أَقْلُبَ قُلُوبَ النَّاسِ وَلَا أَخْقُ بَطْوَنَهُمْ)). قال: لم نظر اليه وهو مقفى فقال: ((إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضَنْضَنَى هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا، لَا يَجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ)).

وافظہ قال: ((لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَا قَاتِلُهُمْ قَاتِلٌ لِّمَوْدٍ)). [راجع: ۳۳۳]

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے مردی ہے کہ حضرت علیؓ نے یمن سے رسول اللہ ﷺ کیلئے رنگے ہوئے چڑے کے تھیلے میں سونے کے چند لے بھیج، جس کی مٹی اس سونے سے جدا نہیں کی گئی کہ تازہ کان سے نکلا تھا۔ آپ ﷺ نے اسے چار آدمیوں عینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید بن خیل، اور چوتھے علقہ یا عامر بن طفیل ﷺ کے درمیان تقسیم کر دیا۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم اس کے ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں، آنحضرت ﷺ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا تمہیں مجھ پر اطمینان نہیں ہے؟ حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح شام آسمان والے کی خبریں آتی ہیں۔ تو ایک آدمی دھنسی ہوئی آنکھوں والا، رخاروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، اوپنجی پیشانی، گھنی واڑھی، منڈا ہوا سر، تباہد اٹھائے ہوئے تھا کھڑا ہو کر بولا اے اللہ کے رسول! اللہ سے ذرے! آپ ﷺ نے فرمایا تو ہلاک ہو، کیا میں تمام روئے زمین پر اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ذرے کا مستحق نہیں ہوں؟ حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ پھر وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید ﷺ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا میں اس کی گردان نہ مار دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، ممکن ہے وہ نماز پڑھتا ہو۔ حضرت خالد ﷺ نے عرض کیا اور بہت سے ایسے نمازی ہیں جوزبان سے اسی باتیں کہتے ہیں، جوان کے دل میں نہیں ہوتیں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں کو کریڈنے اور ان کے پیٹوں کو چاک کر کے حالات معلوم کرنے کا حکم نہیں ہے۔ حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص پیٹھے موڑے جا رہا تھا تو آنحضرت ﷺ نے پھر اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اس شخص کی نسل سے وہ قوم پیدا ہوگی، جو کتاب اللہ کو بہت اچھے انداز سے پڑھے گی، حالانکہ وہ ان کے گلوں سے نیچے نہ اترے گا، دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے، جس طرح تیرشاہ کے پار نکل جاتا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانہ میں ہوتا تو قوم ثمود کی طرح انہیں قتل کرتا۔

## رسولِ امین ﷺ پر مورِ الزام؟

حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں "بعث علی بن أبي طالب ﷺ إلى رسول الله ﷺ من اليمن الخ" حضرت علیؓ نے یمن سے رسول اللہ ﷺ کو کچھ سونا بھیجا، جو ایک دباغت دینے ہوئے چڑے میں بندھتا اور اس سونے کو ابھی اپنی مٹی سے بھی عیحدہ نہیں کیا گیا تھا۔

سو ناچونکہ کان سے نکلا جاتا ہے تو اس سونے پر ابھی تک کان سے نکالتے وقت جو مٹی گلی وہ بھی صاف نہیں کی گئی تھی یعنی آنحضرت ﷺ کے پاس ایسا سونا بھیجا جس کو ابھی تک اس کی مٹی سے بھی الگ نہیں کیا گیا تھا۔

”لقصمهما بین اربعۃ لنفر“ جب یہ مال غیمت پہنچا تو آنحضرت ﷺ نے اس کو چار آدمیوں میں تقسیم کیا جو کہ ”مؤلفة القلوب“ میں سے تھے، عینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید خیل اور چوتھے علقہ تھے یا عامر بن طفیل تھے۔

”فقال رجل من أصحابه: كنا الخ“ تو آپ ﷺ کے صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ ہم نسبت ان لوگوں کے زیادہ حق دار تھے۔

”فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: الا تامنوني وانا امين الخ“ توجب آپ ﷺ کو یہ اطلاع ملی کہ کسی نے یہ کہا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے یعنی کیا تمہیں مجھ پر اطمینان نہیں ہے؟ حالانکہ میں اللہ کی طرف سے امین ہوں، میرے پاس صحیح شام آسان والے یعنی اللہ کی دھی آتی ہے۔

”فقام رجل خاتر العینين، مشرف الوجنتين“ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں تھیں اور رُخاراً بھرے ہوئے تھے، ”ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الازار“ اور اس شخص کی پیشانی بھی اٹھی ہوئی تھی، گھسنی داڑھی تھی، سرمنڈا تھا اور شلوار کے پائیں پچڑھائے ہوئے تھے یعنی اس طرح کے حلیہ کا آدمی کھڑا ہوا۔

”قال: يا رسول الله، اتق الله“ پھر اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول! اللہ سے ذرے۔

”قال: ويلك، أولىت أحق أهل الأرض أن يتقى الله؟“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تجھ پر ہلاکت ہو، کیا میں روئے زمین پر سب سے زیادہ حق دار نہیں ہوں اللہ سے ذرنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ اللہ سے کون ذرے گا۔

”قال: ثم ولی الرجل“ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص پیٹھ پھیر کر چل دیا۔

## ظاہری حالت پر اعتبار

”فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، الا اضرب عنقه؟“ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس کم بخت کی گردن نہ مار دوں؟ اس لئے اس شخص نے آپ کے اوپر بد اعتمادی کا مظاہرہ کیا ہے۔

”قال: لا، لعله ان یکون يصلی“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں، شاید نماز پڑھتا ہو یعنی کیونکہ ظاہری طور پر تو وہ مسلمان ہے، اس لئے اس کا قتل جائز نہیں ہے۔

”فقال خالد: وكم من مصل الخ“ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کتنے ہی ایسے

نماز پڑھنے والے ہیں جو وہ زبان سے نکلتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا ہے یعنی منافق ہوتے ہیں۔

**”قال رسول اللہ ﷺ: الی لم امر ان القلب الخ“** تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں کو کھرچ کرو اور ان کے پیٹ چاک کر کے اندر کے حال معلوم کروں۔  
یعنی ظاہری حال سے جو کیفیت نظر آ رہی ہے اس کا حکم لگائیں گے، لہذا اگر کسی کے دل میں نفاق ہے تو اس کی وجہ اس پر کفر کے احکام جاری نہیں کریں گے جب تک کہ زبان سے کلمہ کفر نہ کہے۔

## خوارج کے خروج کی پیش گوئی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر آپ ﷺ نے اس شخص کی طرف دیکھا جب کہ وہ پیچھے بھیر کر جا رہا تھا، ”لِقَالَ رَبُّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضَيْضَىٰ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كَعَابَ اللَّهِ رَطْبًا“ تو آپ ﷺ فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایک قوم نکلے گی جو اللہ کی کتاب کو بڑی تردتا زگی سے پڑھے گی یعنی بہت اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کریں گے، ”لَا يَجِدُونَ حَاجَرَهُمْ“ کتاب اللہ ان کے حلق سے بیچ نہیں اترے گی یعنی قرآن کا اثر ان کے دل پر نہیں ہو گا، ”يَعْرَفُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَعْرَفُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمَيَةِ“ لیکن وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائے گی جیسے کہ تیراپنے نثانے سے آر پار نکل جاتا ہے۔

”واظنه قال: لَنْ أَدْرِكُهُمْ لَا قَتَلُنَاهُمْ قَتْلَ لَمْوَدْ“ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بھی آخر حضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس قوم کو پایا تو ان کو ضرور قتل کروں گا جیسا کہ قوم شہود کو قتل کیا گیا تھا۔

یہاں اس قوم سے خوارج مراد ہیں۔

۳۳۵۲ - حدثنا المکنی بن ابراهیم، عن ابن جریح: قال عطاء: قال جابر: أمر النبي ﷺ علينا أن يقيم على إحرامه. زاد محمد بن بكر، عن ابن جریح: قال عطاء: قال جابر: لقدم على بن أبي طالب عليه بسماعته فقال له النبي ﷺ: ((بم أهللت يا على؟)) قال: بما أهل به النبي ﷺ قال: ((لما هدوا مكث حراما كما ألت))، قال: وأهدى له على هديها.

[راجع: ۱۵۵]

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام پر قائم رہو، محمد بن ابو بکر نے ابن جریح کے واسطے سے اتنا بڑھایا ہے کہ ان سے عطاء نے بیان کیا ہے کہ حضرت جابر ﷺ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ولایت سے تشریف لائے، تو ان سے آخر حضرت ﷺ نے فرمایا اے علی! تم

نے کون سا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی ﷺ کا سا احرام باندھا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا تم قربانی کا جانور بسجح دوا اور حالت احرام میں رہو جیسے اب ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے آنحضرت ﷺ کو قربانی کا جانور بھیجا تھا۔

## قرآن کا حکم

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ حضور قدس ﷺ جب اللادع کیلئے روانہ ہوئے، "أمر النبي ﷺ على أن يقيم على إحرامه" تو اس وقت حضور قدس ﷺ نے حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ اپنے احرام پر باتی رہیں۔ محمد بن بکر نے ابن جریج کی روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ ان سے عطا نے یہ بیان کیا کہ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں "قدم على بن أبي طالب ﷺ بسعایته" حضرت علیؓ اپنی ولایت یعنی یمن میں تھے جب حضور قدس ﷺ جب اللادع کیلئے روانہ ہوئے تو حضرت علیؓ یمن سے سیدھے آئے۔

"لقال له النبي ﷺ: بم أهللت يا على؟" تو نبی کریم ﷺ نے ان سے پوچھا کہ اے علی! تم نے کون سا احرام باندھا ہے؟

"لقال: بما أهل به النبي ﷺ" تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں نے نیت کی تھی کہ جو احرام نبی کریم ﷺ نے باندھا ہو گا ویا ہی میرا بھی ہے۔

"لقال: فأهددوا مكث حراما كما أنت" آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہدی یعنی قربانی کے جانور کو ذبح کرو اور حالت احرام میں رہو جیسے ہو۔

یہ سب خفیہ کی دلیلیں ہیں کہ حضور ﷺ نے قران کیا تھا تو حضرت علیؓ کو قران کا حکم دیا کیونکہ اگر قران نہ ہوتا تو ہدی کو ذبح کرنے کا کوئی معنی نہیں تھا۔ ۶

٣٣٥٣، ٣٣٥٢ - حدثنا بشر بن المفضل، عن حميد الطويلي  
 حدثنا بكر البصري أله ذكر لابن عمر أن أسا حدثهم أن رسول الله ﷺ أهل بعمره  
 وحجـةـ لـقـالـ: أـهـلـ النـبـيـ ﷺـ بـالـعـجـ وـأـهـلـلـنـاـ بـهـ مـعـهـ فـلـمـ قـدـمـنـاـ مـكـةـ قـالـ: ((مـنـ لـمـ يـكـنـ مـعـهـ  
 هـدـيـ لـلـيـجـعـلـهـاـ عـمـرـةـ)). وـكـانـ مـعـ النـبـيـ ﷺـ هـدـيـ لـقـدـمـ عـلـيـاـ عـلـيـ بـنـ أـبـيـ طـالـبـ مـنـ الـيـمـنـ  
 حاجـاـ لـقـالـ النـبـيـ ﷺـ: ((بـمـ أـهـلـلـتـ لـإـنـ مـعـنـاـ أـهـلـكـ؟)) قـالـ: أـهـلـلـتـ بـمـاـ أـهـلـ بـهـ النـبـيـ حـصـليـ

الله عليه وسلم قال: ((فامسک لان معنا هدیا)). علی ترجمہ: بکبر بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا کہ حضرت انس رض نے لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے حج اور عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا نبی کریم ﷺ نے حج کا احرام باندھا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ حج کا احرام باندھا، توجہ ہم مکہ آئے تو آپ نے فرمایا جو اپنے ساتھ قربانی شہیں لایا، وہ اس احرام کو عمرہ کا احرام بنالے۔ اور اس وقت نبی کریم ﷺ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، پھر حضرت علی رض نے حج کے ارادہ سے آئے، تو نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اے علی! تم نے کون سا احرام باندھا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ تمہارے گھروالے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ جیسا احرام باندھا ہے آپ رض نے فرمایا کہ تو تم رکے رہو، کیونکہ ہمارے ساتھ تو قربانی کے جانور ہیں۔

وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسالرين ولصرها، باب صلاة المسالرين ولصرها، رقم: ۲۹۰، وكتاب الحج،  
باب لى الالهاد والقرآن بالحج والعمرة، رقم: ۱۲۳۶، وباب اهلال النبى ص وهديه، رقم: ۱۲۵۱، ۱۲۵۰، وكتاب  
الصيد والذبائح وما يزال كل من الحيوان، باب وقتها، رقم: ۱۹۶۲، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يقصر  
المسالر، رقم: ۱۲۰۲، وكتاب المسماك، باب لى وقت الاحرام، رقم: ۳۴۷۷، وباب لى القرآن، رقم: ۱۷۰۵،  
۱۷۹۶، وسنن الترمذى، باب ابراب السفر، باب التصير فى السفر، رقم: ۵۳۶، وابواب الحج، باب ما جاء فى الجمع بين  
الحج والعمرة، رقم: ۸۲۱، وباب، رقم: ۹۵۶، وسنن السالى، كتاب الصلاة، باب عدد صلاة الظهر فى الحضر، رقم:  
۳۲۹، ۳۷۷، ۳۷۸، وكتاب مناسك الحج، باب البداء، رقم: ۲۶۲۲، وباب القرآن، رقم: ۲۷۲۹، ۲۷۳۰، ۲۷۳۱، وباب  
العمل لى الامال، رقم: ۲۷۵۵، باب كيف يفعل من اهل بالحج والعمرة ولم يسوق الهدى، رقم: ۲۹۳۱، وسنن ابن  
ماجہ، كتاب المناسك، باب الاحرام، رقم: ۲۹۱۷، وباب من لون الحج والعمرة، رقم: ۲۹۶۹، ۲۹۲۸، ومسند  
احمد، باب مسند عبد الله عمر رضي الله عنهماء، رقم: ۳۸۲۲، ۳۹۹۶، ۳۹۹۷، ۵۱۳۷، ۵۵۰۹، وباب مسند انس بن مالک،  
۱۲۸۱۸، ۱۲۷۳۵، ۱۲۶۲۸، ۱۲۵۰۲، ۱۲۳۲۶، ۱۲۰۹۸، ۱۲۰۹۱، ۱۲۰۸۳، ۱۲۰۷۹، ۱۱۹۶۱، ۱۱۹۵۸  
۱۱۸۶۰، ۱۱۸۴۹، ۱۱۸۴۸، ۱۱۸۴۷، ۱۱۸۴۶، ۱۱۸۴۵، ۱۱۸۴۴، ۱۱۸۴۳، ۱۱۸۴۲، ۱۱۸۴۱، ۱۱۸۴۰  
كتاب الصلاة، باب لصر الصلاة فى السفر، رقم: ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، وكتاب المناسك، باب لى القرآن، رقم: ۱۹۶۵، ۱۹۶۶

## (٦٣) غزوة ذى الخلصة

## غزوہ ذی الخلصہ کا بیان

٣٣٥٥ - حدثنا مسدد: حدثنا خالد: حدثنا بیان، عن جریر قال: كان بیت لی الجاهلیة يقال له: ذو الخلصة والکعبۃ الیمانیة والکعبۃ الشامیة، فقال لی النبي ﷺ: ((الا ترجیعی من ذی الخلصۃ؟)) فنفرت فی مائة وخمسين راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدها عنده فاتیت النبی ﷺ فأخبرته فدعالنا ولا حمس. [راجع: ٣٠٢٠]

ترجمہ: حضرت جریر رض سے مردی ہے وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مکان تھا جسے ذوالخلصہ اور کعبہ یمانیہ اور کعبہ شامیہ کہتے تھے، تو مجھ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے ذوالخلصہ کی فکر سے نجات نہ دو گے؟ چنانچہ میں ذیڑھ سواروں کو لے کر روانہ ہوا، پھر ہم نے اسے گرا دیا اور جن لوگوں کو وہاں پایا انہیں قتل کر دیا، پھر میں نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور قبیلہ احمس کے لئے دعا فرمائی۔

## پس منظر

یہ باب "ذی الخلصہ" کے غزوہ کے بارے میں ہے۔

قبیلہ بنو خشم نے یمن کے قریب قریب ایک ایسا بات خانہ بنا کر کھا تھا جو متوازی کعبہ سمجھا جاتا تھا لیعنی جس طرح مکہ مکرمہ میں کعبہ تھا اسی طرح کا انہوں نے یمن کے اندر ایک کعبہ بنالیا تھا اور اس کا نام ذی الخلصہ تھا اور اس کے ارد گرد اس طرح طواف کیا جاتا تھا جس طرح کعبہ کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، قصہ مختصر یہ شرک کا بہت بڑا اذنا تھا۔

جب حضرت جریر رض اسلام لائے تو یہ قبیلہ بھیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا قبیلہ بھیلہ بھی قبیلہ خشم کے قریب واقع تھا۔ حضرت جریر رض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ کیا تم مجھے ذی الخلصہ سے راحت نہیں پہنچا سکتے، یعنی کسی طرح ایسا ہو جائے کہ ذی الخلصہ تباہ ہو جائے تو میرے دل کو سکون ملے کہ شرک کا یہ اذانہ دم ہو گیا ہے۔

حضرت جریر رض نے فرمایا کہ ضرور جو آپ کا حکم ہو۔

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رض ان کے ساتھ روانہ کئے اور حضرت جریر رض نے وہاں جا کر

ذی الخلصہ کو منہدم کیا پھر اس کو آگ لگادی اور بالکل دیران کر کے وہاں سے واپس تشریف لائے۔  
اس باب میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور حدیثیں اسی سے متعلق ہیں۔

”کان بیت لی الجاھلیۃ یقال له: ذوالخلصة والکعبۃ الیمانیۃ والکعبۃ الشامیۃ“  
زمانہ جاہلیت میں ایک گھر تھا یعنی بت خانہ اس کو ذی الخلصہ کہتے تھے اور اس کو کعبہ یمانیہ اور شامیہ بھی کہتے تھے۔

## کعبہ شامیہ کہنے پر اشکال و جواب

ظاہری معنی یہ نظر آتے ہیں کہ اس کو کعبہ یمانیہ بھی کہا جاتا تھا اور کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا۔  
اس پر اشکال یہ ہے کہ اس کو کعبہ شامیہ کہنے کے کوئی معنی نہیں ہیں کیونکہ وہ شام کے سمت میں نہیں تھا،  
شام کے سمت میں تو بیت اللہ تھا۔ یمن سے اگر مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا جائے تو مکہ مکرمہ شام کی سمت میں  
پڑتا ہے تو یمن کے لوگ مکہ مکرمہ کو کعبہ شامیہ کہتے تھے تو کعبہ شامیہ تو مکہ مکرمہ ہوا ذوالخلصہ کو کعبہ شامیہ کہنے کے  
کوئی معنی نہیں۔

تو اس اشکال کے جواب میں شراح بڑے حیران اور پریشان ہوئے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس کی چند توجیہات بیان فرمائی ہیں:  
جہلی توجیہ یہ ہے کہ اس کو کعبہ یمانی بھی کہہ سکتے ہیں اور کعبہ شامی بھی اور کعبہ شامی جو کہلاتا تھا وہ اس وجہ  
سے نہیں کہ وہ شام کی طرف واقع تھا بلکہ اس وجہ سے کہ اس کا دروازہ شام کی طرف تھا، اس دروازہ کی وجہ سے  
اس کو کعبہ شامیہ بھی کہہ دیتے تھے۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہ لفظ اصل میں یوں ہے کہ ”ذوالخلصة والکعبۃ الیمانیۃ“ یعنی ایک گھر  
تھا جس کا نام ذوالخلصہ تھا اور کعبہ یمانی تھا، یہاں پر یہ جملہ ختم ہو گیا۔

آگے راوی کہہ رہے ہیں ”والکعبۃ الشامیۃ“ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقتاً کعبہ تو وہ تھا جو شامی  
ہے، یعنی ”الکعبۃ“ یہاں مبتدام ہے اور ”الشامیۃ“ اس کی خبر ہے، اس صورت میں یوں جملہ بنتا ہے کہ کعبہ  
حقیقت میں وہ ہے جو شامی ہے یعنی مکہ مکرمہ والا۔

تیسرا توجیہ یہ ہے کہ یہاں پر راوی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ”ذوالخلصة“ کو بھی زمانہ  
جاہلیت میں لوگوں نے کعبہ کا مقام دے رکھا تھا تو اس واسطے ان کے ہاں دو کعبے ہو گئے تھے ایک کعبہ یمانیہ  
اور ایک کعبہ شامیہ، تو کعبہ یمانیہ ”ذوالخلصة“ تھا اور کعبہ شامیہ مکہ مکرمہ والا کعبہ تھا۔

لوگ اس طرح کی بات کیا کرتے تھے ”هذه کعبۃ الیمانیۃ وهذه کعبۃ الشامیۃ“ یہ مطلب ہے۔

اس صورت میں جملہ یوں ہنا ”یقال لہ: ذوالخلصة“ اس کا نام ذی الخلصۃ تھا اور اس کو کسی کعبہ بنا رکھا تھا، یہاں پر یہ جملہ ختم ہوا۔

”والکعبۃ الیمانیۃ والکعبۃ الشامیۃ“ یعنی لوگ اس طرح کی بات کیا کرتے تھے کہ ایک کعبہ یمانی ہے اور ایک کعبہ شامی ہے۔ ۸۸

”لقال لی النبی ﷺ: الا تریجئنی من ذی الخلصۃ؟“ حضرت جریر رض فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم مجھے ذوالخلصہ کی فکر سے نجات نہ دو گے؟ یعنی اس کو ختم کر کے راحت نہیں پہنچاؤ گے۔

”فَنَفِرْتُ فِي مائةٍ وَّ خَمْسِينَ رَاكِبًا إِلَيْهِ“ میں ذریحہ سواروں کو لے کر روانہ ہوا اور ہم نے جا کر اس بٹ خانہ کو توڑا اور جو اس کے پاس جو لوگ تھے ان سب کو قتل کر دیا۔

”فَأَتَيْتُ النبی ﷺ لَاخْبَرَهُ فَدَعَ لَنَا وَلَا حَمْسَ“ جب ہم واپس آئے تو میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ کو بتایا تو آپ ﷺ نے ہمیں بھی دعا دی اور ہمارے قبلہ حسوس کو بھی دعا دی۔

۳۳۵۶ - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى: حدثنا إسماعيل: حدثنا قيس قال: قال لى جرير رض: قال لى النبی ﷺ: ((ألا تریجئنی من ذی الخلصۃ؟ - وَ كَانَ بِهَا لِي خُصُمٌ يَسْمَى الْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَةَ - فَانطَلَقَتِ فِي خَمْسِينَ وَ مائةً فَارِسًا مِنْ أَحْمَسَ وَ كَالَّوَا أَصْحَابُ خَيْلٍ وَ كَنْتُ لَا أَبْتَلُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ لِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَلْرَ أَصْبَعَهُ لِي

۸۸ قوله: ((والکعبۃ الیمانیۃ والکعبۃ الشامیۃ)) کذا لیه، لیل و هو غلط والصواب الیمانیۃ فقط، سموا بذلك مضامناۃ للکعبۃ، والکعبۃ الیت العرام بالنسبة لمن یکون جهة الین شامیۃ فسموا الشیء بمعکة شامیۃ ولئن عندهم بحالیة تصریفاً بینهما، والذی یظہر لی ان الذی فی الروایة صواب وانها کان یقال لاما الیمانیۃ باعتبار کولها بالیمن والشامیۃ باعتبار انهم جعلوا باہما مقابل الشام، ولد حکی عیاص ان فی بعض الروایات ((والکعبۃ الیمانیۃ الکعبۃ الشامیۃ)) بهیر والل والیہ ابھام، قال والمعنی کان یقال لها نارة هکذا وتارة هکذا، وهذا یقروی مالکه لان ارادۃ ذلك مع ثبوت الروا اولی، وقال غيره: قوله ((والکعبۃ الشامیۃ)) مهدا محلوف الخبر للتدبره هي الشیء بمعکة، وقبل الکعبۃ مبتدا والشامیۃ خبره والجملة حال والمعنى والکعبۃ هي الشامیۃ لا الغیر، وحکی السہیلی عن بعض النحویین ان ((له)) زاله وأن الصراب ((کان یقال الکعبۃ الشامیۃ)) ای لهذا الیت الجدید، والکعبۃ الیمانیۃ)) ای للہیت العتیق او بالعكس، قال السہیلی: ولیست له زیادة، والما اللام بمعنى من اجل ای کان یقال من اجلہ الکعبۃ الشامیۃ والکعبۃ الیمانیۃ ای احدی الصفتین للعتیق والآخری للجدید. لفتح الباری، ج: ۸، ص: ۱۷، ۲۴، ۲۷، وعتمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۷، ۱۶، ۱۷

صدری ولیال ((اللّٰهُمَّ لِتَهْ واجعله هادیا مهدیا)). لانطلق إلیها الكسرها وحرقها لم بعث إلى رسول الله ﷺ فقال رسول جریر: واللّٰهُمَّ بعثك بالحق ما جئتك حت ترکتها کانها جمل اجرب. قال: فبارک لی خیل احمد و رجالها خمس مرات. [راجح: ۳۰۲۰]

ترجمہ: قیس بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت جریر ﷺ نے بیان کیا کہ مجھ سے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کیا تم مجھے ذی الخلصہ کی نظر سے نجات نہ دو گے؟ وہ قبلہ خشم میں ایک مکان تھا، جسے کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ تو میں قبیلہ احمد کے ڈیڑھ سوار لے کر چل دیا اور وہ میرے ساتھی گھوڑوں پر تھے اور میں گھوڑے پر جنم نہیں سکتا تھا تو آنحضرت ﷺ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، حتیٰ کہ آپ ﷺ کی الکیوں کے نٹاٹات میں نے اپنے سینے میں دیکھے، آپ ﷺ نے فرمایا اے اللہ! اے (گھوڑے پر) جمادے اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافہ بنا۔ چنانچہ جب وہ لوگ کعبہ یمانیہ پہنچے تو اسے گردایا اور اس کو جلا دیا۔ پھر انہوں نے نبی ﷺ کے پاس قاصد بھیجا اس قاصد جریر نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں جب وہاں سے چلا ہوں تو وہ مکان خارشی اونٹ کی طرح سیاہ ہو گیا تھا۔ تو آپ ﷺ نے پانچ مرتبہ احمد کے سوار اور پیادوں کو برکت کی دعا دی۔

### حضرت جریر ﷺ کے لئے دعاء

اس روایت میں درمیان میں ایک جملہ حضرت جریر ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ "وَكُنْتَ لَا أَبْتَ عَلَى الْخَيْلٍ" میں گھوڑے پر جم کرنہیں بیٹھے سکتا تھا یعنی میرے اندر یہ ایک عیب تھا کہ گھوڑے پر جم کر بیٹھنا میرے لئے ممکن نہیں ہوتا تھا۔

جب حضور ﷺ مجھے روانہ کر رہے تھے اس وقت میں نے یہ بات آنحضرت ﷺ کو بتائی "فضرب فی صدری حتیٰ رأیت اثر أصابعه فی صدری" تو حضور ﷺ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا حتیٰ کہ آپ ﷺ کی الکیوں کے نشان مجھے اپنے سینے میں نظر آئے۔

اور پھر مجھے یہ دعا دی "اللّٰهُمَّ لِتَهْ واجعله هادیا مهدیا" اے اللہ! اے (گھوڑے پر) جمادے اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافہ بنا۔

۲۳۵۷ - حدثنا یوسف بن موسی: اخبرنا أبو أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن جریر قال: قال لى رسول الله ﷺ: ((الا ترى من ذى الخلصة؟)) فقلت: بلى، فانطلقت لى خمسين و مائة فارس من احمد و كانوا اصحاب خيل و كنت لا أبْتَ عَلَى

الخيل فذکت ذلك للنبي ﷺ فضرب يده على صدری حتى رأیت ان ریده فی صدری وقال: ((اللهم ثبّعه واجعله هادیاً مهدیاً)), قال: لما وقعت عن فرس بعد، قال: وكان ذراً خلصة بيتاً بالیمن لخشم وبجبلة لیه نصب بعد يقال له: الكعبۃ، قال: فأتاهما لحرثها بالنار وكسرها. قال: ولما قدم جریر الیمن کان بها رجل يستقسم بالأژلام، فقليل له: إن رسولَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَا هَنَا فَلَمَّا دَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عَنْكَ. قال: فبینما هو يضرب بها اذ ولف عليه جریر، فقال: لتكسرها ولتشهدن ان لا إله إلا الله او لا اضل من عنقك، قال: لكسرها وشهد. لم يبعث جریر رجلاً من أحمس يکنی اهباً أو طاة إلى النبي ﷺ يبشره بذلك، فلما أتى النبي ﷺ قال: يا رسول الله، والذی بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل اجرب قال: لبرک النبی ﷺ علی خجل أحمس ورجالها خمس مرات.

[راجع: ۲۰۳]

ترجمہ: حضرت جریر ﷺ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے ذوالخلصہ کی فکر سے نجات نہ دو گے؟ میں نے عرض کیا ضرور نجات دوں گا، لہذا میں قبلہ أحمس کے ذیڑھ سوار لے کر چل پڑا، وہ سب گھوڑوں پر تھے، اور میں گھوڑے پر قائم نہ رہ سکتا تھا، تو میں نے نبی کریم ﷺ سے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ ﷺ نے میرے سینہ میں ہاتھ مارا، جس سے میں نے آپ ﷺ کے ہاتھ کا نشان اپنے سینہ میں دیکھا اور آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! اے گھوڑے پر قائم رکھ اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافت بنا۔ حضرت جریر ﷺ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی بھی گھوڑے سے نہیں گرا۔ حضرت جریر ﷺ فرماتے ہیں کہ ذوالخلصہ یمن میں قبلہ خشم اور بجیلہ کا ایک مکان تھا جس میں نصب بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اے کعبہ بھی کہتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جریر ﷺ جب وہاں پہنچ تو اسے آگ سے جلا کر دھا دیا۔ راوی یہاں کرتے ہیں کہ حضرت جریر ﷺ جب یمن آئے تو وہاں ایک آدمی تیروں سے قال نکالا کرتا تھا، اس سے کسی نے کہا کہ آنحضرت ﷺ کے قاصد یہاں ہیں، اگر انہیں تیرا پتہ چل گیا تو تیری گردن مار دیں گے، راوی کہتے ہیں کہ وہ ایک دن قال نکال رہا تھا حضرت جریر ﷺ وہاں پہنچ گئے کہا کہ ان تیروں کو توڑا اور مسلمان ہو جا، ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا، تو اس نے وہ تیر توڑ دیئے اور مسلمان ہو گیا۔ پھر حضرت جریر ﷺ نے قبلہ أحمس کے ایک آدمی جس کی کنیت ابوار طاة تھی ان کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اس فتح کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا، انہوں نے آکر آنحضرت ﷺ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں وہاں سے چلا ہوں تو اس مکان کو میں نے دیکھا کہ خارشی اونٹ کی طرح جمل کر دیا ہو گیا تھا۔ تو نبی کریم ﷺ نے أحمس کے اردوں اور پیادوں کو پانچ مرتبہ برکت کی دعا دی۔

## شرح

”قال: يا رسول الله، والذى بعثك بالحق ماجئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب“ اس قاصد نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش ہو کر کہا۔ اللہ کے رسول! قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ کے پاس نہیں آیا یہاں تک کہ میں نے اس بت خانہ کو اس حالت میں چھوڑ دیا کہ گویا وہ خارش زدہ اونٹ ہے یعنی اس کے جل جانے کی وجہ سے اس پر جودا غ وغیرہ پڑ گئے تھے اس پر تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ خارش زدہ اونٹ ہو۔

### زبر وستی اسلام قبول کروانا مقصود نہیں

اس روایت میں درمیان میں ایک اور واقعہ بیان کیا ہے کہ اسی ذوالخلصہ کوڈھانیکے سلسلہ میں جب حضرت جریر رض جب یمن آئے تو وہاں ایک شخص تھا جو استقسام بالازلام کیا کرتا تھا۔

”استقسام بالازلام“ تیروں کے ذریعے فال نکالنے کی ایک شکل تھی۔

”فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْأَعْلَمُ“ تو اس سے لوگوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسالم کا اپنی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اگر ان کا داد تو تمہارے اوپر جل گیا تو تمہاری خیر نہیں، تمہاری گردن مار دیں گے، اس دوران جب وہ استقسام بالازلام کر رہا تھا تو حضرت جریر رض وہاں پہنچ گئے۔

”فَقَالَ: لَكُسْرُهَا وَتَشَهَّدُنَّ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْأَعْلَمُ“ اور اس سے فرمایا کہ ان کو تو ز ذال ولیا شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ورنہ میں تمہاری گردن مار دوں گا، ”فَكَسْرُهَا وَشَهَدَ“ تو اس شخص نے وہ تیر توڑ دیئے اور ایمان لے آیا۔

یہاں اکراہ رجرا صل استقسام بالازلام کے چھوڑنے پر ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ اسلام لا ذور نہ گردن مار دیں گے بلکہ یہ ہے کہ استقسام بالازلام نہیں کرنے دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اس نے استقسام بالازلام کو چھوڑ دیا اور اسلام لے آیا۔

## (٦٣) باب غزوة ذات السلاسل

## غزوہ ذات السلاسل کا بیان

وہی غزوة لخم وجدام قاله اسماعیل بن ابی و قال ابن اسحاق عن یزید عن عروة  
ہی بلاد بلى وعدرة و بنی القین.

ترجمہ: اور یہ غزوہ لخم اور جدام ہیں ایسا اسماعیل بن ابی خالد نے کہا ہے اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ  
انہوں نے یزید سے روایت کیا ہے اور انہوں نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ یہ قبیلہ بلى، عدرہ اور بنی القین کے  
شہر ہیں۔

## غزوہ ذات السلاسل کا اپس منظر

یہ باب غزوہ ذات السلاسل کے بیان میں ہے، یہ غزوہ جس کو غزوہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے اور اس کا  
مختصر واقعہ یہ ہے کہ یہ قبائل جن کے نام لخم اور جدام کو حملہ کر دیا اور اس کے بارے میں نبی کریم ﷺ کو کچھ  
اطلاع مل تھی کہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کیلئے پرتوں رہے ہیں، ان کا آپس میں کچھ مشورہ  
ہوا ہے کہ ہم مل کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوں۔

حضور اقدس ﷺ نے ان کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے ایک شکر ترتیب دیا اور یہ شکر اس لحاظ سے ایک  
منفرد شکر تھا کہ اس کا امیر حضرت عمر بن العاص ﷺ کو امیر بنی ایا اور اس شکر میں حضرت ابو بکر صدیق رض بھی شامل  
تھے اور حضرت عمر فاروق رض بھی شامل تھے لیکن دونوں شخصیں شامل تھے، لیکن امیر حضور اقدس ﷺ نے حضرت  
عمرو بن العاص رض کو بنایا تھا۔

اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ حضرت عمر بن العاص رض کی والدہ قبیلہ بلى سے تعلق رکھتی تھیں، جس کا ذکر ترجمہ  
الباب میں بلاد بلى کے نام سے آیا ہے اور یہ قبیلہ بلى ان کا نھیاں تھا تو شاید یہ بات آپ ﷺ نے مناسب کبھی ہو  
کہ انہی کو اس قبیلہ کی طرف بھیجیں، جس کی طرف ان کی والدہ کی نسبت ہے۔ ۹۶

۹۶ و ذکر ابن اسحاق: ان ام العاص کالت من بلى، لبعثه النبی ﷺ، العرب يستثمر الى الاسلام يستالفهم بذلك.

حضرت عمر بن العاص رض کو ایک سفید جھنڈا دے کر تین سو کے لشکر کا امیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے ذات السلاسل کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ مقام وادی القری سے آگے مدینہ منورہ سے دس منزل پر واقع ہے۔ جب اس مقام پر پہنچ تو معلوم ہوا کہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لئے توقف کیا اور رافع بن مکیث رض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کی خدمت میں بصحیح کر مزید امداد طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رض کو دوسرا دمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا، جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے اور یہ تاکید فرمائی کہ عمر بن العاص سے مل کر کام کرنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔

جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رض وہاں پہنچے اور نماز کا وقت آیا تو انہوں نے امامت کرنی چاہی تو حضرت عمر بن العاص رض نے کہا کہ امیر لشکر تو میں ہوں اور آپ لوگ میری مدد کو آئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رض نے کہا کہ تم اپنی جماعت کے امیر اور میں اپنی جماعت کا امیر ہوں، اگرچہ مقصد ایک ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے میری جماعت کا علیحدہ جھنڈا دیا ہے۔

حضرت عمر بن العاص رض نے کہا کہ امیر جماعت میں ہوں۔ اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے چلتے وقت مجھے حکم دیا تھا کہ اتفاق سے رہنا اختلاف نہ کرنا اس لئے میں تمہاری اطاعت کروں گا اگرچہ تم میری مخالفت کرو۔ اس طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رض نے حضرت عمر بن العاص رض کی امامت اور امارت کو تسلیم کر لیا، چنانچہ عمر بن العاص رض امامت کرتے تھے اور ابو عبیدہ ان کی اقتداء کرتے تھے۔

### وجہ تسمیہ

اس غزوہ کو ذات السلاسل کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں دو وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہیں:  
ایک وجہ تو یہ ہے کہ "سلاسل" جمع ہے "سلسل" کی جس کے معنی زنجیر کے ہوتے ہیں اور اس کو ذات السلاسل اس لئے کہتے ہیں کہ جو شرکیں اس میں مقابلہ کے لئے آئے تھے وہ اپنے پاؤں میں زنجیریں

وَسَبَبَ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ أَبْنُ سَعْدٍ: أَن جَمِيعًا مِن قَبْنَاءَ تَجَمَّعُوا وَأَرَادُوا أَن يَدْنُوا مِنْ أَطْرَافِ الْمَدِينَةِ لِدُعَائِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام، عَسْرٌ وَمِنْ الْعَاصِمَةِ فَعَلَّدَ لَهُ لَوَاءَ أَبْيَضَ وَبَعْثَ فِي الْمَالِمَةِ مِنْ سَرَّةِ الْمَهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، ثُمَّ أَمْدَهُ بِأَبْنِي عَبِيدَةَ بْنِ الْجَرَاحِ فِي مَالِمَنَ وَأَمْرَهُ أَن يَلْعَقَ بَعْرُو، وَأَن لا يَخْتَلِفَ، فَأَرَادَ أَبْرُو عَبِيدَةَ أَن يَلْمِمْهُ لِمَنْعِهِ عَمَرَو، وَاللَّالِ: الْمَالِدَتُ عَلَى مَدَداً وَأَنَّ الْأَمِيرَ، لِإطَاعَ لَهُ أَبْرُو عَبِيدَةَ، فَلَمَّا هُمْ عَمَرَو، وَمَا رَعَمُوا حَتَّى وَطَى بِلَادَهُمْ وَعَذْرَةً. عَمَدةُ الْقَارِيِّ، ج: ۱۸، ص: ۲۰، وَلِفَحَ الْبَارِيِّ، ج: ۸، ص: ۴۷

باندھ کر آئے تھے، پاؤں زنجروں سے اس لئے باندھ کر آئے تاکہ ہم بھائیں نہیں تو اس واسطے اس کو ذات السال کہتے ہیں۔

دوسری وجہ بعض لوگوں نے یہ بیان کی ہے کہ وہاں پر "سلسل" ایک چشمہ کا نام تھا اور وہاں پر مختلف چشمے تھے اس ذات السال کہتے ہیں۔ ایج بہر صورت حضرت عمر بن العاص رض تقریباً تین سو صحابہ کرام رض کے ہمراہ اس جگہ پر تشریف لے گئے اور حملہ کیا کفار مرجوب ہو کر بھاگ گئے اور منتشر ہو گئے۔

### حضرت عمر بن العاص رض کی مدبرانہ حکمت عملی

یہ پہلا غزوہ ہے جس میں حضرت عمر بن العاص رض نے بلیک آوث کا طریقہ جاری کیا یعنی انہوں نے لشکر والوں کو کہا کہ کوئی بھی رات کو آگ نہ جلائے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے لشکر والوں سے کہا کہ اگر کسی نے رات کو آگ جلانی تو اسی آگ میں اس کوڈاں دوں گا۔

مقصد یہ تھا کہ رات کے وقت دشمن کو اندھیرے میں ہمارا محل وقوع کا پتہ نہ چلے۔ یوں سب سے پہلے جنگی حالات میں یہ بلیک آوث حضرت عمر بن العاص رض نے کیا۔

بلکہ بعض صحابہ کرام رض کو اس پر اشکال ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں رات کو آگ جلانے کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ ہمیں آگ جلانے نہیں دے رہے تو لوگ شکایت کرنے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق رض کے پاس گئے کہ وہ کیھے یہ ہمیں آگ جلانے نہیں دیتے۔

حضرت ابو بکر صدیق رض نے فرمایا کہ حضور اکرم صل نے جوان کو ہم پر امیر مقرر فرمایا ہے وہ ان کا جنگی معاملات میں تجربہ کار ہونے کی وجہ سے ہے، لہذا ان کی جو تدبیر ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے اور کسی آدمی کو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہئے۔ چنانچہ پھر لوگ خندے پڑ گئے اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔

جب لڑائی سے واپس آئے تو لشکر کے لوگوں نے نبی کریم صل سے اس بات کا ذکر کیا کہ عجیب قصہ ہے کہ انہوں نے ہمیں رات بھر آگ ہی نہ جلانے دی تو حضرت عمر بن العاص رض نے جا کر حضور اقدس صل سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں نے اس لئے کیا تھا تاکہ دشمن کو ہمارے محل وقوع کا پتہ نہ چلے، ہماری نقل

ای) سمیت هذه الغزوۃ بذات السال لان المشرکین ارتیط بعضهم الى بعض معحالۃ ان یخروا. ولیل: لان بھا مااء

بقال له: السلسل. عمدة القارى، ج: ۱۸، ص: ۱۹، وفتح البارى، ج: ۸، ص: ۷۳

وحرکت کا پتہ نہ چلے اور اس طرح ہم ان کے اوپر غالب آ سکیں۔

جب سریہ سے واپس آئے تو حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر تعریف فرمائی کہ تم نے بہت اچھا کیا، جب یہ تعریف فرمائی تو حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟

اسی سیاق میں یہ حدیث ذکر کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں۔ ۲۲

۲۳۵۸ - حدانا إسحاق : أخبرنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحداء، عن أبي عثمان أن رسول الله ﷺ بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، قال: فاتيته فقلت: أى الناس أحب اليك؟ قال: ((عائشة))، قلت: من الرجال؟ قال: ((أبوها))، قلت: ثم من؟ قال: ((عمر)) لعد رجالاً فسكنت مخاللة أن يجعلني في آخرهم . [راجع: ۳۶۶۲]

ترجمہ: حضرت ابو عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جیش ذات السلاسل میں حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا، کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آکر پوچھا کہ آپ ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے کہا مردوں میں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ان کے والد یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا پھر کون؟ آپ ﷺ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ، پھر آپ ﷺ نے چند آدمیوں کا نام لیا، بس میں اس خوف سے کہ میں سب سے آخر میں نہ آ جاؤں، خاموش ہو گیا۔

## سوال پوچھنے سے عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کا مقصد

راوی حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کو ذات السلاسل کی طرف بھیجے جانے والے سریہ کام امیر بنا یا۔

”قال: فاتيته“ حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا۔

۲۲ وروی ابن حبان من طريق فیس بن ابی حارم عن عمر و بن العاص ((ان رسول الله بعثه في ذات السلاسل، فالله اصحابه ان يولدوا ناراً فمتعهم، فكلموا ابا بکر فكلمه في ذلك فقال: لا يولد احد منهم ناراً الا قدره فيها للقواء العدو لهزمهم، فمارادوا ان يتبعهم فمتعهم، فلما انصرلوا ذكر ذلك للنبي ﷺ فسأله فقال: كرهت ان آذن لهم ان يولدوا ناراً فهزهم، وكرهت ان يتبعهم ليكون لهم مدد. فحمد امره. فقال: يا رسول الله من احب الناس اليك؟

اب یہاں واقعہ مخدوف ہے کہ جب رات کو انہوں نے لشکر کے لوگوں کو دشمن سے چھپنے کی غرض سے آگ جلانے نہیں دی تھی تو اس عمل کی وجہ سے آپ ﷺ نے ان کی تعریف کی۔

ایک طرف حضرت عمر بن العاص ﷺ کو ایک ایسے لشکر کا امیر بنایا تھا جس میں حضرت ابو بکر صدیق ﷺ اور حضرت عمر فاروق ﷺ موجود تھے۔

دوسری طرف آپ ﷺ نے ان کی جنگی تدبیر کی تعریف بھی فرمائی تو حضرت عمر بن العاص ﷺ کے ذمہ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید رسول کریم ﷺ کو میں سب سے زیادہ محظوظ ہوں۔ ۴۳

### عاشر رضی اللہ عنہما محبوب ترین ہستی

تو اس لئے پوچھا "أی الناس أحب إلہک؟" یا رسول اللہ! آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ عاشر، یعنی سب سے زیادہ محبت مجھے حضرت عاشر رضی اللہ عنہما سے ہے۔

"قلت: من الرجال؟ قال: أبوها" پھر میں دوبارہ پوچھا کہ مردوں میں کون ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ان کے والد مجھے سب سے زیادہ محظوظ ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق ﷺ۔

"قلت: لم من؟ قال: عمر" میں نے پوچھا کہ مرد کون؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اس کے بعد حضرت عمر ﷺ مجھے محظوظ ہیں۔

"لعد رجلا فسكت مخالة أن يجعلنى لى آخرهم" پھر اور کچھ لوگوں کے بھی نام لئے، حضرت عمر بن العاص ﷺ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد خاموش ہو گیا اس ذرے سے کہ اگر یہی ترتیب چلتی رہی تو پتہ نہیں کہ میرا نام کہاں جا کر آئے گا، اس واسطے پھر میں نے آگے بولنا مناسب نہیں سمجھا۔

۴۳) قوله: (لائیه) فی رواية معلى بن متصور المذكورة ((الدلت من جهش ذات الملاسل، ثابتت النبي ﷺ)) رعدد البهقى من طربيل على بن عاصم عن خالد العلاء في هذه القصة ((قال عمر: لحدثت نفسى انه لم يعنى على لوم لهم أبو بكر و عمر رضى الله عنهمما الالتبذلة لي عنده، ثابتت حتى تعدد بين يديه لقلت: يا رسول الله من احب الناس الله) الحديث. فتح الہاری، ج: ۲، ص: ۲۶۲، رقم: ۳۶۶، وج: ۸، ص: ۲۵، رقم: ۳۳۵۸



## (۶۵) باب ذهاب جریر إلى اليمن

### حضرت جریر رض کا یمن کی طرف جانے کا بیان

٣٣٥٩ - حدثنا عبد الله بن أبي شيبة العبسي: حدثنا ابن إدريس، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن قيس، عن جرير قال: كنت باليمن للقيمة رجلين من أهل اليمن ذاكلاع وذا عمرو، فجعلت أحدهم عن رسول الله ﷺ فقال له ذو عمرو: لمن كان الذي تذكر من أمر صاحبک، لقد مر على أجله ثلاث وأقبلاما معى حتى إذا كنا فى بعض الطريق رفع لناركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر والناس صالحون. فقال: أخبر صاحبک أنا قد جئنا ولعلنا سعدنا إن شاء الله، ورجعا إلى اليمن لأخبرت أبا بكر بحديثهم، قال: أفلاجشت بهم؟ للما كان بعد قال لي ذو عمرو: يا جرير، إن لك على كرامات، وإلى مخبرك خبرا لكم معاشر العرب لن تزالوا بخبير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك، ويرضون رضا الملوك.

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ رض نے بیان کیا کہ میں یمنیں تھا کہ یمن کے دو آدمیوں ذوکلاع اور ذو عمرو سے ملاقات ہوئی تو میں ان سے رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرنے لگا تو ان میں سے ذو عمرو نے کہا اگر یہ بات تمہارے نبی کی ہے، جو تم بیان کر رہے ہو تو ان کی وفات کو تین روزگز رگئے، اور وہ دونوں میرے ساتھ آئے، جب ہم ایک راستے میں تھے، تو مدینہ کی جانب سے ہمیں کچھ سوار آتے نظر آئے، ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی ہے، اور لوگوں کے مشورہ سے حضرت ابو بکر رض خلیفہ ہو گئے ہیں۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے امیر سے کہہ دینا کہ ہم آئے تھے، اور عقریب انشاء اللہ و اپس آئیں گے، اور وہ دونوں یمن کو واپس چلے گئے۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رض سے ان کی بات بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ تم انہیں لے کر کیوں نہیں آئے؟ پھر اس کے بعد مجھ سے ذو عمرو نے کہا کہ اے جریر! آپ مجھ سے بزرگ ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اور وہ یہ کہ تم اہل عرب ہمیشہ کامیاب رہو گے، جب تک تم ایک امیر کے فوت

ہونے پر دوسرے کو امیر بناؤ گے۔ اگر یہ امارت تکوار کے ذریعہ ہوتی تو یہ بادشاہوں کی طرح ہوتے، انہی کی طرح غصہ کرتے، اور انہی کی طرح راضی ہوتے۔

## جریر رض کی تبلیغِ اسلام کیلئے یمن روانگی

یہ حضرت جریر بن عبد اللہ رض کی روایت ہے جن کا ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم پرچھے روایت میں پڑھ چکے ہیں کہ ”ذر الخلصة“ یمن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے ان کو بھیجا تھا تاکہ وہاں موجودت خانہ کو گرا میں۔

دوسری بار آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے ان کو دین کی تبلیغ و اشاعت کی غرض سے جمۃ الوداع کے بعد روانہ فرمایا، اس کا واقعہ یہاں بیان فرمائے ہیں۔ ۵۴

”كنت باليمن للفقيت رجالين من أهل اليمن الخ“ تو کہتے ہیں کہ میں یمن میں تھا، یمن کے دوآدمیوں سے میری ملاقات ہوئی جن میں سے ایک کا نام ذوالکلام تھا اور دوسرے کا نام ذوعمر تھا، یہ دونوں یمن کے باشندے تھے بلکہ یمن کے بادشاہوں میں سے تھے۔ ۵۵

”جعلت أحدهم عن رسول الله“ کہتے ہیں کہ میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کے بارے میں باقی بتانے لگا کہ دیکھو اس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کی یہ دعوت ہے آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم اس طرح کرتے ہیں، تو اس طرح کی باقی ان سے کہنے لگا۔

۵۴ ذکر الطبرانی من طريق ابراهیم بن جریر عن أبيه قال: ((بعثني النبي ﷺ، إلى اليمن أذللهم وأدعوههم أن يقولوا: لا إله إلا الله)). فلان قلت: هذا البعث غير بعثه إلى هدم ذى الخلصة أم لا؟ قلت: الظاهر أنه غيره، ومحتمل أن يكون بعثه إلى مجاهدين على الترسيب، ويزيد الفيرية ما رواه ابن حبان من حديث جرير: ((أن النبي ﷺ، قال له: يا جريرا الله لم يبق من طواغيت الجاهلية إلا بيت ذى الخلصة)). فالله يشعر بما خير هذه القصة جداً. عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۲۰، وفتح الباري، ج: ۸، ص: ۷۴

۵۵ وهذه الرواية أبین، وذلك أن جريرا قضى حاجته من اليمن وأقبل راجعاً بريداً المدينة لصحبه من ملوك اليمن ذرالكلام وذوعمره، فاما ذرالكلام - فهو بفتح الكاف وتحقيق اللام - واسمه اميرفع - يسكن الهمزة وفتح الميم وسكون العجاجة وفتح اللاء وبعدها مهملة - ، ويقال اميرع بن ماكورة ويقال ابن حوشب بن عمرو. وأما ذوعمره فكان أحد ملوك اليمن وهو من حمير أيضاً، ولم ألف على اسم غيره. فتح الباري، ج: ۸، ص: ۶۷، وعمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۲۱

## نبی کریم ﷺ کی وفات کے بارے میں خبر

"قَالَ لَهُ ذُو عُمْرَةُ: لِئَنَّكَ أَنْتَ الَّذِي أَنْعَنَّا" ان میں سے ذو عمرہ نے کہا کہ اگر وہ بات درست ہے جو تم اپنے صاحب کے بارے میں ذکر کر رہے ہو، صاحب سے مراد حضور اقدس ﷺ ہیں یعنی حضور اقدس ﷺ کی جو باقی تم میرے سامنے ذکر کر رہے ہو اگر وہ باقی درست ہیں، "لَقَدْ مَرَ عَلَى أَجْلِهِ لِلَّاتُ الْخَ" تو آپ صاحب کی وفات پر تین دن گذر چکے ہیں۔

حضرت جرجیس ﷺ چونکہ یمن میں تھے تو ان کو تو حضور ﷺ کے حالات کا علم نہیں تھا، ذو عمرہ نے یہ شخص اہل کتاب کا علم رکھتا تھا۔ کیونکہ اہل کتاب بکثرت یمن آتے جاتے رہتے تھے تو ان سے یہ لوگ کتاب کا علم یعنی تورات وغیرہ کا علم حاصل کرتے رہتے تھے۔

اس لئے یہ بات یا تو تورات کی پیشگوئیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہی کہ تورات میں جو خبر دی گئی ہے نبی آخر الزمان ﷺ کے متعلق تو ان پیشگوئیوں کی رو سے ان کی اب تک وفات ہو جانی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں تھا اور کہاں تھا کے ذریعہ اس نے یہ بات کہی کہ اگر یہ بات واقع ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے جو حالات بتا رہے ہیں تو آج ان کی وفات پر تین دن گذر چکے۔

"وَالْبِلَامُعِيْ حَتَّىْ إِذَا كَنَافَيْ بَعْضَ الْطَّرِيقَالْخَ" تو اس کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ چلے یعنی میں مدینہ منورہ آنے لگا تو وہ دونوں بھی میرے ساتھ آنے لگے، یہاں تک کہ جب ہم راستے کے کچھ حصہ پر پہنچنے تو ہماری مدینہ منورہ سے آئیواں ایک قافلہ سے ملاقات ہو گئی، "فَسَأَنَاهُمْ لَقَالُوا: لَبِضْ رَسُولُ اللهِ الْخَ" ہم نے ان سے حضور اکرم ﷺ کی خیریت دریافت کی، تو ان قافلے والوں نے کہا کہ حضور اکرم ﷺ کی وفات ہو چکی ہے اور حضرت صدیق اکبر ﷺ کو خلیفہ بنادیا گیا ہے اور لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں یعنی مسلمانوں کے حالات میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا بلکہ جیسے تھے دیے ہی ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں۔

**لَقَالَا: أَخْبَرَ صَاحِبَكَ أَنَّا لَدَنْ جَنَّتَنَا الْخَ** تو ذوکلائی اور ذو عمر جو ہمارے ساتھ مدینہ منورہ

حَعْ وَهَذَا لَهُ ذُو عُمْرَةُ مِنْ اطْلَاعِ الْكِتَابِ الْقَدِيمَةِ لَأَنَّ الْمَنْ كَانَ الْأَمْ بِهَا جَمَاعَةً مِنَ الْيَهُودِ لِلْمُدْعَلِ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْمَنِ فِي دِينِهِمْ وَلَعِلَّهُمْ مِنْهُمْ، وَذَلِكَ بَيْنَ فِي قَوْلِهِ لِسْعَادَ لِمَا بَعْدِ إِلَى الْمَنِ الْكَسْتَانِ لِوَمَا أَهْلَ كِتَابٍ، وَلَالْكَرْمَانِي يَحْتَلُّ أَنْ يَكُونَ سَعْ مِنْ بَعْضِ الْقَادِمِينَ مِنَ الْمَدِينَةِ سَرًا، أَوْ أَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلَةِ كَاهِنًا، فَنَعْ الْبَارِي، ج: ٨،

جار ہے تھے اور ان کا مقصد تو حضور اکرم ﷺ کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل کرنا تھا جب انہوں نے ساکر وفات ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اپنے صاحب کو یعنی حضرت صدیق اکبر ﷺ کو جا کے بتا دینا کہ ہم آئے تھے مگر یہ خبر سن کر واپس چلے گئے، اور شاید ہم دوبارہ کسی وقت لوٹ کر آئے، چنانچہ یہ پھر واپس یہ میں لوٹ گئے اور میں مدینہ منورہ چلا آیا۔

**”فَاخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِعِدِ يَهْمَالْخَ“** تو میں نے حضرت صدیق اکبر ﷺ کو ان کا واقعہ سنایا کہ اس طرح ہمارے ساتھ آ رہے تھے لیکن یہ خبر سن کر اب واپس چلے گئے تو حضرت صدیق اکبر ﷺ نے فرمایا کہ تم کیوں نہ ان کو اپنے ساتھ لے آئے؟ یعنی ساتھ لاتے تو وہ یہاں آ کر مسلمان ہوتے اور مسلمان ہو کر اسلام کی دولت حاصل کرتے اور معاون ہوتے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نقشہ کرتے ہیں کہ حضرت جریر ﷺ نے جب ذوالکلام کو اسلام کی دعوت دی اور حضور اقدس ﷺ کی حالت سنائی تو انہوں نے کہا کہ تم ام شرحیل، میری زوجہ سے ملو، ذوالکلام کی کنیت ابو شرحیل تھی۔

حضرت جریر ﷺ اس سے ملے تو ذوالکلام اور ان کی زوجہ ام شرحیل دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ ۸۸  
پھر آگے کا واقعہ انہوں نے یہاں حذف کر دیا ہے، اس لئے کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکلام اور ذو عمر دونوں حضرت فاروق عظیم ﷺ کی خلافت میں دوبارہ مدینہ منورہ آئے اور آ کر مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ پھر شامل رہے۔ ۸۹

اور ذوالکلام جنگ صفين میں حضرت معاویہ ﷺ کے ساتھ تھے اور اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ ۹۰

**”فَلِمَا كَانَ بَعْدَ قَالَ لِي ذُو عُمْرٍ“** حضرت جریر ﷺ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ذو عمر نے مجھ سے کہا یعنی جب وہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور میں سے مدینہ منورہ آگئے تو اس وقت مجھ سے یہ کہا، ”یا جریر اے ان لک علی کرامۃ“ اے جریر! میں تمہاری بڑی عزت کرتا ہوں۔

۸۸) فی رواية أبي اسحاق عن جریر ﷺ، عند ابن عساکر أن النبي ﷺ بعثه إلى ذي عمرو و ذي الكلاع بعد عهدهما إلى الإسلام فاسلمها. قال: ((وقال لي ذو الكلاع ادخل على أم شرحيل)) يعني زوجته، فتح الماري، ج: ۸، ص: ۶۷

۸۹) كان ذوالكلاع ادعى البربة في الجاهلية وأن اسلامه العا كان أيام عمر ﷺ، لأن النبي ﷺ كتب له مع جرير وجرير انما قدم بعد وفاة سيدنا محمد ﷺ. عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۲۱

۹۰) وكان ذوالكلاع القالم بأمر معاوية في حرب صفين ولتل قبل انتهاء الحرب، ففرح معاوية بموته، وكان موته في سنة سبع وثلاثين. عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۲۱

"الی یک علی کرامۃ" اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں:  
 ایک تو یہ کہ میرے دل میں تمہاری زیادہ عزت اور اونچا مقام ہے۔  
 دوسرا یہ کہ میرے ذمہ تمہارا ایک احسان ہے۔ احسان کیا ہے؟  
 احسان یہ ہے کہ تم نے مجھے دولت ایمان سے سرفراز کر دیا کیونکہ حضور اقدس ﷺ کی باتیں تم نے بتائی  
 اس کے تجھے میں میرے دل میں ایمان اور اسلام کا داعیہ پیدا ہوا۔

## خلافت و مشاورت کی برکت و فضیلت

"والی مخبر ک خبرا إلکم معاشر العرب الخ" میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم عرب لوگ ہمیشہ اچھی حالت میں رہو گے، خیریت سے ربو گے جب تک تمہارا حال یہ ہو کہ جب ایک امیر کا انقال ہو تو تم دوسرے کو باہمی مشورے سے اور بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے امیر بنالو، تب تک تو تم ٹھیک رہو گے۔  
 "فِإِذَا كَاتَتْ بِالسَّيفِ كَانُوا مُلُوْكًا لِلْخَ" لیکن جب یہ امارت توارکے ذریعہ حاصل کی جانے لگے اور اس کے اوپر جھگڑے ہونے لگے اور لڑائیاں ہونے لگے تو لوگ امیر کے بجائے بادشاہ بن جائیں گے، بادشاہ کی طرح غصہ ہوں گے اور بادشاہ کی طرح راضی ہوں گے لیکن بادشاہ کے نہ غصہ کا اعتبار اور نہ بادشاہ کی رضامندی کا اعتبار۔

پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا تھا کہ کس وقت کیا ہو جائے، کس وقت نا راض ہو جائے اور کس وقت راضی ہو کر توازن بھی دیں۔ ذرا ذرا کسی بات پر لوگوں کو قتل بھی کر دیا اور کسی کو توازن نہ ہو تو توازن بھی دیا، کسی قاعدہ قانون کے پابندیں ہوتے، جب امارت توارکے ذریعہ حاصل کی جانے لگے تو پھر ایسے بادشاہ ہو جائیں گے جن کا غصب اور رضا کسی قاعدہ قانون کا پابندیں ہوتا۔

لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ انہوں نے نصیحت یہ کی کہ جب تک خلافت مسلمانوں کے باہمی مشورے سے قائم ہوتی رہے گی، اس وقت تک تم لوگ خیر سے ہم کنار رہو گے، جب لڑائی اور توارکے ذریعہ ہونے لگے تو تمہارا انجام براہ ہو جائے گا۔ اے

ای قوله: ((فِإِذَا كَاتَتْ بِالسَّيفِ))، ای: الامارة: ((بالسيف))، ای: بالقهر والغلبة ((كالمو املو کا))، ای: خلقاء، وہ کلام منه یدل على أن ذا عمره له اطلاع على الأخبار من الكتب القديمة، لأنہ یطابق حدیث سفیہ: ان النبی قال: ((الغلاة بعدی للآئون سنة لم تصير ملکاً)), رواه احمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان. عمدة القارئ، ج: ۱۸، ص: ۲۲



(۶۶) بَابُ غَزْوَةِ سِيفِ الْبَحْرِ، وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ عِيرَ الْقَرِيشِ،  
وَأَمِيرُهُمْ أَبُو عَبِيدَةَ بْنَ الْجَرَاحَ ﷺ  
غَزْوَةِ سِيفِ الْبَحْرِ كَا بَيَانٍ، مُسْلِمًا نَاسٌ مِّنْ قَافْلَةِ قَرِيشٍ كَمَا مُتَظَرِّفٌ، اَنَّكَ  
امِيرَ أَبُو عَبِيدَةَ بْنَ الْجَرَاحَ ﷺ تَحْتَهُ

پس منظر

یہ باب "غزوہ سیف البحیر" کے عنوان سے قائم کیا ہے۔

"سیف" ریتلے ساحل کو کہتے ہیں، یعنی سمندر کا وہ کنارا جس پر ریت ہو۔ اس کو غزوہ کو "سیف البحیر" اس لئے کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ﷺ کی سرکردگی میں لشکر بھیجا تھا۔ اصحاب سیر و مغازی اس کا مقصد یہ بیان کرتے ہیں کہ جہینہ کے قبیلہ پر حملہ کرنا مقصود تھا اور حملہ کا مقصد درحقیقت یہ تھا کہ جہینہ کے لوگوں کے بارے میں اس قسم کی اطلاعات مل رہی تھیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہے ہیں تو آنحضرت ﷺ نے مناسب سمجھا کہ قبل اسکے کہ وہ لوگ آغاز کریں اس سے پہلے ہی ان کی سرکوبی کر دی جائے۔

جبکہ حدیث میں پہلا لفظ یہ آیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب میں بھی کہا ہے "وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ عِيرَ الْقَرِيشِ" یعنی قریش کا ایک قافلہ شام سے آرہا تھا اس پر حملہ کرنا مقصود تھا، جیسے بدر کے واقعہ میں ہوا تھا۔

چونکہ قریش مکہ سے جنگ تھی اور وہ اپنے تجارتی قافلے شام بھیجا کرتے تھے، وہاں سے سامان منگوایا کرتے تھے، اس میں بعض اوقات اسلحہ بھی ہوتا تھا، تو آنحضرت ﷺ نے کئی مرتبہ ایسا کیا کہ جب آپ کو اطلاع ملی کہ قریش کا کوئی قافلہ شام سے تجارت کا سامان یا اسلحہ لے کر آرہا ہے تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کے ذریعہ اس قافلہ پر حملہ کروایا تاکہ وہ قافلہ قریش کی تقویت کا باعث نہ بن سکے۔ صرف غزوہ بدر ہی میں ایسا نہیں ہوا بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا تو یہاں حدیث میں یہ مقصد بیان کیا ہے کہ لشکر بھیجنے کا مقصد قریش کے قافلہ کے اوپر حملہ کرنا تھا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اصحاب سیر اور اصحاب حدیث کے درمیان اس طرح تفہیق دی ہے کہ دونوں ہی مقصد ہوں گے، یہ مقصد بھی ہو گا کہ ایک طرف جہینہ کی بھی سرکوبی کی جائے اور دوسری طرف یہ خیال تھا کہ شاید قریش کا کوئی قافلہ شام سے گذرے تو اس کو رد کا جاسکے، دونوں ہی مقصد ہوں گے۔

ایک مقصد اصحاب السیر نے بیان کیا اور ایک مقصد اصحاب حدیث نے بیان کیا۔ ۲۷

بہر صورت حضرت ابو عبیدہ رض کی سرکردگی میں یہ لشکر گیا اور اس بات پر تمام روایات متفق ہیں کہ اس کا کسی سے مقابلہ نہیں ہوا، جہینہ کے لوگ بھاگ گئے اور قریش کا قافلہ بھی ان کو ہاتھ نہیں آیا، لہذا لڑائی کوئی نہیں ہوئی لیکن مسلمانوں کو بڑی سخت آزمائش پیش آئی کیونکہ ان حضرات کو کچھ سمندر کے ساحلی علاقے پر جو ریگستان تھا وہاں پر لمبا چوڑا سفر کرنا پڑا، اس سفر کے دوران زادراہ ختم ہو گیا بڑی مشکل پیش آئی۔  
اسی کا واقعہ یہاں حدیث میں منقول ہے، ملاحظہ فرمائیں۔

۳۳۶۰ حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أله قال: بعث رسول الله ﷺ بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبو عبيدة بن الجراح وهم ثلاثة لخرجنا لكنا ببعض الطريق لنـي الزاد فأمر أبو عبيدة بأزوالـاد الجيش لجمع مزود تمـر لكان يقوـنا كل يوم قليلاً قليلاً حتى لنـي للـم يكن يصـيبـنا إلا تـمرة تـمرة فقلـت: مـا تـغـيـرـنـكـم تـمـرـة؟ فـقـالـ: لـقـد وـجـدـلـا لـقـدـهـا حـينـ فـيـتـ. لـمـ التـهـيـنـا إـلـى الـبـحـرـ فـإـذـا حـوتـ مـثـلـ الـظـرـبـ لـأـكـلـ مـنـهـ الـقـومـ لـمـانـ عـشـرـ لـيـلـةـ لـمـ اـمـرـ أـبـوـ عـبـيـدـ بـضـلـعـيـنـ مـنـ اـضـلاـعـهـ لـنـصـبـاـمـ اـمـرـ بـرـاحـلـةـ فـرـحـلـتـ لـمـ مـرـتـ تـحـتـهـمـاـ لـمـ تصـبـهـمـ. [راجع: ۲۳۸۳]

ترجمہ: وہب بن کیسان روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رض کو امیر بناء کرنے سو آدمیوں کا ایک لشکر ساحل کی طرف بھیجا، ہم چل پڑے، ہم راستہ ہی میں تھے کہ زادراہ ختم ہو گیا، ابو عبیدہ رض نے تمام لشکر کے تو شے جمع کرنے کا حکم دیا، جب تمام تو شے جمع کرنے تو وہ کھجور کے دو تھیلے ہوئے، ابو عبیدہ روز ہمیں تھوڑا تھوڑا دیتے، یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گیا، اب ہمیں ایک کھجور ملنے لگی۔ میں (روایی حدیث وہب بن کیسان) نے حضرت جابر رض سے کہا کہ

۲۷ ولد ذکر ابن سعد وغیره: أن النبي ﷺ يعنـهم إلـى حـىـ منـ جـهـيـنـةـ بالـقـبـيلـةـ بـفتحـ القـافـ وـالـمـوـحدـةـ مـعـاـلـيـ سـاحـلـ الـبـحـرـ، بـيـنـ الـمـدـيـدـةـ حـمـسـ لـيـالـ، وـالـهـمـ الـصـرـفـوـاـلـمـ يـلـقـواـ كـمـداـ، وـانـ ذـلـكـ كـانـ فـيـ رـجـبـ سـنـةـ قـمـانـ. وـهـذـاـ لـاـ يـهـاـيـرـ ظـاهـرـهـ مـاـفـيـ الصـحـيـحـ لـأـنـ يـمـكـنـ الـجـمـعـ بـيـنـ كـوـنـهـمـ بـتـلـفـونـ عـبـراـ لـلـرـبـشـ وـيـقـصـدـونـ حـيـاـ مـنـ جـهـيـنـةـ. فـتحـ الـبـارـىـ

ایک کھجور سے کیا پیٹ بھرتا ہوگا؟ حضرت جابر رض نے کہا کہ اس ایک کھجور کے ملنے کی حقیقت جب معلوم ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی، یہاں تک کہ تم ساحل سمندر پر پہنچ گئے، تو دیکھا کہ ایک مچھلی پہاڑی کی طرح موجود ہے، اس لکرنے والے مچھلی اٹھارہ دن تک کھائی۔ پھر ابو عبیدہ رض نے اس مچھلی کی دو پسلیاں کھڑی کرائیں اور ایک سواری کو اس کے نیچے سے گزارا، تو بغیر اس کے لگے ہوئے سواری نیچے سے صاف نکل گئی۔

### سریہ سیف الحر کا قصہ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں "قال: بعث رسول اللہ ﷺ بعثا قبل الساحل الخ" آپ صلی اللہ علیہ وسالم نے ساحل کی طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رض کی امارت میں ایک لکرروانہ فرمایا، اس لکر میں تین سو آدمی تھے، "فَكُنَا بِعْضَ الظَّرِيقَ لِنَيِّ الزَّادِ" جب ہم ابھی راستے ہی میں تھے کہ ہمارا زادراہ ختم ہو گیا۔

"لَا مَرْأَةٌ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ الْخَ" جو اجتماعی سارے لکر کا زادراہ تھا وہ ختم ہو گیا تو اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رض نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس انفرادی طور پر تھوڑا بہت زادراہ موجود ہو وہ سب لے آؤ اور اکٹھا ایک جگہ جمع کر لو جب وہ تمام تو شے جمع کرنے گئے، یہ کھجور کے دوشکنیزے تھے یعنی سب ملا کر سارے لوگوں کا زادا کٹھا کیا گیا تو سب مل ملا کر کھجور کے دوشکنیزے کے بعد رسانان ہوا جو کہ تین سو آدمیوں کے لئے ہے۔

"فَكَانَ يَقُولُنَا كُلُّ يَوْمٍ لِلْمَلَأِ قَلِيلٌ الْخَ" تو ہم میں سے ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اغذیہ بتاتا تھا، یعنی جو دو مشکنیزے کے تھے ان میں سے روزانہ تھوڑا تھوڑا حصہ ہمارا غذا بن جاتا تھا یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گئی، تو اب اس وقت ہمارے حصہ میں ایک ایک کھجور آتی تھی کہ روزانہ ہر آدمی کو کہا جاتا کہ تمہارا حصہ ایک کھجور ہے اسے کھالو۔

"فَقُلْتَ: مَا لِفِنْيِ عِنْكُمْ لَمَرْأَةٌ؟" یہ اس حدیث کے روایتی وہب بن کیسان رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رض سے پوچھا کہ ایک کھجور آپ کو کیا فائدہ پہنچاتی تھی؟ یعنی ایک کھجور سے آپ لوگوں کا پیٹ کیسے بھرتا تھا۔

"لِقَالَ: لَقَدْ وَجَدْتُ لِفَدَهَا حِينَ فَنِيتُ" تو حضرت جابر رض نے فرمایا کہ ہمیں اس ایک کھجور کے نہ ہونے کا احساس اس وقت ہوا جب وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی یعنی بعد میں ایسا ہوا کہ وہ ایک کھجور بھی نہیں ملتی تھی تو اس وقت پتہ چلا کر یہ ایک کھجور بھی کتنی نعمت تھی، ہم نے اس کے نہ ہونے کو محض سو کیا اس وقت جب کہ وہ ایک بھی

ختم ہو گئی تو خلاصہ یہ کہ اب فاتحے ہونے لگے۔

”لِمْ تَهْمِنَا إِلَى الْبَحْرِ فَلَا ذَاحِتٌ مِثْلُ الظَّرْبِ“ یہاں تک کہ ہم سمندر کے پاس پہنچ گئے، وہاں ہم نے دیکھا ایک مچھلی کے چھوٹے سے پہاڑ کی طرح ہے، ”فَأَكْلَ مِنْهُ الْقَوْمُ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً“ تو وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ لشکر کے لوگ اٹھا رہے تو ان تک وہی مچھلی کھاتے رہے۔

”لِمْ أَمْرَأُبُو عَبِيدَةَ بِضُلَّعِينَ مِنْ أَضْلَاعِهِ لِنَصِبَا“ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رض نے اس کی پسلیوں میں سے دو پسلیوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو نصب کرو، پھر ان کو محراب کی شکل میں کھڑا کر دیا گیا۔

”لِمْ أَمْرَ بِرَاحَلَةَ فَرَحَلَتْ لَمْ مُرْتَ قَتْهُمَا لِلَّمْ تَصْبِهِمَا“ پھر ایک اونٹی کے اوپر کجاوا اکٹے کا حکم دیا، پھر اس اونٹی کو اس کجاواہ سیست اس کی پسلیوں کے نیچے سے گزار گیا تو وہ کجاوا اان پسلیوں تک نہ پہنچ سکا، اتنی بڑی پسلی تھی۔

۲۳۶۱ - حدثنا على بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: الذى حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله ﷺ للإمامية راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح لرصد عير قريش فأكلنا بالساحل نصف شهر. فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمى ذلك الجيش، جيش الخطط. فلقي لنا البحر دابة يقال لها: العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وأدهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه لعمد إلى أطول رجل معه، قال سفيان مرت: ضلعا من أضلاعه فنصبه لعمد إلى أطول رجل مع، قال سفيان مرت: ضلعا من أعضائه فنصبه وأخذ رجل وبغير ألم رحنته، قال جابر: وكان رجل مين القوم نحر ثلاث جزائر، لم نحر ثلاث جزائر، لم نحر ثلاث جزائر، لم ان أبا عبيدة نهاء. وكان عمرو يقول: أخبرنا أبو صالح: أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش لجاعوا قال: الحر، قال: لحرت، قال: لم جاعوا، قال: الحر، قال: لحرت، قال: الحر، قال: لهيت. [راجع:

[ ۲۳۸۳ ]

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ ہم تین سو سواروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلیمان نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رض کو امیر بنا کر قریش کے قافلہ کی گھات میں بھیجا تھا، ہم ساحل پر پندرہ دن نہیں ہے، وہاں سخت بھوک نے ہم پر غلبہ کیا، یہاں تک کہ ہم نے پتے کہا کہ گزارہ کیا، اسی لئے اس لشکر کو جیش الخطط (پتوں والا لشکر) بھی کہتے ہیں۔ سمندر نے عنبر نامی ایک مچھلی باہر پھینک دی تو اسے ہم نے پندرہ دن تک کھایا، اور اسیں اس کی چربی ملی تو ہمارے جسم اپنی اصلی حالت پر آگئے، حضرت ابو عبیدہ رض نے اس کی ایک پسلی

لیکر کھڑی کی پھر اپنے ساتھیوں میں سے سب سے لبے شخص کا قصد کیا، سفیان نے ایک مرتبہ اس طرح بیان کیا کہ پھر اپنے ساتھیوں میں سب سے لبے آدمی کو اونٹ پر بٹھا کر گزارا تو وہ اس کے نیچے سے صاف گزر گیا۔ حضرت جابر رض کہتے ہیں کہ لشکر کے ایک آدمی نے تمی اونٹ ذبح کئے، پھر تمیں اونٹ ذبح کئے، تو حضرت ابو عبیدہ رض نے اسے منع کر دیا۔ اور عمرہ بیان کرتے تھے کہ ہم سے ابو صالح نے بیان کیا کہ قیس بن سعد رض نے اپنے والد (حضرت سعد بن عبادہ رض) کو بتایا کہ میں بھی اس لشکر میں تھا، جب لوگوں کو ختن بھوک لگی تو ان سے کہا کہ اونٹ ذبح کر دیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذبح کر دیا، جب پھر بھوک لگی تو لوگوں نے پھر کہا کہ اونٹ ذبح کرو، تو میں نے پھر ذبح کر دیا، پھر جب بھوک لگی تو انہوں نے کہا کہ اونٹ ذبح کرو تو میں نے کہہ دیا کہ (حضرت ابو عبیدہ رض نے) مجھے منع کر دیا ہے۔

## حدیث عنبر

"يقال لها: العنبر" عنبر وہیل مچھلی کو کہا جاتا ہے، یہ پہاڑ کی طرح بڑی ہوتی ہے۔

میں نے اس طرح کی مچھلی کا ایک ہفتہ عمر کا پچھے جنوبی افریقہ ڈرین میں دیکھا تھا، وہاں ایک مچھلی گھر بنا ہوا ہے جہاں یہ وہیل مچھلی ہے، اس علاقہ میں یہ مچھلی بہت بہت ہوتی ہے، وہ ایک ہفتہ عمر کا بچہ ہے اتنا بڑا تھا کہ اس کو ایک بہت بڑے شیشے کے شوکیش میں جو لمبائی اور چوڑائی میں کئی گز پر مشتمل ہے اور بہت بڑی جگہ کو گھیرے ہوئے تھا، میں رکھا گیا تھا۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے جب یہ مچھلی بڑی ہوتی ہے تو کیا ہو گی۔

یہ حدیث "حدیث العنبر" کہلاتی ہے اس واسطے کہ اس حدیث میں عنبر مچھلی کا ذکر ہے۔

"فاکلنا منه لصف شهر" اسے ہم نے پندرہ دن تک کھایا یعنی عنبر مچھلی کو کھایا۔

اس سے شافعیہ اس بات کے اوپر استدلال کرتے ہیں کہ مینڈک کے علاوہ سمندر کے سارے جانور حلال ہیں لیکن ہم نے ابھی دیکھا کہ یہاں پر لفظ "حیوت" (مچھلی) آیا ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر مچھلی کا ذکر ہے اور ویسے بھی وہیل مچھلی ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شافعیہ اس پر بھی استدلال کرتے ہیں کہ جو مچھلی طبعی موت مر جائے وہ بھی کھانا جائز ہے کیونکہ طبعی موت مری۔ ۳۴

اختلاف کہتے ہیں "سمک طالی" مکروہ تحریمی ہے اور وجہ استدلال یہ بیان کرتے ہیں کہ سُنَّۃِ ابُو داؤد میں روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سمندر جس مچھل کو باہر ڈال دے یا جس سے سمندر کا پانی سکڑ جائے تو اسے کھاؤ (یعنی کنارے پر پانی کے ساتھ آجائے اور کنارے پر ہی رہ جائے)، اور جو اس میں مرکرا اور پرآ جائے تو اسے مت کھاؤ۔ ۴۴ جبکہ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ یہ ساحل پٹلی، جس کے معنی یہ ہے کہ اس کو سمندر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔

## قطط کے وقت حکومت کو اختیار

استدلال فی الجملہ درست ہے، اس معنی میں کہ جہاں کہیں اجتماعی طور پر ضرورت شدیدہ داعی ہو اور وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو اس وقت میں حکومت یہ کر سکتی ہے کہ جن کے پاس کوئی کھانا ہے تو وہ دوسروں کو یہ کہے کہ سب ملا کر کھاؤ لیکن یہ بس اسی حد تک ہے کہ آدمی بھوکے مر رہے ہوں۔ جیسے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق عظیم ﷺ نے قحط سالی کے زمانہ میں ایسا کیا تھا فرمایا کہ اگر یہ قحط ختم نہ ہوتا تو میں تم سے ہر ایک آدمی کے پاس دو تین آدمی داخل کر دیتا کہ تمہارے کھانے میں یہ بھی شریک ہوں، جن کے پاس کھانا ہے اس میں داخل کر دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں لوگوں کے بھوکے مر جانے کا اندازہ ہو وہاں پر کسی کے ملکیت پر قبضہ کر کے اس کو باہم مشترک تقسیم کرنا جائز ہے لیکن اس اصول کو اس انتہائی مشکل سے آگے نہیں بڑھایا جاسکتا، کہ جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور پھر آپ چھین چھین کر لوگوں میں تقسیم کریں یہ صحیح نہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کی مملوکہ چیز کو بلا معاوضہ زبردستی اس کی ملکیت سے نکالنا جائز نہیں، ہاں اس کو تمام شرعی واجبات ادا کرنے پر بزرگانوں مجبور کیا جاسکتا ہے، اور شرعی واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ قحط سالی کے وقت جس شخص کے پاس مال موجود ہو اس کو بھی مجبور کیا جاسکتا ہے کہ قحط زدہ افراد کی خوراک کا انتظام کرنا بھی واجب ہے۔ ۴۵

## قیس بن سعد رض کی سخاوت

اسی لشکر کا ایک اور واقعہ روایت کرتے ہیں "قال جابر: وَكَانَ رَجُلٌ مِّنْ الْقَوْمِ لَهُ لِلَّاتِ

۴۴) سنن ابن داود، کتاب الاطعمة، باب لی اکل الطالی من السمک، ۳۸۱۵

۴۵) اس مسئلہ کی عربی تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: بھوک مٹانے کی شرعی امداداری، کتاب: ملکیت زمین اور اس کی تحدید، ص: ۶۰-۶۵

جز الرالخ" حضرت جابر رض کہتے ہیں کہ جب لوگ بھوک مرنے لگے تو ایک شخص (حضرت قیس بن سعد رض مراد ہیں) نے تین اونٹ ذبح کر دئے تاکہ لوگوں کو اس کا گوشت کھلانے۔

تین بار انہوں نے اونٹ ذبح کئے اس کے بعد ابو عبیدہ رض نے منع کر دیا (عنی وہ اونٹ جن پر سفر کر رہے تھے ان کو ذبح کیا، اس لئے منع کیا کہ اگر سارے اونٹ اسی طرح ختم ہو گئے تو واپسی پر کوئی سواری نہیں رہے گی۔

"ان قیس بن سعد قال لأبیه: کنت فی الجیش لجاعوا اللخ" قیس بن سعد رض واپس آنے کے بعد یہ واقعہ اپنے والد حضرت سعد بن عبادہ رض سے بیان کرتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں تھا، جب لوگوں کو بھوک لگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اونٹ ذبح کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذبح کر دیا۔ جب دوبارہ بھر بھوک لگی تو انہوں نے پھر کہا کہ اونٹ ذبح کرو، میں نے پھر ذبح کر دیا، جب تیری بار پھر بھوک لگی تو انہوں نے کہا کہ اونٹ ذبح کرو، میں نے پھر ذبح کر دیا۔ پھر جب چوتھی بار بھوک لگی تو انہوں نے کہا کہ اونٹ ذبح کرو تو میں نے کہر دیا کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے (عنی حضرت عبیدہ بن جراح رض نے اونٹ ذبح کرنے سے منع کر دیا تھا)۔

۳۳۶۲—حدثنا مسدد: حدثنا یحییٰ، عن ابن حجریع قال: أخبرنی عمرو الله سمع جابر رض يقول: غزو لنا جيش الخطط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعاً شديداً فلما لقى البحر حوتاً مهالما نر مثله يقال له: العنبر، فاكثنا منه لصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظيماً من عظامه فلما اراكب تحته. وأخمرلى أبوالزبير: أله سمع جابر؟ يقول: لال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فقال: ((كلوا رزقاً آخر جده الله، أطعمونا إن كان معكم منه)) فلما بعدهم فاكله. [راجع: ۲۳۸۳]

ترجمہ: حضرت جابر رض فرماتے ہیں کہ جب ہم جیش الخطط (سیف البحر) کے جہاد میں تھے اور ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ رض تھے، تو ہمیں سخت بھوک لگی، تو سمندر نے ایک مری ہوئی مچھلی جسے عذر کہتے ہیں، باہر پھینک دی، ہم نے اس جیسی مچھلی دیکھی ہی نہ تھی، ہم نے اسے پندرہ دن تک کھایا، ابو عبیدہ رض نے اس کی ایک ہڈی لی تو ایک سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ پھر ابو زیر نے حضرت جابر رض سے یہ روایت مجھے بتائی کہ حضرت ابو عبیدہ رض نے کہا کھاؤ، تو جب ہم مدینہ آئے تو آخر حضرت ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا (یہ اللہ کا بھیجا ہوا رزق ہے، کھاؤ اگر تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ کسی نے آپ ﷺ کو لا کر دیا تو آپ ﷺ نے بھی کھایا۔

## شرط

اس روایت میں یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ آئے تو ہم نے حضور اکرم ﷺ سے اس مچھلی کا ذکر کیا تو آپ

لے فرمایا کہ "کلو ارزلا آخر جه اللہ" یہ اللہ کا بھیجا ہوا رزق ہے اس لئے کھاؤ، "اطعمونا ان کان معکم منه" اور تسلی کے لئے فرمایا کہ اگر ہو تو مجھے بھی کھلاؤ تو بعض نے وہ لامک حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ ﷺ نے تناول فرمایا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی اس روایت سے تقریر بھی ثابت ہو گئی۔

## (٦) باب حج أبى بكر بالناس فى سنة تسع

٩ھ میں حضرت ابو بکر ﷺ کا لوگوں کو حج کرانے کا بیان

٣٣٦٣ - حدیثی سلیمان بن داؤد أبو الربيع: حدثنا فليح، عن الزهرى، عن  
حميد بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة: أن أبا بكر الصديق ﷺ بعثه فى الحجة على أمره  
عليها النبى ﷺ قبل حجة الوداع يوم النحر فى رهط يزدن فى الناس: أن لا يحج بعد العام  
مشاركة ولا يطوف بالبيت عربان. [راجع: ٣٦٩]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو حجۃ الوداع  
سے پہلے جس حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا اس میں حضرت ابو بکر رض نے مجھے قربانی کے دن کئی آدمیوں کے ساتھ  
بھیجا تاکہ تمام لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشارک بیت اللہ کا حج نہیں کر سکے گا اور نہ کوئی  
برہمنہ بیت اللہ کا طواف کر سکے گا۔

ابو بکر صدیق ﷺ کی امارت میں فریضہ حج کی ادائیگی

غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ماہ ذی قعده ٩ھ میں حضور اقدس ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ  
کو امیر حج بنا کر مکہ معظمه روانہ فرمایا۔

مدینہ منورہ سے تین سو آدمی حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے ساتھ ہی اور بیس اونٹ قربانی کے آپ کے  
ہمراہ کئے تاکہ لوگوں کو شریعت کے مطابق حج کرائیں اور سورہ برأت کی چالیس آیتیں جو قضیں عہد کرنے والوں  
کے بارے میں نازل ہوئیں تھیں ان کا اعلان کر دیں۔

ان آیات میں اس بات کا اعلان تھا کہ اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ جائیں اور بیت  
اللہ کا برہمنہ ہو کر طواف نہ کریں اور جس سے آپ نے کوئی عہد کیا ہے وہ اس کی مدت تک پورا کرو دیا جائے اور جن

٦) وفي صحيح مسلم، كتاب الحج، باب لا يحج العبد مشاركا ولا يطوف بالبيت عربان وبيان يوم الحج الأكبر،  
رقم: ١٣٣٧، ومن السناني، كتاب مناسك الحج، باب قوله عزوجل الخ، رقم: ٢٩٥٨، ٢٩٥٩، ومسندة أحمد،  
باب مسندة أبى هريرة رض، رقم: ٢٩٧٧

لوگوں کے ساتھ کوئی عہد نہیں کیا گیا ہے ان کو یوم الخر سے لکر چار مہینے کی مہلت ہے۔ ۱۷ حضرت ابو بکر صدیق رض کی روائی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالم کو یہ خیال ہوا کہ عہد و نقض کے متعلق جو اعلان کیا جائے مناسب یہ ہے کہ اس کا اعلان واظہا رایے شخص کی زبانی ہو جو عہد قبول کرنے والے خاندان اور اہل بیت میں سے ہو، اس لئے کہ عرب ایسے معاملات میں خاندان اور اقارب ہی کی بات کو قبول کرتے تھے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسالم نے حضرت علی رض کو بیان اور اپنی ناقہ عضباء پر سوار کر کے حضرت ابو بکر صدیق رض کے پیچے روانہ کیا کہ سورہ برأت کی آیات موسم حج میں تم سناؤ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیات برأت حضرت ابو بکر صدیق رض کے روانہ ہونے کے بعد نازل ہوئیں، اس لئے بعد میں حضرت علی رض کو آیات برأت سنانے کے لئے روانہ فرمایا۔

حضرت صدیق اکبر رض نے جب ناق کی آواز سنی تو یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسالم خود تغیریف لائے ہیں اس لئے رک گئے، دیکھا تو حضرت علی رض ہیں، پوچھا کہ ”امیر او مامور“ یعنی امیر ہو یا تابع ہو کر آئے ہو؟ حضرت علی رض نے فرمایا کہ ”بُل مامور“ مامور ہوں یعنی تابع ہو کر آیا ہوں اور فقط سورہ برأت کی آیات سنانے کے لئے آیا ہوں۔

چنانچہ لوگوں کو حج حضرت ابو بکر صدیق رض نے ہی کرایا اور موسم حج کے خطبات بھی انہوں نے ہی پڑھے اور حضرت علی رض نے صرف سورہ برأت کی آیات اور انکا مضمون یوم خر میں لوگوں کو سنایا، حضرت ابو بکر صدیق رض نے کچھ لوگ حضرت علی رض کی امداد کے لئے مقرر کر دئے کہ باری باری سے منادی کریں۔

حضرت علی رض نے آنحضرت کے حکم کے مطابق سورہ برأت کی آیات کا اعلان کیا اور اس میں بیان کئے احکامات لوگوں تک پہنچائے کہ جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ آئندہ سال کوئی شرک حج کر پائے گا اور نہ کوئی برہنہ بیت اللہ کا طواف کر سکے گا اور جس کا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالم کے ساتھ ہے وہ اس کی مدت پورا کر دیا جائے اور جس سے کوئی عہد نہیں یا عہد بلا میعاد کے ہے تو اس کو چار مہینے کا امن ہے اگر اس مدت مسلمان نہ ہو تو چار ماہ بعد جہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ ۱۸

۱۷) قال ابن القیم فی الهدی: ویسْلَمَاد ایضاً مِنْ قَوْلِ ابْنِ هُرَیْرَةِ فِی حَدِیثِ الْهَابِ ((الْبَلْ حِجَّةُ الْوَدَاعِ)) أَنَّهَا كَانَتْ سَنَةً سَعْيَ لَأَنْ حِجَّةَ الْوَدَاعِ كَانَتْ سَنَةً عَشْرَ الْهَالَّا، وَذَكَرَ ابْنُ هَرَيْرَةَ أَنَّ مَرْجُوْجَ ابْنَ كَانَ فِی ذَلِیْلِ الْعَدْدَةِ، وَذَكَرَ الْوَالَّدِي أَنَّهُ مَرْجُوْجٌ فِی ذَلِیْلِ الْعَدْدَةِ مَعَ ابْنِ بَكْرٍ لِلْأَلْمَالَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَبَعْثَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَشْرِينَ بَدْنَةً. فَعَلَّمَ الْبَارِي، ج: ۸، ص: ۸۲، وَكِتَابُ الْمَهَارِي لِلْوَالَّدِي، ج: ۳، ص: ۷۷-۷۸

۱۸) فَعَلَّمَ الْبَارِي، ج: ۸، ص: ۸۳، سِرِّ ابْنِ هَشَامٍ، ج: ۲، ص: ۵۳۵، ۵۳۶، وَكِتَابُ الْمَهَارِي لِلْوَالَّدِي، ج: ۳، ص: ۷۸، ص: ۱۰۷۸

٣٣٦٣ - حديث عبد الله بن رجاء: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء رض  
قال: آخر سورة نزلت كاملاً: براءة، وآخر نزلت خاتمة سورة النساء **﴿بَشْتَفْتُوكَ فَلِلَّهِ يَقْبِحُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾**. [الظر: ٥٢٠، ٣٢٥٣، ٣٢٥٣]

ترجمہ: حضرت براء رض نے بیان کیا کہ جو سورت سب سے آخر میں پوری اتری ہے وہ سورت براءۃ  
ہے، آخری آیت اتری تو وہ سورہ نساء کی آیت ہے **﴿بَشْتَفْتُوكَ فَلِلَّهِ يَقْبِحُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾**.

## شرح

”آخر سورة نزلت كاملاً: براءة“ اس سے مراد یہ ہے کہ سورت کا اکثر حصہ نازل ہوا، ورنہ بعض  
آیتیں سورہ براءۃ کی مختلف اوقات میں بھی نازل ہوئی ہیں۔

”وآخر نزلت خاتمة سورۃ النساء“ اور آخر سورۃ جو نازل ہوئی وہ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے:

**﴿بَشْتَفْتُوكَ فَلِلَّهِ يَقْبِحُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾** ٤٠

ترجمہ: (ای پیغمبر!) لوگ تم سے (کلالہ کا حکم) پوچھتے ہیں،  
کہہ دو کہ اللہ تھیں کلالہ کے بارے میں مکمل حکم بتاتا ہے۔

اس جملہ میں ”سورۃ“ سے مراد آیت ہے اور کہا جاتا ہے کہ احکام میں سب سے آخر میں نازل  
ہونے والی یہ آیت ہے۔ باقی فی نفس جو آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ یہ ہے:

**﴿وَأَنْقُرَا يَوْمًا ثُرْجَعُونَ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ لَمْ تُؤْتَنِي كُلُّ  
نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُنْ لَا يُظْلَمُونَ﴾** ١٩

ترجمہ: اور ڈروں دن سے جب تم سب اللہ کے پاس  
لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے  
پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہو گا۔

١٩ روى صحيح مسلم، كتاب الحج، باب لا يحج العبد مشرك ولا يطوف بالبيت عربانا وبهان يوم حج الاكبر، رقم:  
١٣٣٧، ومن السناني، كتاب مناسك الحج، باب لوله عزوجل الخ، رقم ٢٩٥٨، ٢٩٥٧، ومن أحمد، منند أبي

هريرة رض، رقم: ٢٠٧

٢٨١: [المرارة]

١٧٦: [المساواة]



أبواب الوفود  
باب وفد بنى تميم

الى

باب قصة وفد طع

## (۶۸) باب وفد بنی تمیم

## بنو تمیم کے وفد کا بیان

۳۳۶۵ - حدیث أبو نعیم: حدیث اسفلیان، عن أبي صخرة، عن صفوان بن محرز المازلی، عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہما قال: أتی لفر من بني تمیم النبی ﷺ فقال: ((البلو البشري يا بني تمیم)), قالوا: يارسول الله قد بشرتنا فأعطنا، فرؤی ذلک فی وجهه. فجاء لفر من الیمن فقال: ((اقبلوا البشری إذا لم يقبلها بنو تمیم)), قالوا: قد قبلنا يارسول الله. [راجع: ۳۱۹۰]

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رض نے بیان کیا کہ بنو تمیم کا وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو تمیم! بشارت قبول کرو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ نے بشارت تو دیدی، اب ہمیں کچھ دلوائیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اس کا اثر معلوم ہوا، پھر ہم کا وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو تمیم نے تو بشارت قبول نہیں کی، لہذا تم قبول کرو، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم نے قبول کی۔

## قبول بشارت اور مزاج شناسی

بنو تمیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ "اقبلو البشری يا بني تمیم" اے بنو تمیم کے لوگو! بشارت قبول کرو۔ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو اس لئے فرمایا کہ خوشخبری قبول کر لیجئی میں تم کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔

"قالوا: يارسول الله قد بشرتنا فأعطنا" تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں خوشخبری تو دیدی، اب ہمیں کچھ دلوائیے یعنی کچھ مال و دولت بھی دیجئے، تو لایے کچھ پیسے بھی دیجئے۔

"رؤی ذلک فی وجهه" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اس کا اثر معلوم ہوا۔

بعض روایات میں لفظ "رویا" ہے اسکے معنی دیکھا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ میں یہ بات دیکھی گئی۔

اسی مجھول کے صفتیہ میں "رأی، بیوی" سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تغیر کے آثار دیکھے گئے۔

تغیر کے آثار اس لئے دیکھے گئے کہ میں نے جنت کی اتنی بڑی خوشخبری دی اور یہ ابھی تک پیسوں اور دنیا کے مال و دولت کے چکر میں ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تغیر کے آثار دیکھے گئے۔

اس کے بعد پھر یمن کا وفد کا حاضر ہوا تو نبی کریم ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ "الْبَلُوا الْبَشَرَى إِذْ لَمْ يَقْبِلُهَا بَنُو تَمِيمٍ" تم لوگ بشارت قبول کرو، بنو تمیم نے تو بشارت کو قبول نہیں کیا۔ یمن کے لوگوں نے کہا کہ "لَدَّلَّبَلَّنَا يَارَسُولَ اللَّهِ" اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کی بشارت قبول کی۔

## (۶۹) باب

### یہ باب ترجمۃ الباب سے خالی ہے

قال ابن اسحاق: غزوۃ عبینہ بن حصن بن حذیفة بن بدرا، بنی العنبر من بنی تمیم،  
بعثه النبي ﷺ إِلَيْهِمْ فَأَغَارُوا أَصَابَ مِنْهُمْ نَاسًا وَمَسَى مِنْهُمْ سَيِّءًا.  
ترجمہ: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبینہ بن حصن بن حذیفة بن بدرا ﷺ کا مقابلہ بنو تمیم کی شاخ بنو عنبر سے ہوا،  
نبی کریم ﷺ نے ان کو بنو عنبر کی طرف بھیجا تو انہوں نے شنون مار کر ان کو مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا۔  
۳۳۶۶ - حدیثی زہیر بن حرب: حدلنا جریر، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي  
ذرعة، عن أبي هريرة ﷺ قال: لا أزال أحب بنى تميم بعد ثلاث سمعته من رسول الله ﷺ  
يقول لها لهم: ((هم أشد أمتي على الدجال)). وكانت لهم سبعة عند عائشة فقال:  
((اعتقها فإنها من ولد إسماعيل)). وجاءت صدقاتهم فقال: ((هذه صدقات لوم،  
أو قومي)). [راجع: ۲۵۳۳]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے بیان کیا کہ جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے بنو تمیم کے حق میں تین  
باتیں سنی ہیں، انہیں برابر دوست رکھتا ہوں، بنو تمیم میری امت میں دجال کے مقابلہ میں سب سے زیادہ سخت  
ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اس قوم کی ایک باندھی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا اسے آزاد  
کر دو، کیونکہ یہ اولادِ اسماعیل میں سے ہے۔ جب ان کے صدقات کا مال آیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ میری قوم یا  
فرمایا قوم کا صدقہ ہے۔

### بنو تمیم کی خصوصیات

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں بنو تمیم سے تین باتوں کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، یہ تین باتیں جو

میں نے رسول کریم ﷺ سے سئی ہیں جو آپ ﷺ ان کے بارے میں فرماتے تھے۔  
چہلی بات یہ ہے کہ ”هم أشدَّ أهْمَى عَلَى الدِّجَالِ“ بنو تمیم کے کچھ لوگ دجال کے اوپر میری قوم میں سب سے زیادہ سخت ہوں گے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ”وَكَانَتْ لِيَهُمْ سَبَبَةٌ عِنْدَ عَالَّشَةِ“ بنو تمیم کی ایک کنیز رام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ٹھیک تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”أَعْتَقِيهَا فِي الْهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ“ ان کو آزاد کر دو کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔

تیسرا بات یہ ہے کہ جب بنو تمیم کے کچھ صدقات آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”هَذِهِ صَدَقَاتُ لَوْمٍ، أَوْ قُومَى“ یہ میری قوم کے صدقات ہیں یعنی آپ ﷺ نے ان کو اپنی قوم قرار دیا۔  
حالانکہ نسباً آپ ﷺ بنو تمیم سے اس طرح نہیں تھے لیکن قوم اس نے قرار دیا کہ بنو تمیم سے دور سے جا کر نسب ملتا ہاں لئے ان کو آپ ﷺ نے اپنی نسبت سے شرف عطا فرمایا۔

۲۳۶۷ – حدیثی إبراهیم بن موسی: حدیثنا هشام بن یوسف: أن ابن جریع  
أخبرهم عن ابن أبي مليكة: أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على  
النبي ﷺ، فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زراره، فقال عمر: هل أمر الأقرع بن  
حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافى، قال عمر: ما أردت خلافك. لعماري حتى  
ارتفعت أصواتهما، فنزل لي ذلك **﴿بِهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾**  
حتى القضاة. [الظر: ۳۸۳۵، ۳۸۳۷، ۳۸۳۷]

ترجمہ: ہشام بن یوسف روایت کرتے ہیں کہ ابن جریع رحمہ اللہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ ابن ابو مليکہ، حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ بنو تمیم کے سوار آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے تو حضرت ابو بکر رض نے عرض کیا ان کا امیر قعقاع بن معبد بن زرارہ کو بنائیے، حضرت عمر رض نے عرض کیا نہیں، بلکہ اقرع بن حابس کو بنائیے، تو حضرت ابو بکر رض نے کہا تم ہمیشہ مجھ سے اختلاف کرتے ہو، جواب میں حضرت عمر رض نے کہا میں آپ سے اختلاف کا قصد نہیں کرتا، دونوں میں تکرار ہوئی، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، تو اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی **﴿بِهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾**

## حقوق کی ادائیگی میں حدود و ادب کا تقاضہ

حضرت عبد اللہ بن زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ "اَنَّ لِدَمِ رَكْبِ مِنْ بْنِي تَمِيمٍ" "بنو تمیم" کا ایک قافلہ حضور ﷺ کی خدمت میں آیا۔

حضور اقدس ﷺ کے پاس جس بھی قبیلہ کا کوئی وفاد آتا تھا تو ان میں سے کسی ایک کو آئندہ کے لئے امیر مقرر فرمادیتے تھے۔ ابھی حضور اقدس ﷺ نے ان میں سے کسی کو بھی ان کا امیر نہیں مقرر فرمایا تھا، اور نہ اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی۔

"فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمْرُ الْقَعْدَاعَ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ ذَرَادَةَ" تو حضرت صدیق اکبر ﷺ نے حضور ﷺ کو تجویز پیش کی کہ قعداع بن معاذ کا امیر بنادیجھے۔

"فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ أَمْرُ الْأَقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ" حضرت عمر ﷺ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اقرع بن جابس کو امیر بنادیجھے۔

حضرت عمر ﷺ کی بات پر حضرت ابو بکر ﷺ نے کہا کہ "مَا أَرْدَتُ إِلَّا خَلَافَى" "تم ہمیشہ میری بات سے اختلاف کرتے ہو، جواب میں حضرت عمر ﷺ نے کہا کہ "مَا أَرْدَتُ خَلَافَكَ" میں آپ سے اختلاف کا قصد نہیں کرتا یعنی جیسے آپ کا انتخاب قعداع بن معاذ ہیں اسی طرح میری نظر میں اقرع بن حابس کو امیر منتخب کرنا چاہیے، غرض یہ کہ اس معاملہ میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان آپس میں کچھ تکرار ہوئی۔

"فَتَمَارِيْهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا" یہاں تک کہ بحث و مباحثہ کے دوران شیخین رضی اللہ عنہما کی آوازیں بلند ہو گئیں، تو اس پر سورۃ الحجرات کی یہ آیت نازل ہوئی:

﴿بِإِيمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَعْدَنَ يَدَيِ اللهِ  
وَرَبِّ شَوْلِهِ وَالْقَوْا اللهُ أَنَّ اللهَ مَسِيْحُ عَلِيِّيهِمْ﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ یقیناً سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔

اس آیت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جن معاملات کا فیصلہ آنحضرت ﷺ کو کرنا ہو، اور آپ نے ان کے بارے میں کوئی مشورہ بھی طلب نہ فرمایا ہو، ان معاملات میں آپ سے پہلے کوئی رائے قائم کر لینا اور اس پر اصرار یا بحث کرنا آپ کے ادب کے خلاف ہے۔

اگرچہ (سورہ حجراۃ کی) یہ پہلی آیت اس خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی، لیکن الفاظ عام استعمال فرمائے گئے ہیں، تاکہ یہ اصولی ہدایت دی جائے کہ کسی بھی معاملے میں آنحضرت ﷺ سے آگے بڑھنا مسلمانوں کے لئے ذرست نہیں ہے۔ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر آنحضرت ﷺ کے ساتھ چلانا ہو تو آپ سے آگے نہ بڑھنا چاہئے۔ نیز آپ نے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو حدود مقرر فرمائی ہیں، ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ ۶



## (۷۰) باب وفد عبد القیس

## وفد عبد القیس کا بیان

## بحرین کا محل و وقوع

عبد القیس ایک عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا اور بحرین میں آپ و تھا۔

آج کل تو بحرین ایک چھوٹا سا ملک ہے، کوئی کے برائی بھی نہیں ہے لیکن جتنا پورا کوئی نگی ہے اتنا بحرین ہے شاید اس سے بھی چھوٹا ہو تو یہ ملک جس کو آج بحرین کہا جاتا ہے، لیکن حضور اقدس ﷺ کے زمانے میں بحرین بڑا وسیع رقبہ پر تھا، جو بحرین اس زمانے میں تھا اس کا کچھ حصہ موجودہ دور میں سعودی عرب میں آگیا ہے، کچھ حصہ بحرین تھی کہلاتا ہے، کچھ حصہ ابوظہبی کہلاتا ہے، کچھ حصہ دہنی کہلاتا ہے اور کچھ حصہ قطر کہلاتا ہے، تو دہنی سے لے کر بحرین تک خلیج فارس کا جو عربی کنارہ ہے وہ سارا اس زمانے میں بحرین کہلاتا تھا اور دہنی سے ادھر جنوبی حصہ مقتطع اور مغرب تک وہ سارا اعلاقہ یعنی کہلاتا تھا یا عمان یا یمن، تو وہ حصے تھے نہ اس زمانے دہنی تھا نہ ابوظہبی نہ قطر، سب بحرین تھا۔

## وفد عبد القیس کی حاضری کا پس منظر

اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ اس قبیلہ عبد القیس کے ایک صاحب تھے جن کا نام مقد بن حیان، وہ تجارت کی غرض سے مدینہ منورہ آئے، اس سلسلے میں بازار میں کہیں پھر رہے تھے کہ حضور اقدس ﷺ کے سامنا ہو گیا۔ نئے آدمی تھے اس لئے اخضرت ﷺ نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام مقد بن حیان ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا کہ میں بحرین سے آیا ہوں اور عبد القیس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوں۔

اُنحضرت ﷺ نے بنو عبد القیس کے جتنے بڑے بڑے سردار و شرفاء تھے، ان میں سے ہر ایک ایک کا نام لے کر پوچھا کہ اس کو جانتے ہو، اس کا کیا حال ہے؟ اس کو جانتے ہو اس کا کیا حال ہے؟ غرض یہ کہ جتنے سردار ان بنو عبد القیس تھے ان سب کا نام لے کر ان کا حال پوچھا۔  
ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ آنحضرت ﷺ کس طرح اتنے سارے لوگوں کے نام جانتے ہیں اور واقعہ یہ

ہے کہ اس سے پہلے نہ ان کی حضور ﷺ سے ملاقات ہوئی تھی نہ کوئی ایسا موقع پیش آیا تھا کہ ان سے واقف ہوئے ہوں، آخر میں پھر آپ ﷺ نے قبیلہ عبد القیس کے سردار، جس کا لقب الائچ تھا، پورا نام منذر الائچ تھا، اس کا حال واحوال پوچھا اور فرمایا کہ اس کو خاص طور پر میرا پیغام دینا اور اس کی خیریت میری طرف سے دریافت کرنا۔ ان تمام باتوں سے منقد بن حیان ﷺ کے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ سیکھے نبی ہیں تو فوراً مسلمان ہو گئے۔ جب جانے لگے تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اپنے قوم کو بھی دعوت دینا اور خاص طور پر تمہارا سردار ہے وہ اچھا آدمی ہے اس کو بھی دعوت دینا اور میرا اسلام کہنا۔

مسلمان ہو کر اپنے طعن بحرین واپس چلے گئے، چونکہ اس زمانے میں مسلمان ہو جانا اپنے پورے خاندان سے لڑائی لینے کے متراffد تھا تو اپنے طعن جانے کے بعد ان کو حوصلہ نہ ہوا کہ ایک دم سے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں، گھر میں چھپ کر نماز پڑھتے رہے اور بیوی کو بھی نہیں بتایا، یہاں تک بیوی نے دیکھا کہ یہ روز عجیب کام کرتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں اور انھک بینک کرتے ہیں تو وہ دیکھتی رہی اور اس نے کہا کہ تم جب سے آئے ہو یہ عجیب حرکتیں کرتے ہو، تو منقد بن حیان ﷺ نے بیوی کو ٹال دیا۔ بیوی نے جا کر سردار منذر الائچ سے کہا کہ جب سے میرا شوہر مدینہ سے واپس آیا ہے اس وقت سے اس کی عجیب حالت ہو گئی ہے، دن میں پانچ وقت وہ مندرجہ تھا ہے عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، جو پہلے بھی دیکھی نہیں۔

سردار نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ میں مدینہ گیا تھا، حضور ﷺ سے میری ملاقات ہوئی، آپ ﷺ نے اس طریقہ سے سارے قبیلہ کے بڑے بڑے سرداروں کے نام لئے، خیرت دریافت کی یہاں تک کہ تمہیں بھی پیغام بھجوایا اور حضور اقدس ﷺ نے تمہاری تعریف کی۔

اس کے بعد انہوں نے حضور ﷺ کی دعوت کی تفصیلات کچھ بتائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ سردار منذر الائچ اور عبد القیس کے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے۔

پھر ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم خود حضور اقدس ﷺ کے پاس جائیں اور جا کر دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوں، چنانچہ یہ چھ سات آمیوں کا وفد نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ ﷺ کا واقعہ ہے، یعنی پہلی بار وفد عبد القیس پانچ بھری میں مدینہ آیا۔

دوسری بار فتح مکہ کے بعد بھی بن عبد القیس کا وفد آیا، اس میں چالیس کے قریب آدمی تھے۔

پہلی بار ﷺ میں جب مدینہ منورہ آئے اور اپنی سواریوں سے اترے تو حضور اکرم ﷺ سامنے نظر آئے تو سب لوگ جلدی سے دوڑ کر گئے حضور اکرم ﷺ کے دست مبارک کو بوسہ دیا لیکن منذر الائچ، جو سردار تھا وہ فوراً نہ آئے، بلکہ پہلے نئے کپڑے پہنے اور آرام سے بارگاہ نبوت ﷺ میں حاضری دی اور دست مبارک کو بوسہ دیا۔ آنحضرت ﷺ نے ان کی اس بات کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ بات مجھے پسند ہے کہ

تہارے اندر حلم ہے اور اطمینان کے ساتھ کام کرنے کے عادی ہو اور جلد بازی تہارے اندر نہیں ہے۔ ۷  
اس وفد میں جو فتنگو ہوئی، تو اس کے بارے میں یہ روایت بیان کی ہے۔

۳۳۶۸ - حدیثی اسحاق أخیرنا أبو عامر العقدی: حدثنا قرة، عن أبي جمرة، قلت  
لابن عباس رضي الله عنهما: إن لى جرة تتبّدلى فيها نبيدا فأشربه حلوالى جر، إن  
أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن التضحى. فقال: لدم ولد  
عبدالقيس على رسول الله ﷺ فقال: ((مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامى)), فقالوا: يا  
رسول الله، إن بيننا وبينك المشركون من مضر وإن لا يصل إليك إلا إلى أشهر الحرم،  
حدثنا بجمل من الأمران عملنا به دخلنا الجنة ولدعوه من وراءنا. قال: ((أمركم بأربع  
وانهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرؤن ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام  
الصلوة، وإيتاء الزكوة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المفالم الخمس. وأنهاكم. وأنهاكم  
عن أربع: ما اتبّدلى الدباء والنفير والحنتم والمزلفة)). [راجع: ۵۳]

ترجمہ: ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ میرے پاس ایک گھڑا ہے، جس میں میرے لئے نبیذ تیار ہوتی ہے، میں اس نبیذ کو بیٹھا کر کے آپ خورہ میں پی لیتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ اگر میں وہ نبیذ زیادہ پی کر لوگوں کے ساتھ دیری تک بیٹھوں تو میں (نشہ پینے کی تہمت) سے رساہ ہو جاؤں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا وہ عبدالقيس رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا خوش آمدید اے قوم! جو نہ نقصان میں ہے نہ شرمسار۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہمارے اور آپ کے درمیان مشرکین حائل ہیں، اس لئے ہم سوائے اشهر حرم کے آپ ﷺ کے پاس نہیں آسکتے، ہمیں کچھ ایسی باتیں بتا دیجئے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو جنت میں چلے جائیں اور ہمارے پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں انہیں بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار سے منع کرتا ہوں، اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں، کی تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سو ان کی معبد نہیں، اور نماز پڑھنا، اور زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے خمس دینا اور تمہیں چار چیزوں سے روکتا ہوں، دباء (کدو کے برتن)، نفیر (بزر مٹکا یا مٹھلیا)، حنتم (لکڑی کے برتن) اور مزلفت (روغن کئے ہوئے برتن) میں نبیذ بنانے سے۔

۳۳۶۹ - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن أبي جمرة قال: سمعت

ابن عباس يقول: قدم و قد عبد القيس على النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله، إنا هذا العي من ربيعة وقد حالت علينا وبينك كفار مصر، فلنسألك علمنا إلّا في شهر حرام، فصرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال: ((أمركم باربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله - وعقد واحدة - وإقام الصلاة، وإيتاء الزكوة، وأن تزدروا الله خمس ما ظنتم). وأنهاكم عن الدباء النمير والختن والمذلت)). [راجع: ۵۳]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راویت کرتے ہیں کہ وفد عبد القیس نبی ﷺ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا۔ اللہ کے رسول! ہم ربيعہ کا قبیلہ ہیں اور کفار مصر ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہیں۔ لہذا ہم آپ کی خدمت میں سوائے اشهر حرام کے نہیں آسکتے، لہذا ہمارے عمل کرنے کے لئے اور جو لوگ ہم سے پیچھے ہیں انہیں دعوت دینے کے لئے کچھ چیزوں کا حکم فرمادیجھے، آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں اللہ پر ایمان لانا، یعنی اللہ کے ایک معبد ہوں جسکی شہادت دینا (اور آپ ﷺ نے انگلی سے ایک کے عدد کی طرف اشارہ کیا) نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، مال غنیمت سے خس اللہ کے لئے ادا کرنا اور میں تمہیں کدو کے، لکڑی کے، بیز ٹھلیا اور روغن کئے برتوں (کے استعمال) سے روکتا ہوں۔

## نبیذ کے معاملے میں احتیاط

اس روایت میں ابو حزہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے یہ کہا تھا "ان لی جو رہ نتبدلی لیہا بیلدا" میرے پاس ایک مٹکا ہے جو میرے لئے نبیذ بناتا ہے یعنی مٹکا ہے اس کے اندر میں کھجوریں ڈال کر نبیذ بنایا کرتا ہوں، "فاهر بہ حلوا فی جر" جب وہ مٹھا ہو جاتا ہے تو میں اس کو پیتا ہوں یعنی وہ نبیذ پیتا ہوں۔

"فی جر" انہی ملکوں میں، کیا مطلب اس جملے کا؟ یعنی وہ مٹکا مختلف ملکوں میں شامل ہوتا ہے، اس میں ایک مٹکا نکال کے پی لیتا ہوں۔

"ان اکفرت منه فجالست القوم فاطلت الجلوس" مجھے خوف ہے کہ اگر میں وہ نبیذ زیادہ پی کر جب مجلس میں بیٹھوں تو، "خشیت ان الفضع" کوئی ایسی بے سر و پابات منہ سے نکل جائے یعنی اندریشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ نبیذ پینے سے تھوڑا بہت نشہ نہ ہو جائے اور جب مجلس میں بیٹھوں تو کوئی فضوک بات کر دوں جو کہ میرے نشہ پر ہونے کی دلالت کرتی ہو اور دوسروں کے سامنے میری رسوائی ہو۔

پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نبیذ پیتا رہتا ہوں اور یہ ہوتا رہتا ہے تو یہ سب کچھ جائز ہے یا ناجائز ہے؟

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جواب میں کہنا تو یہ تھا کہ بھی اتنا تو نہیں پینا چاہئے کہ جس سے سکر بعین نشہ پڑھ جانے کا اندیشہ ہو لیکن اس بات کو اور اس حکم کو بیان کرنے سے پہلے آپ نے وفد عبدالقیس کی آمد کا قصہ سنایا جس میں نبی کریم ﷺ نے شراب کے برخنوں کے استعمال سے بھی ممانعت کی تھی کیونکہ شراب کے برخنوں میں ایک تو یہ اندیشہ تھا کہ جب آدمی شراب کے برخن استعمال کرے گا تو وہ پھر یاد آجائے گی کہ کہیں اس میں ہم مئے نوشی کیا کرتے تھے، اس واسطے اندیشہ ہے کہ کہیں دوبارہ بجلانہ ہو جائیں۔

دوسران مٹکوں کے اندر جو پہلے شراب بنائی جاتی تھی اس میں اگر کوئی حلال مشروب بھی ڈالا جاتا ہے جیسے فیزی تو اندیشہ تھا کہ کہیں اس میں بھی سکر نہ ہو یا تو اس وجہ سے کہ پہلے سے ہی اس میں نشہ آور کوئی چیز موجود ہو یا اس وجہ سے کہ یہ مٹکے بنائے ہی اس طرح جاتے تھے کہ ان کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جلدی خیر المحتا تھا اور جلدی خیر المختفی کے نتیجہ میں نشہ جلدی پیدا ہوتا تھا۔

اس واسطے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث سنائی یہ بتانے کے لئے کہ یہ تمہارا اطريقۃ صحیح نہیں ہے، مٹکے کے اندر اتنا سارا انبیذہ بنا کر مت پیا کرو۔ اول تو ذرا احتیاط سے کام لو کہ اس میں سکر پیدا ہی نہ ہو اور اگر پیدا ہو تو اتنی پیو کہ جس سے سکر پیدا ہو۔

یہ قصہ تھا اس میں وفد عبدالقیس کے آنے کا واقعہ بیان کیا۔

وفد عبدالقیس کا حال بیان فرماتے ہیں کہ عبدالقیس کا وفد رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”مرحبا بالقوم غیر مخزاها ولا اللذاهی“ خوش آمدید اس قوم کو یہ نہ رسول ہو کر آئے ہیں نہ پشمن ہو کر، ہمارے پاس سرخود ہو کر آئے ہیں۔

”یا رسول اللہ، انہیں کیونکہ المشرکین من مضر“ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے مشرکین حائل ہیں لیکن ہمارا بھریں کا جو علاقہ ہے اس میں اور آپ کے درمیان مضر کے قبیلہ کے مشرک آباد ہیں۔ ہم الحمد للہ بھریں کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ ادھر مدینہ منورہ میں، درمیان کا جو علاقہ ہے اس میں مضر کے لوگ آباد ہیں اور یہ بجد کا علاقہ تھا، تو اس میں یہ مضر آباد ہیں۔

”وَإِنَّا لَا نُصْلِلُ إِلَيْكَ إِلَّا هُنَّ أَشْهُرُ الْعُرُمِ“ لہذا ہم سوا بھرمت والے مہینوں کے اور کسی مہینہ میں آپ تک نہیں آ سکتے کیونکہ درمیان میں مضر کے لوگ حائل ہیں تو یہ لڑائی کریں گے اور مار پٹائی کرتے ہیں تو اس واسطے ہم اور دونوں میں آئیں گے اس لئے کہ ہمیں مضر کے ہاتھوں جانوں کا خطرہ ہے ہم صرف اشہر حرم میں آ سکتے ہیں، ”حَدَّثَنَا بِيَعْمَلِ مِنَ الْأَمْرَانِ عَمِلْنَا بِهِ دَخْلَنَا الْجَنَّةَ وَلَدَعْوُ بِهِ مِنْ وَرَاءَ نَا“ لہذا آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتا دیجئے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو جنت میں چلے جائیں اور ہمارے پیچے جو لوگ رہ گئے ہیں انہیں بھی اس کی دعوت دیں۔

یعنی کچھ ایسے امور بتاوے جئے کہ روز روز تو ہمارا آناممکن نہیں ہے، لہذا آپ ایسی کوئی عام ہدایات نہیں دینے کہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نہیں جنت عطا فرمیں۔

”جمل“ جمع ہے ”جملہ“ کی اور اس کے معنی مجموعی چیز، تو ایسے مجموعی امور بتاوے جئے کہ جو عام ہوا اور شامل قسم کے ہدایات رکھتی ہوں اگر ہم اس پر عمل کریں تو جنت میں داخل ہوں اور پھر ہم اپنے پیچھے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔

آگے ساری وہ حدیث ہے جو کتاب الائیمان میں تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے۔ ۵

۲۳۷۰ - حديثنا يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب: أخبرولى عمرو: وقال بكرابن مضر، عن عمرو بن العمارث، عن بكرير: أن كريما مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة فقالوا: أقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصر فإذا أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن النبي ﷺ لهى عنهما، قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما، قال كريب: قد دخلت عليها وبلفتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة، فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة فقالت أم سلمة: سمعت النبي ﷺ ينهى عنهما وإله صلي العصر ثم دخل على وعندى نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فارسلت إليه الخادم فقلت: قومي إلى جنبه لقولي: تقول أم سلمة: يا رسول الله ألم اسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخرى، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرجت عنه، فلما اصرف قال: ((يا بنت أبي أمية، سالت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاكي أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم لشعلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر لهما هاتان)). [راجع: ۱۲۲۳]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولیٰ کا بیان ہے کہ ابن عباس، عبد الرحمن بن ازہر اور مسور بن مخرمه <sup>رض</sup> نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس مجھے بھیجا اور کہا کہ ہم سب کی طرف سے انہیں سلام کہنا اور عصر کے بعد دور کعت نقل کے بارے میں پوچھنا اور کہنا کہ نہیں اطلاع ملی ہے کہ آپ عصر کے بعد یہ دور کعت پڑھتی ہیں، حالانکہ نہیں آنحضرت <sup>رض</sup> کی یہ حدیث معلوم ہوئی ہے کہ آپ نے ان دور کعتوں سے منع فرمایا ہے۔

۵ تفصیل کے لئے ملاحظہ نہیں۔ العام الباری، کتاب الائیمان، باب: أداء الخمس من الاعمال، رقم: ۵۳، ج: ۱

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں حضرت عمرؓ کے ساتھ لوگوں کو ان دور کعتوں کے پڑھنے سے روکتا تھا۔ کریب کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا اور انہیں ان لوگوں کا پیغام پہنچایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر معلوم کرو، کریب کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات بتادی تو انہوں نے مجھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس وہی پیغام دے کر بھیجا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا تھا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے آنحضرتؓ کو ان دور کعتوں سے منع فرماتے ہوئے سناؤ اور آپؓ ایک دن نماز عصر پڑھ کر میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میرے پاس انصار کے قبیلہ بنو حرام کی عورتیں بیٹھیں تھیں، تو آپؓ نے دور کعties پڑھیں، میں نے آپؓ کے پاس خادمہ کو بھیجا، اور اس سے کہا کہ آنحضرتؓ کے پہلو میں کھڑی ہو کر عرض کر کے ام سلمہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول! کیا میں نے آپ سے یہ نہیں سنایا کہ آپ ان دور کعتوں کے پڑھنے سے منع کرتے تھے، حالانکہ اب میں آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، اگر آپؓ ہاتھ کے اشارے سے منع کریں تو، تو یچھے ہٹ جانا، چنانچہ وہ خادمہ گئی، اور اس نے ایسا ہی کیا، آپؓ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا تو وہ ہٹ گئی، پھر جب آپ چلنے لگے تو فرمایا اے دختر ابو امية تو عصر کے بعد دور کعتوں کے بارے میں پوچھتی ہے، میرے پاس عبد القیس کے آدی اسلام لانے کے لئے آئے تو میں ان کی وجہ سے ظہر کے بعد کی دور کعties نہیں پڑھ سکتا تھا، تو یہ دور کعties وہی تھیں۔

### بعد عصر نماز پڑھنے کا مسئلہ

حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت عبد الرحمن بن ازہر اور حضرت سورہ بن مخرمؓ ان تینوں حضرات نے کریب کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا اور کریب حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کے مولی ہیں اور اس حدیث کے راوی بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان تین حضرات نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کے ہمارا اسلام کہنا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنا کہ عصر کی نماز کے بعد دور کعتوں کے بارے میں بتائیے۔

”لَيْلَانَا أَخْبَرَنَا أَنَّكَ تَصْلِيهِمَا“ اور یہ بھی بتائیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے آپ یہ دور کعties عصر کے بعد پڑھتی ہیں، ”وَلَدَ بِلَهْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَهُ عَنْهُمَا“ اور جب کہ ساتھ میں ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی کریمؓ نے عصر کے بعد دور کعتوں لئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

چونکہ ان حضرات کو وہ احادیث پہنچی ہوئی تھی جن میں نبی کریمؓ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع

فرمایا ہوا ہے اور ساتھ ہی یہ اطلاع بھی مل تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دورِ رکعتیں پڑھتی ہیں تو ان سے یہ پوچھنے کے لئے ان تینوں حضرات نے کریب کو بھیجا کہ جا کر ان سے یہ سب بات کہنا۔

”قال ابن عباس: و كنت أضرب مع عمر الناس عنهم“ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ

عنہا نے درمیان میں یہ اضافہ بھی کیا کہ میں حضرت عمرؓ کے ساتھ مل کر لوگوں کو ان رکعتوں سے روکا کرتا تھا۔

”أضرب“ یہاں مارنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے اعراض کروایا کرتا تھا۔

”فدخلت عليهما وبلغتها ما أرسلوني“ کریب کہتے ہیں کہ ان حضرات کے حکم کی تعلیل میں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوا اور ان تک وہ پیغام پہنچایا جو مجھے دیا گیا تھا۔

”فقالت: مل أم سلمة، فأخبرتهم لردوبي إلى أم سلمة“ تو حضرت عائشہ رضی اللہ

عنہا نے فرمایا کہ جا کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو، میں نے جا کر تینوں حضرات سے کو بتایا کہ حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں، تو ان حضرات نے مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے

پوچھو، ”بمثل ما أرسلوني إلى عائشة“ اور تقریباً وہی پیغام بھیجا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا تھا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے واقعہ تفصیل سے بتایا۔

”سمعت النبي ﷺ ينهى عنهم“ فرمایا کہ میں نے بھی نبی کریم ﷺ کو ساتھا کہ آپ عصر کے بعد

نماز پڑھنے کو منع فرماتے تھے، ”وإله صلی العصر ثم دخل على وعندی لسوة من بنی حرام من

الأنصار“ لیکن ہوا یہ کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے عصر کے نماز مسجد میں پڑھی، پھر میرے پاس تشریف لائے،

اور اس وقت میرے پاس النصار میں سے بن حرام کی عورتیں پڑھی تھیں۔

”فصلہما فارسلت إلیه الخادم“ آپ ﷺ نے دورِ رکعتیں پڑھیں، جب آپ نماز پڑھنے کے

لئے کھڑے ہو گئے تو کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید آپ کو یہ یاد نہ رہا ہو کہ عصر کے بعد کا وقت

ہے اور عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہوتا ہے۔ اس واسطے آپ ﷺ کھڑے ہو گئے ہوں تو میں نے اپنی خادم کو بھیجا۔

”فارسلت“ میں نے حضور اکرم ﷺ کے پاس اپنی نو کرانی کو بھیجا، یہاں اگر چہ اس نام ناول مذکور کا صیغہ

ہے لیکن یہ جس کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس میں مذکور موثق دونوں شامل ہوتے ہیں، مراد موثق ہے۔

”لقلت: قومي إلى جنبه“ اور میں نے یہ کہا کہ وہاں پر جا کے پہلو میں کھڑی ہو جانا، ”لقولي:

لقول أم سلمة: يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين“ اور ان سے یہ کہنا کہ ام

سلمہ نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول! آپ تو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا کرتے تھے، ”لقاراک

فصلیہما؟“ تو اب آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟

”لَمَّا أَشَدَّ بَدْءُهُ فَاسْتَأْخِرَى“ اگر تمہیں ثہر نے کا اشارہ کریں تو تھوڑی دریکھبر جانا، نماز پڑھ کے

فارغ ہوں گے تو صحیح حقیقت حال بتا دیں گے۔ خادمہ نے ایسا ہی کیا، حضور اکرم ﷺ نے اشارہ کیا کہ ظہر جاؤ۔

”لَمَّا أَنْصَرَ فَقَالَ: هَا بَنْتُ أَبِي أُمَّةٍ“ جب آپ ﷺ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو خطاب کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا اے ابوامیہ اکی بیٹی، ”سالت عن الرکعتین بعد العصر“ تم نے مجھ سے عصر کے بعد دورکعت پڑھنے کے متعلق سوال کیا ہے۔

”إِنَّهُ أَكْلَى أَنَاسٍ مِّنْ عَهْدِ الظِّئْسِ بِالإِسْلَامِ مِنْ لَوْمِهِمْ“ میرے پاس بنو عبد القیس کے کچھ لوگ اپنے قوم کے کچھ لوگوں کو اسلام لا کر لائے تھے، ”الشَّفَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتِيْنِ بَعْدَ الظَّهَرِ لِهِمَا هَاتَانِ“ او، انہوں نے مجھے ظہر کی بعد کی دورکعتوں سے مشغول کر لیا تو اب یہ دورکعتیں ہیں۔

جب آپ ﷺ نماز پڑھ پچھے توجہ بتائی کہ اصل بات یہ ہے کہ میں ظہر کے بعد کی دورکعتیں نہیں پڑھ سکتا تھا اس وجہ سے کہ عبد القیس کا وفد میرے پاس آیا ہوا تھا عبد القیس کے دید کے ساتھ مشغولیت کی بنا پر میں دو سنتیں جو ظہر کے بعد کی ہیں وہ نہیں پڑھ سکتا تھا تو اس واسطے میں۔ نے یہ مناس سمجھا کہ جب ایک کام رہ گیا ہے تو اس کو عصر کے بعد پورا کرلوں، تو اس لئے میں نے پڑھ لیں۔

کیونکہ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات یا عمل شروع کریں تو اس پر مدامت اختیار کریں تو اس لئے میں نے یہ کام کر لیا کہ ظہر کے بعد کی دورکعت نماز کو عصر کے بعد پڑھ لیا۔

## روایات میں تعارض اور اس کا حل

عصر کے بعد دورکعتیں پڑھنے کے بارے میں حدیثوں کے درمیان بظاہر اتنا زبردست تعارض ہے کہ آدی کا سرچکر اجاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس کی وجہ پر بتائی کہ حضور ﷺ نے اس لئے پڑھی تھی۔

پھر مسند احمد کی روایت میں آیا ہے کہ امام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اگر ہم سے کبھی ظہر کی دورکعتیں رہ جائیں تو کیا ہم بھی اسی طرح عصر کی نماز کے بعد قضا کر لیا کریں؟ تو آپ ﷺ نے منع فرمادیا۔

اسی طرح ایک دوسری روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عصر کے بعد دورکعتات نماز حضور ﷺ نے زندگی بھر صرف ایک مرتبہ پڑھی تھی۔ ۱

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ جب کبھی عصر کے بعد میرے گھر تشریف لاتے تو دور کتعیں ضرور پڑھتے۔ یہ

اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور ﷺ پڑھتے تھے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو پڑھنے نہیں ہو گا تو اس واسطے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ﷺ نے زندگی بھرا یک مرتبہ پڑھی اس سے زیادہ نہیں پڑھی۔

لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث پتا چلتا ہے کہ اصل علم تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو تھا جب لوگ ان سے پوچھنے آئے تو انہوں نے بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا۔ اس واسطے یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو علم نہیں تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو علم تھا۔

ساری روایات کو مد نظر رکھنے کے بعد جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابتداء میں سب سے پہلے جو آنحضرت ﷺ نے رکتعیں عصر کے بعد پڑھیں وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پڑھیں، جس کا واقعہ یہاں پر مذکور ہے اور اس لی وجہ بھی بیان فرمادی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرمادیا کہ آئندہ اگر تمہاری دور کعت قضا ہو جائے تم ایسا مت کرنا، یہ میری خصوصیت ہے۔

اس سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ سمجھیں کہ یہ ایک واقعہ ہے جو انفرادی طور پر پیش آگیا ہے، اب دوبارہ نہ آپ ﷺ پڑھیں گے اور نہ آپ ﷺ نے دوسرے کو پڑھنے کی اجازت دی ہے۔

حضور اقدس ﷺ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی عمل کسی وقت میں شروع فرمادیے تو پھر آئندہ بھی اس کی پابندی کرتے تھے تو اگرچہ عصر کے بعد کے دور کعون کا اصل سبب ظہر کی دور کعون کا فوت ہو جانا تھا، پھر بھی بہر حال آپ ﷺ نے عصر کے بعد دور کتعیں ایک مرتبہ پڑھ لی تو اب ساری عمر اس عمل کو پسند فرمایا۔

لیکن یہ عمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جاری رکھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس کا پتہ نہیں چل سکا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو دور کتعیں پڑھتے۔

لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا ان کا مشایہ تھا کہ ان دونوں کی اصل بنیاد کس طرح قائم ہوئی اس کا علم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ہے ان سے جا کر پوچھو، لیکن بعد میں مسلسل عصر کے بعد نماز پر ہتھیاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اپنے گھر میں تھا۔

اس طرح تمام روایات اپنی اپنی جگہ پر درست ہو جاتی ہیں۔ بہر صورت یہ بات متفق علیہ ہے کہ اب کسی آدمی کے لئے عصر کے ذائقے بند، رکتعیں پڑھنے مسنون نہیں اور شروع نہیں۔

٣٣٧١ - حدیثی عبد‌الله بن محمد الجعفی: حدیثنا أبو عامر عبد‌الملک: حدیثنا ابراهیم هو ابن طہمان، عن أبي جمرة، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت فی مسجد رسول اللہ ﷺ الی مسجد عبد القیس بجوالی. یعنی لریہ من البحرين. [راجع: ۸۹۲]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں جمعہ کی نماز ہونے کے بعد سب سے پہلے جہاں جمعہ کی نماز ادا کی گئی، وہ جو اٹی میں بنو عبد القیس کی مسجد ہے، جو اٹی بحرین میں ایک جگہ کا نام ہے۔

## شرح

سب سے پہلا جمعہ حضور ﷺ کی مسجد میں قائم ہونے کے بعد جس جگہ ہوا وہ بنو عبد القیس کی مسجد میں ہوا۔  
شہر اور دیہات میں جمعہ کی نماز قائم ہونے پر مفصل بحث کتاب الجمیع میں گزری ہے۔ ۵

۵) مکمل تفصیل و دلائل کے لئے مراجعت فرمائیں: انعام الباری، کتاب الجمعة، باب الجمعة فی القرى والمدن، ج: ۲،



## (۱۷) باب وفہ بنی حنیفة، وحدیث ثماۃ بن اثال

## وفہ بنو حنیفة اور ثماۃ بن اثال کے قصہ کا بیان

۳۳۷۲ - حدیثنا عبد الله بن یوسف: حدیثنا سعید بن أبي سعید  
 أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعْثَ النَّبِيِّ ﷺ خَمْلًا قَبْلَ لِجَدِ فِجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِي حَنْيَفَةَ  
 يَقَالُ لَهُ: ثَمَّاۃُ بْنُ اَثَّالٍ، لِرِبْطُوهِ بَسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِيِّ الْمَسْجَدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ:  
 ((مَاذَا عَنْدَكَ يَا ثَمَّاۃً؟)) فَقَالَ: عَنِّي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدَ، إِنْ تَفْتَلَنِي تَقْتَلُنِي ذَادَمْ، وَإِنْ تَنْعَمَ  
 تَنْعَمُ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْعَالَمَ لِسْلَمَ مِنْهُ مَا شَتَّتَ لِتَرْكٍ حَتَّىٰ كَانَ الْفَدَ، ثُمَّ قَالَ:  
 لَهُ: ((مَا عَنْدَكَ يَا ثَمَّاۃً؟)) فَقَالَ: مَا قَلَّتْ لَكَ، إِنْ تَنْعَمَ تَنْعَمُ عَلَى شَاكِرٍ، لِتَرْكٍ حَتَّىٰ  
 كَانَ بَعْدَ الْفَدَ، فَقَالَ: ((مَاذَا عَنْدَكَ يَا ثَمَّاۃً؟)) فَقَالَ: عَنِّي مَا قَلَّتْ لَكَ، فَقَالَ:  
 ((أَطْلَقُوا الْعَامَةَ)), فَأَنْطَلَقَ إِلَى لِجَلِ قَرِيبَ مِنَ الْمَسْجَدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجَدَ فَقَالَ:  
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، يَا مُحَمَّدًا وَاللَّهُ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ  
 رِجَةً أَبْعَضَ إِلَىٰ مِنْ وِجْهِكَ، فَلَقَدْ أَصْبَحَ وِجْهُكَ أَحَبُّ الْوِجْهَاتِ إِلَيَّ، وَاللَّهُ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ  
 أَبْهَضَ إِلَىٰ مِنْ وِجْهِكَ فَاصْبَحَ دِينَكَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللَّهُ مَا كَانَ مِنْ بَلْدَ أَبْهَضَ إِلَىٰ مِنْ  
 بَلْدَكَ فَاصْبَحَ بَلْدَكَ أَحَبُّ الْبَلَادِ إِلَىٰ، وَإِنْ خَيْلَكَ أَخْدَتْنِي وَأَنَا أَرِيدُ الْعُمْرَةَ، لِمَاذَا  
 تَرِىٰ لِبَشَرِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، لِلْمَا لَدَمْ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَالِلٌ: صَبُوتُ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهُ  
 وَلَكُنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا وَاللَّهُ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةً حَنْطَةً حَتَّىٰ يَأْذِنَ  
 لِهَا النَّبِيُّ ﷺ، [راجع: ۳۶۲]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رض نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے خجد کی طرف کچھ سواروں کو بھیجا، وہ بنی  
 حنیفہ کے آدمی ثماۃ بن امثال کو پکڑ لائے، اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم  
 اس کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے فرمایا اے ثماۃ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا۔ے محمد! میرا خیال بہتر ہے،  
 اگر آپ مجھے قتل کروں گے تو ایک خونی کو قتل کریں گے، اور اگر احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں  
 گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا دل چاہے ماں گے مجھے، حتیٰ کہ دوسرا دن ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے اس سے  
 فرمایا کیا خیال ہے اے ثماۃ؟ اس نے کہا میرا وہی خیال ہے جو میں آپ سے کہہ چکا کہ اگر آپ احسان کریں

گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے، آپ ﷺ نے اسے اسی حال پر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ تیراون ہوا۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا کیا خیال ہے اے ثماں؟ اس نے کہا میرا ہی خیال ہے جو میں آپ سے کہہ چکا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ثماں کو رہا کر دو۔ چنانچہ ثماں نے مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کیا پھر مسجد میں آ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواء کوئی معبو و نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم اے محمد اروئے ز میں پر آپ سے زیادہ بعض مجھے کسی سے نہیں تھا، مگر اب آپ سے زیادہ محبوب مجھے روئے ز میں پر کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم! آپ کے دین سے زیادہ دشمنی مجھے کسی دین سے نہیں تھی، مگر اب آپ کے دین سے زیادہ محبت مجھے کسی دین سے نہیں۔ اللہ کی قسم! آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند مجھے کوئی شہر نہیں تھا، مگر اب آپ کے شہر سے زیادہ پسندیدہ کوئی شہر نہیں۔ آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت پکڑا جب میں عمرہ کے ارادہ سے جا رہا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے ان کو بشارت دی اور عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ مکہ آئے تو ان سے کسی نے کہا توبے دین ہو گیا ہے، انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر شرف با اسلام ہوا ہوں، اور اللہ کی قسم! تمہارے پاس نبی ﷺ کی اجازت کے بغیر یہ مامد سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔

## ثماں بن اثال ﷺ کے قبول اسلام کا واقعہ

اس روایت میں حضرت ثماں بن اثال ﷺ کا واقعہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے نجد کی طرف کچھ سواروں کو روانہ فرمایا، وہ لوگ بن عنیف کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئے، جن کا نام ثماں بن اثال تھا، اس قیدی کو ان لوگوں نے مسجد بنوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔

”لَخْرُجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مَاذَا أَعْنَدْكَ يَا ثَمَانَةً؟“ آپ ﷺ جب باہر تشریف لائے تو کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے اے ثماں؟ مطلب یہ تھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔

”فَقَالَ: عَنِّي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَفْعَلْنِي تَفْعَلْ ذَا دَمَ“ تو ثماں بن اثال نے کہا کہ میری رائے تو خیر کی ہے اے محمد! اگر آپ قتل کریں تو نحیک ہے قتل کریں، قتل کسی ایسے شخص کو ہی کریں گے جو خون والا ہے۔ مطلب یہ کہ میں صاحب حسب و نسب ہوں اور صاحب حسب و نسب ہونے کی حیثیت سے اگر آپ قتل کرنا چاہے تو کریں، جیسے آدمی صاحب حسب و نسب شخص کو قتل کر کے خیر کر سکتا ہے ویسے آپ بھی مجھے قتل کر کے خیر کر سکتے ہیں کیونکہ میں بھی حسب و نسب والا ہوں۔

بعض لوگوں نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ میں ایسا لاوارث نہیں ہوں کہ اگر آپ نے مجھے قتل کیا تو

ایے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا بدلہ لینے والے بہت ہیں۔  
یعنی ایک طرح سے حکمی بھی ہے کہ ایے شخص کو قتل کریں گے کہ ایسا نہیں لاوارث قتل ہو گیا، بلکہ اس کے خون کا بدلہ لینے والے بہت ہیں، یہ دونوں تفسیریں کی گئی۔ ۹

”وَإِن تَنْعَمْ تَنْعَمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ“ اور اگر آپ انعام کریں، احسان کریں یعنی چھوڑ دیں تو انعام کریں گے ایک ایسے شخص پر جو شکر کرنے والا ہو گا، ناقدر نہیں ہو گا ناشکر نہیں ہو گا۔  
مطلوب یہ کہ وہ شکر گزار ہو گا اور آپ کے اس انعام کا ناقدر دو ان ہو گا۔

”وَإِن كُنْتَ تَرِيدُ الْمَالَ فَصُلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ“ اور اگر مال چاہئے تو جو چاہے آپ مانگ لیں۔

## اہل عرب کی بلاغت اور جرأت

یہ ہے عربوں کی بلاغت کہ تین جملوں میں اپنا استغنا بھی پورا ظاہر کر دیا اور اپنا استغنا ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ جو امکان ہو سکتا تھا اپنی رہائی کا وقار انداز میں پیش کر دیا۔  
ایک تو یہ ہے کہ آدمی متنیں شروع کر دے کہ خدا کے لئے معاف کر دو، نہیں کیا بلکہ اپنا وقار بھی قائم رکھا اور غیرت بھی قائم رکھی اور ساتھ ساتھ اپنی رہائی کے راستے بند بھی نہیں کئے بلکہ اس کے لئے راستے بھی کھلا چھوڑ دیا۔

”فَتَرَكَ حَتَّىٰ كَانَ الْفَدْ“ آپ ﷺ نے ان کو چھوڑ دیا یعنی اسی حالت میں رہنے دیا کہ وہ ستون سے بند ہے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اگلاردن آگیا۔

”لَمْ قَالَ لَهُ: مَا عِنْدَكَ يَا الْمَامَةُ؟“ نبی کریم ﷺ نے اگلے دن دوبارہ پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے اے ثامنة؟، ”مَا قَلْتَ لِكَ، إِنْ تَنْعَمْ تَنْعَمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ“ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو وہی ہے جو کل کہا تھا اگر آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے۔

اب یا تو اس موقع پر انہوں نے دو جملے حذف کر دیے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ اگر چہ میں نے تینوں اختیار آپ کے پاس چھوڑے ہیں لیکن آپ کے کرم سے امید یہ ہے کہ اس کو آپ زیادہ ترجیح دیں گے۔

ڈ ولال النروی: معنی الاول: ان تفضل فعل ذات دم، ای: صاحب دم لا جل دمه، و معنی الثانی: ذاته، وكذلك ولع في رواية اہسی دارد، وردہ عباض: لانه بتنقلب المعنی لأنه اذا كان ذاته يتضع قلبه، فوجهه النروی: ما ان المراد بالذمة

”لَنْ تُرْكَ حَتَّىٰ كَانَ الْفَد“ تو پھر آپ ﷺ نے ان کو چھوڑ دیا یعنی اس حالت میں رہنے دیا یہاں تک کہ اگلا دن آگیا یعنی تمراون آگیا۔

”لِقَالٌ: مَاذَا عَنِدَكَ بِالْمَامَة؟“ پھر آپ ﷺ نے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے اے ٹھامہ؟

”الْقَالٌ: عِنْدِي مَا قَلْتَ لَكَ“ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو وہی ہے۔

”لِقَالٌ: أَطْلَقُوا الْمَامَة“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو۔

”فَأَطْلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ، فَأَغْتَسَلَ“ جب ان کو چھوڑ دیا آزاد ہو گئے تو اسی وقت مسجد کے قریب واقع نخلستان میں گئے وہاں غسل کیا، ”فِمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِقَالٌ: أَشْهَدُ إِلَّاَخَ“ اور غسل کرنے کے بعد پھر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواء کوئی معبد نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔

جب تک بندھے ہوئے تھے اس وقت تک نہیں کہا کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ دباؤ میں آکر ڈر کے مارے اسلام قبول کیا، بلکہ آزاد ہونے کے بعد پہلا کام یہی کیا۔

اور پھر کہا ”يَا مُحَمَّداً وَاللَّهُ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْعَضُ إِلَىٰ مِنْ وِجْهِكَ“ اے محمد اللہ کی قسم! اس روئے زمین پر کوئی چہرہ مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، ”فَلَقَدْ أَصْبَحَ وِجْهُكَ أَحَبَ الْوِجْهَ إِلَيَّ“ اور اب آپ کا چہرہ مبارک مجھے ساری دنیا کے چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔

”وَاللَّهُ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضُ إِلَىٰ مِنْ دِينِكَ“ اللہ کی قسم! آپ کے دین سے زیادہ وغیرہ مجھے کسی دین سے نہیں تھی، ”فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَ الدِّينَ إِلَيَّ“ مگر اب آپ کے دین سے زیادہ محبت مجھے کسی دین سے نہیں۔

”وَاللَّهُ مَا كَانَ مِنْ بَلْدَ أَبْغَضُ إِلَىٰ مِنْ بَلْدِكَ“ اللہ کی قسم! آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند مجھے کوئی شہر نہیں تھا، ”فَأَصْبَحَ بَلْدُكَ أَحَبَ الْبَلَادَ إِلَيَّ“ مگر اب آپ کے شہر سے زیادہ پسندیدہ کوئی شہر نہیں۔ اب اتنا بڑا انقلاب پا ہو گیا کہ سب سے زیادہ مبغوض جو چیزیں تھیں، وہ محبوب بن گئیں۔

”وَإِنْ خَيْلَكَ أَخْذَنِي وَإِنَّا أَرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا قَرِىَ؟“ آپ کے لشکرنے مجھے اس حالت میں پکڑا تھا کہ میں عمرہ کو جا رہا تھا، اب آپ کی رائے کیا ہے آپ اگر حکم دیں تو عمرہ کو جاؤں اور عمرہ پورا کروں؟

”فَبَشَّرَهُ النَّبِيُّ وَأَمْرَهُ أَنْ يَعْتَمِر“ آپ ﷺ نے ان کو خوشخبری دی اور عمرہ کرنے کا حکم دیا۔

”فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَاتِلٌ: صَبَوتٌ؟“ جب ٹھامہ بن اثمال ﷺ کے آئے تو کسی کہنے والے نے کہا رئے تم صابی ہو گئے ہو؟ یعنی بے دین ہو گئے ہو؟

”قَالَ: لَا وَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَسْلَمْتَ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولَ اللَّهِ“ انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم

انہیں بلکہ محمد رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اور مسلمان ہوا ہوں، ”ولَا وَاللَّهُ لَا يَأْمُكُمْ مِنَ الْبَيْمَةِ حَبَّةٌ حَنْطَةٌ حَتَّىٰ يَأْذُنَ لِيَهَا النَّبِيُّ ﷺ“ اور اللہ کی قسم! اب یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی اس وقت تک تھارے پاس نہیں آئے گا جب تک کہ نبی کریم ﷺ اجازت نہ دیں گے۔

اس واسطے کہ مکہ مکرمہ میں سارا گندم، وغیرہ یمامہ سے آیا کرتا تھا چنانچہ یہی ہوا، یہ یمامہ چلے گئے اور گندم کی ترسیل انہوں نے بند کر دی، اور مکہ میں قحط پڑنے لگا تو حضور ﷺ سے مکہ کے لوگوں نے باقاعدہ رشتہ داری اور قرابت کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ آپ تو ہمارے بہترین رشتہ دار ہیں اور آپ سخنی ہیں تو کسی طرح سے کہنے کہ ہمارے لئے گندم کی ترسیل کو چھوڑ دیں تو حضور اکرم ﷺ نے اس حالت میں بھی اہل مکہ کی سفارش کی اور شامہ بن اثمال ﷺ کو خط لکھ کر بھیجا، اس کے بعد انہوں نے گندم ترسیل جاری کی۔

یہ باب جو حل براہے وہ ہے ”باب وفـد بـنـی حـنـیـفـةـ وـحـدـیـثـ لـعـامـةـ اـبـنـ اـثـمـالـ“ اس میں بنو حنیفہ کے وفد کا واقعہ بیان کرنا مقصود ہے اور اسی ضمن میں شامہ بن اثمال ﷺ کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔

## قبائل عرب کے وفود کی حاضری کا سال

یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ مغازی میں عام طور سے غزوہات کا بیان ان کی تاریخی ترتیب سے کرتے چلے آئے ہیں لیکن کسی جگہ کسی معمولی تعلق سے وہ کوئی ایسا واقعہ بھی ذکر کر دیتے ہیں جو اس تاریخی ترتیب کے مطابق نہیں ہوتا۔

اس وقت ابواب کا سیاق چل رہا ہے یہ عام الوفود کا ہے یعنی سن تو بھری فتح مکہ کے بعد یہ سال ایسا ہے کہ سرور دو عالم ﷺ کے پاس عرب کے چاروں اطراف سے مختلف قبائل کے وفود آتے رہے ہیں، کوئی وفد معلومات حاصل کرنے کے لئے آیا، کوئی وفد حضور اکرم ﷺ کی صحبت میں کچھ دن گذرانے کے لئے آیا، کوئی وفد محض سُن گُن لینے کی غرض سے آیا، مختلف مقاصد کے تحت وفود آتے رہے ہیں۔

اورو جو اس کی یہ تھی کہ فتح مکہ سے پہلے جو قبائل دور دور تھے تو حضور اقدس ﷺ کے انجمام کا انتظار کر رہے تھے کہ اہل مکہ کے ساتھ جو ان کی لڑائی چل رہی ہے اس میں بالآخر کون فتح یا بہوتا ہے؟

بِالْوَلَهِ: ((حَتَّىٰ يَأْذُنَ لِيَهَا النَّبِيُّ ﷺ)) ای: إِلَى يَأْذُنَ لِيَهَا النَّبِيُّ بِذَلِكَ، لَام ابْن هَشَام: لَمْ خُرُجْ إِلَى الْبَيْمَةِ فَعَصَمُوهُمْ بِحَمْلِهَا إِلَى مَكَةَ هَذِهِ، فَكَبُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. الْكَفَافُ بِمَلْأِ الرَّحْمِ، الْكَتْبُ إِلَى الْعَمَامَةِ: أَنْ تَغْلِي بِهِمْ وَهِنَّ الْحَمْلُ الْيَهِيمُ. عَدْدُ الْفَارَى، ج: ۱۸، ص: ۳۲

مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد جب دیکھا کہ حضور ﷺ کا غلبہ اور سلطنت مکمل ہو گیا ہے، واب قبائل عرب جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے وہ رفتہ رفتہ حضور ﷺ کی خدمت میں آنا شروع ہوئے۔

بعض نے تو اس لئے آنا شروع کیا کہ اسلام دل میں گھر کر گیا تھا مسلمان ہونے کے لئے آئے۔ بعض اس لئے کہ پہلے ہی اسلام لاچکے تھے مزید تعلیمات حاصل کرنے آئے۔

بعض وہ تھے جو دیکھنے کے لئے آئے کہ ہم ذرا جا کر مشاہدہ کریں کہ حضور ﷺ کون ہیں؟ کس طرح آپ کی تعلیمات ہیں؟ اور کیا اس کے طریقی زندگی ہے؟ مختلف مقاصد کے تحت وفود آئے ہیں اور ان وفود کی تعداد جو اس سال میں آئے ہیں وہ تقریباً ساٹھ ستر ہیں، جن کو اصحاب سیر و مغازی نے بیان کیا ہے۔

اسی واسطے اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے تو جیسا کہ وفد بنی تمیم، وفد عبد القیس وغیرہ وغیرہ۔

اس باب میں اصل بنو حنیفہ کے بابت بیان کرنا مقصود تھا اور بنو حنیفہ یہامہ میں آباد تھے، تو اصل مقصود بنو حنیفہ کے وفد کی آمد کا بیان تھا جو کہ اگلی حدیث میں ذکر ہے۔

لیکن چونکہ یہامہ بن اثال ﷺ کا ذکر آگیا تھا اور یہ بھی یہامہ ہی کے تھے، آپ ﷺ نے بنو حنیفہ پر حملہ کروایا تھا اور وہاں سے گرفتار ہو کر آئے تھے تو ان کا واقعہ پہلے استطراد اذکر کر دیا۔

حالانکہ یہ عام الوفود کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ فتح کہ سے بھی پہلے کا واقعہ ہے جیسے کہ اس روایت میں ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ والوں سے جا کر کہا کہ ایک دانہ گندم بھی ہمارے پاس سے تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اس وقت تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا لہذا اس کا یہ محل فی الواقع نہیں تھا لیکن چونکہ بنو حنیفہ کا اور اthal یہامہ کا ذکر تھا اس واسطے تمہید کے طور پر پہلے ان کا واقعہ ذکر کر دیا، اب بنو حنیفہ کے وفد کے سلسلہ میں واقعہ بیان فرمایا، اور اس کی صورت یہ ہوئی تھی۔

## وفد بنو حنیفہ کے ہمراہ مسلمیہ کذاب کی مدینہ آمد

بنو حنیفہ کا قبیلہ یہامہ میں آباد تھا اور یہاں کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان ہونے کے باوجود یہاں پر مدعی نبوت مسلمیہ کذاب کھڑا ہو گیا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔

اس کذاب کا دعویٰ نبوت بھی کچھ اسی قسم کا تھا جیسے موجودہ دور کے مرتضیٰ قادریانی کا دعویٰ یعنی یوں تو نہیں کہتا تھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا محل کرانکار کر کے - العیاذ بالله - یا آپ ﷺ سے ہٹ کر ایک مستقل نبوت کا دعویٰ دار ہو، حضور اکرم ﷺ کی نبوت و رسالت کا انکار نہیں کرتا تھا بلکہ فی الجملہ مانتا بھی تھا۔

روایات میں آتا ہے جہاں مسلمہ کذاب کا غلبہ ہوا تھا تو وہاں اذان بھی دی جاتی تھی اور اس اذان میں "اہمداد ان محمد رسول اللہ" بھی کہا جاتا تھا۔

یوں تو اس نے تمام طریقہ کار عالم مسلمانوں جیسے رکھے ہوئے تھے لیکن اس کے دماغ میں یہ فتو رکھا کہ میں حضور اقدس ﷺ کا ناسِ بن جاؤں یعنی آپ ﷺ جب اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو میں اپنے ﷺ کا خلیفہ بن جاؤں جیسے حضرت موسیؑ کے بعد حضرت یوسفؑ ہوئے تو اسی طرح میں بھی بن جاؤں، یہ دماغ میں خلل تھا۔

بنو حنفیہ کے جو مسلمان لوگ تھے جب انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے خدمت میں وفد بنا کر حاضر ہونا چاہا تاکہ آپ ﷺ سے دین پسکھیں تو مسلمہ کذاب بھی ان کے ساتھ چلا آیا لیکن جب مدینہ منورہ پہنچنے تو وہاں پہنچنے تو: تو حنفیہ کے سارے لوگ اپنے اوتھوں سے اتر کر حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جیسے کہ حاضر ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اپنے کجا وے میں بیٹھا رہا اور یہ کہا کہ جب حضور اقدس ﷺ آئیں گے تو پھر ان سے بات کروں گا۔ جب حضور ﷺ کو پتہ چلا تو آپ نے مناسب سمجھا کہ اس پر اتمام جنت کیا جائے، اگر چہ یہ خود جل کرنیں آیا متنکر انداز میں وہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن بہر حال وہاں جا کر اتمام جنت کر دیا جائے۔

چنانچہ حضور اکرم ﷺ حضرت ثابت بن قیس ﷺ کو لے کر اس کے پاس تشریف لے گئے، تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ معاملہ کر لو کہ آپ کے بعد جو ہے وہ سارے معاملہ میرے ہاتھ میں ہو گا تو بس میں اسلام لانے کو تیار ہوں، مطلب یہ کہ آپ کی اتباع کو تیار ہوں۔

حضرت نبی کریم ﷺ کی دست مبارک میں چھڑی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چھڑی بھی تجھے دینے کو تیار نہیں ہوں اور جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے مقدر کیا ہوا ہے وہی آخر میں ہو گا اور تو اس سے آگے تجاذب نہیں کر سکے گا، باقی اور بحث مباحث تجھے سے کرنا نہیں چاہتا اور اگر تو اور سوال جواب کرنا چاہتا ہے تو ثابت بن قیسؓ خطیب الانصار میرے ساتھ ہیں ان سے بات چیت کرو، یہ کہہ کر آپ ﷺ واپس تشریف لے آئے۔

ساتھ میں یہ بھی فرمادیا کہ میں نے خواب دیکھا تھا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر دو آدمی ہیں ان میں سے ایک ٹو ہے۔ آنحضرت ﷺ نے خواب میں دو نگن دیکھے اور اس میں آپ نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے تو اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری تعبیر یہ تھی کہ دو کذاب ظاہر ہوں گے ایک ٹو ہے اور ایک اسود غصی ہے۔ یہ واقعہ جو امام بخاری، مسلمان نے اس باب میں ذکر کیا ہے، جبکہ اسود غصی کے بارے میں اگلے باب قائم کیا ہے۔ اس کی روشنی میں الفاظ حدیث اور ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

۳۳۷۴. حدثنا أبواليمان: أخبرنا شعب، عن عبد الله بن أبي حسين: حدثنا صالح

بن جبیر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعدم مسلمة الكذاب على عهد النبي ﷺ

لجعل يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعثه، ولدمها فى بشر كثير من قومه.  
لاقبل إله رسول الله ﷺ ومعه ثابت بن قيس بن شناس ولي يد رسول الله ﷺ قطعة جرید  
حتى وقف على مسلمة في أصحابه فقال: ((لو سالتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن  
تعدو أمر الله فيك، ولئن أذهبت ليعقرنك الله، وإن لرأك الذي أربت عليه مارأيت،  
وهذا ثابت بن قيس يجيئك عنـي))، لم يصرف عنه. [راجع: ۳۶۲۰]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ مسلمہ کذاب نبی ﷺ کے زمانے میں ( مدینہ) میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر محمد ﷺ اپنے بعد مجھے خلیفہ بنادیں تو میں ان کا تبع ہو جاؤں، اور مدینہ میں اپنی قوم کے بہت سے آدمیوں کو لے کر آیا تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ ثابت بن قيس بن شناس ﷺ کے ہمراہ اس کی طرف چلے اور آپ ﷺ کے ہاتھ میں بھجور کی ایک ٹھنی تھی، حتیٰ کہ آپ ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ مسلمہ کے پاس ٹھہر گئے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا اگر تو مجھ سے یہ ٹھنی بھی مانگے گا تو میں تجھے نہ دوں گا اور تیرے بارے میں اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا کہ تو دوزخی ہے، اگر تو نے مجھ سے روگردانی کی تو اللہ تجھے ہلاک کر دے گا، اور میں تو تجھے ویسا ہی دیکھ رہا ہوں، جیسا مجھے خواب میں نظر آیا ہے، اور یہ ثابت بن قيس ہیں، جو میری طرف سے تجھے جواب دیں گے۔ پھر آپ ﷺ وہاں سے واپس آگئے۔

۲۳۷۳ - قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله ﷺ: ((إنك أرى الذي أربت  
فيه ما أربيت)), فأخبرنى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ((إينا آلا نالم رأيت في يدي  
سوارين من ذهب فما همني شأنهما، فما رحى إلى في المنام أن الفخهما، فلنفعهما فطارا.  
فاولتهما كذا بين يخرجان بعدي أحدهما العنسي، والآخر مسلمة)). [راجع: ۳۶۲۱]  
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے قول میں تو تجھے ایسا ہی دیکھ رہا ہوں، جیسا مجھے خواب میں نظر آیا ہے، کا مطلب دریافت کیا، تو مجھے ابو ہریرہ ﷺ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک دن میں سورا تھا کہ میں نے ہاتھ میں سونے کے دو لفکن دیکھے، مجھے ان کی حالت سے رنج ہوا تو خواب میں ہی مجھے وحی کی گئی کہ ان دونوں پر پھونک مارو، میں نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ میں نے خواب کی تعبیر ان دو کذابوں سے کی، جو میرے بعد ظاہر ہوں گے، ایک ٹھنی، دوسرا مسلمہ۔

## خواب کی تعبیر

اس روایت میں خواب کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ

”بَيْنَا أَلَا نَالَمْ رَأَيْتُ لِي بِدِي سَوَارِينْ مِنْ ذَهَبٍ“ ایک دن میں سورہ تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں دو ٹکنے سونے کے دیکھے۔

”لَا هُنَّنِي هَانِهِمَا“ تو میرے دل میں اس بات سے بڑا غم ہوا کہ یہ تو عورتوں کا زیور ہے میرے ہاتھ میں کیسے آگئی؟

”لَا وَحْىٌ إِلَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنَّ الْفَخْعَهُمَا“ تو خواب میں ہی مجھے دھی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک مارو، ”فَنَفَخْتُهُمَا لِطَارًا“ تو میں نے دونوں پر پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔

”لَا وَلَتَهُمَا كَذَا بَيْنَ يَخْرُجَانِ بَعْدِي“ میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ دو کذاب ہوں گے جو میرے بعد ٹکلیں گے، ”أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ، وَالْآخَرُ مُسِيلَةُ“ ان میں ایک عنسی ہو گا اور دوسرا مسیلہ ہو گا۔ اسود عنسی تو آنحضرت ﷺ کی زندگی مبارک میں ہی قتل ہوا اور دوسرا کذاب یعنی مسیلہ کذاب حضرت ابو بکر صدیق ؓ کے عہد خلافت میں جنگ یمانہ میں قتل ہوا۔

۲۳۷۵ - حدیثی إسحاق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام: أله سمع أبا هريرة ؓ يقول: قال رسول الله ﷺ: ((بَيْنَا أَلَا نَالَمْ رَأَيْتُ بِخَزَانَ الْأَرْضِ لِوْضَعَ لِي كَفِي سَوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبَرَ عَلَىِّ، لَا وَحْىٌ إِلَىٰ أَنَّ الْفَخْعَهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا لِطَهَّا، لَا وَلَتَهُمَا الْكَذَا بَيْنَ الْلَّذِينَ أَلَا بَيْنَهُمَا: صاحب صناعَةٍ، وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ)). [راجع: ۳۶۲۱]

ترجمہ: ہمام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ؓ سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں ایک دن سورہ تھا کہ مجھے دنیا کے تمام خزانے دے دیئے گئے، پھر میرے ہاتھ میں سونے کے دو ٹکنے رکھے گئے، جو مجھے پر شاق گزرے، تو مجھے پر دھی کی گئی کہ ان پر پھونک مارو، میں نے پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے، تو میں نے اس کی تعبیر ان دو کذابوں سے کی جن کے درمیان میں ہوں، یعنی صناعات والا اور یمامہ والا۔

۲۳۷۶ - حدثنا الصلت بن محمد قال: سمعت مهدی بن ميمون قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناوه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جدوة بن تراب ثم جتنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب للنبا: منصل الأسنة، فلا لدع رمحان فيه حديدة ولا سهما فيه. حديدة إلا لزعناه وألقيناوه شهر رجب.

ترجمہ: مهدی بن میمون کہتے ہیں میں نے ابو رجاء عطاردی سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اگر ہمیں اس سے اچھا پتھر جاتا تو ہم پہلے کو پھینک کر وہ اٹھا لیتے، اور اگر ہمیں کوئی پتھرنہ ملتا تو ہم مٹی ہڈی پر جمع کر کے ایک بکری لاتے اور اس پر اس کا درود حکوم کر اس کا طواف کرتے، اور جب رجب کا

مہینہ آتا تو ہم کہتے کہ یہ مہینہ تیروں وغیرہ کی اُنی دور کرنے والا ہے، چنانچہ ہم کسی نیزہ اور تیر کو اُنی نکالے بغیر نہ چھوڑتے تھے اور اسے ہم رجب کے پورے مہینہ چھینکتے رہتے۔

۷۷۷ - وسمعت أبا رجاء يقول: كنت يوم بعث النبي ﷺ خلاماً أرعى الأهل على أهلي، فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار، إلى مسلمة الكلاب.

ترجمہ: (راوی حدیث مہدی کہتے ہیں) میں نے ساکہ ابوجاء یہ بھی فرماتے تھے کہ جب آنحضرت ﷺ مبعوث ہوئے تو میں بچہ تھا اور اپنے گھر والوں کے اوٹ چڑایا کرتا تھا، جب ہم نے آپ ﷺ کے بارے میں سا تو ہم دوزخ لیعنی مسلمه کذاب کی طرف بھاگے۔

### زمانہ جاہلیت کے احوال

ابوجاء عطاردی رحمہ اللہ کی حدیث نقل کی ہے، یہ محضر میں میں سے ہے یعنی حضور اکرم ﷺ کا زمانہ پایا ہے، مسلمان بھی ہو گئے تھے لیکن حضور ﷺ کی زیارت نصیب نہ ہو سکی تو وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ۱۱

زمانہ جاہلیت میں کن کن گمراہیوں میں لوگ بتلاع رہے اس بارے میں فرماتے ہیں کہ "کنا عبد الحجر فلادا وجدنا حجرا الخ" ہم لوگ پھرول کی پوچھ کرتے تھے ایک پھر کو اپنا معبد بنایا بعد میں کوئی اور خوبصورت پھرول گیا تو پہلے والے کو پھینک دیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔

"فِلَادا لَمْ نَجِدْ حجراً جمعنا جثوةَ بَنْ ترابَ الْخَ" اور اگر کہیں پھر نہیں ملتا تو ہم مٹی کا ڈھیر جمع کر کے، ڈھیلے وغیرہ اور سکری کولا کر اس کا دودھ اس مٹی کے اوپر نکال دیتے، پھر اس کا طواف کرتے، اس کی عبادت شروع کر دیتے تو یہ حرکتیں کرتے تھے۔

"فِلَادا دَخَلَ شَهْرَ رَجَبٍ قَلَنا: مَنْصُلُ الْأَسْنَةِ" پھر جب رجب کا مہینہ آتا تو ہم کہتے تھے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ نیزوں کی اُنی یعنی دھاری انوک کو بند کرنے والا مہینہ ہے۔

"لَصْلُ" پھل کو کہتے ہیں، تکوار کا ہوا نیزے کا یا نیز کا ہو جو پھل ہوتا ہے یعنی جس طرف دھار ہوتی ہے اس کو "لَصْلُ" کہتے ہیں، یہ معنی ہے کہ کسی تھیار کی دھار سیدھی کرنا، نکالنا تاکہ اس کے ذریعہ کسی کو قتل کیا جائے اور اسی کو جب باب افعال میں لے جائیں۔

الا ابوجاء - ضد الخوف - عمران بن ملحن العطاردی، بالضم: لسعة الى عطارد بطن من نسيم، اسلم زمن النبي ﷺ.

ولم يره، عمدة الفارى، ج: ۱۹، ص: ۳۶

**الصل**" تو سلب ماغذہ ہے یعنی دھار کو اندر کر لینا، چھپا لینا، غلاف میں ڈال دینا، تاکہ اب کسی کو قتل کرنے کو موقع نہ ہو۔ ۲۱

کہتے ہیں کہ جب رجب کامہینہ آتا تو ہم یہ کہتے کہ یہ مہینہ نیزوں کے پھل کو غلاف میں ڈال دینے والا مہینہ ہے، کیا معنی؟ کہ یہ شہر حرام ہے اس میں لا ای نہیں۔

**اللَا يَدْعُ رِحْمَانِهِ حَدِيدَةً وَلَا سَهْلَانِهِ حَدِيدَةً إِلَّا لِزَعْمَاهُ**" تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑتے کوئی نیزہ جس میں لوہاگا ہو یا کوئی تیر جس میں کوئی لوہاگا ہو مگر اس کو ہم نکال لیتے تھے یعنی اس کے پھل کو اس سے نکال کے الگ کر دیتے تھے۔


**وَالقِيمَاهُ شَهْرُ رَجَبٍ**" اور اسے ہم رجب کے پورے مہینے پہنچتے رہتے تھے یعنی رجب کا پورا اسی طرح گزارتے تھے کہ اس میں پھل تکواروں اور نیزوں سے الگ ہوتے تھے۔ تو اس حدیث میں ابو رجاء عطاردی رحمہ اللہ نے اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت کا واقعہ بتایا کہ کس طرح کی خرافات میں بتلاع تھے اہل عرب۔

اب الگی روایت میں وہی راوی مہدی بن میمون کہتے ہیں کہ ابو رجاء عطاردی رحمہ اللہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے بھی سنائے "كَسْتَ يَوْمَ بَعْثَتِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهِ السَّلَامُ" جس زمانہ میں جی کریم ﷺ کو مسیوٹ فرمایا گیا تو میں ایک لڑکا تھا، "أَرْعَى الْأَهْلَ عَلَى أَهْلِي" اپنے گھروں کے اوونٹ چڑایا کرتا تھا۔

**اللَّمَّا سَمِعَا بِهِ عَرْوَجَهُ فَرَوْلَا إِلَى النَّارِ، إِلَى مُسِيلَمَةَ الْكَذَابِ**" تو جب ہم نے آپ ﷺ کے مکہ مکرمہ فتح پانے کی خبر سنی تو بجائے اس کے کہ ہم حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ ﷺ کی رسالت کا اقرار کر کے آپ کی اتباع کرتے ہم اس وقت جہنم کی طرف بھاگ گئے۔

یعنی مسیلمہ کذاب کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور اس کے تبع بن گئے، حالانکہ وہ ایسا تھا کہ ایک آگ سے نکل کر دوسرا آگ میں چلے جانا بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور مسیلمہ کذاب سے نجات پا کر اسلام ابتو کیا۔

۲۱ بقال انصلحت الربيع: اذا نزعتم منه سالحة، وصلعه اذا جعلت له نصلة، وفي رواية الكشمبيهى و كانوا ينزعون العدد من السلاح اذا دخل شهر رمضان لترك القاتل فيه لتعظمه. عصدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۲۷



## (۷۲) باب قصہ الأسود العنسي

## اسود عنسي کے قصہ کا بیان

۳۳۷۸ - حدثني سعيد بن محمد الجرمي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن عبيدة بن لشيط، وكان في موضع آخر اسمه عبد الله: أن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال: بلهذا أن مسلمة الكلاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث. وكانت تحته ابنة الحارث بن كريز وهي أم عبد الله بن عامر، فلما رأته رسول الله ﷺ رممه ثابت بن قيس بن شناس وهو الذي يقال له خطيب رسول الله وفي يد رسول الله ﷺ لضيب، حتى فولف عليه لكلمه، فقال له مسلمة: إن شئت خلينا بينك وبين الأمر لم جعلته لنا بعدك. فقال النبي ﷺ: ((لو سالتني هذا القضيب ما أعطيتكه وإلى لأراك الذي أربت فيه ما رأيت، وهذا ثابت بن قيس وسيجيئك عنى)). فالصرت النبي ﷺ.

[راجع: ۳۶۲۰]

ترجمہ: عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ نے بیان کیا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ مسلیمہ کذاب مدینہ آیا اور بنت حارث کے مکان میں ٹھرا، اس کے نکاح میں حارث بن کریز کی بیٹی ام عبد اللہ بن عامر تھی، تو آنحضرت ﷺ ثابت بن قیس بن شناس کو، جنہیں رسول اللہ کا خطیب کہا جاتا تھا، ساتھ لئے ہوئے مسلیمہ کے پاس پہنچے اور آنحضرت ﷺ کے ہاتھ میں ایک ٹھنی تھی، آپ ﷺ نے رُک کراس سے گفتگو کی تو مسلیمہ نے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے اور حکومت کے درمیان حائل نہ ہوں، پھر اسے اپنے بعد میرے لئے کر دیجئے۔ تو اس سے آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر تو مجھ سے یہ ٹھنی بھی مانگے گا تو میں تجھے نہ دوں گا، اور میں تو تجھے دیے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور یہ ثابت بن قیس ہیں، میری طرف سے تجھے جواب دیں گے۔ پھر آنحضرت ﷺ واپس آگئے۔

۳۳۷۹ - قال عبد الله بن عبد الله: سأله عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله ﷺ التي ذكر، فقال ابن عباس: ذكر لي أن النبي ﷺ قال: ((بينا أنا نائم أربت الله وضع في يدي سراران من ذهب ففظعتهما وكرهتهما، فأذن لي ففتحتهما للطارا فأولتهما كذا بين بخربجان)). فقال عبد الله: أخذهما العنسي الذي لثله فيروز باليمن، والآخر مسلمة

الکذاب۔ [راجع: ۳۶۲]

**ترجمہ:** عبد اللہ بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آنحضرت ﷺ کے مذکورہ خواب کے بارے میں پوچھا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ مجھ سے یہ بیان کیا گیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میں سورہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دلکش رکھے گئے ہیں، میں گھبرا گیا اور وہ مجھے بُرے معلوم ہوئے، مجھے حکم ہوا تو میں نے ان پر پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے، میں نے اس کی تعبیر دو کذابوں سے کی، جو تکلیف گے۔ عبد اللہ نے کہا ایک ان میں سے غصی تھا، جسے فیروز نے یمن میں قتل کر دیا تھا، اور دوسرا مسلمہ کذاب تھا۔

### اسود غنی کا دعویٰ نبوت اور خاتمه

اسود غنی یمن کے شہر صنعاء میں ظاہر ہوا تھا اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا نام عبہلہ بن کعب تھا اور چونکہ چہرہ چھپا کر چھتا تھا اس لئے اسود ذوالحمدار سے مشہور تھا، نبوت کے دعویٰ کے بعد صنعاء میں حضور اقدس ﷺ کے عامل مہاجر بن ابی امیہ ﷺ پر غالب آگیا تھا۔<sup>۱۱</sup> اور بعض حضرات کے قول مطابق حضور اقدس ﷺ کے عامل بازان تھے، جب بازان کا انتقال ہوا تو اسود غنی کے سخن شیطان نے اس کی اطلاع دی۔

اس کے پاس دو سخن شیطان تھے، ایک کا نام سعین تھا اور دوسرے کاشقین تھا، ان ہی شیطانوں میں سے کسی نے اسود کو بازان کے انتقال کی خبر دی تو اس نے اپنی قوم کو ساتھ لیکر صنعاء پر حکومت قائم کر لی اور بازان کی بیوی مرزو بانہ کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے شادی کر لی، وہ عاجز تھی اس لئے مجبور انکاح کرنا پڑا۔

ایک صاحب فیروز جن کا ذکر اس حدیث کے آخر میں ہے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس سے نجات حاصل ہو تو انہوں نے مرزو بانہ سے رازدارانہ مکمل کر کے معاملہ طے کیا اور ایک دن مرزو بانہ نے اسود کو خوب شراب پلائکر مست و مدد ہوش کر دیا۔ چونکہ دروازہ پر ایک ہزار چوکیداروں کا پھر اتحاد اس لئے فیروز نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نقاب لگایا اور اندر داخل ہو کر اس کا سر قلم کر کے مرزو بانہ کو مع ضروری مال و اسباب باہر نکال لائے۔ اور اس طرح اس کے فتنہ کا خاتمه ہوا۔

<sup>۱۱</sup> وهو الأسود واسم عبہلہ بن کعب و كان يقال له ايضاً ذو الخمار بالحاء المعجمة لانه كان يخمر وجهه، ويدال هرامش شیطانه، و كان الأسود قد خرج بصنعاء وادعى النبوة وغلب على عامل صنعاء المهاجر بن ابی امیہ. فتح الباری، ج ۸، ص: ۹۳

لیکن جس دن یہ واقعہ پیش آیا اسی دن نبی کریم ﷺ کا وصال ہوا تو اسود غنی کے قتل ہونے کی یہ خبر جو آئی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ حضور ﷺ کے وصال کے دن پہنچی اور بعض کہتے ہیں کہ ایک دن بعد پہنچی، بہر حال یہ بالکل قریب قریب کا واقعہ ہے۔ ۱۱

## نشاء امام بخاریؓ

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں یہ حدیث دوبارہ وہی احادیث نقل کی ہیں جن میں مسلمہ کذاب کا واقعہ کر ہے، لیکن اس باب میں یہاں اس کو اسود غنی کذاب کے واقعہ کا حصہ بنایا ہے۔ اسود غنی کے سلسلہ میں ان کے شرط کے مطابق یہی حدیث تھی، کیونکہ روایت کے آخر میں اسود غنی کذاب کے قتل کا ذکر ہے کہ فیردوز نے یمن میں اس جھوٹے مدعا نبوت کو قتل کیا۔ ۱۲ اسی مناسبت سے امام بخاریؓ نے ترجمۃ الباب کو قائم کر دیا اور باب میں اس روایت کو ذکر کر دیا۔

## سنده کے بارے میں تحقیق

صرف شروع کا حصہ ذرا دیکھنے کا ہے کہ اس کی سنہ پر تھوڑا سا غور کر لیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ "عن ابن عبیدہ بن شبیط، و كان في موضع آخر اسمه عبد الله: أن عبد الله بن عبد الله بن عتبة" یعنی صالح بن کیسان اس حدیث کو ابن عبیدہ ابن شبیط سے روایت کر رہے ہیں۔

۱۱ وَمِنْ قصَّةِ الْأَسْوَدِ كَانَ لَهُ شَيْطَانٌ يَلْأَلُ: لِأَحَدِهِمَا: سَعِيقٌ، وَالْآخَرُ: شَقِيقٌ، وَكَالَا يَخْبِرُهُ إِلَّا بِكُلِّ هُنَّ، بَحْدَثٍ  
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَكَانَ يَأْذَانُ عَامِلَ النَّبِيِّ ﷺ، بِصَنْعَاءِ لِمَاتٍ لِجَاءَ شَيْطَانُ الْأَسْوَدُ فَأَخْبَرَهُ لِغَرْجُورٍ فِي قَوْمِهِ حَتَّىٰ مَلَكَ  
صَنْعَاءَ وَتَزَوَّجَ الْمَرْزَبَانَ زَوْجَهَا بازَانَ، فَوَاعَدَهَا رَأْشُورَةً وَفِرُوزًا وَغَيْرَهُمَا حَتَّىٰ دَخَلُوا عَلَى الْأَسْوَدِ وَقَدْ سَلَطَهُ الْمَرْزَبَانُ  
الْخَمْرَ صَرْفًا حَتَّىٰ سَكَرٌ، وَكَانَ عَلَىٰ بَاهِهِ الْفَحَارِسُ، لِنَفْبِ فِرُوزٍ وَمِنْ مَعِهِ الْجَدَارُ حَتَّىٰ دَخَلُوا الْفَتْلَهُ لِفِرُوزٍ وَحَزَرَاهُ  
وَأَعْرَجُوا الْمَرْأَةَ وَمَا أَحْبَبَا مِنْ مَنَاعَ الْبَيْتِ وَأَرْسَلُوا الْخَبْرَ إِلَى الصَّدِيقَةِ لِوَالِيِّ ذَلِكَ عِنْدَ رَفَاتِ النَّبِيِّ ﷺ. لَالِّا أَبْرَ الأَسْوَدِ  
عَنْ عَرْوَةَ: أَصَبَ الْأَسْوَدَ لَبِلَ وَلَأَنَّ النَّبِيَّ يَوْمَ وَلِلَّهِ، فَلَأَنَّهُ الْوَحْيَ فَأَخْبَرَهُ بِهِ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ جَاءَ الْخَبْرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَمْ يَلْمِلْ

وَصَلَ الْغَيْرُ وَلَدَدَلَكَ صَبِيْعَةَ دَلْنَ النَّبِيِّ ﷺ. فَنَعَ الْبَارِيُّ، ج: ۸، ص: ۹۳، وَعَمَدةُ الْقَارِيُّ، ج: ۱۸، ص: ۳۹

۱۲ لَيْسَ فِي قَصَّةِ الغَنِيِّ، وَالْمَالِيِّ لِصَّةٍ مُسْلِمَةٍ بِطَرْيِقِ الْأَرْسَالِ. عَمَدةُ الْقَارِيُّ، ج: ۱۸، ص: ۳۸

اب ابن عبیدہ کا نام سن کر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ابن عبیدہ جو مشہور ہے وہ تو موسیٰ بن عبیدہ ہے اور موسیٰ بن عبیدہ نہایت ضعیف راوی ہے، یہاں تک کہ امام احمد بن حبیل رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا "لاتحل الروایت" اس سے روایت کرنا ہی حلال نہیں یعنی جائز نہیں۔

اب یہاں جب صالح بن کیسان نے کہا عن ابن عبیدہ تو شبہ پیدا ہوا کہ صالح بن کیسان موسیٰ بن ابی عبیدہ سے روایت کر رہے ہیں اور وہ تو ضعیف راوی ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی شبہ کو زائل کرنے کے لئے فرمایا "وَكَانَ لِي مَوْضِعٌ أَخْرَى أَسْمَهُ عَبْدُ اللَّهِ" کسی دوسرے مقام پر یہ بات آئی ہے کہ یہ ابن عبیدہ جن کا ذکر صالح بن کیسان نے کیا ہے یہ موسیٰ بن عبیدہ نہیں ہے بلکہ ان کے بھائی عبد اللہ ہے اور عبد اللہ بن عبیدہ ثقہ ہیں، لہذا کسی کو اس روایت کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہئے۔

اب ایسا لگتا ہے کہ جہاں عبد اللہ کا نام آیا ہے تو بخاری کی شرط پر نہیں ہوتی تھی یا اس سے پورا مقصود حاصل نہیں ہوتا کہ جس سے اس سے پورا مقصود حاصل نہیں ہوتا تھا جو یہاں پر روایت کرنے کا ہے، لہذا اس سے روایت نہیں کیا بلکہ روایت کیا اور اس میں کہا گیا جمل طور پر لیکن اشکال کو رفع کرنے کے لئے ساتھ میں یہ کہہ دیا "لِي مَوْضِعٌ أَخْرَى أَسْمَهُ عَبْدُ اللَّهِ" اور یہی امام بخاری رحمہ اللہ کے تصرفات ہیں۔

## میلہ کذاب کا مدینہ میں قیام

بنو حنفیہ کے وفد کے ساتھ جب میلہ کذاب مدینہ منورہ آیا تو بنت حارث کے گھر جا کر اتر۔

"وَكَاتَتْ لَهُنَّهُ ابْنَةُ الْحَارِثِ بْنِ كَرِيزٍ وَهِيَ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ" بنت حارث بن کریز اس کی بیوی تھی، جو کہ ام عبد اللہ بن عامر کی کنیت سے مشہور تھی۔

لَا نَاعِدُ الرَّحْمَنَ أَلَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ بَطْرُوبَ الْجُوزِيَّ الْجَالِيَ لِمَا كَتَبَ إِلَيْنَا لَمَّا سَمِعَتْ أَحْمَدَ بْنَ حَبْلَ بِهِ قَوْلَهُ: لَا تَحْلُ الرَّوَايَةُ  
عَنِي عَنْ مُوسَى بْنِ عَبِيدَةَ، لَنَا بِاَبِي عَبِيدَةَ لَا يَحْلُ، لَالِّا: عَنِي، قَلَّتْ لَانِ سَلْيَانٌ وَشَعْبَةُ قَدْرٍ وَهَا عَنِي، لَالِّا، لَوْهَانٌ  
لَشَعْبَةِ مَا بَانَ لَهُرَيْهَ مَارُوهُ عَنِهِ، الْجَرْحُ وَالْعَدْيَلُ لَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، ج: ۸، ص: ۱۵۲

کیا قویلہ: (وَكَانَ لِي مَوْضِعٌ أَخْرَى أَسْمَهُ عَبْدُ اللَّهِ) اراد بہدا ان یہہ علی ان السہم هو عبد اللہ بن عبیدہ لا اخرہ موسیٰ،  
وموسیٰ ضعیف جداً و اخرہ عبد اللہ للہ، و کان عبد اللہ اکبر من موسیٰ بثمانیۃ سنۃ. فتح المأری، ج: ۸، ص: ۹۲، عددة

یعنی مسیلمہ یمامہ کا رہنے والا تھا، لیکن اس کا نکاح بنت حارث بن کریز کا سے ہو گیا تھا، بعد میں طلاق ہو گئی تو پھر بنت حارث مدینہ منورہ آگئی اور اس نے یہاں آ کر اپنے چچا زاد عبداللہ بن عامر سے نکاح کر لیا۔ یہاں ام عبداللہ سے ام عبداللہ بن عبداللہ بن عامر بن کریز مراد ہے، کیونکہ عبداللہ بن عامر کا بیٹا اس کے ہم نام تھا اور وہ بنت حارث سے پیدا ہوا تھا، اس کے علاوہ بنت حارث سے عبداللہ بن عامر سے دو اور بیٹے ہوئے جن کے نام عبدالرحمن اور عبدالملک ہیں۔

بنت حارث کا نام کیسہ بنت حارث کریز بن ربیعہ بن جبیب بن عبدش ہے۔

بعض لوگوں نے اس جملہ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ یہ مسیلمہ کذاب مدینہ منورہ آ کر بنت حارث کے گھر پر اتر اور بنت حارث اس کی بیوی تھی تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے سابقہ بیوی کے گھر میں آ کر اتر۔

بعض لوگوں نے یہ کہا کہ لیکن یہ صحیح نہیں ہے بلکہ بنت حارث سے مراد رملہ بنت حارث بن نعامة بن حارث بن زید جو کہ مشہور انصاری صحابی حضرت معاذ بن عفراء رض کی بیوی تھیں، اور ان کا تعلق انصار کے قبیلہ نجاشی سے تھا۔ ان کو صحابیہ ہونے کا بھی شرف حاصل تھا۔ ان کی کنیت ام ثابت تھی۔

ان کا گھر بڑا وسیع تھا تو حضور ﷺ کے پاس جب وفد باہر سے آتے تھے تو آپ ﷺ اکثر و پیشتر ملہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے گھر ان کو ثہرا تھے تھے، اس واسطے یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بنت حارث کے گھر مسیلمہ آ کر ثہرا تو یہ مطلب ہے کہ صرف مسیلمہ نہیں بلکہ بنو خنیفہ کا پورا و فدر ملہ بنت حارث کے گھر ثہرا تھا۔

لیکن چونکہ ان کا نام بھی بنت حارث تھا اور ایک بنت حارث مسیلمہ کی بیوی رہ چکی تھی لہذا راوی نے اس مناسبت سے یہ بات بھی ذکر کر دی کہ بنت حارث بن کریز اس کی بیوی تھی، اس بات کی وجہ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مدینہ میں اپنی بیوی کے گھر میں آ کر رکا۔ ۱۸ آگے پھر مسیلمہ کذاب کا واقعہ ہے، جیسا کہ چھلی حدیثوں میں گزرا ہے۔

۱۸. محدثة القداری، ج: ۸، ص: ۳۸، و مقدمة فتح الباری، کتاب البیویع الی السلم، ص: ۹، ۳۰۹، و فتح الباری، کتاب

المغاری، باب: فصیة الأسود العنی، رقم: ۳۲۷۸، ج: ۱۸، ص: ۹۲، ۹۳

## (۳۷) باب قصہ اہل نجران اہل نجران کے قصہ کا بیان

اس باب میں وفد نجران کا واقعہ ہے۔

نجران یہ بھی معروف شہر ہے جو کہ مظہر سے یمن کی طرف سات منزل کے فاصلے پر آباد ہے، آج بھی اسی نام سے معروف ہے اور اس زمانے میں یہاں نصاریٰ زیادہ آباد تھے تو ان کا ایک وفد آیا تھا اس کا واقعہ یہاں پر اس باب میں مذکور ہے۔ ۶۹

۳۳۸۰. حدیثی عباس بن الحسین: حدلنا یحییٰ بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفلر، عن حذيفة قال: جاء العالِب والسيد صالح صاحباً لنجران إلى رسول الله ﷺ يريده أن يلاعنَاه، قال: لَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَا تَفْعَلْ فَوَاللهِ لَكُنْ كَانَ لَبِيَا لِلْاعِنَةِ لَا لَفْلُحْ نَحْنُ وَلَا عَقْبَنَا مِنْ بَعْدِنَا. قَالَ: إِنَّا نَعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمْنِيَا وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمْنِيَا. فَقَالَ: ((لَا يَعْشُ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمْنِيَا حَقَّ أَمْنِيَا)), فَاسْتَشْرِفْ لَهُ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: ((لَمْ يَا أَبَا عَبِيدَةَ بْنَ الْجَرَاحِ)). فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((هَذَا أَمْنِيَا هَذِهِ الأُمَّةِ)). [راجع: ۳۴۲۵]

ترجمہ: صلیٰ بن زفر روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ﷺ نے یہاں کیا کہ عاقیب اور سید، نجران کے دو سردار رسول اللہ ﷺ کے پاس مبارہ کرنے کے لئے آئے، کہتے ہیں ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا ایسا مت کرنا، اللہ کی قسم! اگر وہ نبی ہوا اور ہم نے مبارہ کیا تو ہم اور ہمارے بعد ہماری اولاد بھی فلاخ نہیں پاسکتے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ آپ ہم سے جو طلب فرمائیں ہم اسے ادا کرتے رہیں گے، اور ہمارے ساتھ ایک امین آدمی کو صحیح دیجئے، خائن کو نہ بھیجیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایسے امین کو بھجوں گا جو پکا اور سچا امین ہے، اصحاب رسول منتظر تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح تم کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں۔

## مباہلہ کی تعریف

لغوی تعریف مباہلہ ماخوذ ہے "بھل" یا "بھلہ" سے جس کے معنی لعنت اور پھٹکار کے ہیں ازباب فتح مفتح لعنت کرتا، ایک دوسرے پر لعنت پھٹکار کرنا۔

اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی امر کے حق و باطل میں فرقین کے اندر اختلاف و نزاع ہو جائے اور دلائل سے نزاع ختم نہ ہو پھر دونوں فریق اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اللہ سے دعا کریں کہ جو اس امر میں باطل پر ہو اس پر خدا کا قہر نازل ہو، ہلاکت و لعنت نازل ہو۔

۲۳۸۱۔ حدیثی محمد بن بشار: حدیثاً مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ:

سمعت أبا إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة ﷺ قال: جاء أهل نجران إلى النبي ﷺ فقالوا: أبعث لنا رجلاً أميناً، فقال: ((لَا يَعْنِي النِّعْمَةُ رَجُلًا أَمِينًا حَقُّ أَمِينٍ)). فاستشرف له الناس لبعث أبا عبيدة بن الجراح. [راجع: ۳۷۲۵]

ترجمہ: حضرت حذیفہ ﷺ نے بیان کیا کہ اہل نجران نے آنحضرت ﷺ کے پاس آ کر کہا کہ ہمارے لئے ایک امین آدمی بحیثیت و بیجھے، تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ پکے اور پچھے امین کو بھیجوں گا۔ تو لوگ منتظر رہے کہ کس کو وہاں بھیجتے ہیں، تو آپ ﷺ نے ابو عبیدہ بن جراح ﷺ کو بھیج دیا۔

۲۳۸۲۔ حدیثاً أبو الوليد: حدثنا شعبة عن خالد، عن أبي ثلاثة، عن أنس، عن

النبي ﷺ قال: ((لكلمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح)). [راجع: ۳۷۲۳]

ترجمہ: حضرت انس ﷺ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔

## نبی کریم ﷺ اور اہل نجران کے درمیان مکالمہ

حضرت حذیفہ ﷺ فرماتے ہیں نجران کے دوسرا راعقب اور سید تھے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور چاہتے تھے کہ حضور ﷺ سے مباہلہ کریں۔

واقعہ یوں ہے جو دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب شروع میں اہل نجران آئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور عیسائی عقائد میں جو خرابیاں تھیں وہ واضح فرمائیں، مکالمہ و مناظرہ ہوا، بعد میں باوجود دلائل واضح ہونے کے اسلام لانے پر آمادہ نہ ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے مباہله کی خود پیش کش کی کہ آؤ مباہله کریں۔ ۱۱

اس کے بعد یہ ہوا کہ اب ان میں سے کچھ لوگ یہ ارادہ کر رہے تھے کہ حضور ﷺ کے ساتھ مباہله کریں۔

"لا تفعل لواهه لعن کان لبها لللاعننا" ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ کام ہرگز نہ کرنا، اللہ کی قسم! اگر یہ واقعی نبی ہیں اور ہم نے مباہله کر لیا، کیونکہ کسی قوم نے کبھی کسی نبی سے مباہله نہیں کیا مگر ہلاک ہوئے۔

"لا تفلح لعن ولا عقبنا من بعدها" مباہله کر کے نہ ہم فلاج پائیں گے اور نہ ہمارے بعد آنے والی نسلیں فلاج پائیں گی، اس لئے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ کام بھیک نہیں ہے۔

لہذا جان چھڑانے کے لئے اور اپنے دین پر قائم رہنے کے لئے کچھ اور ہی طریقہ اختیار کرو یعنی صلح کا راستہ اختیار کرو، اب انہوں نے دوسری پیش کش یہ کی "إِنَّا لَعَطْهُكُمْ مَا مَسَّكُنَا" جو کچھ آپ مانگیں گے ہم دیں گے۔

یعنی ہوتا یہ تھا کہ جو کافر بستیاں ہیں ان پر پہلے اسلام پیش کیا جاتا تھا اسلام کے بعد دوسری چیز جز یہ ہو لی تھی کہ وہ جز یہ ادا کریں تو انہوں نے سوچا کہ ہم اسلام تو لائے نہیں اور مسلمانوں سے لڑائی لڑنا بھی مشکل، لہذا پہلے خرچ کرو، چنانچہ حضور اکرم ﷺ نے ان کی یہ صلح قبول فرمائی اور ان کے ذمہ جز یہ سالانہ دو ہزار رحل لازم کر دیا، ہر رحل کی قیمت ایک اوپر یعنی چالیس درهم کے برابر ہے۔ اسی طرح بعض اور دوسری شرائط بھی عہد میں تحریر کی گئیں۔ اور یہی نجران کے نصاریٰ کا وف德 ہے جس کے آنے کے موقع پر سورہ آل عمران کی کافی آیتیں نازل ہوئیں۔

### اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ﷺ

"وَابْعَثْتَ مَعَنَا رَجُلًا أَمِنًا وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِنًا" تو انہوں نے کہا اب آپ ہمارے ساتھ کسی امانت دار آدمی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم اس کو مال کی ادائیگی کر دیں۔

”فَقَالَ: أَبْعَثُنَّ مِعْكَمْ رِجْلًا أَمْنًا حَقَّ أَمْنِينَ“ آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایسا امانت دار بھی جو صحیح معنی میں امین ہو، صحیح معنی میں امین ہو، دو مرتبہ یوں فرمایا، ”فَاسْعَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ“ جب آپ ﷺ نے ایسے یہ فرمایا تو اب صحابہ کرام ﷺ کو انتظار لگ گیا کہ اب یہ سعادت کس کے حصہ میں آتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ ﷺ نے دو مرتبہ امین ہونے کی گواہی دی۔

”لَمْ يَا أَبَا عَبِيدَةَ بْنَ الْجَرَاحِ“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح! تم کھڑے ہو جاؤ۔ ”فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَذَا أَمْنِينَ هَذِهِ الْأَمَّةُ“ اور پھر جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح ﷺ کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہیں۔ اس وقت سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ﷺ کا القب "امین الامم" مشہور ہوا۔

## حضرت ابو عبیدہ بن جراح ﷺ کا تعارف

حضرت ابو عبیدہ بن جراح ﷺ کے آن جلیل القدر صحابہ کرام ﷺ میں سے ہیں جن کی ذات گرامی اُس دور کے تمام اعلیٰ فضائل و مناقب کا مجموعہ تھی۔ آپ سابقین اولین میں سے ہیں، اور اس وقت ایمان لے آئے تھے جب مسلمانوں کی تعداد الکلیوں پر گئی جا سکتی تھی۔ آپ آن دس خوش نصیب صحابہ کرام ﷺ میں سے ہیں جن کو عشرہ بشرہ کہا جاتا ہے، اور جن کو خود سرکار رسالت تاب ﷺ نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔

آپ کا شمار ان صحابہ کرام ﷺ میں بھی ہے جن کو دوبار ہجرت کی سعادت حاصل ہوئی، اہلی پار جہش کی طرف ہجرت فرمائی اور دوسری بار مدینہ کی طرف۔ آپ ﷺ کے ساتھ تمام غزوات میں ہمیشہ نہ صرف شامل رہے، بلکہ ہر موقع پر اپنی جانبازی، عشقی رسول اور اطاعت و اتباع کے انہٹ نقش قائم فرمائے۔

## کفر و اسلام کی کشکش: بیٹی کے ہاتھوں باپ کا قتل

غزوہ بدرا کے موقع پر ان کے والد کفار مکہ کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لئے آئے تھے، اور جنک کے دوران اپنے بیٹی (حضرت ابو عبیدہ ﷺ) کو نہ صرف تلاش کرتے تھے، بلکہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح ان سے آمنا سامنا ہو جائے، حضرت ابو عبیدہ ﷺ اگر چہ اپنے والد کے کفر سے بیزار تھے۔ لیکن یہ پسند نہ کرتے تھے کہ ان پر اپنے ہاتھ سے تکوار اٹھائی پڑے، اس لئے جب بھی وہ سامنے آ کر مقابلہ کرنا چاہتے تو یہ کتر اجائے، لیکن باپ نے ان کا چھپانہ چھوڑا، اور بالآخر انہیں مقابلہ کرنا ہی پڑا، اور جب مقابلہ سر پر آئی گیا تو اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ قائم تھا، اس کی راہ میں حائل ہونے والا ہر شہنشہ تو سمجھ کا تھا، باپ بیٹی کے درمیان تکوار چلی، اور ایمان کفر

پر غالب آگیا، باپ بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ ۴۷  
 غزوہ احمد کے موقع پر کفار کے ناگہانی ہلے میں سرکار دو عالم ﷺ کے مغفر (خود) کے دو حلقات آپ ﷺ کے ز خسار مبارک کے اندر حکم گئے تو حضرت ابو عبیدہ ﷺ نے انہیں اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکلا، یہاں تک کہ اس لشکر میں حضرت ابو عبیدہ ﷺ کے سامنے کے دو دانت گر گئے۔ دانت گر جانے سے چہرے کی خوشمندی میں فرق آ جانا چاہئے تھا، لیکن دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ ان دانتوں کے گرنے سے حضرت ابو عبیدہ ﷺ کے حسن میں کی آنے کے بجائے مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ کوئی شخص جس کے سامنے کے دانت گرے ہوئے ہوں حضرت ابو عبیدہ ﷺ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا گیا۔ ۴۸

## مقرب و محبوب صحابی رسول ﷺ

جیسا کہ اس باب میں ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آنحضرت ﷺ کو اپنے صحابہ میں سے زیادہ کون محبوب تھے؟  
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابو بکر، پوچھا گیا کہ ان کے بعد کون؟ فرمایا عمر، پھر پوچھا گیا کہ ان کے بعد کون؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح۔ ۴۹  
 حضرت حسن بصری رحمہ اللہ مرسل اور ایت بیان فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ "مامنکم احد الالوحت لأخذت عليه بعض خلقه، الا أنها عبيدة".  
 تم میں سے ہر شخص ایسا ہے کہ میں چاہوں تو اس کے اخلاق میں کسی نہ کسی بات کو میں قابل اعتراض قرار دے سکتا ہوں، سوائے ابو عبیدہ کے۔ ۵۰

## کبار صحابہ ﷺ کی نظر میں آپ کا مقام آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد جب سقیفہ بنی ساعدة میں صحابہ کرام ﷺ کا اجتماع ہوا اور خلافت کی

۴۷. سعی الاصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، ج: ۲، ص: ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، وطبقات ابن سعد، ج: ۳، ص: ۳۱۳.

۴۸. جامع الترمذی، اہواب الصالب، رقم: ۳۶۵۷، وسنن ابن ماجہ، مقدمة، رقم: ۱۰۲.

۴۹. مسند رکن الحاکم، رقم: ۵۱۵۷، ج: ۳، ص: ۲۹۸، والاصابة في تمييز الصحابة، ج: ۳، ص: ۳۷۷.

بات چلی تو حضرت صدیق اکبر رض نے خلافت کے لئے دو نام پیش کئے، ایک حضرت عمر رض کا اور دوسرا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رض کا، لیکن حضرت صدیق اکبر رض کی موجودگی میں کسی اور پراتفاق ہونے کا سوال ہی نہیں تھا، مسلمان آپ پر ہی متفق ہوئے، لیکن اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رض کی طرف سے حضرت ابو عبیدہ رض کا نام پیش کئے جانا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جلیل القدر صحابہ رض کرام رض کی نگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ کیا تھا!!<sup>۱۷</sup>

حضرت عمر رض آپ کے اتنے قدر دان تھے کہ ایک مرتبہ جب اپنے بعد خلیفہ کے تقرر کا سوال آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ کی زندگی میں میرا وقت آگیا تو مجھے کسی سے مشورے کی ضرورت بھی نہیں، میں ان کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کے لئے نامزد کر جاؤں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس نامزدگی کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں عرض کر سکوں گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنتا کہ ہرامت کا امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔<sup>۱۸</sup>

## فارسی شام ابو عبیدہ بن جراح رض

حضرت صدیق اکبر رض نے اپنے عہد خلافت میں شامی مہماں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رض ہی کے پر دفرمائی تھیں، چنانچہ اردن اور شام کا ہشتہ علاقہ آپ ہی کے مبارک ہاتھوں پر فتح ہوا۔

درمیان میں جب جنگ یرمونک کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رض نے خالد بن ولید رض کو عراق سے شام بھیجا تو اس وقت حضرت خالد رض کو شام کی مہماں کا امیر بنادیا تھا، لیکن حضرت عمر رض نے اپنے عہد خلافت کے آغاز میں ہی حضرت خالد رض کو امارت سے معزول کر کے آپ کو امیر بنادیا۔ اور پھر سارا شام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رض کی سرکردگی میں فتح ہوا اور خالد بن ولید رض آپ کی ماتحتی میں شریک چہادر ہے، ملک شام کے فتح ہونے کے بعد آپ نے حضرت عمر رض کی طرف سے شام کے گورنر کے فرائض انجام دئے۔<sup>۱۹</sup>

حضرت عمر رض کے زمانے میں جب مسلمانوں نے جب دمشق کا حاصہ کیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رض نے اپنی چوکی باب الجابیہ کے سامنے قائم فرمائی تھی، حضرت خالد بن ولید رض اس کے مقابل دمشق کے "الباب الشرقي" کے سامنے فرداً کش تھے۔

<sup>۱۷</sup> سہر اعلام النبلا، ج: ۳، ص: ۷

<sup>۱۸</sup> مسند احمد، ج: ۱، ص: ۱۸، و مسند للحاکم، رقم: ۵۱۵۶، ج: ۳، ص: ۲۹۷

<sup>۱۹</sup> البداية والنهاية، ج: ۷، ص: ۲۰، و سہر اعلام النبلا، ج: ۳، ص: ۱۲

محاصرہ کئی مہینے جاری رہا، مصالحت کی گفتگو بھی کئی بار چلی اور ناکام ہوئی، بالآخر حضرت خالد بن ولید رض نے مشرقی جانب سے یلغار کی اور شہر میں داخل ہو گئے، حضرت ابو عبیدہ رض کو حضرت خالد بن ولید رض کا پانہ چل سکا، اور باب الجابیہ کے لوگوں نے حضرت ابو عبیدہ رض سے مصالحت کر کے یہ دروازہ حضرت ابو عبیدہ رض کے لئے کھول دیا، اور حضرت ابو عبیدہ رض اسی دروازے سے صلح کی بنیاد پر شہر میں داخل ہوئے۔

اُدھر حضرت خالد بن ولید رض بزرگ شیر آگے بڑھ رہے تھے اور اُدھر حضرت ابو عبیدہ رض پر اُس طور پر تشریف لارہے تھے، شہر کے بیکوں بیچ دونوں کی ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں شہر کا نصف حصہ تکوار سے فتح کیا ہے، لہذا اس شہر کے لوگوں کے ساتھ مفتود شہروں کا سلوک ہونا چاہئے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ رض نے فرمایا کہ میں نے صلح کی بنیاد پر اپنی شہر کو امان دے چکا ہوں اور جب آدھا شہر صلح افغان ہوا ہے تو ہمیں پورے شہر کے ساتھ مصالحت کا سلوک کرنا چاہئے۔

چنانچہ صحابہ کرام رض نے با تفاق یہی فیصلہ فرمایا کہ ہمارا مقصد خوزیزی نہیں، اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، اس لئے ہم شہر کو صلح سے حاصل شدہ شہر تصور کریں گے۔ ۷۰

## زہد و تقویٰ کے داعی

جب حضرت ابو عبیدہ رض شام کے گورنر تھے تو اسی زمانے میں حضرت عمر رض شام کے دورے پر تشریف لائے، ایک دن حضرت عمر رض نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے گھر لئے چلے۔

حضرت ابو عبیدہ بن جراح رض نے جواب دیا کہ آپ میرے گھر میں کیا کریں گے؟ وہاں آپ کوشاید میری حالت پر آنکھیں نچوڑنے کا سوا کچھ حاصل نہ ہو؟

لیکن جب حضرت عمر رض نے اصرار فرمایا تو حضرت عمر رض کو اپنے گھر لے گئے، حضرت عمر رض گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی سامان ہی نظر نہ آیا، گھر ہر قسم کے سامان سے خالی تھا، حضرت عمر رض نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کا سامان کہاں ہے؟ یہاں تو بس ایک ندہ، ایک پالہ اور ایک مشکیزہ نظر آ رہا ہے، آپ امیر شام ہیں آپ کے پاس کھانے کی بھی کوئی چیز ہے؟

یہ من کر حضرت ابو عبیدہ رض ایک طاق کی طرف بڑھے اور وہاں سے روٹی کے کچھ ٹکڑے انھالائے۔

حضرت عمر رض نے یہ دیکھا تو وہ پڑے، حضرت ابو عبیدہ رض نے فرمایا کہ امیر المؤمنین! میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ میری حالت پر آنکھیں نچوڑیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کے لئے اتنا اٹاٹا ہی کافی ہے جو اسے اپنی خوابگاہ (تبر) تک پہنچادے۔

حضرت عمر رض نے فرمایا کہ ابو عبیدہ! دنیا نے ہم سب کو بدل دیا، مگر تمہیں نہیں بدل سکی۔ ۱۷ اللہ اکبر! وہ ابو عبیدہ رض! جس کے نام سے قیصر روم کی عظیم طاقت لرزہ بر اندازم تھی، جس کے ہاتھوں روم کے عظیم الشان قلعے فتح ہو رے تھے اور جس کے قدموں پر روزانہ روی مال و دولت کے خزانے ڈھیر ہوتے تھے، وہ روٹی کے سو کھے نکڑوں پر زندگی بس رکر رہا تھا۔ دنیا کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ کر اسے اتنا ذلیل ورسا کسی نے کیا تو وہ سر کارہ دو! عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی جاں شمار صحابہ تھے۔  
شان آنکھوں میں نہ جھی جہاں داروں کی

حضرت ابو عبیدہ رض ان خوش نصیب حضرات میں سے تھے جو نبی صادق و مصدق علیہما السلام کی زبان مبارک سے اپنے جنت میں جانے کی بشارت سن چکے تھے اور آخر حضرت علیہ السلام کی کسی خبر پر اونی تردید کا بھی ان کے یہاں کوئی سوال نہ تھا۔ اس کے باوجود خیست اللہ کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات فرماتے تھے کہ وددت الی کنت کبشا، للذبحی اهلى، فیا کلون لحمی، ویحسنون مرقی” ۱۸ کاش میں ایک مینڈھا ہوتا، میرے گردالے مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھاتے اور میرا شور پاپتے۔

## طاعون سے نصیب شہادت

جب اردن اور شام میں وہ تاریخی طاعون پھیلا جس میں ہزاروں افراد تمہ اجل بنتے تو حضرت عمر رض نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رض کو ایک خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے:  
”سلام علیک، أما بعد فإنه لله عرضت لي اليك حاجة“

۱۷ الزهد لأحمد بن حنبل، رقم: ۱۰۲۹، ج: ۱، ص: ۱۵۱، والاعتابة في تمييز الصحابة للحالظ ابن حجر، ج: ۳، ص: ۲۷۸، وسیر أعلام البلااء، ج: ۳، ص: ۱۳، وحلية الأولياء وطبقات الاصدقاء، ج: ۱، ص: ۱۰۲، ومصنف عبدالرؤوف، رقم: ۲۰۲۲۸

۱۸ الزهد لأحمد بن حنبل، رقم: ۱۰۲۸، ج: ۱، ص: ۱۵۱، وسیر أعلام البلااء، ج: ۱، ص: ۱۸، وطبقات ابن سعد، ج: ۳، ص: ۲۱۵

أَرِيدُ أَنْ أَشَاهِدَكَ بِهَا فَعَزْمَتْ عَلَيْكَ إِذَا نَظَرْتَ لِي  
كَثَابِي هَذَا أَنْ لَا تَضُعَهُ مِنْ يَدِكَ حَتَّى تَقْبِلَ إِلَيْيَ.

سلام کے بعد! مجھے ایک ضرورت پیش آگئی ہے جس کے بارے میں  
آپ سے زبانی بات کرنا چاہتا ہوں، لہذا میں پوری تاکید کے ساتھ  
آپ سے کہتا ہوں کہ جو نبی میرا یہ خط دیکھیں تو اسے اپنے ہاتھ سے  
رکھتے ہی روانہ ہو جائیں۔

حضرت ابو عبیدہ رض اطاعتِ امیر کے سارے زندگی پابند رہے، لیکن اس خط کو دیکھتے ہی سمجھ گئے  
حضرت عمر رض کی یہ شدید ضرورت (جس کے لئے مجھے مدینہ بلایا ہے) صرف یہ ہے کہ وہ مجھے اس طاعون زدہ  
عالقے سے نکالنا چاہتے ہیں، چنانچہ یہ خط پڑھ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ  
”عِرْفَتْ حَاجَةً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَفِيَ مِنْ لِمِسْ بَهَاقٍ.“  
میں امیر المؤمنین کی ضرورت سمجھ گیا، وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو باقی رہنے والا نہیں۔  
یہ کہہ کر حضرت عمر رض کو یہ جواب لکھا:

”بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى لَفْ عِرْفَتْ حَاجَتِكَ إِلَيْ، وَالَّتِي لِي  
جَنْدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا أَجِدُ لِلْفَسِيْ رِغْبَةً عَنْهُمْ، فَلَلْسَّتْ  
أَرِيدُ لِرَاهِيمَ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ لَيْ وَلِيْهِمْ أَمْرَهُ وَلَقْضَاؤُهُ  
فَخَلَفْنِي مِنْ عَزِيزِكَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَدُعْنِي لِي  
جَنْدِي.“

امیر المؤمنین! آپ نے مجھے جس ضرورت کے لئے نکلا یا ہے، وہ مجھے  
معلوم ہے، لیکن میں مسلمانوں کے ایسے لشکر کے درمیان بیٹھا ہوں جس  
کے لئے میں اپنے دل میں اعراض کا کوئی جذبہ نہیں پاتا، لہذا میں ان  
لوگوں کو چھوڑ کر اس وقت تک نہیں آنا چاہتا جب تک اللہ تعالیٰ میرے  
اور ان کے بارے میں اپنی تقدیر کا حصہ فیصلہ فرمادیتا ہے۔

لہذا اے امیر المؤمنین! مجھے اپنے اس تاکیدی حکم سے معاف فرمادیجئے  
اور اپنے لشکر میں ای رہنے دیجئے۔

حضرت عمر رض نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آگئے، جو لوگ پاس بیٹھے تھے، وہ جانتے تھے کہ خط شام  
سے آیا ہے، حضرت عمر رض کو آبدیدہ دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ کیا ابو عبیدہ رض کی وفات ہو گئی؟ حضرت عمر رض

نے فرمایا کہ ہوئی تو نہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہونے والی ہے۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے دوسرا خط لکھا:

**”سلام علیک، اما بعد! فانک انزلت الناس ارضًا“**

**عميقه للارض لهم الى ارض مرتفعه نزهة.“**

سلام کے بعد! آپ نے لوگوں کو ایسی زمین میں رکھا ہوا ہے، جو شیب میں ہیں، انہیں کسی بلند گہلے جائے جس کی ہو اضاف سُحری ہو۔

حضرت ابو موسی اشعریؑ فرماتے ہیں کہ جب یہ خط ابو عبیدؑ کو پہنچا تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ امیر المؤمنین کا یہ خط آیا ہے، اب آپ ایسی جگہ تلاش کریجئے جہاں یجا کر لشکر کو ٹھہرایا جاسکے، میں جگہ کی تلاش کے لئے پہلے گھر پہنچا تو دیکھا کہ میری الہیہ طاعون میں مملوء ہو چکی ہیں، میں نے واپس آ کر حضرت ابو عبیدؑ کو بتایا اس پر انہوں نے خود جگہ کی تلاش میں جانے کا ارادہ کیا اور اپنے اوٹھ پر کھاؤہ کسوایا، ابھی آپ نے اس کی رکاب پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ آپ پر بھی طاعون کا حملہ ہو گیا، اور اسی طاعون کے مرض میں آپ نے وفات پائی۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ ۳۴

۳۳ البداية والنتهاية، ج: ۷، ص: ۱۰۸، وسیر اعلام البلاء، ج: ۱، ص: ۱۸، ۱۹، ومستدرک للحاکم، ج: ۳،

ص: ۲۶۳، وسفرنامہ ”جهان دیدہ“، ص: ۱۹۲

## (۷۳) باب قصہ عمان والبحرين

## عمان اور بحرین کے قصہ کا بیان

عمان آج بھی اسی نام سے ہے جس کا دار الحکومت مقطع ہے، اس زمانے میں بھی یہی نام تھا اور یہ سب کا حصہ سمجھا جاتا تھا اور بحرین کا قصہ تھی بحرین کی مال غیرت آنے کا قصہ اس میں روایت نقل کی ہے۔

۳۳۸۳ - حدیثنا التیہ بن معبد: حدیثنا سفیان: سمع اہن المنکدر جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما یقول: قال لی رسول اللہ ﷺ: ((لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا)), للإلا، فلم يقدم مال البحرين حتى لبس رسول اللہ ﷺ، للما قدم على أبي هريرة أمر مناديا فنادي: من كان له عند النبي ﷺ دين أو عدة للبياتني. قال جابر: فجئت أبا بكر فأخبره أن النبي ﷺ قال: ((لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا)), للإلا. قال: فاعطاني. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت له: قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني. فلما أتتني ولاما أتتني بخلي عنى، فقال: أللّٰه بخلي عنى؟ وأي داء أدوا من البخل؟ قال لها للإلا، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك.

و عن عمرو، عن محمد بن علي: سمعت جابر بن عبد اللہ یقول: جئته فقال لی أبو هريرة: عدها فعددتها فوجئت بها خمساً، فقال: خذ مثلها، مرتين. [راجع: ۲۲۹] ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر بحرین سے مال آیا تو میں تجھے اس طرح دوں گا یعنی تین مرتبہ دوں گا، آنحضرت ﷺ کے زمانہ حیات میں وہاں سے مال نہ آسکا، جب وہ مال ابو بکر ﷺ کے پاس آیا تو ان کے منادی نے یہ اعلان کیا کہ اگر نبی ﷺ کے پاس کسی کا قرض ہو، یا آپ ﷺ نے کسی سے کچھ وعدہ فرمایا ہو تو وہ میرے پاس آجائے۔ حضرت جابر ﷺ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر ﷺ کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر بحرین سے مال آیا تو میں تجھے ایسے دوں گا، یعنی تین مرتبہ دوں گا۔ حضرت جابر ﷺ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ﷺ نے مجھے مال دے دیا۔ حضرت جابر ﷺ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے حضرت ابو بکر ﷺ کے پاس آ کر مال مانگا، تو انہوں نے نہ دیا، میں پھر آیا، تو بھی نہ دیا، میں تیسری مرتبہ پھر آیا تب بھی کچھ نہ دیا تو میں نے کہا میں آپ کے پاس آیا اگر

آپ نے کچھ نہ دیا، پھر دوبارہ آیا، پھر بھی نہ دیا۔ لہذا یا تو مجھے مال دیجئے، ورنہ میں تمھوں گا کہ آپ مجھ سے بخل کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ تم نے کہا کہ مجھ سے بخل کرتے ہیں؟ بھلا بخل سے زیادہ بُری بیماری کوں سی ہے، یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں جب بھی مال دینے سے منع کیا تو میں یہ چاہتا تھا کہ تمہیں کہیں اور سے دے دوں۔

عروسو سے روایت ہے انہوں نے محمد بن علی سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکرؓ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا اس مال کو شمار کرو، میں نے دیکھا تو پائج سوتھے، حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ اتنے ہی دو مرتبہ اور لے لو۔

## حدیث کی تشریح

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول کریم ﷺ نے فرمایا "لو لد جاء مال البحرين لقد أعطيك هكذا وهكذا، لولا" اگر بحرین سے مال آیا تو میں تجھے اس طرح اس طرح دوں گا یعنی صدقہ کامال جو بحرین سے مقرر کردہ عامل نے لیکر آنا تھا، اگر آگیا تو تمہیں اتنا مال دوں گا اور اتنا دوں گا اور اتنا دوں گا، رسول اللہ ﷺ نے تین مرتبہ یوں فرمایا۔

"للمقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله ﷺ الخ" آپ ﷺ کی وفات کے بعد بحرین سے مال یہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے سب سے پہلا اعلان یہ کیا کہ اگر کسی شخص کا نبی کریم ﷺ پر کسی کا کوئی قرضہ ہو یا آپ ﷺ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہو تو وہ میرے پاس آجائے تاکہ میں اس کا ایفاء کروں یعنی پورا کر دوں۔

"فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي ﷺ قال: لوجاء مال الخ" میں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو جا کر بتایا کہ نبی کریم ﷺ نے بحرین سے آنے والے جزیہ کے مال کے متعلق مجھ سے یوں تین مرتبہ دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔

"قال: لاعطاني" یہاں "اعطاني" کا لفظ "وعدلی" کے معنی میں ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں دوں گا۔

"للقیت أبا بكر بعد ذلك لصالحة الخ" حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ بعد میں، میں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے مانگا تو انہوں نے مجھے نہیں دیا، دوبارہ آیا تو پھر بھی نہیں دیا، تیسری بار پھر آیا تو پھر نہیں دیا۔

”لَقُلْتَ لِهِ: لَدَ أَنْتَكَ فَلِمْ تَعْطِنِي، لَمْ أَنْتَكَ الْخَ“ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا مگر آپ نے کچھ نہ دیا، پھر دوبارہ آیا، پھر بھی نہ دیا، پھر تیرسی مرتبہ آیا، پھر بھی نہ دیا۔

”لَمَّا مَأْتَنَا عَطْنِي الْخَ“ لہذا یا تو مجھے مال دیجئے، درنہ میں سمجھوں گا کہ آپ مجھ سے بخل کر رہے ہیں۔

”فَقَالَ: أَلَّلْتَ: تَبْخَلُ عَنِّي؟ وَأَنِ دَاءُ الْخَ“ تو حضرت ابو بکر صدیق رض نے فرمایا کیا تم نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے بخل کرتے ہیں؟ بھلا بخل سے زیادہ بڑی بیماری کون سی ہے یعنی بخل سے بڑی بیماری کیا ہے، یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا کہ بخل سے بڑی بیماری کیا ہے۔

پھر انہوں نے فرمایا کہ ”مَا مَنْعَكَ مِنْ مَرَةٍ إِلَّا وَأَنَا رِبُّكَ مَنْ أَعْطِيكَ“ جب بھی میں تمہیں مال دینے سے رُکا تو رُکنے سے مطلب یہ نہیں تھا کہ دینا نہیں چاہتا تھا، میں تو بس کسی مناسب وقت کی تلاش میں تھا ارادہ اُس وقت بھی دینے کا تھا یعنی میں میراثا لانا اور نہ دینا بخل کی وجہ سے نہ تھا بلکہ میرا ارادہ خس میں سے دینے کا تھا، جو خاص خلیفۃ الرسلین کا حصہ ہے کہ وہ مختار ہیں جسے چاہے دیں۔

”يَقُولُ: جَئْتُهُ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٌ: عَدْهَا لِعَدْدِهَا الْخَ“ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر رض کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا اس مال کو شمار کرو، میں نے دیکھا تو پانچ سوتھے، ابو بکر رض نے کہا کہ اتنے ہی دو مرتبہ اور لے لو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا، لہذا اس سے تین مرتبہ میں یہ بات پوری ہو جائے گی۔

## (۵۷) باب قدوم الأشعرین و اهل الیمن

### أشعریوں اور اہل یمن کی آمد کا بیان

وقال أبو موسى عن النبي ﷺ: ((هم مني وأنا منهم)).

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رض نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلّم سے روایت کرتے ہیں وہ یعنی اشعری لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

ابو موسیٰ اشعری رض اور اشعریین کی مدینہ منورہ آمد یہ باب قبیلہ اشعر اور اہل یمن کے لوگوں کے آنے کے متعلق ہے۔  
اہل یمن میں ہی اشعریین بھی ہیں، اشعری اہل یمن ہی کا بڑا اور اہم قبیلہ ہے، لہذا تعمیم بعد التخصیص - یعنی اشعریین خاص ہیں اور اہل یمن عام ہیں۔

جیسا کہ پہلے بھی گزرا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مخازی میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ واقعات تاریخی ترتیب کے ساتھ آئیں لیکن با اوقات بھی کبھار ترتیب کے خلاف بھی ہو گیا ہے جیسا کہ یہاں پر ہے۔  
اس واسطے کہ اشعریین کی آمد کا جو واقعہ بیان کیا ہے، یہ فتح خیر کے زمانے کا ہے، جوں سات ہجری میں ہوا تھا جب کہ یہاں جو واقعات آگے پیچھے چل رہے ہیں وہ عام الوفود کے چل رہے ہیں جوں نو ہجری کا ہے۔

لیکن چونکہ وفد کا ذکر آرہا ہے تو ان وفود کو بھی ذکر کر دیا جو عام الوفود سے پہلے آئے تھے تو ان میں اشعریین کا آنا بھی داخل ہے اور ابو موسیٰ اشعری رض ان میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔

روایات میں اگرچہ تعارض ہے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے آئے تھے اور آگر پھر جو شہر کر کے چلے گئے تھے اور پھر خیر کے موقع پر حضرت جعفر رض کے ساتھ آئے تھے۔

لیکن تمام روایات کو مد نظر رکھنے کے بعد صحیح واقعہ یہ ہے کہ یہ اصل میں یمن میں رہتے ہوئے ہی مسلمان ہو گئے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلّم کی زیارت اور ملاقات کے لئے یمن سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ جانے کے لئے بجائے خشکی کے راستے کے، سمندر کا راستے اختیار کیا تاکہ کشتی سے جدہ اتریں اور وہاں سے مکہ مکرمہ جائیں۔

سمندری سفر شاید اس وجہ سے اختیار کیا کہ جو خشکی کا راستہ تھا، وہ بعض اوقات محفوظ نہیں ہوتا تھا، رہنوں رہاؤں کا خطرہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ کفار و مشرکین بھی راستے میں حائل ہوں گے۔ بہر حال

انہوں نے سند رکارست اختیار کیا۔

اس زمانے میں سند رکارست با و ب ان کشیاں ہوتی تھیں جو ہوا کہ سہارے چلا کرتی تھیں لیکن ہوانے رخ پھیر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ افریقہ کا ساحل جب شہر ہے، وہاں جا پہنچے بجائے جدہ پہنچنے کے۔

یہ وہ زمانہ ہے جس میں بہت سے صحابہ کرام ﷺ کے گھر میں سے جب شہر تک میں تھے اور وہیں مقیم ہو گئے تھے تو یہ بھی وہاں جا کر مقیم ہو گئے اور وہاں ان کی حضرت جعفر بن ابو طالب ﷺ سے ملاقات بھی ہوتی، پھر جب سن سات ہجری میں وہاں سے جب شہر کے مہاجرین مدینہ منورہ والیں آئے تو ان کے ساتھ یہ بھی مدینہ منورہ آئے اور غزوہ خیبر کے موقع پر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

۲۳۸۳ - حدیثی عبد اللہ بن محمد اسحاقی بن نصر قالا: حدثنا ابو عیین بن آدم: حدثنا ابن أبي زالدة، عن أبي اسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن أبي موسى قال: تدمنت أنا وأخي من اليمين فمعكتنا حينما نارى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة ودخولهم ولزومهم له. [راجع: ۳۷۶۳]

ترجمہ: ابو موسیٰ ﷺ نے بیان کیا کہ میں اور میرا بھائی میں سے آئے ہم بہت دنوں تک یہ سمجھتے رہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کی والدہ اہل بیت میں سے ہیں کیونکہ یہ آنحضرت ﷺ کے گھر میں بہت آتے جاتے تھے اور ہر وقت آنحضرت ﷺ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔

## حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ کی فضیلت

اس روایت میں حضرت ابو موسیٰ ﷺ نے فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی جب میں سے آئے تو ہم ایک زمانے تک حضور ﷺ کی خدمت میں رہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ عبد اللہ بن مسعود اور ان کی والدہ اہل بیت میں سے ہیں، یعنی ہمارا گمان یہ ہوتا تھا کیونکہ یہ ہر وقت نبی کریم ﷺ کے گھر جاتے آتے رہتے تھے اور ہر وقت حضور اقدس ﷺ کے گھر کا لارڈ اختیار کیا ہوا تھا، تو اس سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔

اس حدیث سے حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔

۲۳۸۵ - حدثنا أبو نعيم: حدثنا عبد السلام، عن أبي الابه، عن زهدم لال: لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحى من جرم ولا لجلوس عده وهو يتعذر دجاجا ولدى القوم رجل جالس، للدعاه إلى الفداء، فقال: إلى رأيه ياكل شيئا فقلدراته، فقال: هلم فإلى رأيتك النبى ﷺ ياكله، فقال: إلى حلفت لا أكله، فقال: هلم أخبرك عن يمينك،

إِنَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ لِلَّهِ مِنَ الْأَشْعُرِيِّينَ فَاسْتَحْمَلْنَا هُنَّا أَنْ يَحْمِلَنَا، فَاسْتَحْمَلْنَا هُنَّا فَحَلَّفَ أَنْ لَا  
يَحْمِلَنَا، ثُمَّ لَمْ يَلْبِسْ النَّبِيَّ أَنَّ أَنَّى يَنْهَا إِبْلٌ فَأَمْرَ لَنَا بِخُمُسِ ذُو دَدِ، فَلَمَّا لَبَضَنَا هَا قَلَّنَا:  
فَهَلَّنَا النَّبِيَّ يَعْمَلُنَّهُ لَا لَفْلُجَ بَعْدَهَا أَبْدًا. فَأَلَيْتُهُ لَقْلَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا  
تَحْمِلْنَا وَقَدْ حَمَلْنَا، قَالَ ((أَجْلٌ وَلَكُنْ لَا أَحْلَفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَيْتَ  
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا)). [راجع: ٣١٣٣]

ترجمہ: زہد مکتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ ﷺ آئے تو انہوں نے قبلہ جرم کا بڑا اعزاز کیا، ہم ان  
کے پاس بیٹھے تھے، وہ مرغی کھار ہے تھے، لوگوں میں ایک اور آدمی بھی تھا، جسے حضرت ابو موسیٰ ﷺ نے کھانے  
کے لئے بلا یا تو اس نے کہا کہ میں نے اس مرغی کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس لئے مجھے اس کے کھانے سے  
کراہت آتی ہے، حضرت ابو موسیٰ ﷺ نے کہا آجاو، کیونکہ میں نے نبی ﷺ کو ایسی مرغی کھاتے ہوئے دیکھا  
ہے، اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، ابو موسیٰ نے کہا آجاو کیونکہ تمہاری قسم کے بارے  
میں میں بتاؤں گا کہ ہم قبلہ اشعر کے چند لوگ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سواری طلب کی،  
آپ ﷺ نے منع فرمادیا، ہم نے پھر سواری طلب کی تو آپ ﷺ نے سواری نہ دینے کی قسم کھائی، تھوڑی دری میں  
آپ ﷺ کے پاس مال خیرت کے اوٹ آئے، تو آپ ﷺ نے ہمیں پانچ اوٹ دینے جانے کا حکم دیا، جب ہم  
نے وہ اوٹ لے لئے تو ہم نے کہا آنحضرت ﷺ اپنی قسم کو بھول گئے، ہم کبھی ایسی حالت میں کامیاب نہیں  
ہو سکتے، تو میں نے آپ ﷺ کے پاس آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قسم کھائی  
تھی، اور اب آپ نے سواری دیدی، آپ ﷺ نے فرمایا جی ہاں میں اگر کوئی قسم کھالوں اور اس کے خلاف مجھے  
بھلانی نظر آئے تو میں اس بھلانی کو اختیار کر لیتا ہوں۔

## مرغی اور طبعی ذوق

حضرت زحد بن مطر بجری کہتے ہیں "لِمَا قَدِمَ أَبُو مُوسَى أَكْرَمُ هَذَا الْحَى مِنْ  
جَرْمٍ" جب حضرت ابو موسیٰ اشعری ﷺ آئے، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حضرت عمر ﷺ نے اپنے زمانہ  
خلافت میں ان کو بصرہ کا گورنر بنا کر بھیجا تو جب گورنر بن کر بصرہ تشریف لائے، تو انہوں نے اس قبلہ جرم کے  
لوگوں کی بڑی عزت کی یعنی انہوں نے اپنے قبیلے کے جو لوگ تھے ان کا اکرم کیا، "وَإِنَّا لِجَلُومَنَ عَنْهُ وَهُوَ  
يَتَلَدِّي دِجَاجًا" اور ہم ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری ﷺ کے پاس بیٹھے تھے اور وہ مرغی کھار ہے تھے۔

"وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ، لِدَعَاهٌ إِلَى الْعَدَاءِ" اور ایک شخص جو وہیں پر بیٹھا ہوا تھا تو حضرت

ابوموسی اشعری رض نے اس شخص کو بلا یا کہ آڈا اور ہمارے ساتھ کھانے میں شرک ہو جاؤ، ”فَقَالَ إِلَى رَأْبِعَهُ يَا أَكْلِ هَبَنَا الْقَدْرَةَ“ تو اس شخص نے کہا جو مرغی آپ کھار ہے ہیں، میں نے اس کو دیکھا تھا کہ وہ کچھ کھار ہی تھی، کچھ سے مراد ہے کہ کچھ نجاست کھار ہی تھی تو مجھے گھن آتی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ نجاست کھار ہی تھی، لہذا میری طبیعت پر گھن آتی ہے اور میری طبیعت پر بر الگتا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے۔

”فَقَالَ هَلْمٌ فِلَالِي رَأْيْتَ النَّبِيَّ يَا أَكْلَهُ“ تو حضرت ابوموسی اشعری رض نے کہا کہ آجائے کیونکہ میں نے نبی کریم ﷺ کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ رض نے ایسی مرغی کو تناول فرمائی تھی، ”فَقَالَ إِلَى حَلْفَتِ لَا أَكْلَهُ“ تو اس نے کہا کہ میں تو اب قسم کھا بیٹھا ہوں کہ مرغی کبھی نہیں کھاؤں گا یعنی میں نے تو قسم اختماً اب میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں، ”فَقَالَ هَلْمٌ أَخْبُرُكَ عَنْ يَمِينِكَ“ تو حضرت ابوموسی اشعری رض نے فرمایا کہ آڈتھاری قسم کے حوالے سے بھی تمہیں قصہ سناؤں یعنی جو قسم کھالی ہے اس کا کیا کرو گے۔

پھر حضرت ابوموسی اشعری رض نے اپنا قصہ سنایا کہ ”إِنَّ الْبَيْنَانَ النَّبِيَّ لِلْفَرِّ من الْأَشْعَرِينَ لَاسْتَحْمَلَنَا“ ہم نبی کریم رض کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم کچھ لوگ اشعرین میں سے تھے، تو ہم نے آپ رض سے سواری طلب کی یعنی ہم نے کہا کہ حضرت ہمیں بھی کوئی سواری عنایت ہو جائے۔

یہاں پر اصل میں ”لُفْرًا“ ہوتا چاہیے تھا یا تو اخلاق اس کی بناء پر یا ”ان“ کی نظر سے بدل ہے، لیکن روایت ”لُفْر“ ہے تو اس کی تقدیری عبارت یوں ہو گی ”ان الْبَيْنَانَ النَّبِيَّ لِلْفَرِّ وَلَحْنَ لِلْفَرِّ مِنَ الْأَشْعَرِينَ“۔ یہ واقعہ تبوک کے غزہ کا ہے، یہ غزہ میں جانا چاہتے تھے اور ان کے پاس جہاد میں جانے کے لئے سواری نہیں تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سواری کا مطالبہ کیا، ”لَا بَيْنَانَ لِلْفَرِّ مِنَ الْأَشْعَرِينَ“ تو آپ رض نے سواری دینے سے انکار کیا، یعنی نہ ہونے کی وجہ سے انکار فرمایا، ”لَاسْتَحْمَلَنَا لَفْلَفَ أَنْ لَا يَحْمَلَنَا“ تو ہم نے دوبارہ آپ رض سے وہی سوال کیا کہ حضرت دیکھجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری نہ دینے کی قسم کھالی کہ نہیں دوں گا۔

## کفارہ یکمین

تحوڑی دیر میں آپ رض کے پاس مال غنیمت کے اونٹ آئے، تو آپ رض نے ہمیں پانچ اونٹ دیئے جانے کا حکم دیا، تو ہم نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم کو بھول گئے، ہم کبھی ایسی حالت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

”لَمْ لَمْ يَلْمِثْ النَّبِيَّ إِنْ أَنْتَيْ بِنَهْبَ أَبْلَ“ ابھی کچھ دیر نہیں گذری تھی کہ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اونٹ آگئے یعنی کچھ مال غنیمت وغیرہ، ”لَامْرُ لَنَا بِخَمْسٍ ذُودَ، لَلَّمَا قَبْضَنَا هَا“ تو آپ رض

نے ہمیں پانچ اونٹ اس میں سے دیئے جب ہم نے وہ اونٹ لے لئے، ”لَنَا تَعْفُلَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَعْلَمُ“ تو ہم نے کہا کہ ہم نے حضور ﷺ کو ایک بھولا دی یعنی ہم نے حضور اکرم ﷺ سے نیاں کی حالت میں ایک ایسا کام کرایا کہ نبی کریم ﷺ نے قسم کھائی تھی کہ میں نہیں سوار کروں گا، ”لَا نَفْلُحُ بَعْدَهَا أَبْدًا“ ہم نے ایسی حرکت کی کہ حضور اکرم ﷺ قسم کھا چکے تھے اور پھر ہم نے جا کر لے لئے اور یاد نہیں دلایا کہ آپ ﷺ نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، تو اب ہم کسی فلاخ نہیں پاسکتے کہ ہم نے حضور ﷺ کے ساتھا ایسا معاملہ کیا۔

تو میں نے آپ ﷺ کے پاس آ کر عرض کیا ”بَارِسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَّتْ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا وَلَدْ حَمِلْنَا“ اے اللہ کے رسول! آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی، اور اب آپ نے سواری دیدی۔ ”لَالَّا أَجْلٌ وَلَكِنْ لَا أَحْلَفُ عَلَى بِعْنَى“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب میں کوئی قسم کھا لیتا ہوں، ”فَأَرِيَ غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الدِّيْهِ هُوَ خَيْرُ مِنْهَا“ اور اس کے خلاف مجھے بھلائی نظر آئے تو میں اس بھلائی کو اختیار کر لیتا ہوں یعنی بعد میں رائے ہوتی ہے کہ وہ کام کر لینا چاہیے تو وہ کام کر لیتا ہوں اور نہیں کافراہ ادا کر لیتا ہوں اور یہی حکم بھی ہے، جس کی تفصیل ان شاء اللہ ”کتاب الأیمان“ میں آئے گی۔ یہ واقعہ سنایا کہ دیکھو حضور ﷺ نے کفارہ دے دیا، تو تم نے بھی غلط قسم کھایا کہ مرغی نہیں کھاؤں گا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کافراہ ادا کر دواور آؤ کھاؤ۔

۲۳۸۶ - حدیثی عمرو بن علی: حدثنا أبو عاصم: حدثنا سفيان: حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد: حدثنا صفوان محرز المازلي قال: حدثنا عمران بن حصين قال: جاءت بنت عميم الى رسول الله ﷺ فقال: ((أبشروا يابني تميم)), فقالوا أما اذا بشرتنا فأعطنا، لتغير وجه رسول الله ﷺ. ل جاء ناس من أهل اليمن فقال النبي ﷺ: ((البلوا البشري اذا لم يقبلها بنت عميم)), قالوا: قد بلينا يار رسول الله. [راجع: ۳۱۹۰]

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین ﷺ نے بیان کیا کہ بنت عمیم کا وفد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اے بنت عمیم! بشارت قبول کرو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ نے بشارت تو دیدی، اب ہمیں کچھ دلوائیے۔ آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک پر اس کا اثر معلوم ہوا، پھر مکن کا وفد آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بنت عمیم نے تو بشارت قبول نہیں کی، لہذا تم قبول کرو، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم نے قبول کی۔

۲۳۸۷ - حدیثی عبد الله بن محمد الجعفی: حدثنا وهب بن جریر: حدثنا شعبہ، عن اسماعیل بن ابی خالد، عن قیس بن ابی حازم، عن ابی مسعود: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((الإِيمَانُ هَاهُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْيَمَنِ - وَالجَفَاءُ وَغُلُظُ الْقُلُوبُ فِي الْفَدَادِينِ عِنْدَ أَصْوَلِ أَذَنَابِ الْأَهْلِ مِنْ حِيثِ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانُ: رَبِيعَةُ وَمَضْرِ)). [راجع: ۳۳۰۲]

ترجمہ: قیس بن حازم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان یہاں ہے، درشتی اور رخخت دلی ان میں ہے جو اونٹوں کی ذمہوں کے پاس آواز لگاتے ہیں، جہاں سے شیطان کے دوسینگ نکلتے ہیں یعنی ربیعہ اور مضر میں ہے۔

۳۳۸۸ - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدی، عن شعبة عن سليمان، عن ذکوان، عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال: ((أَكْمَمَ أَهْلَ الْيَمَنَ، هُمْ أَرْقَ النَّدَدَةِ وَالْأَيْنَ لِلْوَبَا، الْإِيمَانُ يَعْلَمُ وَالْحِكْمَةُ يَعْلَمُ، وَالْفَخْرُ وَالْخِيلَاءُ لِأَصْحَابِ الْأَبْلَلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ لِأَهْلِ الْفَنِمِ)). [راجع: ۳۳۰۱]

وقال غندر، عن شعبة، عن سليمان، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس یمن والے آئے ہیں، جو رقیق القلب اور زم دل ہیں، ایمان یعنی ہے، اور حکمت یعنی ہے، فخر اور تکبر اونٹ والوں میں ہے، سکون اور وقار مکری والوں میں ہے۔

اور غندر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے شعبہ سے روایت کی، اور انہوں نے سليمان سے، انہوں نے ثور بن زید سے، انہوں نے ابوغیث سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

۳۳۸۹ - حدثنا إسماعيل: حدثني أخي، عن سليمان، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ((الإِيمَانُ يَعْلَمُ، وَالْفَتْنَةُ هَا هَا. هَا هَا يَطْلُعُ قَرْنَ الشَّيْطَانِ)). [راجع: ۳۳۰۱]

ترجمہ: ابوغیث رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایمان یعنی میں میں ہے اور فتنہ یہاں ہے جہاں سے شیطان کے دوسینگ نکلتے ہیں (یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے)۔

۳۳۹۰ - حدثنا أبو اليمن: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزياد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ((أَكْمَمَ أَهْلَ الْيَمَنَ أَصْعَفَ لِلْوَبَا وَأَرْقَ النَّدَدَةَ، الْفَقْهُ يَعْلَمُ، وَالْحِكْمَةُ يَعْلَمُ)). [راجع: ۳۳۰۱]

ترجمہ: اعرج روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں، جو نکز و دل والے ہیں اور رقیق الخائب ہیں، دین کی سمجھی میں والوں میں ہے اور حکمت بھی یعنی میں ہے۔

یمن؛ ایمان و حکمت کی سرز میں  
نبی کریم ﷺ نے فرمایا "الایمان ھاہنا - و آہار بیده إلى الیمن" ایمان اس طرف ہے اور  
اشارة یمن کی طرف فرمایا۔

دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا "الایمان یمان والحكمة يمانيّة" ایمان بھی  
یمن ہے اور حکمت بھی یمن ہے۔

اس کی تفسیر بعض لوگوں نے یوں کی ہے کہ یمان سے مراد یمن کا علاقہ نہیں ہے، بلکہ یمان سے مراد مکہ  
اور مدینہ ہے، اس واسطے کہ مکہ مکہ مدینہ منورہ کو بحیثیتِ مجموعی پورے جزیرہ عرب میں یمان کہا جاتا ہے اور  
بعض اوقات جو کمرہ پر جو تمہارے کا اطلاق ہوتا تھا وہ قدیم تاریخ کے رو سے یمن کا حصہ کہلا�ا جاتا تھا۔ ج ۲۷  
پتہ نہیں لوگوں نے یہ تاویل کرنے کی ضرورت کیوں سمجھی؟

شاید کوئی پر خاش ہو کر یمن والوں کو حضور ﷺ نے ایمان کی سند دے دی تو کہیں ہم سے نہ چھین جائے،  
حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ صرف اہل یمن کی تعریف کرنا مقصد ہے کہ اہل یمن کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ  
بچ دل سے ایمان لائے ہیں، وہ نرم دل لوگ ہیں۔

"الایمان یمان" یا "الایمان ھنہا" کے معنی یہ ہے کہ ایمان ان کی بنیادی خصوصیت ہے، وہ نرم  
دل لوگ ہیں اور ایمان ان کے اندر پختہ ہے، لیکن اس سے ماعدا کی نفع لازم نہیں آتی، لہذا کسی تاویل کی کوئی  
 حاجت نہیں۔

## اونٹ اور ہل چلانے والے سخت دل

"والجفاء وغلوظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل"  
درشتی اور سخت دلی ان میں ہے جو اونٹوں کی ڈموں کے پاس آواز گاتے ہیں۔

حج قولہ: ((الایمان یمان))، اصلہ یمانی، حذفت الباء للتخلیف، وانما اولع الیمان، خبراً عن الایمان لأن مبدأه من  
مکا وہی یمانیۃ او المراد مـ وصف اهل یمن بکمال الایمان، ولعل المراد مکہ والمدینہ، لأن هذا الكلام صدر عن  
النبی ﷺ وہر بپرسک، لتكون المدينة حينئذ بالنسبة الى السحل الذي هو له یمانیۃ. عصدة القواری، ج: ۱۸، ص: ۳۶

اس جملہ کی تفسیر دو طرح سے ہو سکتی ہے:

ایک تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ "فَدَاد" کی جمع "الْفَدَادِين" ہے، شور مچانے والا، ایک معنی تو ہو سکتے ہیں کہ ناشائستگی و سنگدلی ان لوگوں میں ہوتی ہے جو اونٹوں کی دموم کی جزوں کی نیچے اور ان کے پاس شور مچاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں مالداری اونٹوں کی کثرت سے ہوا کرتی تھی کہ جس کے پاس جتنے اونٹ ہیں وہ اتنا ہی مال دار ہے تو جو اصحاب الابلیں ہیں، ان کے پاس بڑی دولت ہے اور وہ اونٹوں کے دموم کے پاس شور مچاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا دولت مند سمجھ کر شور مچاتے ہیں، دوسروں پر تکبر کرتے ہیں یا اپنے اونٹوں کو بھگانے کے لئے شور مچاتے ہیں۔

دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ "الْفَدَادِين" کے معنی ہیں کاشنکار، جوز میں کو گا ہتے ہیں۔

اصل میں "فَدَاد" کہتے ہیں وہ مل جو آدمی زمین میں چلاتا ہے تو مل چلانے والا کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں سختی ہوتی ہے اور وہ اونٹ اپنے کاموں میں مشغول ہو کر امور آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ۵۵ جو بھی مراد ہو بہر حال ان کے دلوں میں سختی اور ناشائستگی ہوتی ہے۔

"ربیعة ومضر" یہ مشہور دو قبیلے ہیں جو فدادِ دین سے بدل ہیں۔

پھر خاص طور پر ربیعہ اور مضر کے قبیلوں کا ذکر کیا کہ ان کے اندر بڑی سختی ہے، یعنی اہل یمن نرم دل لوگ ہیں اور یہ لوگ سخت دل ہیں اور یہ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر والے نجد میں آباد تھے۔

## مشرق؛ فتنوں کی سر زمین

جب آپ ﷺ نے فرمایا کہ "والفتنة هاهنا" اور فتنہ یہاں ہے۔

تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ "من حيث يطلع قرولا الشيطان" جہاں سے شیطان کے دوستینگ نکلتے ہیں، اس سے وہ جگہ مراد ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے یعنی مشرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اہل مدینہ کے ہاں اس سے مراد نجد ہوتا ہے کیونکہ مدینہ کے مشرق میں نجد کا علاقہ آتا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں عراق مراد ہے اور مدینہ کے شمال مشرق میں واقع ہے، یہاں بڑے فتنے

۵۵ قوله: ((فِي الْفَدَادِين)), تفسیرہ علی و جہون. أحدہما: ان یکون جمع الفداد. بالتشدید. وهو التدید الصوت وذلك من دأب أصحاب الابل. والأخر: ان یکون جمع الفداد. بالمعنى. وهو آلة الحرف، والماء هولا، لأنهم يستغلون عن أمور الدين ويلتهون عن أمور الآخرة. عمدة القارى، ج: ۱۸، ص: ۳۵

رونماء ہوئے جیسے جنگِ جمل، صفين، خوارج کا ظہور وغیرہ اور حدیث میں اس طرف اشارہ ہے واللہ عالم۔<sup>۲۷</sup>  
جب کہ مطلقًا مشرق بھی مراد لیا جاسکتا ہے کیونکہ فتنہ دجال اور یا جوج ماجوج اور اسی طرح دیگر فتنوں کا  
خود بھی مشرق سے ہو گا جیسا کہ مختلف احادیث میں موجود ہے۔<sup>۲۸</sup>  
خلاصہ یہ کہ فتنے اس طرف سے آئیں گے اب جس طرف اشارہ فرمایا وہ مشرق ہے، اور مشرق میں کوئی  
شک نہیں بھی داخل ہے اور عراق بھی ہے، عراق میں بھی فتنے ہوئے اور نجد میں بھی فتنے پائے ہوئے۔

## فرد واحد پر اطلاق درست نہیں

کسی فرد واحد کی طرف اس قسم کا اطلاق بالکل درست نہیں، کیونکہ اس ارشاد میں مطلقًا علاقے کی طرف  
نسبت ہے، چنانچہ کسی ایک آدمی کا نام لے کر کہہ دینا کہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ بات کہنا تھیک نہیں  
ہے۔ جیسے موجودہ دور میں بعض لوگ اس حدیث کو لیکر خاص طور پر شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی<sup>۲۹</sup> کو نشانہ بناتے ہیں۔  
تھیک ہے ان کی بہت سی باتوں میں غلوت ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بدعتات کے  
خلاف بڑا جہاد کیا اور بدعتات کی تردید میں ان کا کام بڑا قابل تعریف بھی ہے۔ اگرچہ بعض جگہ حد سے بڑھ گئے،  
افراط سے تفریط کی طرف چلے گئے۔

لیکن جس طرح کے حالات تھے اس میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے بڑا کام کیا اس لئے ان کو علی  
الاطلاق کہہ دینا کہ یہ مگر اہوں کی طرف ہیں یہ بات درست نہیں، یہ غلوت ہے۔  
ہمارا ان سے کئی معاملات میں شدید اختلاف بھی ہے، صرف ایک معاملہ میں نہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس  
بات کا بھی احساس ہے کہ آدمی مخلص تھے، مقصود دین تھا، دنیاداری مقصود نہیں تھی اور خاص طور سے بدعتات  
اور شرک سے نفرت تھی اور اس نفرت کے نتیجے میں بعض اوقات حدود سے تجاوز کر گئے۔

۲۷ وأشار بقوله: ((هناك)) إلى نجد، وإن من المشرق، قال الخطابي نجد من جهة المشرق، ومن كان  
بالمدينة كان نجده بادية العراق ولو احبيها، وهي مشرق أهل المدينة، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض وهو علال  
المرور لآنه ما يخلص منها. إله لالة الداودى ان نجدا من لامبة العراق فالله تولهم ان نجد أمروض مخصوص، وليس  
كذلك. عمدة القاري، ج: ۲۲، ص: ۲۸۸، فتح المأری، ج: ۱۳، ص: ۲۷

۲۸ واما كون الفتنة من المشرق ل لأن اعظم اسباب الکفر منتشرة هناك كخروج الدجال ونحوه. عمدة القاري،

كنا جلوسًا مع ابن مسعود لجاء خباب فقال: يا أبا عبد الرحمن، أيمستطع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال: أما إنك لو شئت أمرت بعضهم بقراءة عليك، قال: أجل، قال: أقرأ يا علقة، فقال زيد بن حذير آخر زياد بن حذير: أنا مررت بعلقة أني يقرأ وليس بالقرار أنا قال: أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي ﷺ لى لومك وقومه، القراءات خمسين آية من سورة مريم فقال عبدالله: كيف ترى؟ قال: قد أحسن. قال عبدالله: ما أقرأ شيئاً إلا وهو يقرأه، ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: أما إنك لن تراه على بعد اليوم، فاللقاء. رواه غندر، عن شعبة.

ترجمہ: علقة کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خباب ﷺ کا تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن (ابن مسعود کی کنیت)! کیا یہ جوانوں کا طبقہ آپ کی طرح قرآن پاک پڑھ سکتا ہے؟ حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ نے کہا اگر تم چاہو تو میں ان میں سے کسی کا قرآن تمہیں سناؤں، انہوں نے کہا جی ہاں! ضرور سنوایے، تو حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ نے کہا اے علقة پڑھو۔ زیاد بن حذیر کے بھائی یزید بن حذیر نے کہا کہ کیا آپ نے علقة کو حکم دیا کہ وہ پڑھیں؟ عبد اللہ ﷺ نے جواب دیا اگر تم چاہو تو میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کا وہ قول جو تمہاری قوم اور اس کی قوم کے بارے میں ہے تمہیں بتا دوں، (علقة کہتے ہیں کہ) میں نے سورہ مريم کی پچاس آیتیں پڑھیں۔ حضرت عبد اللہ ﷺ نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا پڑھتا ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ نے کہا کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں علقة بھی اسی طرح پڑھتا ہے، پھر حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ نے حضرت خباب ﷺ کی جانب متوجہ ہوئے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی اور فرمایا کہ کیا، بھی اس کے پھینکنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ حضرت خباب ﷺ نے کہا کہ آج کے بعد سے آپ اسے نہ دیکھیں گے، اور انگوٹھی اتار دی، اس حدیث کی روایت غندر نے شعبہ کے واسطے سے کی ہے۔

## حضرت ابن مسعود ﷺ کا قرأت قرآن میں مرتبہ و مقام

حضرت علقة بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے

تحت، اسی اثناء میں حضرت خباب رض تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے شاگردوں کو دیکھ کر ان سے سوال کیا کہ "آئیست طبع هؤلاء الشاب ان يقروا كمال القراءة"<sup>۴۹</sup> اے ابو عبدالرحمن! یہ جو آپ کے نوجوان شاگردوں میں ہیں تو کیا یہ بھی اسی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں جس طرح آپ پڑھتے ہیں؟

حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی تلاوت کے بارے میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمادی تھی "من احبا ان يقروا القراءة خصنا كما أنزله، فلليقرأه على قراءة ابن أم عبد" کہ جو شخص چاہتا ہو کہ وہ قرآن اس طرح پڑھے جیسے آج ہی نازل ہوا ہو تو وہ ابن ام عبد رض مسعود کی طرح پڑھے۔<sup>۵۰</sup>

قرأت قرآن کی یہ سند خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام سے ابن مسعود رض کو حاصل ہوئی تھی، اس واسطے حضرت خباب رض نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تمہارے نوجوان شاگردوں میں یا یہ بھی تمہارے طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں؟

ہاتھ لگن کو آرسی کیا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ زبان سے کہتے کہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رض نے کہا کہ "اما إنك لو هنت أمرت بعضهم يقرأ عليك" اگر آپ چاہیں تو میں ان میں سے کسی سے کہوں کہ وہ آپ کے سامنے تلاوت کرے۔

"أجل" تو حضرت خباب رض نے کہا کہ کیوں نہیں ضرور سنوایے، "قال: القراءة علقة" عبداللہ بن مسعود رض نے علقة سے کہا کہ ذرا تم پڑھ کے سناؤ۔

"القال زید بن حذير أخوه زياد بن حذير" ان شاگردوں میں ایک شاگرد زید بن حذیر بھی تھے جو زیاد بن حذیر کے بھائی ہے تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رض سے کہا "أامر علقة أن يقرأ" کہ کیا آپ نے علقة کو حکم دیا کہ وہ پڑھیں؟

پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ حالانکہ وہ ہم میں سب سے اچھے پڑھنے والے نہیں ہے تو ان سے کیوں پڑھو ارہے ہیں؟ شاید شاگرد کو یہ خیال آیا ہو کہ مجھے کہیں گے لیکن انہوں نے علقة کو بہت اچھا سمجھا اور اس کی وجہ سے ان سے پڑھو کے سنارہے ہیں۔

"اما إن شئت أخبرتك بما قال النبي ﷺ في قومك و قومه" تو حضرت عبداللہ بن مسعود رض نے کہا کہ اگر تم چاہو تو بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے تمہاری قوم کے بارے میں کیا فرمایا تھا اور اس کی قوم کے بارے میں اور تیرے قوم کے بارے میں۔

حضرت علقة رحم اللہ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام تھی تھے، قبلہ "النفع" سے تعلق رکھتے تھے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے قبلہ

<sup>۴۹</sup> مسند احمد، مسند المکتوبین من الصحابة، مسند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، رقم: ۳۲۵۵، ومسند

ابن علی الموصی، مسند عبداللہ بن مسعود، رقم: ۵۰۵۸

نخ کی تعریف فرمائی، حضرت ابن مسعود رض فرماتے ہیں کہ قبیلہ نخ کے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و آله و سلم نے تعریف فرمائی یا ان کے لئے دعا فرمائی تو میں تناکرنے لگا کہ کاش میں بھی اسی قبیلہ کا ایک فرد ہوتا۔

زیاد بن حدیر کا تعلق بنو اسد سے تھا اور بنو اسد کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و آله و سلم نہیں فرمائی، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رض کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و آله و سلم نے فرمایا کہ جہینہ کا قبیلہ بنو اسد اور بنو غطفان سے اچھا ہے، تو یہ ایک طرح سے بنو اسد کی نہ مت ہوئی۔

تو حضرت ابن مسعود رض نے اشارہ کیا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ علقمہ سے کیوں پڑھوار ہے ہو تو کیا میں بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و آله و سلم نے تمہاری قوم کے بارے میں کیا فرمایا تھا اور اس کی قوم کی تعریف میں کیا فرمایا تھا۔

**”لقرأت خمسين آية من صورۃ مریم“** علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خباب رض کے سامنے سورۃ مریم کی پچاس آیتیں پڑھیں۔

”فقال عبد الله: كيف ترى؟“ جب پڑھ چکا تو حضرت عبد اللہ بن مسعود رض نے حضرت خباب رض سے پوچھا کہ کیا خیال ہے؟ کیا رائے ہے؟ یعنی کیسا پڑھا قرآن پڑھا اس نے؟ ”قال: قد أحسن“ تو حضرت خباب رض نے فرمایا کہ ہاں بہت اچھے انداز میں پڑھا ہے۔

”قال عبد الله: ما أرأينا إلا وهو يقرؤه“ حضرت عبد اللہ بن مسعود رض نے فرمایا کہ جو بھی میں پڑھتا ہوں یہ ضرور پڑھتا ہے یعنی یہ ایسا شاگرد ہے جس طرح اور جن انداز میں پڑھوں یہ ویسے ہی پڑھتا ہے۔

## علامہ رحمہ اللہ کی فضیلت

حضرت علقمہ رحمہ اللہ، حضرت ابن مسعود رض کے مابین ناز شاگردوں میں سے تھے، اس روایت سے حضرت علقمہ رحمہ اللہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی واسطہ امام ابو حنفیہ رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ”علقمة ليس بدون من ابن عمر في الفقه، وإن كانت لابن عمر صحبة ولهفضل صحابة۔“

وَكَانَ يَشْهِرُ إِلَى ثَنَاءِ النَّبِيِّ عَلَى النَّجْعِ لَا نَعْلَمُ لِمَنْ عَلَقَمَهُ لِنَحْنِ، وَالَّذِي ذَمَّ بْنِ أَسْدٍ وَزَيْدَ بْنِ حَدِيرَ أَسْدِي، فَأَمَّا ثَنَاءُهُ عَلَى النَّجْعِ فَلِمَّا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَارُ بِأَسَادِ حَسْنٍ عَنْ أَبْنَى مَسْعُودٍ قَالَ: ((شَهَدَتْ رَسُولُ اللَّهِ بِدُعَوِّ لِهَا الْحِلْيَ مِنَ النَّجْعِ أَوْ يَنْسِي عَلَيْهِمْ، حَتَّى تَعْيَنَتْ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ)) وَأَمَّا ذَمَّةُ لَبَّى أَسْدٍ فَتَقدِّمُ فِي الْمَنَافِبِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُ ((إِنْ جَهَنَّمْ وَغَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْ بَنِي أَسْدٍ وَغَطْفَانَ)) وَأَمَّا النَّجْعُ فَمُنْسَوبٌ إِلَى النَّجْعِ قَبْلَةً مُشْهُورَةً مِنَ الْيَمَنِ، فَتَعْلِمُ الْهَارِيَ، ج: ۸، ص: ۱۰۰، وَسَنْدُ أَحْمَدَ، سَنْدُ الْمَكْثُرِيْنَ مِنَ الصَّحَابَةِ، سَنْدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، رقم: ۳۸۲۷

اس قول کا پس مظہر یہ ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے مکملہ میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نماز میں رفع یہین کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دلیل کے طور پر روایت پیش کی جو وہ امام زہریؓ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت سالمؓ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز کی ابتداء میں، رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے روایت پیش کی کہ وہ حضرت حماد رحمہ اللہ سے روایت نقل کرتے ہیں اور وہ ابراہیمؓ سے روایت کرتے ہیں اور حضرت علقہ اور اسود رحمہما اللہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ دونوں صحابی رسول حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں، جس میں نبی کریم ﷺ سے رفع یہین نہ کرنا ثابت ہے۔

امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں آپ کو زہری کی روایت بیان کرتا ہوں جو حضرت سالم رحمہ اللہ اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں اور مجھے اس کے جواب میں حماد رحمہ اللہ کی روایت پیش کرتے ہیں جو وہ ابراہیمؓؑ کی روایت بیان سے کرتے ہیں؟

جواب میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حماد رحمہ اللہ کو فقہ میں زہری رحمہ اللہ سے زیادہ مہارت حاصل تھی، اور ابراہیمؓؑ کی روایت حضرت سالم رحمہ اللہ سے زیادہ مہارت حاصل تھی، اور علقہ رحمہ اللہ کو صرف ابن عمر رضی اللہ عنہما کی صحبت کا شرف حاصل نہیں ہوا (جیسا کہ حضرت سالم رحمہ اللہ ہیں) بلکہ بہت سے دوسرے اکابر صحابہؓ کی صحبت کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ ای فقہ میں ان کا یہ مقام و مرتبہ تھا۔

"لَمْ يُعْفَتْ إِلَى خَيْبَابِ عَلَيْهِ خَالِمٌ مِنْ ذَهَبٍ" اس کے بعد حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، حضرت خبابؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، "فَقَالَ: أَلَمْ يَانْ لَهْذَا الْخَالِمُ أَنْ يَلْقَى؟" حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کیا اب بھی اس کے لئے وقت نہیں آیا کہ اس کو پھینک دیا جائے، "قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَى بَعْدِ الْيَوْمِ، فَأَلْقَاهُ" حضرت خبابؓ نے فرمایا آج کے بعد آپ اسے نہیں دیکھیں گے اور پھر اس انگوٹھی کو اتا رہا۔

مسئلہ: اس بات سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ حضرت خبابؓ مردوں کے سونے کی ممانعت کو نبی تنزیہ پر محول کرتے ہوں گے لیکن جب حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے سونے کی حرمت بتائی تو فوراً اس انگوٹھی کو اتا رہا۔ ۲۷

۱) فتح القدير للكمال ابن الهمام، ج: ۱، ص: ۳۱۱

۲) ولعل خباباً كان يعتقد أن النهي عن ليس الرجال خالم الذهب للتزييه، فنبهه ابن مسعود على تعريمه، فرجع اليه

سرعاً. ففتح الباري، ج: ۸، ص: ۱۰۱، عمدة القارئ، ج: ۱۸، ص: ۳۹

## (۶۷) باب قصہ دوس والطفیل بن عمرو الدوسي

### قبیلہ دوس اور طفیل بن عمرو دوی کے قصہ کا بیان

٣٣٩٢ - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن ذكوان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رض قال: جاء الطفیل بن عمرو إلى النبي ﷺ لقال: إن دوس قد هلكت، عصت وأبیت، فادع الله عليهم. لقال: ((اللهم أهد دوسا وات بھم)). [راجع: ۲۹۳۷] ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رض نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو دوی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ قبیلہ دوس ہلاک ہو، اس نے نافرمانی کی ہے، اور اسلام سے انکار کر دیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے بدعما سمجھئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرماؤ رائیں لے آئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلہ دوس کے لئے ہدایت کی دعا  
یہ قبیلہ دوس اور حضرت طفیل بن عمرو دوی رض کا واقعہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں کہ طفیل بن عمرو رض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آگر عرض کیا کہ "لقال: إن دوس قد هلكت" دوس قبیلہ کے لوگ تو عذاب ہو گئے، "عصت وأبیت" اس لئے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، "فادع الله عليهم" تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے بدعما کردیجئے یعنی ان کا یہ مطلب تھا کم بخت مرہی جائیں۔

"لقال: اللهم أهد دوسا وات بھم" تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعما کرنے کے بجائے فرمایا کہ اے اللہ!  
دوس کے لوگوں کو ہدایت دے دیں اور ان کو لے آئیں کہ وہ یہاں مسلمان ہو کر آ جائیں۔

حضرت طفیل بن عمرو رض قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اپنی قوم میں گئے دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کی اور کوشش کی کہ اپنے قبیلہ کے لوگوں کو بھی مسلمان کر لیں، تو سوائے حضرت ابو ہریرہ رض کے اور کوئی مسلمان نہ ہوا، حضرت ابو ہریرہ رض بھی اسی دوس قبیلہ کے تھے، تو یہ مالیوس ہو کر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ بات عرض کی کہ یہ تو کوئی مانتا نہیں تو ان کیلئے بدعما ہی کردیجئے ایسی کہ یہ ختم ہو جائے۔  
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ فرمائی اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرم۔

چنانچہ بعد میں اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوس کے قبیلہ کا جو سردار تھا اس کا نام حبیب تھا تو وہیں بیٹھے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جتوڑا لی اور پھر وہ اپنے پورے قبیلہ کے ساتھ حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آکر تسبیب بھی ہوا اور مسلمان بھی ہوئے۔ ۲۳

۲۳۹۳ - حدیثی محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامه: حدثنا إسماعيل، عن قيس،

عن أبي هريرة قال: لما قدمت على النبي ﷺ قلت في الطريق:

باليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر رجت

وابق غلام لي في الطريق، فلما قدمت على النبي ﷺ لبأيده، لبينا أنا عنده إذ طلع  
الغلام، فقال لي النبي ﷺ: ((يا أبا هريرة هذا غلامك))، فقلت: هو لوجه الله، فأعشقته.

[راجع: ۲۵۳۰]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں کہ جب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے چلا تو راستہ میں میں نے یہ کہا۔

اے رات باوجود درازی و مشقت کے تو نے مجھے دارالکفر سے نجات دی!

اور میرا غلام راستہ میں بھاگ گیا تھا، جب میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کی خدمت میں آکر آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام سے بیعت کی تو ابھی میں آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک وہ غلام آگیا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ ایسے ہے تمہارا غلام! میں نے کہا اسے میں نے اللہ کے لئے آزاد کر دیا۔

## ابو ہریرہ رض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کی خدمت میں حاضری

حضرت ابو ہریرہ رض کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا اور یہ بھی یمن کے قریب رہتے تھے، فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد کیا تو راستہ میں یہ شعر کہا:

”باليلة من طولها وعنائها – على أنها من دارة الكفر لجهها“

اے رات! باوجود اس کی لمبائی اور اس کی مشقت کے اس رات نے مجھے کفر کے گھر سے نجات دی

۳۴ فذكر ابن الكلبي أن حبيب بن عمرو بن حمدة الدوسى كان حاكماً على دوس، وكذا كان أبوه من قبليه، وعمر ثلاثمائة سنة، وكان حبيب يقول: إنما لا علم أن للخلق حال فإذا لكي لا أدرى من هو، فلما سمع الناس خرج اليه وعمر خمسة وسبعين رجلاً من قومه فآسلم وأسلموا. فتح الباري، ج ٨، ص: ١٠٢

آگے کہتے ہیں کہ "وَأَبْقَى غَلَامًا لِي فِي الطَّرِيقِ" راستے میں میرا ایک غلام بھاگ گیا۔ "فَلَمَّا قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ فَبَأْعَطَهُ" جب میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں آکر بیعت کی، "لَمَّا نَأْتَنَا أَنَا عَنْهُ إذْ طَلَحَ الْفَلَام" ابھی میں بیعت کر کے آپ ﷺ کی خدمت میں بیٹھا ہی تھا دیکھا کہ وہ غلام چلا آ رہا ہے۔

"فَقَالَ لِي النَّبِيُّ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غَلَامٌ كَمْ تَرَكْبُتُ لَهُ" نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ! ویکھو تمہارا غلام آگیا، "هُوَ لَوْجَهُ اللَّهِ، لَا يَعْتَقِدُهُ" تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کیلئے ہے اور پھر میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ کا تعلق چونکہ قبلہ دوس سے تھے، اس واسطے یہاں پر یہ روایت ذکر کر دی۔

## (۷۷) باب قصہ و قد طی، و حدیث عدی بن حاتم و قد بنی طے اور عدی بن حاتم رض کے قصہ کا بیان

اس باب میں قبیلہ طے کے وفد کا قصہ ہے، قبیلہ طے مشہور تھی حاتم طائی کا قبیلہ ہے اور یہ مدینہ منورہ سے بہت دور واقع تھا اور یہ دو پہاڑوں کے درمیان تھا، جو جبل آجاء اور سلمی کے نام سے مشہور ہیں۔

### جبل آجاء و سلمی کی وجہ تسمیہ

ان دونوں پہاڑوں کا نام آجاء نام کے مرد اور سلمی نامی عورت سے منسوب ہیں۔

جس طرح لیلی و مجنون کا قصہ مشہور ہے، اسی طرح ان کی بھی ایک عشقیہ داستان مشہور تھی۔

مرد کا نام آجاء بن عبد الحمیت تھا، اس کا تعلق عدیت قبیلہ سے تھا، عورت کا نام سلمی بنت حاتم تھا، جس کا تعلق بنی عیش سے تھا، دونوں میں عشق ہو گیا، سلمی کی دایہ جس کا نام آجاء تھا، وہ دونوں کے درمیان پیغام رسانی کرتی تھی اور یہ دونوں آپس میں چھپ کر ملاقاتیں کرتے تھے، قبیلے آپس میں دشمن بھی تھے، جب دونوں کے عشق کا قبیلے والوں کو پتا چلا تو ڈر کر دونوں بھاگ گئے اور ساتھ میں عوجاء بھی تھی۔

دونوں قبیلوں نے آپس میں اتفاق کر لیا کہ ہم ان کو سخت سزا دے کر ماریں گے یہاں تک کہ جب یہ لوگ قبیلے والوں کے ہاتھوں پکڑے گئے تو آجاء کو بھی ایک پہاڑ پر زندہ دفن کیا گیا اور دوسرے پر سلمی کو بھی اس کے بھائی نے سخت اذیت دے کر مارا۔

یوں جس پہاڑ پر آجاء کو مارا وہ جبل آجاء اور جس پہاڑ پر سلمی کو مارا وہ جبل سلمی کے نام سے مشہور ہو گئے، اور جب مطلقًا کہا جائے تو جبل طے کہتے ہیں یعنی طے کے پہاڑ۔ ۲۷  
دیوان حماسہ میں برج بن مسیر طائی کا اسی کے متعلق شعر ہے:

فَانْ لِرْجَعٍ إِلَى الْجَبَلِينَ يُومًا  
نَصَالِحٌ قَوْمًا حَتَّى الْعَمَاتِ

چنانچہ اب اگر ہم دو پہاڑوں کی جانب لوٹیں گے تو ہم اپنی قوم سے مرتے دم تک صلح رکھیں گے۔  
اس شعر میں جبلین سے مراد یہی دو پہاڑ آجاء و سلمی ہیں جو طے کے پہاڑ تھے۔

اس شعر کا پس منظر یہ ہے کہ شاعر کا تعلق طے کے قبیلہ جدیلہ سے ہے، ان کی طے کے ایک دوسرے قبیلے غوبن طے سے کسی معاٹے پر تمیں سال تک جنگ ہوتی رہی اور یا آخراج دیلہ والوں فکست ہوئی، جس کے بعد وہ لوگ بنو کلب کے پاس پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔

وہاں ان کے ساتھ بنو کلب لا پرواہی، بے رُثی سے پیش آئے اور اور بعض دوسرے واقعات بھی پیش آئے جن سے وہ لوگ سخت مصائب والم کاشکار ہوئے تو انہی کے متعلق یہ شعر کہا۔ ۵۴

اسی قبلہ طے میں مشہور سخنی حاتم طائی تھے اور انہی کے بیٹے عدی رض ہیں، جن کا واقعہ یہاں ذکر ہے۔

۳۳۹۳ - حدثنا موسی بن اسماعیل: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عبد الملک، عن عمرو بن حریث، عن عدی بن حاتم قال: أتنيا عمرلي وله لجعل يدعور جلا رجلا ويسميهم، فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلی، أسلمت إذا كفروا، وأقبلت إذا أذروا، ووليت إذا خدروا، وعرفت إذا أنكروا. للقال عدی: فلا أبهالي إذا. ۶۵

ترجمہ: عمرو بن حریث روایت کرتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم رض نے بیان کیا کہ ہم ایک وفد میں حضرت عمر رض کے پاس آئے تو وہ ایک آدمی کا نام لے کر بھانے لگے، میں نے کہا امیر المؤمنین! کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ فرمایا کیوں نہیں، جب لوگ کافر تھے تو تم اسلام لائے، جب لوگ پیچھے تھے تو تم آگے آئے، جب لوگوں نے دھوکہ دیا تو تم نے وفا کی، جب لوگوں نے حقانیت اسلام سے انکار کیا تو تم نے پہچانا۔ عدی نے کہا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔

## فاروق اعظم رض کی مردم شناسی

حضرت عدی بن حاتم رض کہتے ہیں "أتنيا عمرلي وله" یعنی ہم قبیلہ طے کے لوگ ایک وفد کی صورت میں حضرت عمر رض کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

" يجعل يدعور جلا رجلا ويسميهم" تو جتنے آدمی آئے تھے وہ ہر ایک کو ایک ایک کر کے بلا تے اور ہر ایک کا نام لیتے تو سب سے مل رہے تھے اور مجھے کوئی نہیں پوچھ رہے تھے، نہ مجھے بلا یا اور نہ مجھے سے ابھی تک بات کی، میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ "اما تعرفني يا أمير المؤمنين؟" اے امیر المؤمنین!

کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ کیونکہ سب کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔  
حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ "لقال: بہلی، اصلمت اذ کفروا" کیوں نہیں؟ تمہیں میں کیوں نہیں پہچانوں گا، تم تو اس وقت اسلام لائے تھے جب تمہارے قبیلہ کے سارے لوگ کافر تھے، "والله انت اذ ادہروا" اور اس وقت آئے تھے جب دوسرے لوگ پیشہ پھیر کر بھاگ رہے تھے۔

"رولمت اذ غدروا" اور اس وقت تم نے فرمانبرداری اور وقار نبھائی جب دوسرے لوگ غداری کر رہے تھے، "وعرفت اذ انکروا" اور تم نے اس وقت حضور اکرم ﷺ کو اور دین حق کو پہچانا جب لوگ اس کو پہچانے سے انکار کر رہے تھے، یعنی ان کے جواب میں اتنی ساری باتیں حضرت عمرؓ نے بیان کر دیں۔

"لقال عدى: فلا أهالي إذا" حضرت عدی بن حاتمؓ نے فرماتے ہیں کہ جب آپ میرے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں جانتے ہیں تو اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اب مجھ سے جلدی بات کریں یا نہ کریں۔ اسکے بیوں اسلام کے وقت طے قبیلہ میں کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا اس واسطے حضرت عمرؓ نے یوں فرمایا۔

## عدی بن حاتم اور ان کی بہن کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ

حضور اکرم ﷺ نے ربیع الثانی ۹ھ میں حضرت علیؓ کی امارت میں ایک سریہ قبیلہ طے کی طرف روانہ فرمایا تا کہ وہاں موجود بت خانہ کوڑھائیں۔ چنانچہ اس سریہ والوں نے قبیلہ طے پر حملہ کیا اور وہاں سے کچھ لوگ بھی گرفتار ہوئے، جو لوگ گرفتار ہو کر آئے تو ان میں عدی بن حاتم کی بہن یعنی حاتم طائی کی بیٹی سفانہ بھی تھیں، جبکہ عدی بن حاتم بھاگ کر شام چلے گئے تھے۔

جب گرفتار شدہ لوگ مدینہ منورہ آئے تو سفانہ بھی آئیں، اور حضور اکرم ﷺ کا اس جگہ سے گزر ہوا جہاں ان کو اتنا رکھا تھا تو انہوں نے اس انداز سے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے والد تو فوت ہو گئے ہیں اور جو میرا سر پرست اور خیال رکھنے والا تھا وہ فرار ہو گیا ہے اب کوئی میراد نکھنے والا نہیں ہے، آپ کے بارے میں سناء ہے کہ آپ کرم کے خونگر ہیں، لہذا اگر آپ میرے اوپر احسان کیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔

آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا سر پرست کون ہے؟ سفانہ نے کہا کہ میرا بھائی عدی بن حاتم ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا ہے۔ پھر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا لیکن ابھی مت جاؤ، جب کوئی ساتھ جانے والا ہو گا تو میں تمہیں بھیج دوں گا۔ پھر نبی کریم ﷺ نے ان کو بوقضاۓ کے وفد کے ہمراہ روانہ فرمادیا اور جاتے ہوئے ان کو تحائف اور

سواری بھی دی بھی، جب ان کو چھوڑا تو انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔  
 اپنے قبیلے والوں کے پاس پہنچتے ہی سفانہ رضی اللہ عنہما اپنے بھائی عدی بن حاتم کی ٹلاش میں لکل کھڑی ہوئیں اور شام جا پہنچیں، جب بھائی مل گئے تو ان سے کہا کہ کیوں بھاگتے ہو؟ حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں جاؤ اور جا کر ان سے بات کرو تو تمہیں پتہ چلے کہ وہ کون ہیں اور کیا ہیں؟  
 تو عدی بن حاتم ان کی ترغیب پر حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب بارگاہ نبوت ﷺ میں آئے تو گھاٹل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی۔ ۷۴

.....  
.....  
**باب**  
**حجۃ الوداع**  
.....  
.....

## (۷۸) باب حجۃ الوداع

## حجۃ الوداع کا بیان

حجۃ الوداع کو مجازی میں ذکر کرنے کی وجہ

حجۃ الوداع کا "كتاب المهازى" سے کیا تعلق ہے؟

پہلے گزر اے کہ مجازی کا جو عنوان ہے اس سے مراد نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ میں جو غزوات پیش آئے ان کا بیان ہے اس ذا سطے مجازی کہہ دیا، ورنہ اصل مقصود "كتاب المهازى" سے حضور اقدس ﷺ کی سیرت کا بیان ہے۔

مدینہ متورہ میں آپ ﷺ کی جتنی مہماں ہیں ان سب کا بیان ہے تو اس میں حجۃ الوداع بھی داخل ہے، وفود کا آن بھی داخل ہے، پھر آگے حضور اکرم ﷺ کی وفات کا بھی بیان ہو گا۔

## حجۃ الوداع کی وجہ تسمیہ

"حجۃ الوداع" یا "حجۃ الوداع" دونوں منقول ہیں۔

شرح حدیث رحیم اللہ اجمعین سے اس کے علاوہ بھی دیگر نام منقول ہیں:

حجۃ الاسلام: اس لئے کہ فرضیت حج کے بعد اسلامی رکن کی حیثیت سے صرف یہی حج آپ ﷺ نے ادا کیا ہے۔

حجۃ البلاع: اس لئے کہ اس میں آپ ﷺ نے شرعی احکام کی تبلیغ بھی فرمائی تھی۔

حجۃ التمام والکمال: کیونکہ اس حج میں مکمل دین کی آئیت مبارکہ نازل ہوئی:

**﴿اللَّهُمَّ أَكْمِلْ لِكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمِثْ عَلَيْكُمْ**

**يَعْمَلُتِي وَرَضِيَتِ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا﴾**

ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر

اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر (ہمیشہ کے لئے) پسند کر لیا۔ ۷

اس حج کو جمیۃ الوداع بھی اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں حضور ﷺ نے لوگوں کو الوداع کیا چونکہ آپ کو اس حج کے بعد حج کی نوبت نہیں آئی اور عرفات کے خطبوں اس طرف اشارہ بھی فرمادیا کہ غالباً آئندہ سال تم لوگوں سے ملنائے ہو گا۔

مدینہ آ کر آپ ﷺ نے صرف یہی ایک مرتبہ حج کیا، ہاں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ ﷺ نے متعدد حج کئے تھے، بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد بھی۔ ۸

۳۲۹۵ - حدیثنا اسماعیل بن عبد اللہ حدیثنا مالک عن اہن شہاب عن عروة ابن الزبیر عن عائشة قالت خرجنا مع رسول اللہ ﷺ فی حجۃ الوداع فاہللتہ بعمرۃ ثم قال رسول اللہ ﷺ من کان معاً هدی للیه هل بالحج مع العمرۃ ثم لا يحل حتى یحل منها

۹ [سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اسلام جیسا مکمل اور ابدی قانون خاتم الانبیاء جیسا نبی تم کو مرحت فرمایا مزید بر ای اطاعت و استقامت کی توفیق بخواہی۔ روحانی غذاوں اور دینی نعمتوں کا دستر خوان تمہارے لئے بچا دیا، حفاظت قرآن، علمیہ اسلام اور اصلاح عالم کے سامان جیسا فرمادیے یعنی اس عالیکریہ اور مکمل دین کے بعد اب کسی اور دین کا انتفار کرنا سفاہت ہے۔ "اسلام" جو تقویض و تسلیم کا مراد ہے، اس کے سوا مقبولیت اور نجات کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔]

حجیہ: اس آیت کا نازل فرمانا بھی مجھے نہماۓ عظیم کے ایک نعمت ہے۔ اسی لئے بعض یہود نے حضرت عمر ﷺ سے عرض کیا کہ ایسے المؤمنین! اگر یہ آیت ہم پر نازل کی جاتی تو ہم اس کے ہم زرول کو عید منایا کرتے۔ حضرت عمر ﷺ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ جس روز یہ ہم پر نازل کی گئی مسلمانوں کی دعیدیں جمع ہو گئی تھیں۔ یہ آیت ﷺ کی وجہ سے بھری میں "جمیۃ الوداع" کے موقع پر "عرفہ" کے روز "جمعہ" کے دن "عصر" کے وقت نازل ہوئی جب کہ میدان عرفات میں نبی کریم ﷺ کی اوثانی کے گرد جالیں ہزار سے زائد اقبال اور ابرار ﷺ کا مجمع کیا تھا۔ اس کے بعد صرف اکیاسی روز حضور ﷺ اس دنیا میں جلوہ افروز رہے۔ (المائدہ: ۳، تفسیر عثمانی، ص: ۱۳۱)

۱۰ ای ہذا ہباب لی الہمان حجۃ الوداع، یہ جزو لفج الحاء و کسرها و كذلك کسر الواو و لکھها، والما سمیت حجۃ الوداع لأن النبی ﷺ ودع الناس فلیا ولم یبحج بعدها، وسمیت ایضاً: حجۃ الاسلام لأنه ﷺ لم یبحج من المدينة ھبہها ولكن حج لبل الھجرة مرات لبل الھجرة وبعدها، ولقد قیل: ان لربھا الحج نزلت عامۃ، وللیل: سنة سع، ولقل: لبل الھجرة، وهو غریب وسمیت: حجۃ البلاع، ایضاً لأنه ﷺ بلع الناس فلیا شرع اللہ فی الحج الولأ و لعلأ و لم یکن یلقی من دھالک الاسلام ولا عده الا ولد بلطفه ﷺ، وسمیت ایضاً: حجۃ التمام والكمال، وسجدة الوداع ادھر، عمدة القاری،

جیسا فقدمت معا مکہ و أنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت إلى رسول الله ﷺ فقال القاضي راسك وامشطي واهلي بالحج ودعني العمرة لفعلت للما نضبا الحج أرسلني رسول الله ﷺ مع عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق إلى التنعيم لاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت لطاف الدين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا الم طالوا طوالا آخر بعد أن رجعوا من مني وأما الدين جمعوا الحج والميرة فالم طالوا طوالا واحدا. [راجع: ۲۹۳]

**ترجمہ:** حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی ہیں کہ جبہ الوداع کے لئے ہم آنحضرت ﷺ کے ہمراہ گئے اور ہجہ احرام باندھا تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جو لوگ قربانی کا جانور اپنے ہمراہ لائے ہیں وہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لیں اور اس وقت تک احرام نہ کھولیں، جب تک دونوں کام پورے طور پر انجام نہ دے لیں۔ میں جب آنحضرت ﷺ کے ساتھ مکہ پہنچی تو حائشہ تھی، اس لئے نہ تو میں نے کعبہ کا طواف کیا اور نہ صفا و مرودہ کی سعی کی، تو میں نے رسول اکرم ﷺ سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ! اب میں کیا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا سرکھوں کر بالوں میں لکھی کر لو اور حج کی نیت سے احرام باندھا لو اور عمرے کو رہنے دو۔ چنانچہ میں نے یہی کیا، پھر جب حج سے فارغ ہو چکی، تو آپ ﷺ نے مجھے عبد الرحمن بن ابی بکر کی ہمراہ مقام تنعیم میں بھیجا، پس میں نے وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا، آپ ﷺ نے فرمایا یہ عمرہ اس کے بدلتی ہے جو تم نے ترک کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی ہیں کہ جن لوگوں نے عمرہ کی نیت سے احرام باندھا تھا، جب وہ مکہ پہنچی تو طواف کعبہ اور صفا و مرودہ کی سعی کی پھر اپنا احرام اتار دیا اس کے بعد حج سے فارغ ہو کر مٹی سے مکہ آئے تو حج کا دوسرا طواف اور سعی کی اور جو ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے حج و عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا تھا ان کو ایک ہی مرتبہ طواف و سعی کرنا پڑی۔

۳۳۹۶ - حدیثی عمرو بن علی: حدثنا يحيى بن سعيد: حدثنا ابن جريج: حدثني عطاء، عن ابن عباس: إذا طاف بالبيت فقد حل، لفقلت: من أين؟ قال: هذا ابن عباس؟ قال: من قول الله: **﴿لَمْ يَرْجِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾** ومن أمر النبي ﷺ أصحابه أن يحلوا على حجة الوداع. لفقلت: إنما كان ذلك بعد المعرف، قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد.

**ترجمہ:** ابن جرج نے عطاء سے عطا سے روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جب عمرہ کرنے والا کعبہ کا طواف کرے تو حلال ہو جاتا ہے، تو میں نے عطاء سے پوچھا کہ یہ مسئلہ ابن عباس رضی اللہ عنہا

نے کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے کہ ﴿فَمَمْجَلِهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ اور خود حضور اکرم ﷺ نے اپنے اصحاب سے جمع الوداع میں احرام کھول دینے کا حکم دیا، میں نے کہا یہ تو وقوف عرفہ کے بعد ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ خیال تھا کہ عرفات میں پہنچنے سے پہلے اور بعد جب بھی طواف کرے، احرام کھول سکتا ہے۔

## ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مسلک

اتی بات سمجھ لینا کافی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حج کے بارے میں کچھ خصوصی آراء تھیں ساری دنیا سے الگ، ان سے میں ایک یہ بھی تھی کہ جو کوئی شخص کوئی بھی احرام باندھ کے جائے افراد کا، تمتع کا یا قرآن کا اور جب بیت اللہ کا طواف کرے گا تو فوراً حلال ہونا ضروری ہے، یہ ان کا عجیب و غریب قسم کا مسلک تھا۔

”إِذَا طافَ بِالْبَيْتِ لِقْدِحْلٍ“ سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں:

﴿فَمَمْجَلِهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ۹

ترجمہ: پھر ان کا حلال ہونا بیت العتیق کے پاس ہے۔

”لقلت: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَعْرُوفِ،“ ابن جریح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت سن کر کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد حلال ہو جائے، کہا کہ یہ تو وقوف عرفہ کے بعد ہے، ”معروف“ کا معنی ہے کہ عرفہ کے اندر وقوف کرنا، یعنی یہ سب حلال ہونا تو وقوف عرفہ کے بعد ہے۔  
”اللَّا لَّا: كَانَ أَبْنَ عَبَّاسَ يَرَاهُ قَبْلَ وَبَعْدَ“ تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ خیال تھا کہ عرفات میں پہنچنے سے پہلے اور بعد جب بھی طواف کرے، احرام کھول سکتا ہے۔

۷- ۳۳۹ - حدثني بيان: حدثنا النضر. أخبرنا شعبة، عن قيس قال: سمعت طارقاً عن أبي موسى الأشعري عليه السلام: لدمت على النبي ﷺ بالطحاء، فقال: ((أحجت؟)) للبت: نعم، قال: ((كيف أهللت؟)) للبت: ليك يا هلال كاهلال رسول الله ﷺ، قال: ((طف بالبيت وبالصفا والمروة لم حل)). فلطفت بالبيت وبالصفا والمروة وانبت امرأة من قيس للبت رأسي. [راجع: ۷] [۱۵۵]

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رض نے بیان کیا کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ بظاہر میں موجود تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تم نے حج کا احرام باندھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں! آپ نے فرمایا، تم نے احرام کیا کہ کر باندھا؟ میں نے عرض کیا، میں بھی وہی احرام باندھتا ہوں جو آنحضرت رض نے باندھا ہے، اس کے بعد آپ رض نے فرمایا کعہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد احرام اتار دیا، لہذا میں نے طواف کیا، سعی کی، احرام کھولا اور پھر قبیلہ قیس کی ایک عورت سے سرکی جوئیں نکلوا میں۔

٣٣٩٨ - حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: أن ابن عمر أخبره أن حفصة زوج النبي ﷺ أخبرته أن النبي ﷺ أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقالت حفصة: لما يمنعك؟ فقال: ((لبدت رأسي وللدت هدبتي، فلمست أحل حتى أعر هدبتي)). [راجع: ١٥٦٦]

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ مجھے آنحضرت رض کی زوج حضرت حفصة رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ جھیلۃ الوداع میں حضور اکرم ﷺ نے اپنی بیویوں سے ارشاد فرمایا کہ تم سب احرام کھول ڈالو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کیوں نہیں احرام کھولتے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی قربانی کے جانور کے گلے میں قلاوہ باندھا ہے اور بالوں کو جمالیا ہے قربانی کے ہار پہننا کر ساتھ لایا ہوں، لہذا جب تک اپنا جانور ذبح نہ کروں میں احرام نہیں اتار سکتا۔

٣٣٩٩ - حدثنا أبو المuman: أخبرنا شعيب، ن الزهرى. وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعى قال: أخبرنى ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من خضم استفتت رسول الله ﷺ في حجة الوداع والفضل بن عباس ردif رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبى هيجنا كهرا لا يستطيع أن يسترئ على الراحلة، غفهل يقضى أن أحج عنه؟ قال: ((نعم)). [راجع: ١٥١٣]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ جھیلۃ الوداع میں سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور فضل بن عباس آپ رض کے بیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خشم کی ایک عورت نے آنحضرت رض سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! امیرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے، مگر وہ اس قدر بوزھا ہے کہ سواری پر بیٹھنیں سکتا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ رض نے فرمایا ہاں! کر سکتی ہو۔

٣٣٠٠ - حدثني محمد: حدثنا سريح بن النعمان: حدثنا للبيح، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيل النبي ﷺ عام الفتح وهو مردف أسامي على القصواء ومعه

بلال و عثمان بن طلحة حتی آنماخ عند الباب، ثم قال لعثمان: ((العن بالملفاح)) فجاءه بالملفاح، للفتح له الباب. فدخل النبي ﷺ وأسامة وبلاط و عثمان، ثم أفلقوا عليهم الباب لمكث نهاراً طويلاً لم يخرج لا يقدر الناس الدخول فسبقهم فوجدت بلا بلا قائماً من وراء الباب فقلت له: أين صلي رسول الله ﷺ؟ فقال: صلي بين ذيئك العمودين المقدمين. وكان البيت على سعة أعمدة سطرين، صلي بين العمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تفتح الباب بينه وبين الجدار، قال: ولیست أن أسأله کم صلی؟ وعند المکان الذي صلی فيه مرمرة حمراء.

[راجع: ۳۹۷]

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے سال اپنی اوٹنی قصوائے پر سوار تھے اور حضرت اسامة ﷺ آپ کے پیچے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بلال ﷺ اور عثمان بن طلحہ ﷺ ہمراہ تھے یہاں تک کہ کعبہ کے پاس آئے اور اوٹنی کو بھایا، پھر عثمان بن طلحہ سے کہا کہ کنجی لاو، وہ کنجی لائے اور کعبہ کا دروازہ کھولا، تو آنحضرت ﷺ اور حضرت اسامة، بلال اور عثمان ﷺ اندر داخل ہوئے اور پھر دروازہ اندر سے بند کر لیا، بہت دیر تک دن کے وقت وہاں ٹھہرے رہے اور اس کے بعد باہر تشریف لائے تو بہت سے لوگ اندر داخل ہونے کے لئے بڑھے، مگر میں سب سے پہلے اندر گیا، میں نے دیکھا کہ حضرت بلال ﷺ دروازے کے پیچے کھڑے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آنحضرت ﷺ نے نماز کس جگہ ادا فرمائی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آگے کے ان دو ستونوں کے درمیان آپ نے نماز ادا فرمائی، ان دنوں بیت اللہ میں چھ ستوں تھے، دو سطروں میں تین ستوں، آپ نے اگلی قطار کے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھی، آپ کی پشت مبارک دروازہ کی طرف تھی اور چہرہ مبارک اس طرف کیا جدھر بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت تمہارا چہرہ ہوتا ہے، آنحضرت اور اس دیوار کے درمیان تین ہاتھ کے قریب فاصل تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں حضرت بلال ﷺ سے یہ معلوم کرنا بھول گیا کہ آنحضرت ﷺ نے کتنی رکعت ادا فرمائی تھیں اور جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے اس مقام پر کوئی سرخ پتھر تھا۔

۱ - حدیث ابو الیمان: أخبرنا شعیب، عن الزہری: حدیثی عروة بن الزبیر و أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن عالشة زوج النبي ﷺ أخبرتهما أن صفية بنت حبیب زوج النبي ﷺ حاضرت في حجة الوداع، فقال النبي ﷺ: ((أحابستنا هي؟)) فقلت: إنها قد ألاضت يا رسول الله و طالت بالبيت، فقال النبي ﷺ: ((فلتعذر)). [راجح: ۳۹۳]

ترجمہ: زہری عروہ بن زبیر اور سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ زوجہ رسول ﷺ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ زوجہ رسول ﷺ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو جہة الوداع کے دن حاضر ہو گئیں، تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے کیا ہمیں ظہرنا پڑے گا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ادا و تونکہ واپس آ کر طواف زیارت کر چکی ہیں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ پھر کیا فکر ہے (کیونکہ طواف وداع کی کوئی ضرورت نہیں ہے)۔

۳۳۰۲ - حدثنا یحییٰ بن سلیمان قال: أخبرولی ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد أن أباه حذله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي ﷺ بين أظهرنا ولا ندرى ما حجة الوداع، لحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فاطلب لى ذكره وقال: ((ما بعث الله من بني إلا للذر أمه، الذر نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج عليكم لما خفى عليكم من شأنه لليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاثة، إن ربكم ليس باعور، وإنه أعور عينيه كأن عينيه عنبة طالية)).  
[راجع: ۳۰۵]

۳۳۰۳ - ((ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلحت؟)) قالوا: لعم، قال: ((اللهم اشهد)، ثلاثة، ((وبالكم، أو ويحكم الظرووا لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)).  
[راجع: ۳۲۷]

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم ایک بار جہة الوداع کا ذکر کر رہے تھے اور آنحضرت ﷺ ہم میں موجود تھے مگر ہم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جہة الوداع کے کہتے ہیں؟ حضور اکرم ﷺ نے اللہ کی تعریف کے بعد صحیح دجال کا حال بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے اپنی امت کو صحیح دجال سے نہ ڈرایا ہو، یہاں تک کہ حضرت نوح صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے تغیروں نے بھی ڈرایا، وہ ضرور تم ہی میں سے نکلے گا، پس اگر اس کا کچھ حال تم پر پوشیدہ رہے تو رہے مگر یہ بات تم پر یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ تمہارا رب کا نہیں اور تمہارے پہچانے کے لئے یہ علامت کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور تمہارا رب کا نہیں ہے، اس کی وہی آنکھ کافی ہوگی اور انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی۔

لہذا اچھی طرح سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آج، اس شہر اور مہینہ میں مسلمانوں کے خون اور مال کو تم پر حرام کیا ہے اسی طرح آئندہ بھی حرام ہے، کیا میں نے اللہ کے احکامات آپ کو پہنچا دیئے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا جی ہاں! پھر آپ نے تین مرتبہ فرمایا اے اللہ! تو گواہ رہنا۔ یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ تمہاری خرابی یا تم پر افسوس کو دیکھو میرے بعد کافرنہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گرد نہیں مارنے لگو۔

## واقعہ کا پس منظر

بعض اوقات حضور اکرم ﷺ نے کوئی بات ذکر کی تھی کہ ججۃ الوداع میں یہ بات ہوگی اور ابھی ججۃ الوداع پیش نہیں آیا تھا تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمائے ہیں کہ ہم ججۃ الوداع کی باتیں کیا کرتے تھے جب کہ آپ ﷺ ہمارے درمیان تشریف فرماتے ہیں، ”ولادری ماحجۃ الوداع“، مگر ہم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ججۃ الوداع کے کہتے ہیں اور ججۃ الوداع کیا ہے؟

حالانکہ آپ ﷺ نے ججۃ الوداع کا لفظ استعمال کر کے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا تھا کہ یہ میرا آخری حج ہو گا اور اس کے بعد میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو ہماری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ججۃ الوداع کیوں کہا جا رہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔

”لِمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَاهِدٍ فَلَيْسَ بِخَفِيٍّ عَلَيْكُمْ أَغْ“ یعنی اس دجال کے حالات کی کوئی چیز تم پر پوشیدہ ہو جائے تو ہو جائے لیکن یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی مگر یہ بات تم پر یہ بات پوشیدہ نہ رہنے کے تھا را رب کا نہیں اور تمہارے پہچانے کے لئے یہ علامت کافی ہے کہ وہ کانا ہو گا۔

عبد اللہ بن عمر کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہماری سمجھ میں آیا ہے اب آپ ﷺ نے خطبه دیا کہ ججۃ الوداع کیوں کہہ رہے تھے کیوں کہ آپ ﷺ نے اس میں وہ صحیح فرمائی جو کوئی رخصت ہونے والا آدمی صحیح فرماتے ہیں۔

ابن ارقم ان النبی ﷺ غزا تسع عشرہ غزوہ، والہ حج بعد ما هاجر حجۃ واحدة لم یحج بعدہ حجۃ الوداع۔ قال ابو اسحاق: و بمکہ اخرى. [راجع: ۳۹۳۹]

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم ﷺ نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے انہیں غزوات میں شرکت فرمائی اور ہجرت کے بعد صرف ایک حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی حج نہیں کیا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ایک حج اس وقت کیا تھا جس وقت آپ ﷺ مکہ میں تھے۔

## ہجرت سے قبل حج

”قال ابو اسحاق: و بمکہ اخرى“ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ایک حج اس وقت کیا تھا جس وقت آپ ﷺ مکہ میں تھے یعنی ہجرت سے پہلے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ میں صرف ایک حج کیا تھا حالانکہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران آپ ﷺ ہر

سال حج فرماتے تھے تو اس لئے "آخری" سے مراد "حج آخری" جمع کے صغیر کے ساتھ یعنی باقی تمام حج مکمل میں قیام کے زمانے میں کئے۔

یا ان کے خیال کے مطابق صرف ایک حج کا پتہ چلا باقی کا پتہ نہیں چلا۔

۳۳۰۵ - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة بن عصرو بن جرير، هن جرير: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرِيرٍ: ((اسْعَنْصُتُ النَّاسَ))، للقال: ((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بِعِضْكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). [راجح: ۱۲۱] ترجمہ: حضرت جریر رض نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے فرمایا کہ سب لوگوں کو خاموش کر دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے فرمایا اے لوگو! میرے بعد ایسا مت کرنا کہ اسلام سے پھر جاؤ اور کافر ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی گردان کانے لگو۔

## شرح

اس روایت میں حضرت جریر رض فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے مجھ سے فرمایا کہ "اسعنت الناس" ملکوں کو خاموش کروا دو، تا کہ میں جو کہوں وہ سن سکیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم خطبہ دینا چاہتے تھے اس لئے لوگوں کو خاموش کرانے کے حکم دیا۔

پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے مسلمانوں کو نصیت فرمائی کہ "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا" میرے بعد اسلام سے پھر مت جانا، "يَضْرِبُ بِعِضْكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ" اور آپس میں اختلافات میں پڑ کر ایک دوسرے کی گردیں مت مارنے لگ جانا یعنی جنگ جدل میں مت پڑ جانا۔

بعض حضرات کے نزدیک حضرت جریر رض رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کی وفات سے چالیس روز قبل اسلام لائے تھے، ایکن اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ وفات سے بہت پہلے حضرت جریر رض حجۃ الوداع سے قبل ہی اسلام لے آئے تھے اور حجۃ الوداع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله و سلم کے ساتھ شریک تھے۔

۱. قوله: ((وَمَكَّةُ الْآخِرِي)) يعني: حجۃ الوداع مکہ قبل ان بهاجروا، وهذا يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة الا حجۃ واحدة، وليس كذلك، بل حجۃ قبل الهجرة مراتاً عديدة. عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۵۹، وفتح الباري، ج: ۸، ص: ۷۰

یہ وفہ دلیل علی وہم من زعم ان اسلام جریر کان قبل موت النبی صلی اللہ علیہ و آله و سلم بارہ میں یوماً، لأن حجۃ الوداع کات للبل مروء صلی اللہ علیہ و آله و سلم باکثر من فعالین یوماً، لأن جریر أللہ ذکر ان حجۃ مع النبی صلی اللہ علیہ و آله و سلم حجۃ الوداع. عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۵۹

٣٣٠٦ - حديث محمد بن المنى: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أبوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي ﷺ قال: ((الزمان قد استدار كهينته يوم خلق السماوات والأرض. السنة الناجشر شهر، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هدا؟)) قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسمه بغير اسمه، قال: ((أليس ذا الحجة؟)) قلنا: بلى، قال: ((فأي بلد هدا؟)) قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسمه بغير اسمه، قال: ((أليس البلدة؟)) قلنا: بلى، قال: ((فأي يوم هدا؟)) قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسمه بغير اسمه، قال: ((أليس يوم النحر؟)) قلنا: بلى، قال: ((فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد: وأحبابكم - وأعراضكم - عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وستلقون ربكم لسيصالكم عن أعمالكم، إلا فلاترجعوا بعدي ضلالاً، يضرب بعضكم رقاب بعض). إلا ليبلغ الشاهد القاتب، فلتعلل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه)). فكان محمد إذا ذكره يقول: صدق محمد الم قال: ((الا هل بلغت؟)) مرتين. ٥

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ نے بیان کیا کہ جنہیں الوداع کے دن نبی ﷺ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی مقام پر آگیا جہاں پیدائش آسان وزین کے دن تھا۔ سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں، تین تو متواتر ہیں ذی قعده، ذی الحجه، محرم اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے، جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے، آپ ﷺ تھوڑی دیر خاموش رہے، ہم کو خیال ہوا کہ آپ اس مہینہ کا نام کوئی دوسرا فرمائیں گے، آپ ﷺ نے فرمایا کیا یہ مہینہ ذی الحجه کا نہیں ہے؟ عرض کیا جی ہاں! پھر آپ ﷺ نے پوچھا یہ کونا شہر ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے، آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، ہم نے خیال کیا

٥ ولی مصحح مسلم، كتاب الایمان، باب تطہیظ لحریم الدماء والارض والاموال، رقم: ١٦٧٩، ومن ابن دالد،  
كتاب المناسك، باب اشهر الحرم، رقم: ١٩٣٧، وسن النسائي، كتاب لحریم الدم، باب لحریم القتل، رقم:  
٣١٣٠، ومن ابن ماجه، النجاش الكتاب لى الایمان وفضائل الصحابة والعلم، باب من بلغ علماء، رقم: ٢٣٣، ومن  
احمد، باب حدیث ابن بکرة للبغی بن الحارث بن للладة، رقم: ٢٠٣٩٨، ٢٠٣٦١، ٢٠٣٥٣، ٢٠٣٣٩، ٢٠٣٢٩، ٢٠٣٢٦، ٢٠٣٠٧  
وسن الدارمي، كتاب المناسك، باب لى الخطبة يوم النحر، رقم: ١٩٥٧

کہ آپ اس شہر کا نام کوئی دوسرا فرمائیں گے، آپ نے فرمایا کیا اس کا نام مکہ نہیں ہے؟ عرض کیا جی ہاں اپھر آپ نے پوچھا کہ آج دن کیا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے، آپ تھوڑی دری خاموش رہے، ہم کو خیال ہوا کہ شاید آپ کوئی دوسرا فرمائیں گے، آپ نے فرمایا کیا یوم النحر نہیں ہے؟ عرض کیا جی ہاں، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خوب سن لو! تمہاری جانیں، تمہارے مال، راوی محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ابو بکرہ نے یہ بھی کہا تھا، کہ تمہاری آبرو میں اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ مہینہ، شہر اور دن حرام ہیں، تم کو ایک روز اپنے رب کے پاس جانا ہے وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھنے گا، لہذا یہ مت کرنا کہ میرے بعد گمراہ ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی گرد نہیں گائے لگو۔ اور سنوتم میں سے جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ پہنچانے والے سے وہ شخص زیادہ پادرختا ہے جس کو پہنچائی جائے۔

محمد اس حدیث کو بیان کرتے وقت کہتے تھے کہ رسول اللہ نے مج فرمایا۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا، یہ دو مرتبہ فرمایا۔

۷۰۳۔ حدتنا محمد بن یوسف: حدتنا سفیان الثوری، عن قیس بن مسلم، عن طارق بن شہاب: أَنَّ أَنَّا مِنَ الْيَهُودَ قَالُوا: لَوْ نَزَّلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فِيمَا لَأَنْخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، فَقَالَ عُمَرُ: أَيْةٌ؟ فَقَالُوا: ﴿الَّيْلَمَّا أَكْمَلْتَ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتَ عَلَيْكُمْ بُعْدَتْنِي وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَنَا﴾ فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَا عُلِمْتُ أَيْ مَكَانًا نَزَّلَتْ، أَنْزَلْتَ وَرَسُولُ اللَّهِ وَالْفَ بَعْرَفَةَ. [راجع: ۳۵، ۶۷]

ترجمہ: حضرت طارق بن شہاب نے بیان کیا کہ کچھ یہودیوں نے اس طرح کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنالیتے، حضرت عمر نے دریافت کیا کہ کون سی آیت؟ یہودی نے کہا ﴿الَّيْلَمَّا أَكْمَلْتَ لَكُمُ الْخَ﴾ حضرت عمر نے جواب دیا مجھے معلوم ہے جہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ عزد کے دن نازل ہوئی تھی، جب کہ آنحضرت عرفات میں تشریف فرماتے۔

۷۳۰۸۔ حدتنا عبد اللہ بن مسلمة، عن مالک، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوبل، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ لمنا من أهل بعمره، ومنا من أهل بحجة، فما من أهل بحج وعمره، وأهل رسول الله ﷺ بالحج. فاما من أهل بالحج، او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر. حدتنا عبد اللہ بن یوسف: اخبرنا مالک و قال: مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع. حدنا اسماعیل: حدنا مالک مثله. [راجع: ۲۹۳]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حجۃ الوداع کے لئے نکلے تو کچھ لوگوں نے عمرے کی نیت کی تھی، کچھ نے حج کی اور کچھ نے دونوں کی اور رسول اللہ ﷺ نے حج کی نیت فرمائی تھی۔ تو جس نے صرف حج کی یا حج و عمرہ دونوں کی نیت کی تھی، تو وہ احرام باندھے رہے جب تک کہ یوم الغرہ نہیں آگی۔

عبداللہ بن یوسف کہتے ہیں کہ امام مالک اس روایت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم حجۃ الوداع میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے۔ اساعلیٰ بن اویس کا بیان ہے کہ امام مالک نے مجھ سے بھی ایسی ہی حدیث بیان کی جو اور پرگزرنی تھے۔

۲۲۰۹ - حدیثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ أَبُنْ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ شَهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ لِي حِجَّةَ الْوَدَاعِ مِنْ وَجْهِ أَشْفَقِي مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، قَلَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجْهِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يُوْلَنِي إِلَّا ابْنَةٌ لَّى وَاحِدَةٌ، فَأَتَصْدِقُ بِثَلَاثِي مَالِي؟ قَالَ: ((لَا)) قَلَّتْ: أَفَأَنْصَدِقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: ((لَا)) قَلَّتْ: فَالثَّلَاثُ وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدْرِرُ وَرَتْكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَدْرِرَ هُنَّ عَالَةٌ بِتَكَفُّفِ النَّاسِ، وَلَسْتَ تَنْفَقُ لِنَفْقَةِ تَبَعْدِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرَتْ بِهَا حَتَّى الْلَّقْمَةِ تَجْعَلُهَا لَيْ فِي أَمْرِكَ)). قَلَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْلَفَ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: ((إِنَّكَ لَنْ تَخْلُفَ فَتَعْمَلْ عَمَلاً تَسْتَهِنُ بِهِ وَحْدَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدَتْ بِهِ دَرْجَةٌ وَرَفْعَةٌ وَلَعْلَكَ تَخْلُفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضْرِبُكَ آخْرُونَ، اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي هَجْرَتْهُمْ وَلَا تَرْدِهِمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكُنَّ الْبَائِسَ سَعْدَ بْنَ خُوَلَةَ)) رَدَّلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَوْلِي بِمَكَةَ.

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقارؑ نے فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر مرض میں بیٹا ہو کر موت کے قریب پہنچ گیا، رسول اللہ ﷺ میری عیادت کو تشریف لائے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا سخت بیمار ہو گیا ہوں اور میں بہت مال رکھتا ہوں، اور ایک بینی کے سوا، کوئی میرا اوراثت نہیں ہے، تو کیا میں اپنادو تھائی مال صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، میں نے عرض کیا کہ اچھا آدھا کر سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے منع فرمادیا، میں نے عرض کیا اچھا کیا ایک تھائی حصہ؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ہاں دے سکتے ہو، مگر اپنے دارثوں کو محتاج چیزوں نے سے مالدار چھوڑنا اچھا ہے، نہیں تو وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، حقیقت یہ ہے کہ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گے، اس کا ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لفڑ کا بھی جو تم اپنی بیوی کو کھلا دے گے۔ پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پھر جاؤں گا (یعنی وہ آپ ﷺ کے ساتھ مدینہ پلے جائیں گے)؟ آپ ﷺ نے فرمایا، راگر وہ بھی گئے تو اللہ کی مرضی پر چلو گے۔ تو

مرتبہ بڑھے گا، اور کوئی تعجب نہیں کہ تم زیادہ دن زندہ رہو، اور تمہاری وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور کافروں کو نقصان پہنچے۔ اے اللہ! میرے اصحاب کی ہجرت کو پورا کر دے اور ان کو یچھے مت پھیرنا، یچارہ سعد بن خولہ رض جو مکہ میں انتقال کر گئے، جس کا آنحضرت ﷺ کو بہت صدمہ ہوا۔

## حضرت سعد رض کی بیماری اور آنحضرت ﷺ کی دعاء

”لقلت: بیار رسول الله، اخالف بعد اصحابی؟“ حضرت سعد بن ابی و قاص رض فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا میں اپنے اصحاب کے یچھے رہ جاؤں گا؟ اس جملے کے دو معنی ہیں:

ایک معنی یہ ہے کہ میرے اصحاب مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جامیں گے اور میں یچھے رہ جاؤں گا۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دوسرے اصحاب سے ہجرت میں یچھے رہ جاؤں کہ میں یہاں جنتۃ اللوداع کے موقع پر آیا ہوں میں پر میر انتقال ہو جائے اور اس کی وجہ سے مجھے ہجرت کا ثواب ملنا چاہئے وہ نہ ملے۔

لیکن پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے کہ میرے اصحاب پہلے مر جائیں اور میں زندہ رہوں۔

”قال: انک لئن تخلف فتعمل عملاتبني به وجه الله“ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو تم یچھے نہیں رہو گے جب کہ تم ایسا عمل کرو جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، ”إلا ازدلت به درجة ورفة“ تو اس یچھے رہنے کے نتیجے میں تمہارے درجات بلند ہوں گے اور بلندی میں اضافہ ہو گا۔

یعنی جو لوگ پہلے اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں ان پر رشک کرنا کہ وہ پہلے چلے گئے اور ہمیں ابھی تک نصیب نہ ہوا، یہ بات درست نہیں اس واسطے کہ زندگی کا جو لمحہ بھی مل رہا ہے اگر آدمی اس میں اللہ کی رضا کا کام کرے تو اس سے آدمی اپنے درجات میں اضافہ کر سکتا ہے۔

ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ”ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون“ شاید تم یچھے رہ جاؤ گے یعنی دیر میں تمہارا انتقال ہو گا، اسکے نتیجے میں پھلوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور کچھ کو نقصان پہنچے گا۔

قوموں کو فائدہ پہنچے گا یعنی مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا چنانچہ مشہور جگ قادیرہ کے پہ سالا را اور ایران کے فاتح حضرت سعد بن ابی و قاص رض ہی ہیں تو ایران پورا فتح کیا، مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا۔

دوسروں کو نقصان پہنچے گا یعنی اہل فارس و آتش پرستوں کو نقصان پہنچایا۔

پھر آپ ﷺ نے یہ بھی دعا فرمائی "اللّٰهُمَّ امض لاصحابِي هجرتَهُمْ وَلَا تُرْدِهُمْ عَلٰى اعْقَابِهِمْ" کہا۔ اللہ امیرے اصحاب کی ہجرت کو نافذ فرمایا، جاری فرمایا اور ان کو واپس مت لے جا۔ اس میں حضرت سعد بن ابی و قاص اور ووسرے صحابہ کرام ﷺ کو جو فکر تھا کہ دیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا شوق ہے لیکن اگر یہاں مکہ مکرمہ میں مر جائیں گے تو پہلے مدینہ نورہ کی طرف جو ہجرت کر چکے ہیں ہمارا وہ ثواب ضائع نہ ہو جائے، تو اس کے لئے دعا فرمائی۔

"لَكُنِ الْبَالِسَ سَعْدَ بْنَ خُولَةَ" آپ ﷺ نے فرمایا کہ لَكُنِيجارہ سعد بن خولہ جو مکہ میں انتقال کر گیا۔ حضرت سعد بن خولہ ﷺ مہاجر صاحبہ کرام میں سے تھے، غزوہ بدرا میں شریک تھے، حضور اقدس ﷺ کے ساتھ جہۃ الوداع کے موقع پر آئے تھے اور یہیں مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ بات جس سے صحابہ کرام ﷺ ڈر اکرتے تھے کہ "دارالہجۃ" سے واپس ہم اپنے پرانے وطن کی طرف جائیں اور وہیں پر ہمارا انتقال ہو جائے تو کہیں ہماری ہجرت کا ثواب ضائع نہ ہو جائے، وہ اندیشہ حضرت سعد بن خولہ ﷺ کو پیش آیا کہ یہیں پر ان کا انتقال ہوا۔

اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ بے چارہ ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کہ ان کا انتقال "دارالہجۃ" میں ہو تو آپ ﷺ نے ان کی اس بات پر غم کا اظہار کیا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہی وفات پا گے۔<sup>۱۰</sup>

۳۲۱۰ - حدثنا ابراهیم بن المنذر: حدثنا أبو حمزة: حدثنا موسی بن عقبة، عن صالح: أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أن النبي ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع.

[راجع: ۱۷۲۶]

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں تمام ارکان ادا کرنے کے بعد اپنا سر منڈ وادیا تھا۔

۳۲۱۱ - حدثنا عبد الله بن سعید: حدثنا محمد بن بکر: حدثنا ابن جریح: أخبرني موسى بن عقبة، عن صالح: أخبره ابن عمر أن النبي ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. [راجع: ۱۷۲۶]

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ اور بعض صحابہ نے بال منڈ وائے اور کسی نے صرف کتر وائے تھے۔

<sup>۱۰</sup> قوله: ((البس)). هر شدید الحاجة وهي كلمة ترحم وكان سعد مهاجرًا بدرهاً مات بمكة في حجة الوداع، وكان بهكره ان يموت بمكة ويتمتى ان يموت بغيرها، فلم يعط ما يتنمى فترجم عليه رسول الله . عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۴۲

٣٢١٢ - حدثنا يحيى بن فزعة: حدثنا مالك، عن ابن شهاب. وقال النبي: حدثني يonus، عن ابن شهاب: حدثني عبد الله بن عبد الله: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار رسول الله ﷺ قائم بمعنى في حجة الوداع يصلّي بالناس، فسار الحمار بين يدي بعض الصف لم نزل عنه لصف مع الناس.

[راجع: ۱۷۲۶]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے بیان کہ میں ایک گدھے پر بیٹھا ہوا آرہا تھا اور اس وقت رسول اللہ ﷺ حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں کھڑے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، ابھی تھوڑی سی صفات کے سامنے سے میرا گدھا گز راتھا کر میں نیچے اتر کر ٹھیک کھڑا ہو گیا۔

٣٢١٣ - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن هشام قال: حدثني أبي قال: سئل أسامي وأنا شاهد عن سير النبي ﷺ في حجته فقال: العنق، فإذا وجد لجوة لص. [راجع: ۱۶۶۶]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے کہا کہ میں سن رہا تھا کہ کسی نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ سے پوچھا کہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم ﷺ اپنی سواری کس طرح چلاتے تھے، انہوں نے کہا، درمیانی چال سے اگر جگہ کشادہ ہوتی تو تیز بھی چلاتے تھے۔

## حج کے موقع پر آپ ﷺ کے چلنے کی کیفیت

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ سے سوال کیا گیا حجۃ الوداع میں آپ ﷺ کے چلنے کا کیا طریقہ تھا یعنی رفتار کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ کی درمیانی رفتار تھی۔  
”عنق“ متوسط درجے کی رفتار کو کہتے ہیں، گھوڑے یا اونٹ پر آدمی متوسط رفتار سے چلتے تو ”عنق“ کہتے ہیں۔

”لذا وجده لص“ جب راستے میں محلی جگہ آتی، کوئی خلا آتا تو آپ ﷺ کی رفتار تیز ہو جاتی۔

”لص“ کے معنی ہیں دھل کی چال یعنی تیز چلتے تھے۔

قوله: ((العنق)), بلع العین المهملة والنون وبالكاف: وهو ضرب من السبر متوسط، واللنجوة: المفرجة والمتسعة.

قوله: ((لص)), بلع النون وتشديد الصاد المهملة اي: سار سرًا شديدةً. عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۶۲

٣٣١٣ - حديث عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخطمي: أن أباً أويوب أخبره أنه صلى مع النبي ﷺ في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعاً. [راجع: ۱۶۷]

ترجمة: حضرت ابو ایوب <ص> نے بیان کیا کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت ﷺ کی اقدام میں نماز مغرب وعشاء ایک ساتھ ادا کی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# بَابُ غَزْوَةِ تِبُوْكٍ

## (۷۹) باب غزوة تبوك، وهي غزوة العسرا جنگ تبوك کا پیان، جسے غزوة عسرا (مشقت کا غزوہ) بھی کہتے ہیں

### غزوہ تبوك کا پس منظر

یہ باب غزوہ تبوك کے بارے میں ہے، اس کو غزوہ عسرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں مسلمانوں کو مالی تنگی درپیش تھی، اسی طرح سفر بھی مشقت کا تھا اور رخت گری کا زمانہ تھا۔

غزوہ تبوك کا پس منظر یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد چاروں اطراف عرب سے لوگ مسلمان ہونے لگے تو آس پاس کی جو نصرانی آبادیاں تھیں ان کے کان کھڑے ہوئے کہ معاملہ تو آگے بڑھ رہا ہے اور اس زمانے کی روم کی سلطنت جو پر پا اور کہی جاتی تھی، اس کے بادشاہ یعنی قیصر کے دامغ میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم تو ان کو بڑا کمزور سمجھتے تھے اور اب تو انہوں نے اتنی جلدی سارے جزیرہ عرب پر قابو پالیا ہے تو اب یہ کچھ بعید نہیں کہ ہماری طرف بھی پیش قدی کریں۔

لہذا قیصر روم ہرقل نے اس غرض سے ایک لشکر جرار جمع کیا کہ حضور ﷺ کے اوپر حملہ کیا جائے، شام سے بعض سوداگر زمتوں وغیرہ فروخت کرنے کیلئے یا کٹھرے وغیرہ فروخت کرنے کیلئے مدینہ منورہ آیا کرتے تھے تو اس وقت بھی کچھ سوداگر مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے حضور ﷺ کو بتایا کہ ہرقل نے آپ سے جنگ کی غرض سے اتنا بڑا لشکر جمع کیا ہے جو کہ چالیس ہزار افراد پر مشتمل اور اس نے اپنے سارے فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور اس کے علاوہ ان کو سال بھر کا نفقہ اکھٹا دے دیا اور پیش قدی کر کے بلقاء کے مقام تک پہنچ گیا ہے۔

آپ ﷺ کو جب یہ خبر کوٹلی تو آپ نے تمام صحابة کرام ﷺ کو جو دہاں موجود تھے، ان کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ روائی کی تیاری کرو قبل اس کے وہ آئیں، ہمیں آگے بڑھ کے حملہ کرنا ہے اس لئے سوار یاں جمع کرو۔ یہ معمولی بات نہیں تھی کہ اتنی بڑی سلطنت جو اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت بھی جاتی تھی اس کے اوپر حملہ کا از خود اقدام کرنا لیکن نبی کریم ﷺ نے حملہ کا ارادہ فرمایا۔

### سخت ترین حالات

ایک طرف سفر اتنی لمبی مسافت، مشقت کا سفر اور سوار یاں بھی کم ہیں۔

دوسری طرف شدید گرمی کا یہ مہینہ جس میں بھجوروں کے ہیں سنبلہ کھلاتا ہے، کیونکہ سورج اس وقت برج سنبلہ میں داخل ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں میں مشہور ہے سنبلہ سم و بلا سم یعنی زہر اور مصیبت۔

جن لوگوں نے کبھی یہ موسم دیکھا ہے ان کو اس کی سختی اور شدت کا اندازہ ہے، صبح صادق کے جس وقت یعنی تہجد یا فجر کے وقت بھی اتنی شدید لوچلتی ہے کہ گرم ہوا کے تھپڑوں سے جسم جل رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے اور زمین شعلے اگل رہی ہے۔ یہ تو فجر کے وقت کا حال جس وقت سورج بھی طلوع نہیں ہوتا تو باقی دن میں کیا حال ہوتا ہوگا، اس سے اندازہ کر لجئے۔

مذینہ منورہ سے آٹھ سو کلو میٹر دور تبوک واقع ہے، سفر بھی صحراء میں اور اس شدید گرمی کے موسم میں، چیل صحراء، کوئی بستی نہیں، کوئی شیلہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی جھاڑی نہیں، کوئی کنوں نہیں، کوئی پانی نہیں۔

اس صحراء کو "صحراء النفوذ الكبير" کہتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نفوذ یہ نقاد سے نکلا ہے یعنی ہلاکت کا صحراء تو یہ وہ صحراء ہے جہاں سائے کا دور دور تک نام و نشان نہیں اور دوسرے صحراء جہاں پر کہیں نہیں ہوتے ہیں کہیں کوئی درخت، جھاڑی وغیرہ ہوتی ہے، اس کا سایہ مل جاتا ہے مگر اس میں دور دور تک سایہ نہیں ہے۔

تمیرا یہ کہ بھجوروں کے پکنے کا موسم کہ جس پر اہل مدینہ کے پورے سال کی معیشت کا دار و مدار ہے، کیونکہ اس وقت میں بھجوروں کو درختوں سے اتارتے تھے اور وہی سارے سال میں ایسا موسم ہوتا تھا کہ لوگ باغوں میں جا کر مقیم ہوتے، خود بھی کھاتے تھے، اپنے گھروالوں کو بھی کھلاتے تھے، ان کی تجارت بھی ہوتی تھی، ان کو سکھاتے بھی تھے تاکہ پورا سال ان سے گزارا بھی ہو جائے اور اگر اس موسم میں بھجوروں کی درختوں پر میں رہ جائیں تو خراب ہو جاتیں، رطب یعنی تازہ بھجور کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے۔

## نبی کریم ﷺ کا حوصلہ اور صحابہ کرام ﷺ کی قربانیاں

سارے سال کی معیشت کا دار و مدار بھجوروں پر اور ان کے پکنے کا موسم، پھر سفر اتنا لبا کہ آٹھ سو کلو میٹر کا سفر جو پیدل طے کرنا تو ممکن نہیں اس کیلئے سواریاں چاہیئیں اور سواریوں کی قلت، وقت کی عظیم سلطنت کے ساتھ نکل دینا، یہ سارے مسائل تھے لیکن نبی کریم ﷺ کا حوصلہ اتنا عالی تھا کہ آپ نے اس وقت یہ فیصلہ فرمایا کہ جاتا ہے اور جانشیر ساتھیوں نے بھی باری میں ہاں ملائی اور نکل کھڑے ہوئے۔

کیا کیا قربانیاں دے کر اس غزوہ میں شرکت فرمائی تھی وہ صحابہ کرام ﷺ ہی جانتے ہیں، ہم آپ اس زمانہ میں اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جن صحابہ کرام ﷺ نے اس جیش میں شرکت کی ہے وہ خود یہ فرماتے ہیں جیسا

کہ آگے روایت آرہی ہے حضرت یعلیٰ بن امیہ رض فرماتے ہیں کہ "اوْلَقَ اعْمَالِيْ عَنْدِي" "میں اپنے تمام معلوم میں سے اس عمل پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں، یہ ایسے ہی نہیں فرمائے ہیں۔

غرض یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام اس عکلی اور سختی کے عالم میں روانہ ہوئے، راستے میں بکثرت معجزات پیش آئے وہاں پہنچ کر بھی عجیب و غریب معجزات پیش آئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام تبوک پہنچ اور وہاں جا کر قیام فرمایا اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہاں تو خبر یہ تھی کہ ہر قل شکر جرار لے کر بلقاء تک پہنچ گیا ہے لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام جا کر تبوک میں مقیم ہوئے تو معلوم ہوا کہ سب میدان صاف ہے وہ لوگ بھاگ گئے ہیں، جنگ کی نوبت ای نہیں آئی۔

لیکن اس محنت کا شریر ظاہر ہوا اور اس محنت کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھایا کہب تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے قیام فرمایا تو آس پاس کی بستیوں کے لوگ آئے مسلمان ہوئے۔ بعض نے خراج دینا منظور کیا یہاں تک کہ شام کے اعلاء اور ازرق اور جرباء کے لوگ آئے اور آکر انہوں نے خراج دینا منظور کیا، وادی القری کے لوگ آئے اور بہت سے مسلمان ہوئے۔

تبوک کے مقام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رض کی سرکردگی میں ایک شکر کو دو مہة الجندل کی جانب روانہ فرمایا روانہ کیا اور جہاں انہوں نے وہاں کے نصرانی بادشاہ اکیدر بن عبد الملک کو گرفتار کیا وغیرہ وغیرہ تو بہت سی فتوحات کا دروازہ وہاں سے کھلا۔

دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دشمن پر رعب طاری کر دیا کہ یہ اتنے جری ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے جملہ کا انتظار کیا بلکہ الٹا ہمارے اوپر چڑھائے تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ان کی دھاک بیٹھادی۔  
یہ غزوہ تبوک کا مختصر ساختہ ہے۔

**۳۲۱۵** - حدیثی محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسماء، عن برید بن عبد الله بن أبي برد، عن أبي برد، عن أبي موسى رض قال: أرسلي أصحابي إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام الحملان لهم إذ هم معه في جوش العمرة وهي غزوة تبوک. فقلت: يا نبی الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال: ((والله لا أحملكم على شيء)). ورواقته وهو غضبان ولا أشعر ورجعت حزينا من منع النبي صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام ومن مخالفة أن يكون النبي صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام وجد في

۱- تاریخ القديم، ج: ۱، ص: ۲۳

۲- عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۱۸، ۲۵، ۲۶، ۲۷، راجع المأری، ج: ۸، ص: ۱۱۱، وكتاب المغازی للواقدي، ج: ۳،

ص: ۱۰۲۵-۹۸۹، وسفرة ابن هشام، ج: ۲، ص: ۵۱۵-۵۲۶، وطبقات ابن سعد، ج: ۲، ص: ۱۲۵، ص: ۱۲۳، ۱۲۵

نفسه علی فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي ﷺ فلم ألب إلا سويعة إذ سمعت بلا بلا ينادي: أى عبد الله بن قيس، فاجبته، فقال: أجب رسول الله ﷺ يدعوك، فلما أتيته قال: ((خذ هدين القربيين وهدين القربيين لستة أبعة ابنا عهن حينئذ من سعد - فالطلاق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله - أو قال: إن رسول الله ﷺ - بحملكم على هؤلاء فاركبون)). فانطلقوا بهن فقلت: إن النبي ﷺ يحملكم على هؤلاء ولكنني والله لا أدعكم حتى ينطلق معى بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله ﷺ، لا تظنوا إلى حدلكم شيئا لم يقله رسول الله ﷺ. فقالوا لي: إنك عندنا لمصدق ولنفعل ما أحبت، فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الدين سمعوا قول رسول الله ﷺ منعه إياهم إعطاء هم بعد لحدلهم بمثل ما حدلهم به أبو موسى. [راجع: ۳۱۳۳]

ترجمہ: ابو بردۃ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ نے بیان کیا کہ میرے ساتھیوں نے بیش العرة یعنی جگ جوک کے موقع پر مجھے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں ان سے سواری طلب کروں، میں نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے میرے ساتھیوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تاکہ میں آپ سے سواری طلب کروں، آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کی قسم! میں تمہیں کوئی سواری نہ دوں گا۔ آپ ﷺ اس وقت غصہ میں تھے اور میں اس حالت کو سمجھا نہیں، میں افسوس کرتا ہوا اپس آیا، مجھے ایک غم تو یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ نے میں سواری نہیں دی، دوسرایہ رنج تھا کہ کہیں نبی ﷺ مجھ سے خفانہ ہو جائیں، میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور جو کچھ نبی ﷺ نے کہا تھا اس کی انہیں اطلاع دی، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ حضرت بلاں ﷺ پکارتے ہوئے آئے کہ عبد اللہ بن قیس کہاں ہیں؟ میں نے جواب دیا تو وہ کہنے لگے چلو آنحضرت ﷺ تم کو بلا تے ہیں۔ میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ اونٹ کے دوجوڑے اور یہ دوجوڑے (غالباً آنحضرت ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا، راوی نے اختصاراً دو مرتبہ کہا) لے جاؤ، اس طرح آنحضرت ﷺ نے چھ اونٹ عنایت فرمائے، ان اونٹوں کو آنحضرت ﷺ نے اسی وقت سعد خریدا تھا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ یہ اونٹ اللہ تعالیٰ نے یا یہ فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے تم کو سواری کے واسطے دیئے ہیں، انہیں کام میں لاو، میں اونٹ لے کر ساتھیوں کے پاس لے چلوں گا جنہوں نے پہلی بار نبی ﷺ کا منع فرمانا تھا، کیونکہ شاید تم مجھے جھوننا خیال کرو اور یہ بھوکہ آنحضرت ﷺ نے ایسا نہیں فرمایا۔ ساتھیوں نے کہا نہیں، ہم تم کو سچا جانتے ہیں، پھر بھی اگر تم کہتے ہو تو ہم چلیں گے، آخر ایک آدمی میرے ساتھ وہاں آیا، جہاں انکار کو سننے والے موجود تھے، انہوں نے میری تقدیق کرتے ہوئے کہا کہ واقعی رسول اللہ ﷺ نے پہلے منع فرمایا

قا، تو ان لوگوں نے اسی طرح بیان کیا جس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ نے اپنے ساتھیوں کو بیان کیا تھا۔

## ابو موسیٰ اشعریؑ کا سواریوں کا مطالبہ

یہ حدیث پہلے بھی اشعرین کے بارے میں گزری ہے، لیکن یہاں مفصل انداز میں بیان ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ فرماتے ہیں کہ ”اَرْسَلْنِي اَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ إِنَّكَ أَخْ“ مجھے یہ رے ساتھیوں نے رسول اللہؐ کے پاس بھجا کر میں ان کے لئے آپؐ سے سواریاں مانگوں، اس واسطے کوہ حضورؐ کے ساتھ جمیش العرائی میں جانا چاہتے ہیں جس کا نام غزوۃ تبوك ہے۔

”بَا نَبِيَ اللَّهُ، إِنَّكَ أَخْ“ میں نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے یہ رے ساتھیوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تاکہ آپ ان کو سواری عطا فرمائیں، ”فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَحْمَلُكُمْ عَلَى هَذِيْ“ آپؐ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں کسی چیز کی سواری نہیں دوں گا۔

”وَوَالْقَتْهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ وَرَجَعْتُ حَزِينًا إِنَّكَ أَخْ“ اور میں نے سوال ایسے وقت میں کیا تھا کہ جب آپؐ حالتِ غضب میں تھے اور مجھے پڑھنے نہیں تھا اور اس وقت مجھے ایک تو مجھے حضورؐ کے منع کر دینے کا غم تھا اور دوسرا یہ خوف تھا کہ آنحضرتؐ اپنے دل میں مجھ سے ناراض نہ ہوں، تو میں ساتھیوں کی طرف واپس گیا اور بتایا کہ جو کچھ نبیؑ نے کہا تھا اس کی انہیں اطلاع دی۔

اللہ ہی جانتا ہے کہ اس وقت کیا داعیہ پیش آیا تھا کیونکہ آدمی بے شمار تھے، جانا بھی تھا اور سواریوں کی ضرورت بھی تھی اور ہر ایک آدمی کے سواری مانگ رہا تھا اور انہوں نے اصرار بھی کیا، ایک کے بعد دوسرا مرتب اصرار بھی کیا، حضور اکرمؐ نے شاید اس وجہ سے غصہ کا اظہار فرمایا کہ قسم کھالی۔

”لَمْ أَلِمْ إِلَّا سُوِيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يَنْادِي إِنَّكَ أَخْ“ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے حضرت بلالؓ سئی کہ وہ آواز لگا رہے تھے کہ عبد اللہ بن قس کہاں ہے؟ عبد اللہ بن قس حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ کا نام ہے۔ میں نے جواب دیا تو وہ کہنے لگے جلو آپؐ حضورؐ کی دعوت قبول کریں آپ کو بیار ہے ہیں۔ جب میں آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا ”خُذْ هَذِينَ الْقَرِينِينَ وَهَذِينَ الْقَرِينِينَ إِنَّكَ أَخْ“ تو آپؐ نے فرمایا یہ جوڑی لے لو اور یہ جوڑی لے لو، چھ اونٹوں کے بارے میں آپؐ نے فرمایا جو حضرت سعد بن عبادہؓ سے اسی وقت خریدے تھے، ”لَا تُطْلِقْ بَهْنَ إِلَى اَصْحَابِكَ فَلَمْ: إِنَّ اللَّهَ أَخْ“ پھر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ یہ اونٹ اللہ تعالیٰ نے یا یہ فرمایا کہ رسول اللہؐ نے تم کو سواری کے واسطے دیئے ہیں، تو تم ان پر سواری کرو۔

”فَانطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنْ لَقْلَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ يَعْمَلُكُمُ الْغَخَ“ توہین ان کے پاس لے گیا، لیکن دل میں یہ خیال ہوا کہ اسی چند لمحات پہلے توہین نے ان سے آکر یہ کہا تھا کہ حضور ﷺ نے منع کر دیا ہے اور اب لے کر آ رہا ہوں تو کہیں ان کے دل میں خیال نہ ہو کہ پہلے میں نے جھوٹ بولا تھا تو کہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ تم میں سے کوئی آدمی میرے ساتھ ہائے شخص کے پاس جائے جس نے رسول اللہ ﷺ کی چیلی بات سنی ہو کہ پہلے آپ ﷺ نے منع کر دیا تھا، ”لَا تَظْنُنَا أَنِّي حَدَّلْتُكُمْ شَيْئًا الْغَخَ“ تاکہ تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم کو کوئی ایسی بات کہہ دی تھی جو حضور ﷺ نے پہلے نہ کہی ہو۔

”إِنَّكُمْ عَنِ الدِّلَالِ مَصْدِقٌ وَلَنْفَعْلُنَّ الْغَخَ“ حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تمہاری تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ مجھوٹ بولو گے لیکن جیسا کہ تمہاری خواہش ہے تو جیسا تم کہو گے تو وہ کریں گے اور ایک آدمی کو ٹھیج دیتے ہیں۔

”حَتَّىٰ أَتَوَا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ مَنْعِهِ“ یہاں تک کہ میں اس آدمی کو ایسے شخص کے پاس لے گئے جنہوں نے رسول کریم ﷺ کا قول سناتھا جب حضور ﷺ نے ان کو منع فرمایا تھا، اونٹ دینے سے پہلے اور بعد میں اونٹ جودے و دو اقدحی انہوں نے دیکھ لیا تھا، ”لَحِدَّلُوهُمْ بِمُثْلِ مَا حَدَّلُهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَىٰ“ انہوں نے اسی طرح بیان کیا جس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ نے اپنے ساتھیوں کو بیان کیا تھا۔ اس روایت میں بعض حضرات نے تطبیق بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ کو چھوڑ کے پائچ تھے اور ان کے اونٹ سمیت چھتھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی تطبیق کی حاجت نہیں ہے۔

راویوں کے ہاں یہ دستور ہوتا ہے کہ وہ حدیث کے مرکزی مفہوم کو پوری طرح محفوظ رکھتے ہیں، بعض اوقات جزوی معاملات میں ان کے درمیان اختلاف سو جاتا ہے کسی کو پائچ یا درہا کسی کو چھ یا درہا۔ جس اس سے حدیث کی اصل صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لئے اشکال نہیں۔

۲۳۱۶- حدثنا مسدد: حدثنا بحبي، عن شعبة، عن الحكم، عن مصعب بن سعد، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلّفني في الصبيان والنساء؟ قال: ((ألا ترضى أن تكون مني سمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليسنبي بعدي)) وقال أبو داود: حدثنا شعبة، عن الحكم: سمعت مصعباً. [راجع: ۳۷۰۶]

وَتَقْدِمُ لِي قَدْرُهُمُ الْأَشْعُرِيُّ أَنَّهُ أَمْرَلَهُمْ بِحَمْسَ دُودَ وَقَالَ هَذَا سَنَةُ الْأَبْرَةِ، فَلَمَّا تَعَدَّتْ الْفَصَّةُ أَوْ زَادَهُمْ عَلَىْ لَحْمَسَ وَاحِدًا وَأَمَّا فَرْلَهُ ((هَاتِ الْفَرْسَتَنِ وَهَالِئِنِ الْفَرْسَتَنِ)) فَيُحَمَّلُ أَنْ يَكُونَ اعْتِصَارًا مِنَ الرَّاوِي فِي الْبَارِي،

ترجمہ: مصعب بن سعد اپنے حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب تبوک کے لئے روانہ ہونے لگے تو آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ حضرت علیؓ نے عرض کیا کیا آپؓ مجھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا علیؓ تم کو خوش ہونا چاہئے کہ میرے نزدیک تھہار امر تھے یہ ہے، جیسے حضرت موسیٰ الطہریؑ کے نزدیک ہارون الطہریؑ کا، مگر یہ کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔

ابوداؤ دنے اسے اس طرح روایت کیا کہ شعبہ نے حکم سے اور حکم نے مصعب سے نا۔

## روافض کا غلط استدلال اور اس کا جواب

اس حدیث سے شیعہ اور رافض حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل پر استدلال رتے ہیں کہ حضور پُر نور ﷺ کے بعد خلافت حضرت علیؓ کا حق ہے۔

اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا سفر جاتے وقت حضرت علیؓ کو اپنے اہل و عیال کی نگرانی کے لئے چھوڑ جانا کہ میری والپسی تک ان کی نگرانی اور خبرگیری کرنا، اس سے حضرت علیؓ کی قرابت، امانت و دیانت تو بلاشبہ معلوم ہوتا ہے۔

اس لئے اپنے اہل خانہ کی نگرانی و خبرگیری اسی فرد کے سپرد کرتے ہیں جس کی امانت و دیانت اور قرابت داری پر کامل اطمینان ہو، اس کے لئے فرزند اور داد کو اس کام کے لئے مقرر کر کے اس کے بھی سپرد کرتے ہیں لیکن یہ امر کہ میری وفات کے بعد تم ہی میرے خلیفہ اور قائم مقام ہو گے، اس حدیث کا ان امور سے کوئی تعلق وجود نہیں ہے۔

پھر یہ کہ حضرت علیؓ کی یہ قائم مقامی اور نیابت فقط اہل و عیال تک محدود تھی اس لئے آنحضرت ﷺ نے اسی غزوہ تبوک میں روانگی کے وقت حضرت محمد بن سلمہؓ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا کہ مسجد نبوی کی امامت حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ کے حوالے فرمائی۔

اس سے معلوم ہوا حضرت علیؓ کی خلافت و نیابت مطلقاً نہ تھی بلکہ اہل و عیال تک محدود تھی اور بالفرض مطلقاً بھی ہوتی تو صرف اس وقت تک محدود ہوتی جب تک نبی کریم ﷺ مدینہ والپس تشریف نہ لے آتے۔

رہائی معاملہ کہ آپ ﷺ نے اس حدیث میں حضرت علیؓ کو حضرت ہارون الطہریؑ سے تشبیہ دی ہے اور اس سے تو صراحتاً حضرت ہارون الطہریؑ کی عدم خلافت کی تائید ہوتی ہے نہ کہ خلافت بلا فصل۔ کیونکہ حضرت ہارون الطہریؑ حضرت موسیٰ الطہریؑ کے بعد خلیفہ اور جانشین نہیں تھے بلکہ حضرت موسیٰ الطہریؑ کی وفات سے پہلے ہی

دفات پا گئے تھے۔

نیز آپ ﷺ نے اس حدیث میں اگر حضرت علیؓ کو حضرت ہارونؑ سے تشبیہ دی ہے تو اس اراء بدر کے بارے میں آپ ﷺ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو اسوقت حضرت ابو بکر صدیقؓ کو حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے ساتھ تشبیہ دی اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم و عیسیٰ علیہما السلام حضرت ہارونؑ سے کہیں زیادہ افضل ہیں۔

حضرت ہارونؑ کو مثال میں اس لئے پیش کیا کہ جب حضرت موسیؑ کو طور پر گئے تو وہ حضرت ہارونؑ کو قوم کے پاس چھوڑ کر گئے تھے اس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں، اس لئے کہ غزوہ تبوک ۹ هجری میں ہوا اور آپ ﷺ کا وصال اس کے تقریباً دو سال بعد ۱۱ هجری میں ہوا۔

۷۳۱۔ حدثنا عبد الله بن سعيد: حدثنا محمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يخبر قال: أخبرنى صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: غزوت مع النبي ﷺ العسرة، قال: كان يعلى يقول: تلك الفزوة أو نق أعمالي عندى. قال عطاء: فلقد صفوان، قال يعلى: فكان لى أجير لقاتل إنسانا فغض احدهما يد الآخر، قال عطاء: فلقد أخبرنى صفوان أيهما عرض الآخر لنيته، قال: فانتزع المعرض يده من فى العاص، فانتزع إحدى ثنيتيه فأتيا النبي ﷺ فاهدر لنيته. قال عطاء: وحسبت أنه قال: قال النبي ﷺ: ((المبدع يده في ليك تقضمهما كأنها في في لحل يقضمهما؟)). [راجع: ۱۸۳۷]

ترجمہ: صفوان بن یعلیٰ اپنے والد حضرت یعلیٰ بن امیہؓ سے روایت بیان کرتے تھے کہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ غزوہ عسرۃ یعنی غزوہ تبوک میں حاضر تھا، صفوان کہتے ہیں کہ یعلیٰؓ کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام عملوں میں سے اس عمل پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں۔ عطاء نے کہا کہ صفوان نے مجھے بتایا کہ حضرت یعلیٰؓ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو ملازم رکھا، وہ ایک شخص سے لڑا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو دانتوں سے کٹا۔ عطاء نے بیان کیا کہ مجھے صفوان نے خبر دی کہ ان دونوں میں سے کس نے دوسرے کا ہاتھ کٹا؟ اس کو میں بھول گیا۔ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پر کٹا گیا اس کا گوشت کائیں والے نے منه میں بھر لیا، جسے بڑی

۷ قال الخطابي: هذا إنما قاله لعلى حين خرج الى ترك ولم يستصحبه، فقال: انخلعني مع الذريه؟ فقال: أما ترضى اليه لصربي له المثل باختلاف مرسى هارون على يدى اسرائيل حين خرج الى الطور، ولم يرد به العلامه بعد المعرت، لأن المتبه به وهو هارون كانت وفاته قبل وفات مرسى عليه الصلوة والسلام وإنما كام خليفته لم يحياته في وقت خاص للبيكير كملك الأمر ليس ضرب المثل به. عمدة القاري، ج ۱۱، ص: ۲۷۳

دلت سے چھڑایا گیا، مگر کاشنے والے کا دانت نکل پڑا، پھر یہ دونوں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے، مگر آپ ﷺ نے دانت والے کو کوئی دیت نہیں دلائی، عطااء کا بیان ہے کہ شاید صفوان نے یہ بھی کہا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کیا وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں دے دیتا جو تم اونٹ کی طرح چباؤ لتے۔

### نشاء بخاری<sup>ر</sup>

حضرت یعلیٰ بن امیہ ﷺ کے بیٹے صفوان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ غزوہ تبوک کی فضیلت اور اس میں پیش آنے والی مشکلات کے متعلق فرماتے ہیں کہ "غزوۃ مع النبی ﷺ العسرۃ" میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ غزوہ عسرۃ یعنی غزوہ تبوک میں شریک جہاد کیا تھا۔

"کان یعلیٰ یقُولُ: تَلَكَ الْفَزُوهُ أَوْقَنَ أَعْمَالِيْ عَنِّدِيْ" حضرت یعلیٰ بن امیہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جتنے اعمال ہیں اس میں سب سے زیادہ بھروسہ اس کے اوپر ہے۔  
اس جملہ کا کیا معنی ہے؟

یعنی جتنے میرے اعمال خیر ہیں ان میں سے اس غزوہ تبوک میں شرکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ امید ہے کہ اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے رحمت سے نوازیں گے۔  
یہاں پر اس حدیث کو لانے سے یہی جملہ مقصود و نشاء ہے کہ حضرت یعلیٰ ﷺ غزوہ تبوک کی فضیلت اتنی بیان کر رہے ہیں کہ وہ سارے اعمال میں سب سے زیادہ قابل امید عمل اس غزوہ میں شرکت کو قرار دیتے ہیں۔

### حق دفاع کی صورت میں ہدر

ضمنا انہوں نے ایک واقعہ بیان کر دیا کہ عطااء کہتے ہیں کہ صفوان نے کہا کہ حضرت یعلیٰ بن امیہ ﷺ نے ایک واقعہ سنایا کہ "فَكَانَ لِيْ أَجِيرٌ لِفَقَاتِلِ إِنْسَانًا لِعَضِ الْخَ" میزے پاس ایک توکر تھا اور اس کی کسی آدمی سے لڑائی ہو گئی۔ قاتل سے یہاں پر مراد لڑائی ہے، تو ایک نے دوسرے کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔

"فَالْ عَطَاءُ: لِلَّهِ دَأْخَرِيْ الْخَ" عطااء کہتے ہیں کہ صفوان نے نام لے کر بتایا تھا کس نے دوسرے کو کاٹا تھا لیکن میں بھول گیا کہ کون کاشنے والا تھا اور کس کا تھا کاٹا گیا تھا۔

"فَالْ: فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدِهِ الْخَ" جس کے ہاتھ پر کاٹا تھا اس نے اپنے ہاتھ کو اس کے منہ سے کھینچا تو ساتھ کا شنے والے کے دانت ساتھ نکل آئے، یہ کوئکہ دانت توڑنے کا بدله دانت توڑنا ہے تو اب وہ کہنے کا جس کے دانت نکالے گئے تھے کہ "السن بالسن" مگر دانت کے بدله دانت ہونے چاہیے۔

”فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ فَأَمْدُرْتُ لِنِيْتَه“، تو وہ دونوں حضورا کرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کے دانت کو بہر قرار دیا، کہ تمہارا جودا نت گیا ہے اس کا کوئی قصاص نہیں، نہ قصاص اور نہ دیت۔

”قَالَ عَطَاءٌ: وَحَسِبْتَ أَنَّهُ لَالِّ“ عطا کا بیان ہے کہ شاید صفوان نے یہ بھی کہا تھا حضورا کرم ﷺ نے کہ جب انہوں نے کہا کہ میرا دانت تو زدیا ہے قصاص دلائیں۔

”قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْمُهَدِّعُ يَدْهُ لِيْكَ الدَّخْ“ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں چھوڑ دیتا کہ تم اس کو کافی رہتے جیسے کہ اونٹ ہاتھ کو چباؤتا ہے منہ میں یعنی تو اس کو کاشاڑ ہے او یہ بس دیکھتا ہی رہے اور چھوڑ دے اپنے ہاتھ کو تمہارے منہ میں کہ تو اسکو کھاتا جائے۔

مطلوب یہ ہے کہ اس نے اپنا حق دفاع استعمال کیا ہے اس لئے کہ اس کے پاس سوائے کھینچنے کے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا اور اب کھینچنے سے تمہارا دانت ٹوٹ گیا تو یہ اس کا کوئی قصور نہیں۔

یہ حدیث ہے کہ جس نے ایک بہت بڑا اصول بتادیا اور جنایت کا بیان فرمادیا اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے دفاع میں دوسرا کو کوئی نقصان پہنچائے اور اتنا نقصان کہ جو دفاع کے لئے ضروری ہو تو اس نقصان کا معاوضہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہوتا، وہ اس کا خاص منہیں ہوتا اور وہ نقصان ہدر ہوتا ہے۔

لہذا اگر کوئی شخص کسی کے اوپر گولی تاں کے کھڑا ہو جائے کہ مار دوں گا اور اسکو دفاع کرنے کا کوئی راست نہیں ہے سوائے اس کے کہ خود بھی اسکے اوپر گولی چلائے اور ایسی حالت میں گولی چلا دے تو اس کا کیا حکم ہو گا؟ مارنے والے کا خون ہدر ہو گا جو محلہ آور تھا اس کا خون ہدر ہو گا۔

اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ پہلا حملہ اس نے کیا تو یہ جنایت کی باب کی بہت بڑی اصل ہے جو اس حدیث سے مستبطن ہوتی ہے کہ حق دفاع، لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ حق دفاع کو اتنا استعمال کرے جتنا ضروری ہو۔

## ضرورت سے زیادہ تجاوز جائز نہیں

دفاع میں یہ مبتدا نہیں کہ دفاع تو ہو سکتا تھا ایک تھیڑ مارنے سے لیکن جوش و جذبہ میں تجاوز کر کے گولی مار دی۔ اسی لئے ضرورت سے زیادہ اگر تجاوز کرے گا تو پھر وہ ضامن ہو گا، لیکن اگر وہ حدود میں رہ کر ضرورت کے تحت دفاع کرتا ہے تو ضامن نہیں ہو گا۔

یہ اس حدیث میں آیا ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری میں کئی مقامات آئی ہے لیکن بنیادی اصول جو اس سے نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص دفاع میں کوئی کام کرے اور اس سے دوسرا کو نقصان پہنچے تو اس صورت میں کوئی ضامن نہیں آتا۔

## (۸۰) باب حدیث کعب بن مالک

### کعب بن مالک رض کی حدیث کا بیان

یہ حضرت کعب بن مالک رض کی حدیث ہے جس میں انہوں نے غزوہ تبوک میں اپنے پیچھے رہ جانے کا واقعہ عجیب و غریب انداز میں بیان کیا ہے، یہ حدیث سیرت کا ایک اہم حصہ ہے ہی، عربی ادب کا بھی شاہکار ہے، حضرت کعب بن مالک رض خود شاعر بھی تھے اور شاعر بڑا احساس ہوتا ہے، تو ادبی اعتبار سے ایک ایک نقرہ ان کا موتیوں میں تولئے کے لائق ہے۔

وقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْفَالِلَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا﴾ و  
ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور ان تین آدمیوں پر جو پیچھے رہ گئے۔

۲۲۱۸ - حدثنا يحيى بن بکير قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمى قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوک، قال كعب: لم أخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوک غير ألى كنت تخلفت لي غزوة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنها. إما خرج رسول الله ﷺ ي يريد غير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله ﷺ ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. كان من خبرى ألى لم أكن فقط أقوى ولا أيسير حين تخلفت عنه لى تلك الغزوة. والله ما اجتمعت عندى قبله راحلتنا فقط حتى جمعتهمما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله ﷺ يريد غزوة إلا ورثي بهيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله ﷺ في حر شديد واستقبل سفرا بعيداً ومفارزاً وعدواً كثيراً. فجلى لل المسلمين أمرهم ليتأهلاً لأهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد وال المسلمين مع رسول الله ﷺ كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان - قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب

بلا ظن أن سيخفى له مالم ينزل ليه وحى الله. وغزا رسول الله ﷺ تلك الغزوة حين طابت الشمار والظلال. وتجهز رسول الله ﷺ والمسلمون معه لطفقت أغدولكى أتجهز معهم نارجع ولم أقض شيئاً أقول لي لفسى: أنا قادر عليه. فلم ينزل يتمادى بي حتى اشتد الناس الجد فاصبح رسول الله ﷺ والمسلمون معه ولم أقض من جهازى شيئاً فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم الحقهم فقدوت بعد أن فصلوا لا تجهز فرجعت ولم أقض شيئاً لم غدوت لم رجعت ولم أقض شيئاً. فلم ينزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهسمت أن أرتحل فأدر كهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله ﷺ فطفت ليهم أحزنى أني لا أرى إلا رجلاً مغموماً علىه النفاق أو رجلاً من عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله ﷺ حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القرم بتبويك: ((ما فعل كعب؟)) فقال رجل من بنى سلمة: يا رسول الله حبيه برداه ولظره في عطفه. فقال معاذ بن جبل: بش ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً، فسكت رسول الله ﷺ. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قالاً حضوري هم لطفقت أنة ذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غداً واستعنت على ذلك بكل ذي رأى من أهلى، فلما قيل: إن رسول الله ﷺ قد أظل قادماً زاح عنى الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله ﷺ قد أداه وكان إذا أقدم من سفر بدأ بالمسجد ليركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون لطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكالوا بضعة وثمانين رجلاً، فقبل منهم رسول الله ﷺ علانيتهم وباعهم واستغفر لهم ووكل سائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم المفضب لم قال: ((تعال)), فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ((ما خلفك؟ ألم تكن قد ابعت ظهرك؟)) فقلت: بلى، إلى والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن ساخرج من سخطه بعذر، والله لقد أعطيت جدلاً ولكن والله لقد علمت لمن حدثتك اليوم حدثك كذب ترضى به عنى ليوش肯 الله أن يسخطك على، ولمن حدثتك حدثك حديث تجد على فيه، إلى لا رجو فيه عفو الله، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت لفط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، فقال رسول الله ﷺ: ((أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله عليك)). فقمت ولما رجأ من بنى سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت

اذببت ذلباً قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذر إلى رسول الله ﷺ بما اعتذر إليه المختلفون، لدَّ كان كالميك ذلبيك استغفار رسول الله ﷺ لك. لوالله ما ذالوا يزبوني حتى أردت أن أرجع لما كذب نفسي لم تلت لهم: هل لقي هذا معنى أحد؟ قالوا: نعم، رجلان لا مثُل ما تلت القيل لهم مثل ما قيل لك، فقلت: من هما؟ قالوا: موارة بن الربيع العمري وهلال ابن أمية الواقفي، لدَّ ذكره إلى رجلين صالحين قد شهدَا بدرًا إلى ليهما أسوة، لمضيت حين ذكر وهم على، ونبهى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا أيها الشلة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا الناحية تذكرت في نفسي الأرض لما هي التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فاما أصحابي فاستكانا وقعدا في بيتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشتَّب القوم وأجلدهم فكنت أخرج لأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطرف في الأسواق ولا يكلمني أحد. وآتى رسول الله ﷺ لاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: هل حرك سفيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريباً منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلى. وإذا التفت نحوه أعرض عنى حتى إذا طال على ذلك من جفوة الناس مشبت حتى تصورت جدار حائط أبي قحادة - وهو ابن عمِّي وأحب الناس إلى - فسلمت عليه، لوالله مارة على السلام. فقلت: يا أبا قحادة، أشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناه وتوليت حتى تصورت الجدار. قال: فبینا أنا أمشي بسوق المدينة فإذا بطي من أباطاط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب ابن مالك؟ لطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءنى دفع إلى كتاباً من ملك غسان فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنى أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء، فعزمت بها التئور لسجرته بها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول الله ﷺ يأتيي فقال: إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعزل امراتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبها مثل ذلك. فقلت لأمراتي: الحق باهلك لتكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر. قال كعب: لجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم لهل تكره أن أخدمه؟ قال: ((لا ولكن لا يقربك)). قالت: إنه والله ما

بـه حركة إلـى شـى، وـالله ما زـال يـكى منـذ كانـ منـ أمرـه كـان إلـى يومـه هـذا، فـقال لـى بعضـ أهـلى: لو استـاذـت رسـول الله ﷺ لـى امـرـاتـك كـما أذـن لـامـرـاة هـلالـ بنـ أمـية أـن تـخدـمهـ، فـقلـت: وـالله لا أـستـاذـن لـيـها رسـول الله ﷺ وـما يـدرـينـي مـا يـقـول رسـول الله ﷺ إـذـا اـسـتـاذـتهـ لـيـها وـأـنا رـجـل شـابـ، فـلـبـثـ بـعـد ذـلـك عـشـر لـيـالـ حتـى كـمـلـت لـنـا خـمـسـون لـيـلـةـ منـ حـينـ نـهـى رسـول الله ﷺ عـنـ كـلـامـتـاـ، فـلـمـا صـلـيـت صـلـةـ الفـجـرـ صـبـحـ خـمـسـينـ لـيـلـةـ وـأـنا وـعـلـىـ ظـهـرـ بـيـتـ مـنـ بـيـوـتـنـا لـبـيـنـا أـنا جـالـسـ عـلـىـ الـحـالـ الذـى ذـكـرـ اللهـ قـدـ ضـاقـتـ عـلـىـ نـفـسـيـ وـضـاقـتـ عـلـىـ الـأـرـضـ بـمـارـجـتـ، سـمعـتـ صـوتـ صـارـخـ فـأـوـفـىـ عـلـىـ جـبـلـ سـلـعـ بـأـعـلـىـ صـوـتـهـ: يـا كـعـبـ بـنـ مـالـكـ، أـبـشـرـ. قـالـ: فـخـرـتـ سـاجـدـاـ وـقـدـ عـرـفـتـ أـنـ قـدـ جاءـ فـرجـ وـآذـنـ رسـولـ اللهـ ﷺ بـتـوـبـةـ اللهـ عـلـيـنـاـ حـينـ صـلـيـتـ صـلـةـ الفـجـرـ فـلـدـهـ النـاسـ يـبـشـرـونـاـ وـذـهـبـ قـبـلـ صـاحـبـيـ مـبـشـرـونـ وـرـكـضـ إـلـىـ رـجـلـ فـرـسـاـ وـسـعـيـ سـاعـ منـ أـسـلـمـ فـأـوـفـىـ عـلـىـ الجـبـلـ وـكـانـ الصـوتـ أـسـرـعـ مـنـ الـفـرـسـ. فـلـمـا جـاءـ لـيـ الذـى سـمعـتـ صـوـتـهـ يـبـشـرـلـيـ نـزـعـتـ لـهـ تـوـبـيـ لـكـسـرـتـهـ إـيـاـهـمـاـ يـبـشـرـاهـ، وـالـلـهـ مـاـ أـمـلـكـ غـيـرـهـ مـاـ يـوـمـنـدـ. وـاستـعـرـتـ تـوـبـيـنـ فـلـبـسـتـهـمـاـ وـانـطـلـقـتـ إـلـىـ رسـولـ اللهـ ﷺ لـيـتـلـقـائـيـ النـاسـ فـلـوـجـاـ فـلـوـجـاـ، يـهـنـوـنـيـ بـالـتـوـبـةـ يـقـولـونـ: لـتـهـنـكـ تـوـبـةـ اللـهـ عـلـيـكـ. قـالـ كـعـبـ: حـتـىـ دـخـلـتـ الـمـسـجـدـ إـذـا رسـولـ اللهـ ﷺ جـالـسـ حـولـةـ النـاسـ، فـلـقـامـ إـلـىـ طـلـحةـ بـنـ عـبـيدـ اللـهـ يـهـرـولـ حـتـىـ صـالـحـنـىـ وـهـنـانـىـ، وـالـلـهـ مـاـ قـامـ إـلـىـ رـجـلـ مـنـ الـمـهـاجـرـينـ غـيـرـهـ وـلـاـ أـسـاـهـاـ طـلـحةـ. قـالـ كـعـبـ: فـلـمـا سـلـمـتـ عـلـىـ رسـولـ اللهـ ﷺ قـالـ رسـولـ اللهـ ﷺ وـهـوـ يـيرـقـ وـجـهـ مـنـ السـرـورـ: ((أـبـشـرـ بـخـيـرـ يـوـمـ مـرـ عـلـيـكـ مـنـ دـلـولـ ذـلـكـ أـمـكـ)). قـالـ: قـلتـ: أـمـنـ عـنـدـكـ يـاـ رسـولـ اللهـ ﷺ أـمـ منـ عـنـدـ اللـهـ؟ قـالـ: ((لاـ، بلـ مـنـ عـنـدـ اللـهـ)) وـكـانـ رسـولـ اللهـ ﷺ إـذـا سـرـ اـسـنـارـ وـجـهـ حـتـىـ كـانـهـ قـطـعـةـ قـمـرـ، وـكـانـ عـرـفـ ذـلـكـ مـنـهـ. فـلـمـا جـلـسـتـ بـيـنـ يـدـيهـ قـلتـ: يـاـ رسـولـ اللهـ، إـنـ مـنـ تـوـبـتـيـ أـنـ أـنـخـلـعـ مـنـ مـالـيـ صـدـقـةـ إـلـىـ اللـهـ وـإـلـىـ رسـولـهـ ﷺ، قـالـ رسـولـ اللهـ ﷺ: ((أـمـسـكـ عـلـيـكـ بـعـضـ مـالـكـ فـهـرـ خـيـرـ لـكـ)), قـلتـ: فـلـانـىـ أـمـسـكـ سـهـمـيـ الذـىـ بـخـيـرـ. فـقلـتـ: يـاـ رسـولـ اللهـ، إـنـ اللـهـ إـنـماـ لـجـالـىـ بـالـصـدـقـ، وـإـنـ مـنـ تـوـبـتـيـ أـنـ لـاـ أـحـدـثـ إـلـاـ صـدـقـاـ مـاـ بـقـيـتـ، فـوـالـلـهـ مـاـ أـعـلـمـ أـحـدـاـ مـنـ الـمـسـلـمـينـ أـهـلـهـ اللـهـ فـيـ صـدـقـ الـحـدـيـثـ مـنـذـ ذـكـرـتـ ذـلـكـ لـرسـولـ اللهـ ﷺ أـحـسـنـ مـاـ أـهـلـالـيـ، مـاـ تـعـمـدـتـ مـنـذـ ذـكـرـتـ ذـلـكـ لـرسـولـ اللهـ ﷺ إـلـىـ يـوـمـ هـذـاـ كـلـهـ، وـإـنـ لـأـرـجـوـ أـنـ يـحـفـظـنـيـ اللـهـ فـيـمـاـ بـقـيـتـ. وـأـنـزلـ اللـهـ عـلـىـ رسـولـهـ ﷺ ((لـقـدـ تـابـ اللـهـ عـلـىـ النـبـيـ وـالـمـهـاجـرـينـ

وَالْأَنْصَارِ) إِلَيْهِ قَوْلُهُ: هُوَ كُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ كَمَهْ لِوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى مِنْ نَعْمَةٍ فَطَبَعَهُ اَنْ هَذِنِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمُ مِنْ نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا أَكُونَ كَدِبْتُهُ فَأَهْلُكَ كَمَا هَلَكَ الْدِيْنُ كَلَبْوَا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِلَّدِيْنِ كَلَبْوَا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرِّمَا قَالَ لَاَحَدٌ، فَقَالَ تَبَارُكَ وَتَعَالَى: هُوَ سَيَخْلُفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِ قَوْلُهُ: (فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) كَمَا كَعَبَ: وَكَنَا تَخْلُفُنَا أَيْهَا الْكَلَّاَةُ عَنْ أَمْرِ أَوْلَيْكُ الدِّيْنِ لِبَلِّ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايِعُهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَأَرْجَأُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى تَلْضِيَ اللَّهُ فِيهِ. فِي دِلْكَ قَالَ: هُوَ عَلَى النَّلَّاَةِ الْدِيْنِ خَلَفُوا) وَلَيْسَ الدُّنْيَا ذَكْرُ اللَّهِ مَعًا خَلَفُنَا عَنِ الْفَزُورَةِ، إِلَمَا هُوَ تَخْلِيَفُهُ إِيَّاهَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَنْ حَلْفِهِ وَاعْتَدَرَ إِلَيْهِ فَقَبَلَ مِنْهُ.

[راجع: ٢٧٥]

ترجمہ: عبد الرحمن بن عبد اللہ اپنے والد عبد اللہ بن کعب رحمہ اللہ سے، جو اپنے والد کو ناہین ہو جانے کی وجہ سے پکڑ کر چلا یا کرتے تھے، روایت کرتے ہیں کہ میں نے (اپنے والد) حضرت کعب بن مالک ﷺ ہے سنا انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تمام لڑائیوں میں حاضر رہا، مگر توبہ اور بدر میں چیچھے رہ گیا، مگر بدر میں چیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عتاب نہیں ہوا۔

جنگ بدر میں آنحضرت ﷺ کی غرض یقینی کہ قافلہ قریش کا تعاقب کیا جائے، دشمنوں کو اچانک اللہ تعالیٰ نے حائل کر دیا، اور جنگ ہو گئی۔ میں عقبہ کی رات میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نے سب سے اسلام پر قائم رہنے کا عہد لیا، اور مجھے تولیۃ العقبۃ (بیعت عقبہ) جنگ بدر کے مقابلہ میں عزیز ہے، اگرچہ جنگ بدر کو لوگوں میں زیادہ شہرت و فضیلت حاصل ہے۔

جنگ توبہ میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل کبھی میرے پاس دوسواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں، مگر اس غزوہ کے وقت میں دوسواریوں کا مالک بن گیا تھا، آنحضرت ﷺ کا یہ دستور تھا کہ جب کبھی غزوہ کا ارادہ فرماتے، تو صاف صاف پڑتے، نشان اور جگہ نہیں بتاتے تھے، بلکہ اس کو اس کے غیر کے ساتھ چھپاتے تھے فرماتے، تاکہ کوئی دوسرا مقام سمجھتا رہے، غرض جب لڑائی کا وقت آیا تو گرمی بہت شدید تھی، راستہ بہت طویل اور بے آب و گیاہ تھا، دشمن کی تعداد زیاد تھی، لہذا آپ ﷺ نے مسلمانوں کو پورے طور پر آگاہ کر دیا کہ ہم توبہ جاری ہیں، تاکہ کامل تیاری کر لیں۔

اس وقت آنحضرت ﷺ کے ساتھ کثیر تعداد میں مسلمان موجود تھے، مگر کوئی ایسی کتاب وغیرہ نہیں تھی کہ اس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہوں۔ حضرت کعب ﷺ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جو اس لڑائی میں شریک ہونا نہ چاہتا ہو، مگر ساتھ ہی یہ خیال بھی کرتے تھے کہ کسی کی غیر حاضری آنحضرت ﷺ کو اس وقت تک معلوم

نہیں ہو سکتی، جب تک کہ وحی نہ آئے، غرض آنحضرت ﷺ نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔

اور یہ وقت تھا جب درختوں کے میوے پک رہے تھے، اور سایہ میں جیھنا اچھا معلوم ہوتا تھا، رسول اللہ ﷺ اور مسلمان جانے کی تیاریاں کر رہے تھے مگر میں ہر صبح کو یہی سوچتا تھا کہ میں تیاری کر لوں گا، کیا ضرورت ہے جلدی کرنے کی، میں تو ہر وقت تیاری کر سکتا ہوں، باسی طرح دن گزرتے رہے۔

پھر ایک روز صبح کو آنحضرت ﷺ مسلمانوں کو لیکر روانہ ہو گئے، میں نے سوچا ان کو جانے دو، میں دو ایک دن میں تیاری کر کے راستے میں ان میں شامل ہو جاؤں گا، غرض دوسری صبح کو میں نے تیاری کرنی چاہی، مگر نہ ہو سکی، اور میں یوں ہی رہ گیا، تیرے روز بھی یہی ہوا، اور پھر میرا برا بر یہی حال ہوتا رہا، اب سب لوگ بہت دور نکل چکے تھے، میں نے کئی مرتبہ قصد کیا کہ آپ ﷺ کے ساتھ جا کر مل جاؤں، مگر تقدیر میں نہ تھا، کاش! میں ایسا کر لیتا۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ کے چڑے جانے کے بعد میں جب مدینہ میں چلتا پھرتا تو مجھ کو یا تو منافق نظر آتے یا وہ لوگ نظر آتے جو کمزور، ضعیف اور بیمار تھے، مجھے اس بات پر بہت افسوس ہوتا تھا۔

آنحضرت ﷺ نے راستے میں مجھے کہیں بھی یاد نہیں کیا، البتہ تبک پہنچ کر جب سب لوگوں میں تشریف فرمائے تو آپ ﷺ نے فرمایا کعب بن مالک کہاں ہیں؟ بنی سلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ! وہ تو اپنے کبر و غرور کرنے کی وجہ سے پچھے رہ گئے ہیں، تو معاذ بن جبل ﷺ نے کہا کہ تم نے اچھی بات نہیں کی، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول! ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے، آنحضرت ﷺ یہ سن کر خاموش ہو رہے ہے۔

حضرت کعب بن مالک ﷺ کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ واپس آرہے ہیں، تو میں سوچنے لگا کہ کوئی ایسا حیلہ بہانہ ہاتھ آجائے جو آنحضرت ﷺ کے غصہ سے مجھے بچا سکے، پھر میں اپنے گھر کے سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرنے لگا کہ اس سلسلے میں کچھ تم بھی سوچو، مگر جب یہ بات معلوم ہوئی کہ آنحضرت ﷺ مدینہ کے بالکل قریب آگئے ہیں، تو میرے دل سے اس حیلہ کا خیال دور ہو گیا، اور میں نے یقین کر لیا کہ جھوٹ آپ ﷺ کے غصہ سے نہیں بچا سکے گا۔

صحیح کے وقت آنحضرت ﷺ مدینہ تشریف لے آئے اور آپ ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور درکعت نفل ادا فرماتے، اب جو لوگ پچھے رہ گئے تھے انہوں نے آنا شروع کیا اور اپنے اپنے عذر بیان کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے، یہ لوگ اسی (۸۰) یا اس سے کچھ زیاد ہتھی، آنحضرت ﷺ نے ان سے ان کے عذر قبول کرنے اور ان سے دوبارہ بیعت لی، اور ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی، اور ان کے دلوں کے خیالات کو خدا کے حوالہ کر دیا۔

پھر میں بھی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا، آپ نے، ایسی مسکراہت کے ساتھ کہ جس میں غصہ بھی جھلک رہا تھا، جواب دیا اور فرمایا آؤ، تو میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، حضور اکرم نے مجھ سے پوچھا تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ حالاں کہ تم نے تو سواری کا انتظام بھی کر لیا تھا؟

میں نے عرض کیا کہ آپ کافر مانا درست ہے، اللہ کی قسم! میں اگر کسی دنیادار کے سامنے ہوتا تو ممکن تھا کہ اس سے بہانہ وغیرہ کر کے چھوٹ جاتا، کیوں کہ میں خوب بول بھی سکتا ہوں، مگر خدا گواہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر بھی لیا تو، کل اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اس لئے میں صحیح ہی بولوں گا، چاہے آپ میرے اوپر غصہ ہی کیوں نہ فرمائیں، آئندہ تو خدا کی مغفرت اور بخشش کی امید رہے گی، خدا کی قسم میں قصور وار ہوں، حالاں کہ مال و دولت میں کوئی بھی میرے برابر نہیں ہے، مگر میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی شریک نہ ہو سکا۔ آنحضرت نے یہ سن کر فرمایا کعب نے صحیح بات بیان کر دی، اچھا جاؤ اور اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو۔

غرض میں اٹھ کر چلا تو بی سلمہ کے آدمی بھی میرے ساتھ ہو لئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تواب تک تھا را کوئی گناہ نہیں دیکھا ہے، تم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح آنحضرت کے سامنے کوئی بہانہ پیش کر دیا ہوتا، حضور کی دعاء مغفرت کے لئے کافی ہوتی، وہ برا بر مجھے یہی سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ واپس آنحضرت کے پاس جاؤں اور پہلے والی بات کو غلط ثابت کر کے کوئی بہانہ پیش کر دوں، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی ہے؟ جس نے میری طرح اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں دو آدمی اور بھی ہیں جنہوں نے اقرار کیا اور آنحضرت نے ان سے بھی وہی فرمایا ہے جو تم سے فرمایا۔

میں نے ان کے نام پوچھتے تو کہا ایک مرادہ بن رفیع عمری اور دوسرے ہلال بن امیہ واقفی، یہ دونوں نیک آدمی تھے، اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے، مجھے ان سے ملنا اچھا معلوم ہوتا تھا، غرض ان دو آدمیوں کا نام سن کر مجھے اطمینان ہو گیا اور میں چل دیا۔

رسول اللہ نے تمام مسلمانوں کو منع فرمادیا تھا کہ ان تین آدمیوں سے کوئی کلام نہ کرے، مگر دوسرے رہ جانے والے اور جھوٹے بہانے بیان کرنے والوں کے لئے یہ حکم نہیں دیا تھا، آخر سب لوگوں نے ہم سے الگ رہنا شروع کر دیا، اور ہم ایسے ہو گئے جیسے ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں، گویا آسمان و زمین بدل گئے ہوں، غرض پچاس راتیں اسی حال میں گزر گئیں۔

میرے دونوں ساتھی تو عاجز ہو گئے اور گھر میں بیٹھ کر رونے لگ گئے، مگر میں ہمت والا تھا کہ لکھتا رہا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا، بازاں اور غیرہ جاتا مگر کوئی بات نہیں کرتا تھا، میں آنحضرت کی خدمت

میں بھی آتا، آپ ﷺ مصلی پر رونق افروز ہوتے، اور میں سلام کرتا تو مجھے ایسا شہر ہوتا کہ آپ ﷺ کے ہونٹ مل رہے ہیں، شاید سلام کا جواب دے رہے ہیں، پھر میں آپ ﷺ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا، مگر آنکھ چڑا کر آپ ﷺ کو بھی دیکھتا رہتا کہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں، چنانچہ میں جب نماز میں ہوتا تو آپ ﷺ مجھے دیکھتے رہتے، اور جب میری نظر آپ سے ملتی تو آپ ﷺ امنہ پھیر لیا کرتے تھے۔

آخر کار جب لوگوں کی یہ بے رخی طویل ہو گئی اور میں لوگوں کی خاموشی سے عاجز آگیا، تو میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قادہ ﷺ کے پاس باغ میں آیا اور سلام کیا، اس سے مجھے بہت محبت تھی، مگر اللہ کی قسم! اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے کہا اے ابو قادہ! تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا طرفدار جانتا ہے یا نہیں؟ مگر جواب نہ دیا، پھر میں نے قسم کھا کر یہی بات کہی، مگر جواب نہ دار! میں نے تیسری مرتبہ یہی کہا تو ابو قادہ ﷺ نے صرف اتنا جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو خوب معلوم ہے، پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، آنسو جاری ہو گئے، اور میں واپس چل دیا۔

میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ ایک نصرانی کسان جو ملک شام کا رہنے والا تھا اور انہی فروخت کرنے آیا تھا، وہ میرا پتہ لوگوں سے معلوم کر رہا تھا کعب بن مالک کون ہیں؟ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ کعب بن مالک ہیں، وہ میرے پاس آیا اور غسان کے نصرانی بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا، جس میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر بہت زیادتی کر رہے ہیں، حالاں کہ اللہ نے تمہیں ذلیل نہیں بنایا ہے، تم بہت کام کے آدمی ہو، تم میرے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بہت آرام سے رکھیں گے۔ میں نے سوچا یہ دو ہری آزمائش ہے، اور پھر اس خط کو آگ کے تنور میں ڈال دیا۔

ابھی صرف چالیس راتیں گزری تھیں اور دس باتی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ کے قاصدے مجھ سے آکر کہا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ رہو، میں نے کہا کیا مطلب؟ طلاق دے دوں یا کچھ اور؟ تو انہوں نے کہا بس الگ رہو اور مباشرت وغیرہ مت کرو، ایسا ہی حکم میرے دونوں ساتھیوں کو بھی ملا تھا، غرض میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں جا کر رہو، جب تک اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ نہ فرمادے۔

حضرت کعب ﷺ کہتے ہیں کہ پھر ہال بن امیہ ﷺ کی بیوی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول اہلال بن امیہ میرے خادم بہت بوڑھے ہیں اور ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، اگر میں ان کا کام کر دیا کروں تو کوئی برائی تو نہیں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کچھ حرج نہیں، مگر وہ صحبت نہیں کر سکتا، اس نے عرض کیا اللہ کی قسم! وہ تو کسی چیز کے لئے حرکت بھی نہیں کرتے ہیں، اور جب سے یہ بات ہوئی ہے رورہے ہیں، اور جب سے اس کا یہی حال ہے۔

حضرت کعب ﷺ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے کچھ عزیزوں نے کہا کہ تم بھی آنحضرت ﷺ کے پاس جا کر

اپنی بیوی کے بارے میں ایسی ہی اجازت حاصل کرلو، تاکہ وہ تمہاری خدمت کرتی رہے، جس طرح بالآخر کی بیوی کو اجازت مل گئی ہے، میں نے کہا خدا کی قسم! میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا، معلوم نہیں کہ آنحضرت ﷺ کیا فرمائیں گے؟ اور میں تو نوجوان آدمی ہوں، ہلال بن امیہ کی طرح ضعیف نہیں ہوں۔

غرض اس کے بعد وہ دس راتیں بھی گزر گئیں اور جب سے رسول اللہ ﷺ نے ہم سے بات چیت کرنے سے منع فرمایا تھا اس کے پچاس دن پورے ہو گئے، تو میں پچاسویں رات کی صبح کونماز کے بعد اپنے گھر کی چھت پر اس حال میں بیٹھا ہوا تھا جو اللہ نے ذکر کیا ہے میرا دل مجھے پر ٹنگ ہو گیا تھا اور زمین میرے لئے باوجود اپنی دست کے ٹنگ ہو چکی تھی۔

اتنے میں کوہ سلیع پر کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے کعب بن مالک اتم کو بشارت دی جاتی ہے، اس آواز کے سنتے ہی میں سجدہ میں گر پڑا، اور یقین کر لیا کہ اب یہ مشکل آسان ہو گئی، کیونکہ آنحضرت ﷺ نے نماز فجر کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کا تصور معاف کر دیا ہے۔

اب تو لوگ میرے پاس اور میرے ان ساتھیوں کے پاس خوشخبری اور مبارکباد کے لئے جانے لگے، ایک آدمی اپنے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے میرے پاس آئے اور بنی سلمہ کا ایک شخص دوڑتا ہوا سلیع پہاڑ پر چڑھ گیا، اس کی آواز جلدی میرے کانوں تک پہنچ گئی۔

اس وقت میں اس قدر رخوش ہوا کہ اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو دے دیئے، اور اللہ کی قسم! میرے پاس ان کے سوا کوئی دوسرے کپڑے نہیں تھے، میں نے دو کپڑے عاری تالے کر پہنے اور پھر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں جانے لگا، راست میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا، جو مجھے مبارکباد دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت تمہیں مبارک ہو۔

حضرت کعب ﷺ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، آنحضرت ﷺ تشریف فرماتھے، اور دوسرے لوگ بھی اردو گرد بیٹھے ہوئے تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ﷺ مجھے دیکھ کر دوڑ کر آئے، اور مجھ سے مصافی کیا، پھر مبارکباد دی، اللہ کی قسم! مہاجرین میں سے کوئی ان کے سوا میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوا اور طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہ بھولوں گا۔

حضرت کعب ﷺ کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے آنحضرت ﷺ کو سلام کیا اور آپ کا چہرہ انور خوشی سے چک رہا تھا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا اے کعب! یہ دن تمہیں مبارک ہو، جو آج تک ان سب دونوں سے اچھا ہے، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے۔

میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ معانی آپ کی طرف سے ہوئی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا نہیں! بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کیا گیا ہے، اور آنحضرت ﷺ جب

خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارک چاند کی طرح چکنے لگتا تھا اور ہم آپ کی خوشی کو پیچان جاتے تھے۔ پھر میں نے حضور ﷺ کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں اپنی اس نجات اور معافی کے شکر یہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے فیرات نہ کر دوں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھوڑا کرو، اور کچھ اپنے لئے بھی رکھو، کیونکہ یہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے، میں نے عرض کیا تھیک ہے، میں اپنا خیر کا حصہ روک لیتا ہوں۔

پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات پائی ہے، اب میں تمام زندگی سچ ہی بولوں گا، خدا کی قسم! میں نہیں کہہ سکتا کہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے کسی پر ایسی مہربانی فرمائی ہو، جیسی مجھ پر کی ہے، اس وقت سے جب کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے کچھ بات کہہ دی، پھر اس وقت سے اب تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر خدا مجھے جھوٹ سے بچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ پر اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی ﴿لَقَدْ قَاتَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ تاہو وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝۔

اللہ کی قسم! قبول اسلام کے بعد اس سے بڑھ کر میں نے کوئی انعام و احسان نہیں دیکھا کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے مجھے سچ بولنے کی توفیق دے کر ہلاک ہونے سے بچا لیا، ورنہ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی تباہ و ہلاک ہو جاتا، جنہوں نے آپ ﷺ سے جھوٹ بولا، جھوٹے حلف اٹھائے۔

نزول وحی کے زمانے میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید وعید فرمائی جتنی شدید کسی دوسرے کے لئے نہیں فرمائی چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ﴿سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ﴾ تاہو ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضِي عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝۔﴾

حضرت کعب ﷺ کہتے ہیں، ہم تینوں ان منافقوں سے علیحدہ ہیں، جنہوں نے نہ جانے کتنے بہانے بنائے، اور جھوٹے حلف اٹھائے، اور آنحضرت ﷺ نے ان کی بات کو قبول کر لیا، اور ان سے بیعت لے لی، اور دعائے مغفرت فرمائی، مگر ہمارا معاملہ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿وَعَلَى الْفَلَاقِ الَّذِينَ خَلَفُوا هُنَّا اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو جان بوجھ کر رہ گئے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے بچپے رہے، جنہوں نے تسمیں کھائیں، عذر بیان کئے، اور رسول اکرم ﷺ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا۔

## حدیث کعب ابن مالک ﷺ کی تشریع

”ان عبداللہ بن کعب بن مالک و کان قائد الخ“ روایت کرنے والے عبداللہ بن کعب بن

مالک ہیں یعنی حضرت کعب بن مالک ﷺ کے خود اپنے صاحبزادے ہیں اور یہ ان کے بیٹوں میں سے حضرت کعب ﷺ کے قاعد تھے، عمر کے آخری حصے میں حضرت کعب بن مالک ﷺ ناپینا ہو گئے تھے تو ان کے بیٹے تو بہر سے تھے لیکن یہ ان کے قاعد ہوا کرتے تھے، یعنی ناپینا ہونے کی وجہ سے ان کو ہاتھ پیز کر لے جایا کرتے تھے۔

**قال:** سمعت کعب بن مالک یحدث النَّبِيِّ وَ كَتَبَ ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت کعب بن مالک ﷺ کو حدیث سناتے ہوئے ساجب و غزوہ تبوک سے چھپے رہ گئے تھے۔

آگے حضرت کعب بن مالک ﷺ کی عبارت ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک ﷺ نے جو الفاظ اس حدیث میں استعمال کئے ہیں یہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے سوداء قلب سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔

حضرت کعب بن مالک ﷺ فرماتے ہیں "لَمْ اخْلُفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي غَزْوَةِ غُزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكِ النَّبِيِّ" میں کسی بھی غزوہ میں چھپے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے، البتہ ہاں غزوہ بدر میں بھی میں چھپے رہ گیا تھا یعنی بدر میں میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن بدر میں جو لوگ چھپے رہ گئے تھے ان میں سے کسی شخص کے اور عتاب نہیں ہوا کہ کیوں چھپے رہ گئے تھے، کیوں شامل نہیں ہوئے۔

"إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يَرِيدُ عِبَرَ قَرْيَشَ فِي لَيْلَةِ الْعُقْبَةِ" غزوہ بدر کا معاملہ تو اچانک پیش آگیا تھا کہ رسول اللَّه ﷺ قریش کے تجارتی قافلہ کی تلاش میں نکلے تھے لیکن کوئی بڑی جنگ کا خیال تھا ہی نہیں لیکن پھر دشمنوں کو اچانک بغیر میعاد کے اللہ تعالیٰ نے حائل کر دیا اور مقابلہ ہو گیا یعنی اس وقت کسی نے جانے کا بہت زیادہ اہتمام بھی نہیں کیا تو اس وقت میں بھی نہیں جاسکا تھا۔

"وَلَقَدْ شَهَدَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي لَيْلَةِ الْعُقْبَةِ" میں بدر میں شامل نہیں رہا تھا لیکن میں عقبہ کی رات میں رسول اللَّه ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نے ہم سب سے اسلام پر قائم رہنے کا وعدہ لیا۔

"لَيْلَةُ الْعُقْبَةِ" یعنی بیعت عقبہ کی رات؛ بیعت سے پہلے انصار مکہ مکرمہ گئے تھے آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور پھر یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ ﷺ کی حفاظت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔

تو حضرت کعب ﷺ فرماتے کہ میں اس میں شامل تھا یعنی بدر میں تو شامل نہیں تھا لیکن عقبہ میں شامل تھا۔

"وَمَا أَحَبَّ أَنْ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرَ النَّبِيِّ" اور مجھے تو بیعت عقبہ، جنگ بدر کے مقابلہ میں عزیز ہے یعنی اگر کوئی یہ پیشکش کر کے کہ "لَيْلَةُ الْعُقْبَةِ" کے بجائے تم غزوہ بدر میں شامل ہو جاتے تو زیادہ اچھا تھا، تو مجھے یہ معاوضہ پسند نہیں، میں پسند نہیں کرتا کہ مجھے اس "لَيْلَةُ الْعُقْبَةِ" کے بدلہ میں غزوہ بدر کی حاضری نصیب ہوتی۔

مطلوب یہ ہے کہ میں "لَيْلَةُ الْعُقْبَةِ" کی حاضری کو جسمیت بدر کی حاضری کے زیادہ بڑی سعادت سمجھتا ہوں، اگرچہ غزوہ بدر نسبت "لَيْلَةُ الْعُقْبَةِ" کے زیادہ مشہور تھا، اور جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے وہ "لَيْلَةُ الْعُقْبَةِ" کے مقابلہ میں اس کو بڑی فضیلت والا سمجھتے تھے لیکن میں ذاتی طور پر "لَيْلَةُ الْعُقْبَةِ" کی شمولیت کو اپنی

زیادہ بڑی فضیلت کیجھتا ہوں۔

ایک تو تعارف بتا دیا کہ میں بیعت عقبہ میں شریک تھا اور دوسرا یہ کہ غزوہ بدر کے علاوہ میں کسی غزوہ میں پیچھے نہیں رہا۔

”کان من خبری الی لم اکن قط القوی ولا ایسر الخ“ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کے متعلق پہلے ہی یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میرا واقعہ یہ تھا کہ پیچھے رہ جانا میری کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھا، افلام کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے میں اتنا قوی نہیں تھا، بھی میں اتنا مال دار نہیں تھا جتنا اس غزوہ تبوک کے موقع پر تھا۔

”والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط الخ“ اللہ کی قسم! اس سے پہلے بھی بھی میرے پاس دوساریاں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی تھی لیکن اس غزوہ کے موقع پر میرے پاس دوساریاں نہیں۔

”ولم یکن رسول الله ﷺ یہید غزوۃ إلا الخ“ یعنی غزوہ تبوک سے پہلے حضور اکرم ﷺ جب مدینہ منورہ سے کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو آپ ﷺ دشمن سے چھانے کی خاطر توریہ فرماتے۔

یعنی کھل کر اعلان نہیں فرماتے کہ فلاں جگہ جانا ہے بلکہ عملی توریہ بھی کرتے تھے کہ جانا تو ہے مغرب میں لیکن لشکر کو لیکر نکلتے تھے مشرق کی طرف، تاکہ جب کوئی مخبر کسی جگہ خبر دے تو وہ یہ کہ مشرق کی طرف گئے ہیں، پھر مشرق کی طرف جا کر گھوم پھر کر مغرب کی طرف آجائے یا شمال کی طرف جانا ہے تو جنوب کو چل دیئے اور جنوب کی طرف جانا ہے تو شمال کی طرف چل دیئے تو آپ کا عام معمول غزوات میں یہ تھا۔

لیکن تبوک میں ایسا نہیں کیا، تبوک میں پہلے سے اعلان عام کر دیا کہ ہمیں روم کی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لئے جانا ہے اور تبوک کی سمت جانا ہے۔

”ظزاها رسول الله ﷺ لی حرشدید الخ“ غرض جب رسول اللہ ﷺ نے جب اس غزوہ کا ارادہ فرمایا تو گری بہت شدید تھی، راستہ طویل، بے آب و گیاہ اور چیل صحراء تھا، دشمن کی تعداد زیادہ تھی، چالیس ہزار کا لشکر تھا جو قیصر روم ہرقل نے جمع کیا تھا۔

”فجلی للمسلمین أمرهم الخ“ لہذا آپ ﷺ نے مسلمانوں کو پورے طور پر آگاہ کر دیا، تاکہ مکمل تیاری کر لیں، کیونکہ یہ مشکلات پیش آنے والی تھی تو مسلمانوں کے سامنے ان کا معاملہ کھول کر واضح

قوله: ((ولم یکن رسول الله یہید غزوۃ إلا وردی بغيرها)) ای اوہم غیرہا، والتوریہ ان یہ ذکر لفظاً بحتمل معنیین احدهما اثرب من الآخر لیوهم ارادۃ القرب و هو یہید البعید. وزاد ابو داود من طریق محمد بن نور عن عمر عن الزہری ((وکان یقول: العرب خدعة)). فتح الباری، ج: ۸، ص: ۱۱۷

کر دیتا کہ وہ مکمل تیاری کر لیں، ”فَاخْبِرُهُمْ بِوْجَهِهِ الْخَ“ تو اپنے رخ کا بتایا جس کا ارادہ آپ ﷺ کا تھا کہ فلاں رخ کی طرف جانا ہے یعنی ہم توک جا رہے ہیں۔

”وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كَثِيرُ الْخَ“ اس وقت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جانے والے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور کوئی ایسا دفتر نہیں تھا کہ جس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہوں یعنی کوئی ایسا دیوان اور دفتر نہیں تھا کہ جس جس کو جانا ہے سب آکے اپنا نام لکھوا تو ایسا کچھ نہیں تھا نام لکھے ہوئے ہوں اور حاضری لی جائے کہ فلاں آیا ہے یا نہیں؟

”قَالَ كَعْبٌ: فَمَا رَجُلٌ يَرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا لِظَّنِ الْخَ“ حضرت کعب بن مالک ﷺ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو اس سے غیر حاضر ہو ناچاہتا تو اس کی غیر حاضری آنحضرت ﷺ کو اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی، جب تک کہ وحی نہ آئے، کیونکہ نام رجسٹر میں کہیں لکھے ہوئے نہیں تھے جو شخص بھی چاہتا کہ وہ عاشر ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔

یعنی غزدہ میں شریک نہ ہوتا وہ گمان یہ کرتا تھا کہ اگر مدینہ منورہ میں بیٹھ گیا تو میرا معاملہ پوشیدہ ہی رہے گا کیونکہ حاضری تو ہو نہیں رہی تھی کہ دفتر حاضری پکارا جا رہا ہے اور اس سے لوگوں کی حاضری لی جا رہی ہے۔ لوگ بہت زیادہ تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے تو اگر دو ایک آدمی بیچھے رہ جائیں اور شریک نہ ہوں تو ظاہریہ ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون رہ گیا اور کون گیا یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ آجائے۔

”وَهُزَا رَسُولُ اللَّهِ كَلِكَ الْفَزُوهُ حِينَ طَابَ الشَّمَارُ وَالظَّلَالُ“ اور یہ غزدہ آپ ﷺ نے ایسے وقت میں فرمایا تھا جب کہ پھل پک رہے تھے اور سائے بڑے بڑے محمدہ ہو گئے تھے، یعنی یہ ہے کہ جب درخت کے اوپر پھل لدا ہوا ہو تو ایک طرف تو پھل اعلیٰ درجہ کا لگا ہوا ہے اور دوسرا طرف ان پھلوں کے لدے ہونے کی وجہ سے سائے بھی پھیل جاتے ہیں۔

اور جیسا کہ پیچھے بتایا ہے کہ سنبلہ کا موسم تھا تو اس میں فجر کے وقت سے ہی لوچتی ہے لیکن اگر کوئی آدمی سجد نبوی ﷺ میں فجر کی نماز پڑھ کر پیدل قبا جائے، قباء نگران اور باغات کے درمیان میں ہے، قباء کا راستہ باغات میں سے ہو کر جاتا ہے تو جس وقت دھوپ سے جسم جھلس رہا ہوتا ہے، اور آدمی ان باغات میں سے جائے تو ایسا لگتا ہے کہ خندی ہوا میں سے گذر رہے ہیں۔ ان باغات کے درختوں اور پھلوں کی جو خندک ہوتی ہے وہ نفاء میں چھائی ہوتی ہے۔ تو اس واسطے حضرت کعب بن مالک ﷺ نے یوں فرمایا، اگر چہ لشکر میں گری ہوتی تھی لیکن ان سایوں کے اندر بڑا آرام ہوتا تھا اور لوگوں کو راحت ملتی تھی۔

”وَتَعْجِزُ رَسُولُ اللَّهِ كَلِكَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فَطَفَقَتِ الْخَ“ رسول اللہ ﷺ اور مسلمان جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، میں بھی صبح کو اٹھتا اور ارادہ کرتا کہ میں بھی جانے کی تیاری کروں لیکن میں لوٹ آتا اور کچھ

بھی تیاری کئے بغیر واپس آ جاتا۔

**فَالْوَلِيُّ فِي نَفْسِهِ: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ** اور دل میں سوچتا کل تیاری کر لیں گے اور جانے میں مجھے قدرت تو ہے، کوئی بہت لمبی چوری تیاری تو کرنی نہیں ہے، اسی طرح دن گزرتے رہے۔

**فَلَمْ يَزُلْ يَعْمَدِي بِي حَتَّى اشْتَدَ النَّاسُ الْجَدُّ** تو یہ جو میرے خیالات ہیں کہ کل کر لیں گے یہی خیالات مجھے دیر کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے خت مخت شروع کر دی۔

بعض روایتوں میں "اشتدت الناس الجد" ہے اور بعض روایتوں میں "اشتد بالناس الجد" ہے اور بعض روایتوں میں "اشعد الناس الجد" ہے۔

اس میں سب سے واضح ہے کہ لوگوں نے خت کوشش کر دی، باقی دونوں کا حاصل مفہوم بھی یہی ہے کہ لوگوں نے کوشش خت کر دی۔ ۴

**فَاصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ الْخَ** ایک دن صبح ہوئی تو حضور ﷺ اور تمام صحابہ کرام ﷺ آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار تھے اور میں نے اپنا سامان بالکل بھی تیار نہیں کیا تھا۔

**فَقَلَتْ: أَنْجِهِزْ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ الْخَ** تو میں نے کہا کہ چلو حضور ﷺ کو جانے دو اور میں ایک آدھ دن کے بعد تیاری کرلوں گا پھر پیچھے سے لشکر سے جا ملوں گا۔

**فَلَمْ يَذُوقْ بَعْدَهُ أَنْ لَصَلَوا لِأَنْجِهِزْ فَرَجَعَتِ الْخَ** لشکر کی روائی کے بعد میری صبح ہوئی یعنی جب حضور ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ روانہ ہو گئے تو اس کے بعد اگلے دن میری صبح اس حالت میں ہوئی کہ چلو میں اب تیاری کر لیتا ہوں لیکن پھر لوٹ آیا اور پھر بھی کچھ نہ کر سکا۔

**لَمْ غُدُوتْ لَمْ رَجَعَتِ الْخَ** پھر اگلا دن آیا اور میں پھر لوٹ آیا اور کوئی فیصلہ نہ کیا، میرے ساتھ روزانہ ہی ہوتا رہا۔

ہم کو نالائے جرس کا روایا رہے یاران تیز گام میں منزل کو جالیا۔

**فَلَمْ يَزُلْ بِسِّيْ حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطُ الْفَزُورُ الْخَ** یہاں تک کہ اب سب لوگ بہت دور نکل چکے تھے اور جہاد کرنے والے مجاہدین بہت دور چلے گئے۔ اتنے دور چلے گئے کہ اس وقت بھی مجھے خیال آیا کہ

یہ قولہ: ((حتى اشتد الناس الجد))، بکسر الجيم، وهو الجد في الشيء والمعاملة فيه، ومنظروا الناس بالرفع على انه الفاعل والجed بالنصب على نزع الحالض، او هو لعن لمصدر محدوف اي اشتد الناس الشتداد الجد، وعند ابن السکن: ((اشتد بالناس الجد)) برفع الجد وزيادة الموددة وهو الذي في رواية احمد ومسلم وغيرهما.فتح الہاری،

اب بھی روانہ ہو جاؤں اور جا کر ان کو پالوں گا۔

”تلارط“ کے معنی ہوتے ہیں اصل میں کسی چیز میں زیادتی کرنا تو انہوں نے زیادتی کی مطلب یہ ہے کہ بہت دور چلے گئے۔ ۵

”ولیستنی فعلت، فلم يقدر لی ذلک“ اور اے کاش! میں اس وقت ایسا کر لیتا س وقت خیال آیا تھا کہ جاؤں اور جا کر ان سے مل جاؤں لیکن کرنہیں پایا۔

”فَكَثُتْ إِذَا خَرَجَتْ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ الْمَصْدُوقِ“ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے چلے جانے کے بعد میں لوگوں میں لکھا اور ان میں چکر لگاتا، بھی مدینہ کے لوگوں میں چکر لگاتا تو اس بات سے مجھے اور غم ہوتا کہ میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں مگر ایسے شخص کو جس کے اوپر نفاق کا وہتہ لگا ہوا ہے، یہاں جو لوگ پھر ہے ہیں تو کوئی ڈھنگ کا آدمی نظر نہیں آتا جو نظر آ رہا ہے۔

یعنی عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ آدمی منافق ہے تو وہ نظر آتا ہے یا کوئی ایسا آدمی نظر آتا ہے کہ بے چارہ معدود رہے، کوئی بڑھا، کوئی یکار، گویا اللہ کے بندے سب چلے گئے اور جو رہ گئے یا تو منافق ہیں یا معدود ہیں تو میں نے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ شامل کر لیا۔

”ولم يذکر لى رسول الله ﷺ حتى بلغ تبوك“ اور آپ ﷺ کو میں یاد نہیں آیا یہاں تک کہ تبوك پہنچ گئے، ظاہر ہے کہ پیدل (تیس ہزار) اور گھر سوار (دس ہزار) چالیس ہزار آدمیوں کے لشکر میں ایک آدمی نہیں آیا ہے تو اس کا خیال نہیں آیا اور تبوك پہنچ گئے۔

”فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِعِوْكَ: مَا الْعُلُوكُ؟“ جب آپ ﷺ لوگوں کے ساتھ تبوك میں بیٹھے تھے تو آپ ﷺ نے وہاں فرمایا کعب کا کیا ہوا؟ یعنی وہ آیا کیوں نہیں؟

”فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلْمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبْسَةُ الْعَدُوِّ“ تو بنی سلمہ کے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول! اس کو تو اس کی دو چادروں نے اور بار بار اپنے کندھوں کو دیکھنے نے اس کو روک کر رکھ لیا۔

یعنی اس کے پاس بڑی قیمتی اور عمدہ چادریں ہیں اور اچھی چادریں کی وجہ سے ہر وقت اپنی شانوں کو دائیں باسیں دیکھتا رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے مال و دولت پر بڑا ناز بھی ہے، تو اس ناز نے اس کو روک لیا کہ اس کی وجہ سے طبیعت میں نازک مزاجی آگئی اور اس کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوا۔ ۶

۵. البوله: ((وتلارط الفزو))، ای: فات و سبق من الفرط وهو السق. عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۷۲

۶. و مر اهارة الى اعجابه بنفسه ولهمته، وتليل: كنى بذلك عن حسنة وبهجهة، والعرب تصف الرداء بهلة الحسن

والسمة عطفاً لوقوعه على عطلي الرجل. عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۷۳

"لقال معاذ بن جبل: بنس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمتنا الخ" حضرت معاذ بن جبل ﷺ نے یہ بات سنی تو اس شخص سے کہا کہ تم نے کعب بن مالک کے بارے میں بری بات کہی اور اے اللہ کے رسول! ہم نے کعب کے بارے میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہمیشہ ان کو اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس بات پر رسول اللہ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا خاموش رہے۔

حضرت معاذ بن جبل ﷺ نے گویا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ کسی عذر کی وجہ سے رہ گئے ہوں گے ورنہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تکبر ہو۔

"لآل کعب بن مالک: فلما بلغنى الله توجه قال لا الخ" حضرت کعب بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ حضور اکرم ﷺ توک سے واپس تشریف لارہے ہیں تو میرا غم میرا شریک زندگی بن گیا۔

یعنی اب دن رات مجھے ایک فلک سوار ہو گئی اور میں دل میں کوئی بہانہ عذر یاد کرنے لگا کہ جب حضور ﷺ آئیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے تو کوئی جھوٹ بنا دو کہ فلاں عذر پیش آ گیا تھا۔

"وأقول: بم اذا أخرج من مخطه غدا؟" اور میں دل میں کہتا تھا کہ کل کو میں حضور اقدس ﷺ کی نار اخْسَکَی سے کیسے نکلوں گا۔

اس جملے کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں:

ایک معنی یہ کہ جب کل آپ ﷺ تشریف لائیں گے اور پوچھیں گے اور نار ارض ہو گئے تو نار اخْسَکَی کیسے نکلوں گا، لہذا جھوٹ بول دوں۔

دوسرा معنی یہ کہ آج اگر جھوٹ تو بول دیا لیکن کل جب یہ جھوٹ کھلے گا تو اس وقت کی نار اخْسَکَی سے کیسے نکلوں گا۔

"واستعنت على ذلك بكل الخ" پھر میں اپنے گھر کے بھادر لوگوں سے مشورہ کرنے لگا کہ اس سلسلے میں کچھ تم بھی سوچو یعنی کوئی جھوٹا عذر مجھے بتا میں جو میں پیش کر سکوں۔

"فلما قيل: إن رسول الله ﷺ أظل فادما الخ" جب مجھ سے کہا گیا کہ رسول اللہ ﷺ اب بس پہنچے ہی واملے ہیں تو دل میں جھوٹ بولنے کے جو باطل خیالات آرہے تھے سب زائل ہو گئے۔

مطلوب یہ کہ میرے دل سے اس جھوٹے عذر کا خیال دور ہو گیا اور میں نے یقین کر لیا کہ جھوٹ مجھے آنحضرت ﷺ کے غصہ سے نہیں بچا سکے گا۔

"وعرفت الى لن اخرج منه ابدا الخ" اور میں نے اس وقت یہ جان لیا کہ اس مخصوصے میں کبھی نہیں نکل سکتا کسی بھی ایسی چیز کے ذریعہ سے کہ اس میں جھوٹ کا غصر شامل ہو، کہ اگر جھوٹ بول بھی دیا تو

نکل نہیں سکوں گا، تو میں نے حضور ﷺ سے سچ بولنے کا پکارا دہ کر لیا۔ ॥

”وَاصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ الْخَ“ حضور اکرم ﷺ صبح کے وقت میں تشریف لائے اور رسول اللہ ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور دور کعت نفل ادا فرماتے اور لوگوں سے ملاقات کی غرض سے تشریف فرماتے تھے۔

”فَلَمَّا فَلَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخْلَفُونَ لِطَفْقُوا الْخَ“ جب آپ ﷺ مسجد میں بیٹھے تو جتنے غزوہ سے پچھے رہنے والے لوگ تھے یعنی منافقین انہوں نے آنا شروع کر دیا، یہ اسی (۸۰) سے زیادہ لوگ تھے انہوں نے آکر جھوٹے جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے کہ فلاں بات ہو گئی تھی، فلاں عذر تھا۔ ॥

”فَقَبْلِ مِنْهُمْ دَرْسَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْخَ“ رسول اللہ ﷺ نے ان کی ظاہری بات جو وہ لوگ بیان کر رہے تھے وہ قبول کر لی، ان سے بیعت بھی فرمائی اور دعائے مغفرت بھی کی، ان کے جو پوشیدہ امور تھے ان کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا یعنی ظاہری طور پر تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا عذر تھا تو میں نے معاف کیا اور تمہارے باطن کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ یہ معمولی امتحان نہیں تھا، دیکھ رہے تھے کہ دوسروں کو اس طریقہ سے چھٹی مل رہی ہے۔

”فَجَنَّتْهُ فَلَمَّا سَلَمَتْ عَلَيْهِ تَبَسَّمْتْ مِنْهُمْ الْخَ“ تو میں بھی آیا، جب میں نے سلام کیا تو آپ ﷺ نے تبسم فرمایا جیسے جو غصب کی حالت میں ہواں شخص کا تبسم ہوتا ہے یعنی تبسم تھا لیکن اس تبسم میں تھوڑی سی ناراضگی کا عصر بھی شامل تھا، پھر فرمایا کہ آؤ تو میں چند قدم چل کر آپ ﷺ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔

”لَقَالَ لِي: مَا خَلْفُكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهِيرَكَ؟“ پھر حضور اکرم ﷺ نے مجھ سے کہا کہ کس چیز نے تمہیں غزوہ سے پچھے رو کے رکھا تھا؟ کیا تم نے اپنی سواری خریدی نہیں تھی؟ یعنی حضور اکرم ﷺ کو پہنچا کر میں نے تبوک جانے کیلئے سواری خریدی ہے۔

”لَقِلْتَ: بَلِي، إِلَى وَاللَّهِ يَارَسُولُ اللَّهِ لَوْ جَلَسْتَ عَنْدَ غَيْرِكَ الْخَ“ میں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ کا فرمانا درست ہے، اللہ کی قسم! اگر میں آپ کے علاوہ دنیا والوں میں سے کسی اور شخص کے پاس بیٹھا ہو اہوتا تو میں یقین سے جانتا ہوں اس کی ناراضگی سے میں کوئی عذر بیان کر کے نکل سکتا تھا۔

منقولہ: ((الاجماعت صدی)) ای: جزمت بذلك وعقدت عليه لصدی، وفي رواية ابن أبي شيبة: وعزمت انه لا ينجنی الا الصدق. عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۲۷، وفتح الباري، ج: ۸، ص: ۱۱۹  
إِلَّا ذِكْرُ الْوَالِدِيَّ أَنَّ هَذَا الْعَدْدَ كَانَ مِنْ مُنَافِقِي الْأَنْصَارِ وَأَنَّ الْمُعَذَّرِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ كَالْوَالِدِيُّونَ وَالْمَاعَانِيُّونَ رَجُلًا مِنْ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِهِمْ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي دِنْيَانَ أَطَاعَهُمْ مِنْ قَوْمِهِ كَالْوَالِدِيُّونَ غَيْرَ هُؤُلَاءِ، وَكَانُوا عَدْدًا كَثِيرًا. عمدة القاري، ج: ۱۸، ص: ۲۷، وفتح الباري، ج: ۱۱۹، ص: ۱۱۹، وكتاب المغازی للوالدی، ج: ۳، ص: ۱۰۰۲

"وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَيْتُ جَدْلًا" اللہ کی قسم! مجھے فصاحت اور بلا غت دی گئی ہے۔

"جَدْلٌ" کے معنی قوتِ مناظرہ کے آتے ہیں مراد یہ ہے کہ بڑا فصح و ملیغ ہوں اور بڑا حربِ لسان ہوں اور لوگوں کو اپنی باتوں سے متاثر کرنے کا ذہنگ آتا ہے۔ ۲۲

"وَلَكُنِي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَنْ حَدَّثَكَ اللَّغْ" تو اگر آپ ﷺ کے سوا کسی کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں اپنی معدودت پیش کر دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے سامنے کوئی ایسی جھوٹی بات کہہ دی جس سے آپ ﷺ مجھ سے راضی ہو گئے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آپ ﷺ کو مجھ سے ناراض کر دے۔

"وَلَنْ حَدَّثَكَ حَدِيثٌ صَدِيقٌ تَجَدُّدُ عَلَى لِيَهِ اللَّغْ" اور اگر میں آپ کو آج کچی بات بتا دوں جس سے آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ آئندہ مجھے معاف فرمادیں گے یعنی آج جھوٹ بول کر چھٹکارا بالوں گا لیکن آئندہ آپ کی ناراضگی جو مجھے حاصل ہو گی اس سے میں نہیں نفع سکوں گا اور اگرچہ بول کر وقتی ناراضگی مجھے حاصل ہو گئی تب بھی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے۔

"لَا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عَذْرٍ، وَاللَّهُ مَا كَنْتُ لِتَطْلُبَ اللَّغْ" اللہ کی قسم! مجھے کوئی عذر نہیں، میں قصور و ار ہوں، حالانکہ مال و دولت میں کوئی بھی میرے برابر نہیں، مگر میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی شریک نہ ہو سکا۔

"فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَمَا هَذَا الْقَدْ صَدِيقٌ لِقَمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ لِيَكَ" رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس نے حق بولا، جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرمادیں۔

"لَقَمْتُ وَلَأَرْجَالَ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ لَا يَبْعُولِي لَقَالَوَالِي: وَاللَّهِ اللَّغْ" میں کھڑا ہوا اور وہاں چل دیا تو کچھ بنو سلمہ کے لوگ میرے پیچے چلے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو کبھی کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا پہلے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔

"وَلَقَدْ عَجَزْتُ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَدْرَتُ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ" اب تم اتنا عاجز ہو گئے کہ حضور اکرم ﷺ کے سامنے کوئی عذر بھی نہیں پیش کر سکے جیسے کہ اور خلفین نے عذر پیش کیا، اگر تم عذر پیش کر دیتے اور حضور ﷺ استغفار کرتے جیسے کہ اور وہ کیلئے کیا تو حضور ﷺ کا استغفار تمہارے ذمہ کو دور کرنے کے لئے کافی تھا۔

"لَوْاَللَّهِ مَا ذَالِوَا يَبْرُونِي حَتَّى أَرْدَتِ اللَّغْ" خدا کی قسم! وہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ، ملامت کرتے رہے کہ کیوں نہ تم نے ایسا کیا جیسا اوسروں نے کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اتنی ملامت کی کہ میرے دل میں آیا کہ اب بھی واپس چلا جاؤں اور اپنی بات کو جھٹلا دوں اور پھر کوئی عذر پیش کر دوں۔

۲۲) قوله: ((جَدْلٌ)) اي: فِعَاوَةٌ وَلَوْا كلام بعثت اخرج من عهدة ما ينبع الى معاقبيل ولا يرد. عمدة الباري،

ج: ۱۸، ص: ۲۵، وفتح الباري، ج: ۸، ص: ۱۱۹

"لَمْ قُلْتُ لِهِمْ: هَلْ لَفْنِي هَذَا مَعِيْ أَحَدٌ؟" تو میں نے ان سے پوچھا، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی ہے؟ جس نے میری طرح اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے یعنی اور سب لوگوں نے تو عذر کر لیا ہے تو کوئی اور بھی ایسا ہے جس نے عذر نہ کیا ہوا اور کہہ دیا ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر حضور ﷺ نے یہ کہا ہو کہ اس وقت تک چلے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ کرے گے۔

"قَالُوا: لَعْمٌ، رَجْلٌ لَكُلْ مِثْلٍ مَا قُلْتُ إِلَّا مَعِيْ دُوَّادِمٌ أَوْ بَھِيْ ہیں ایسے انہوں نے بھی ایسی بات کہی ہے جیسی تم نے کہی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا وہ دوآدمی کون ہیں؟ تو بوسلمہ کے لوگوں نے بتایا کہ ایک مرارہ بن رفیع عمری اور دوسرے ہلال ابن امیہ واقعی رضی اللہ عنہما ہیں۔

### مرارہ بن رفیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما کا واقعہ

حضرت مرارہ بن رفیع عمری ﷺ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت کعب بن مالک ﷺ کی طرح ان کا بھی جانے کا ارادہ تھا لیکن ان کا ایک کھجور کا باغ تھا اور کئی سال سے اس کے اوپر کھجور نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے افلام کا شکار تھے تو اس سال کھجور آئی اور اس کے اندر پھل لگا جس کی وجہ سے امید تھی کہ حالات درست ہو جائیں گے، چونکہ پھل آیا تھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ کئی سالوں کے بعد باغ کے اوپر اس طرح پھل لگا ہے اور اس پر سارے سال کی معیشت کا دار و مدار ہے تو حضور ﷺ کے ساتھ بہت سے غزوہات میں شریک ہوا ہوں اور آئندہ بھی ہو جاؤں گا اس مرتبہ ایسا کروں کہ بچوں کی معیشت کا سامان ہو جائے۔

حضرت ہلال بن امیہ ﷺ خاصے عمر رسیدہ تھے، انکے گھر والے مدتوں سے ڈلن سے باہر تھے اور مدتوں سے ان کو نہیں دیکھا تھا، جس وقت غزوہ بدر کیا اس وقت کسی طرح کوشش کر کے ان کے گھر والے سارے ایک جگہ جمع ہوئے تھے تو ان کے دل میں خیال ہوا کہ پتہ نہیں کتنے مدتوں کے بعد میرے گھر والے یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس واسطے اس مرتبہ رک جاؤں پھر جا کے تلاشی کر دوں گا، تو ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ حاصلہ "لَذِكْرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحِيْنَ لَدَ شَهِدا بَدْرًا إِلَّا مَعِيْ دُوَّادِمٌ" تو میں نے دو ایسے آدمیوں کا ذکر کیا کہ جو نیک تھے اور غزوہ بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے، مجھے ان سے ملنا اچھا معلوم ہوتا تھا مطلب یہ کہ آدمی اگر ان کے طریقہ پر چلے تو اس کے لئے سعادت تھی، توجہ انہوں نے ان حضرات کا ذکر کیا تو میرے دل میں جو خیال آیا تھا کہ جا کے عذر پیش کر دوں میں نے اس کو ترک کر دیا اور چلا گیا۔

”ولهی رسول اللہ ﷺ المسلمين عن کلامنا ایها الثلات الخ“ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو ہم تینوں سے بات کرنے سے منع فرمادیا، سب سے کہہ دیا کہ کوئی بھی ان تینوں سے بات نہ کرے تو لوگوں نے ہم سے کنارہ کشی اختیار کر لی یعنی لوگوں نے ہم سے الگ رہنا شروع کر دیا۔

”وَتَغْيِيرُوا النَّاسَ حَتَّىٰ تَنْكِرُنَا لِنَفْسِي الْأَرْضِ لِمَا هِيَ عَنِّي أَعْرَفُ الْخَ“ اور ہم ایسے ہو گئے جیسے ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں، گویا آسمان و زمین میرے لئے اجنبی ہو گئے ہوں، یہ وہ زمین نہیں تھی جیسے میں پہچانتا تھا، غرض پہچان راتیں ہم پر اسی حال میں گزر گئیں۔

”فَإِمَّا صَاحِبَىٰ فَأَسْتَكَانَ وَقَعْدًا لِّيٰ بِهِوَتَهُمَا يَبْكِيَانَ وَإِمَّا أَنَا فَكِنْتُ الْخَ“ میرے دونوں ساتھی تو عاجز ہو گئے یعنی حضرت مرارہ بن ربع عمری اور حضرت ہلال ابن امية واقعی رضی اللہ عنہما وہ چھپ گئے اور گھر میں بیٹھ کر رونے لگ گئے، میں ان میں سب سے زیادہ جوان تھا اور سب سے زیادہ طاقت و رتحا تو میں نکل کر مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کیا کرتا تھا، نماز پڑھنے جایا کرتا تھا اور بازار میں بھی گھومتا تھا مگر کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔

ان دونوں حضرات کی عمر زیاد تھی تو انہوں نے سوچا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے سب کو بات کرنے سے منع کر دیا ہے تو باہر جانے سے کوئی فائدہ نہیں گھر میں بیٹھو، اللہ اللہ کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو وہ گھر میں روٹے رہتے تھے۔

”وَآتَىٰ رَسُولُ اللَّهِ الْأَسْلَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ لِيٰ مَجْلِسَهُ بَعْدِ الصَّلَاةِ الْخَ“ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ کو سلام عرض کرتا اور جب آپ ﷺ نماز کے بعد اپنی مسجد میں مجلس میں تشریف فرماتے اور میں سلام کرتا تو مجھے ایسا شبہ ہوتا جیسے آپ ﷺ کے ہونٹ مل رہے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔

”ثُمَّ أَصْلَىٰ قَرِيبًا مِّنْهُ فَأَسَارَ لَهُ النَّظَرَ لِمَاذَا الْبَلْتُ الْخَ“ پھر میں آپ ﷺ کے قریب نماز پڑھتا اور چوری چوری نظروں سے آپ ﷺ کو دیکھتا جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو حضور ﷺ میری طرف متوجہ ہوتے اور جب میں آپ ﷺ کی طرف متوجہ ہوتا تو حضور ﷺ اعراض فرماتے۔

حضرور اقدس ﷺ کی شفقت اور رحمت بھی ہے الہذا دیکھتے جاتے کہ کعب بن مالک کس حالت میں ہیں؟ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کو اس حالت میں دیکھ لوں کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ جو عتاب کی شدت ہے اس میں کمی واقع ہو جائے، الہذا وہ جب نماز کی طرف متوجہ ہوتے تو حضور اقدس ﷺ ان کی طرف دیکھتے، اور جب یہ متوجہ ہوتے تو نظر ہٹا لیتے۔

”حَتَّىٰ إِذَا طَالَ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْ جُفُوةِ النَّاسِ“ آخر کار جب لوگوں کی یہ بے رخی طویل ہو گئی

اور میں لوگوں کی خاموشی سے عاجز آگیا۔

”مشیت حتیٰ تصورت جدار حائل ابی قنادۃ الخ“ ایک دن میں چلا اور حضرت ابو قارہ  
جو میرے پنجاہزاد بھائی تھے ان کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا، جا کر ان کو سلام کیا تو اللہ کی  
شم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔

”فقلت: يَا أَبَا الْقَادِهِ، أَشْدِكْ بِاللَّهِ هُلْ لَعْمَنِي أَحَبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ الخ“ میں نے  
حضرت ابو قارہؓ سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت  
کرتا ہوں؟ ابو قارہؓ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا پھر دوبارہ میں نے ان سے وہی کہا اور پھر قسم دی تو  
وہ خاموش رہے۔

”لَعْدَتْ لَهْ فَنْشَدَهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ“ میں نے تیسری بار قسم دے کر کہا تو تیسری مرتبہ  
جواب میں حضرت ابو قارہؓ نے اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔

”فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَتَوَلَّتْ حَتَّىٰ تَسْوِرَتِ الْجَدَارِ“ میری آنکھیں بھرا میں یعنی ان کی یہ بے  
رخی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور واپس مڑا اور دوبارہ دیوار پھاند کر باہر چلا گیا۔

”قَالَ: لَبِّيْنَا أَنَا أَمْشِيْ بِسَوْقِ الْمَدِيْنَةِ إِذَا لَبَطَىِ الْخَ“ حضرت کعب بن مالکؓ فرماتے  
ہیں کہ اسی دوران میں، میں مدینہ منورہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اہل شام کے کاشتکاروں میں سے ایک  
نصرانی کاشتکار جو شام سے سامان لے کر فروخت کرنے کے لئے مدینہ منورہ آیا تھا یعنی غله اور گندم لے کر فروخت  
کرنے کے لئے آیا تھا اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے جو مجھے کعب بن مالک کے پاس پہنچا دے گا؟ تو لوگ  
میری طرف اشارہ کرنے لگے یعنی اشارہ کر کے کہ بتایا کہ یہ کعب بن مالک ہیں۔

”حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنِي دَلْعُ إِلَىٰ كَتَابِهِ مِنْ مَلْكِ غَسَانٍ فَلَمَّا دَلَّ الْخَ“ یہاں تک کہ  
جب وہ میرے پاس آگیا تو اس نے غسان کے باڈشاہ کی طرف سے مجھے ایک خط پہنچایا، جس میں لکھا تھا کہ مجھے  
معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی حضور اکرمؐ تم پر بہت زیادتی کر رہے ہیں، حالاں کہ اللہ نے تم کو کسی  
ذلت کی گلہ پر نہیں بنایا اور نہ بلا کست کی گلہ پر، یعنی تم بلا کست کے لئے پیدا نہیں ہوئے ہو اور نہ ہی ذلت کے لئے  
پیدا ہوئے ہو، تم بہت کام کے آدمی ہو، تم میرے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بہت آرام سے رکھیں گے۔

قوله: ((إذا لبطى)) کلمة: إذا لبطى، بلتعن التون والباء الموحدة: الفلاح، معنى بالبطى لأن  
اشتغاله من استهانة الماء واستهراجه، والأباط كأنوا في ذلك الرفت أهل الفلاح، وهذا البطى كان نصراً ناماً.

یہ غسان عرب کا علاقہ تھا اور اس کا بادشاہ نصرانی عرب تھا، غسان کے نصرانی بادشاہ کے اور رومی سلطنت کے آپس معاہدات تھے۔ ۵

**”فَقُلْتَ لِمَا قَرَأْنَاكُمْ وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ إِنَّمَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ“** جب میں نے اس خط کو پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک اور مصیبت آگئی یعنی یہ اور زیادہ بڑی ازماش آگئی کہ ایسے موقع پر اب نصرانی میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور مجھے بلار ہے ہیں، تو میں اس خط کو لے کر سیدھا تندور کے پاس گیا اور اس میں ڈال کر تندور پر اس کو دہکا دیا یعنی اس کو آگ میں ڈال کر نذر آتش کر دیا۔

**”هَتَّىٰ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ إِنَّمَا“** جب اسی حالت میں چالیس رات تھی گذر گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کا قاصد میرے پاس آپ کا پیغام لے کر آیا۔

**”فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَأْمُرُكُ أَنْ تَعْزِلَ امْرَانِكَ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِإِيمَانِهِ“** تو اس نے کہا رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرو یعنی باقی سب کے ساتھ تو لا تعلق تو تھی ہی، گھر میں بیوی تھی تو اب حکم آیا کہ اب اپنی بیوی سے بھی کنارہ کشی اختیار کرو، تو میں نے قاصد سے پوچھا کہ بیوی کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ یعنی ہمیشہ کے لئے علیحدگی کا حکم ہے صرف کنارہ کشی اختیار کرنی ہے؟

**”قَالَ لَا بِلَ اعْتَزِلُهَا وَلَا تَقْرِبُهَا إِنَّمَا“** تو اس قاصد نے کہا کہ حکم یہ ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ، بس الگ رہو یعنی مباشرت وغیرہ مت کرو، اور دونوں حضرات یعنی حضرت مرارہ بن ربيع عمری اور حضرت ہلال بن امية رضی اللہ عنہما کے پاس بھی یہی پیغام بھیجا۔

**”فَقُلْتَ لِامْرَأَنِي: إِنَّهُ أَحَقُّ بِالْفَكُولِيَّةِ إِنَّمَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ“** جب قاصد نے مجھے یہ پیغام سنایا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے رشتہ داروں میں جا کر رہو یعنی اپنی میکے چلی جاؤ، اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ فرمادے۔

**”قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ هَلَالَ بْنَ أَمِيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا“** کعب بن مالک ﷺ نے فرماتے ہیں کہ حضرت ہلال بن امية ﷺ کی بیوی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور آکر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! ہلال بن امية بوزھے ہیں اور ان کے پاس کوئی خدمت گزارنا کر بھی نہیں ہے تو کیا میرا خدمت کرنا ناپسند ہے کہ میں ان کی خدمت کروں؟

فَالْوَلَهِ: ((من ملک هسان)), بفتح الفین المعجمۃ وشدید السین المعجمۃ، وهو من جملة ملوك اليمن، سکون الشام. لیل: هوجبلة بن الأبهم، ولی رواية ابن عالد، وعن الوالدی: الله العارث بن ابی بشر، ولیل جندب بن الأبهم.

**”لَالِ: لَا وَلَكُنْ لَا يَقْرِبُكَ“** رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خدمت سے منع بسیں رہتے تھے لیکن وہ تمہارے تربیت نہ آئے یعنی مباشرت مت کریں۔

**”قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهُ مَا بِهِ حُرْكَةٌ إِلَيْهِ شَيْءٌ، وَاللَّهُ مَا زَالَ يُبَكِّيَ الْخَانِهِوْنَ نَعْرِضُ كِيَا كَمَا أَنَّهُ كَمَا** قسم اور تو کسی چیز کے لئے حرکت بھی نہیں کرتے ہیں، اور جب سے یہ بات ہوئی ہے وہ مسلسل رورہے ہیں، یعنی ان میں تو کوئی خواہش بھی نہیں رہی ہے جب سے ان کا یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ مسلسل رورہے ہیں۔

جب حضور ﷺ نے ان کو حضرت ہلال بن امية ﷺ کی خدمت کی اجازت دے دی ”فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوْ أَسْعَادَتْ رَسُولَ اللَّهِ فِي أَمْرِ أَنَّكَ الْخَ“ تو میرے بعض گروہوں نے کہا کہ آپ بھی اجازت لے لیں جیسے کہ حضرت ہلال بن امية ﷺ کی بیوی نے لی ہے۔

اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بولنے کی جو ممانعت تھی وہ عام لوگوں سے تھی لیکن جو گھر کے لوگ تھے وہ ضرورت کے مطابق بول سکتے تھے اس لئے گھر کے بعض لوگوں نے یہ کہا آپ بھی اجازت لے لیں۔

**”فَقَلَتْ: وَاللَّهُ لَا أَسْأَدُنَّ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يَدْرِي بِنِي الْخَ“** تو میں نے کہا کہ پتا نہیں حضور اقدس ﷺ کیا فرمائیں گے، اس لئے میں اجازت نہیں لوں گا اور میں دیسے بھی جوان آدمی ہوں اور مجھے خدمت کی ایسی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ حضرت ہلال بن امية ﷺ کو ضرورت ہے کیونکہ کو ضعیف العمر ہیں۔

**”فَلَبِثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالِي حَتَّى كَمْلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً الْخَ“** دس راتیں مزید گذریں یہاں تک کہ جب سے آپ ﷺ نے ہم سے بات چیت کرنے سے منع فرمایا تھا اس کے پچاس دن پورے ہو گئے۔

**”فَلَمَّا صَلِّيْتُ صَلَاتَ الْفَجْرِ صَبَحَ خَمْسِينَ الْخَ“** تو میں پچاسویں رات کی صبح جب فجر کی نماز پڑھی، اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک ایک صبح گن رہا تھا تو پچاسویں صبح کو جب میں نے فجر کی نماز کے بعد میں اپنے گھر کی چھٹ پر تھا۔

**”أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى حَسَاقَتْ عَلَى نَفْسِي الْخَ“** اور اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ مسرا دل مجھے پر ٹنگ ہو گیا تھا یعنی اپنے اوپر مجھے اپنی جان ٹنگ محسوس ہو رہی تھی اور زمین میرے لئے باوجود اپنی دستت کے ٹنگ ہو چکی تھی۔

لأن قوله: ((فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي)) استشكل هذا مع نهي النبي ﷺ عن كلام الفلاحة. واجوب به أنه يحصل أن يكون فيه من الاشارة بالقول، ولقول لعله من النساء، لأن النهي لم يقع عن كلام النساء إلا حتى في بيوتهم، ولقول: كان الذي كلمه مثلكما، ولقول: كان من يخدمه ولم يدخل على النبي. عصدة القاردي، ج: ۱۸، عن: ۲۷ رفع الباري، ج: ۸، عن: ۱۲۱

”سمعت صوت صارخ فاولی علی جبل سلع“ تو اچانک میں نے جبل سلع پر سے ایک چینچنے والے کی آواز سنی، جو پیار پر چڑھ گیا تھا، ”باعلی صوته: يا کعب بن مالک، ابشر“ بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے کعب بن مالک! تم کو بثارت دی جاتی ہے۔

”قال: فخررت ساجداً ولد عرفت أن قد جاء الفرج“ حضرت کعب بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ اس آواز کے سنتے ہی میں سجدہ میں گر پڑا، اور یقین کر لیا کہ اب یہ مشکل آسان ہو گئی ہے۔

”وَآذن رَسُولُ اللَّهِ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ حِينٍ صَلَوةَ الْفَجْرِ“ اور آنحضرت ﷺ نے نماز نجر کے بعد لوگوں سیہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔

جس وقت ان حضرات کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا اسی وقت دو آدمی، جن میں سے ایک گھوڑے پر سوار ہو کے روانہ ہوئے اور دوسرے پیدل روانہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں جلدی خبر پہنچا دوں تو یہ سلع پیار پر چڑھ گئے اور آواز لگا دی۔ یہ مطلب ہے ”فاولی علی جبل سلع“ کا، آگے حضرت کعب بن مالک ﷺ ان دونوں خبر دینے والے حضرات کا ذکر الگ سے فرمائیں گے۔

ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ اس رات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے تو رات میں توبہ قبول ہونے کی وحی نازل ہوئی، تو اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں ان کو اس خوشخبری کی اطلاع بیجع دوں؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اس وقت لوگوں سور ہے ہوں گے، صحیح کا انتظار کرلو۔ یا

”فَلَدَّهُبُ النَّاسُ يَبْشِرُونَا الْخَ“ توضیح فجر کے وقت میں جب آپ ﷺ نے مسجد میں یہ اعلان فرمایا اب تو لوگ میرے پاس اور میرے ان ساتھیوں کے پاس خوشخبری اور مبارکباد کے لئے جانے لگے جیسے میرے پاس لوگ یہ خبر دینے آئے ویسے ہی میرے دوسرا تھیوں کے پاس بھی ان کو خبر دینے کیلئے لوگ گئے۔

”وَرَكْضَ إِلَى رَجْلِ الْرَّسُولِ وَسَعَى سَاعَ الْخَ“ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوا اور بنو اسلم کا ایک شخص دوڑتا ہوا پیدل گیا اور پیار پر چڑھ گیا، ”وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرْسِ“ اس کی آواز مجھے اس گھوڑے والے سے پہلے میرے کانوں تک پہنچ گئی۔

خلال وقوع الحادث روى اسحق بن راهد ولى رواية معاشر ((لأنزل الله توبتنا على نبيه حين بدأ الثالث الأخير من الليل، ورسول الله ﷺ عند ام سلمة، وكانت ام سلمة محسنة لـ ثالث معنی بامری فقال رسول الله ﷺ: يا ام سلمة توب على کعب، قالت: اللـ ارسل اليه فابشره؟ قال: اذا بعزمكم الناس لم ينفك عن التزم بالليلة. حتى اذا صلي الفجر آذن بتوبيه الله عليه)). صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب (وعلی الداللة الذين خلوا بالليل)، رقم: ۳۶۷، وفتح الباری، ج: ۸، ص: ۱۲۱۔

”لَمْ يَجِدْ لِيَ الَّذِي سَمِعَ صُوْرَهِ يَشْرُنِي لِزَعْتَ لَهُ الْخَ“ جب وہ شخص میرے پاس پہنچا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اپنے دنوں کپڑے اتار کر اس کو دے دیئے کہ تم نے ایسی خوبخبری سنائی، اور اس دن اللہ کی قسم! میرے پاس ان دو کپڑوں کے سوا اور کوئی دوسرے کپڑے نہیں تھے وہ میں نے دے دیا۔

”وَاسْتَعْرَتْ لِرَبِّيْنِ لِلْبَسْتِهِمَا وَالظَّلْفَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ الْخَ“ اور میں نے عاریٰ دو کپڑے لیکر پہنے اور پھر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں جانے اکارستہ میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا، جو مجھے مبارکباد دے رہے تھے، لوگ مجھے کہہ رہے تھے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمایا۔

”قَالَ كَعْبٌ: حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجَدَ لِإِذَا الْخَ“ حضرت کعب بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد میں داخل ہوا تو آنحضرت ﷺ کی تشریف فرماتھے اور بہت سے لوگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔

”فَقَامَ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَهْرُولُ الْخَ“ حضرت طلحہ بن عبد اللہ ﷺ جو عشرہ مشرہ میں سے ہیں، مجھے دیکھ کر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے مصافیہ کیا، پھر مبارکباد دی۔

”وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَى رَجُلٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ الْخَ“ اللہ کی قسم! مہاجرین میں سے کوئی ان کے سواء میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوا اور طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہ بھولوں گا یعنی مہاجرین میں سے صرف طلحہ آگے بڑھتھے۔

ایسے موقع پر آدمی حساس بہت ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر کسی نے اتنی جلدی مبارکباد نہیں دی سوائے ان کے اور حضرت طلحہ بن عبد اللہ ﷺ کے ساتھ حضور ﷺ نے حضرت کعب بن مالک ﷺ کی موآخات کرائی تھی۔ ہاں

”قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْخَ“ حضرت کعب ﷺ کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے آنحضرت ﷺ کو سلام کیا۔

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ يُرِيقُ وَجْهَهُ مِنَ السَّرُورِ“ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا اور اس وقت آپ ﷺ کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا، ”أَبْشِرْ بِخَيْرٍ يَوْمَ مِنْ عَلِيكَ مِنْ دُولَدُوكَ أَمْكَ“ اے کعب ای دن تمہیں مبارک ہو، جو آخر تک ان سب دنوں سے اچھا ہے، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے۔ شراح کرام نے اس جملہ میں کلام کر ہے کہ اس دن کو آپ ﷺ نے بہترین دن فرمایا، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ دن زیادہ مبارک ہو گا، جس میں حضرت کعب بن مالک ﷺ اسلام لائے، لیکن مراد یہ ہے کہ اسلام کی تکمیل اس دن پر ہوئی۔ اگر توبہ قبول نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ - العیاذ بالله -

۱۰ قالوا سب ذلك ان النبي ﷺ كان آخر بيته وبين طلحة لـما آخر بيته بين المهاجرين والأنصار. فتح الباري،

معلوم ہوا کہ اسلام کی تکمیل اس واقع سے ہوئی اور پھر اس واقع نے اتنا بڑا مقام بخشا کہ قرآن نے اس کے اوپر پورا رکوع نازل کیا تو یہ بشارت اور سعادت معمولی سعادت نہیں تھی۔ وہ

”قال، اللہ: أمن عندك الخ“ حضرت کعب بن مالک رض فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ خوبخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟

”قال: لا، بِلْ مَنْ عَنْدَ اللَّهِ“ تور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالم نے فرمایا کہ نہیں! بلکہ اللہ کی طرف سے تمہاری توبہ کی تبیلیت کا اعلان ہوا ہے۔

”وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا صَرَاصِنَارَ وَجْهَهُ الْخَ“ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسالم جب خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارک چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسالم کی خوشی کو پہچان جاتے تھے۔

”لَلَّمَا جَلَسَتْ بَيْنَ يَدِيهِ اللَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مَنْ تُوبَعِي إِلَيْهِ“ پھر میں نے حضور القدس صلی اللہ علیہ وسالم کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں اپنی اس نجات اور معافی کے شکریہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لئے خیرات نہ کر دوں؟ یعنی جو کچھ میرا مال ہے اس سے میں اللہ اور رسول کے واسطے دستبردار ہو جاؤں۔

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ الْخَ“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالم نے فرمایا تھوڑا خرچ کرو اور کچھ اپنے لئے بھی رکھو، کیونکہ یہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ میں نے عرض کیا تھیک ہے، میں اپنا خبر کا حصہ روک لیتا ہوں۔

حضرت ہلال بن امیہ رض کو جب خوبخبری ملی تو پہلا جملہ جوانہوں نے بولا وہ یہ تھا کہ جس مال نے مجھے اس عذاب میں بتلا کیا ہے وہ سارا مال اللہ کے لئے صدقہ ہے اور حضرت مرارہ بن ربع رض کو جب اطلاع ملی تو اس پر انہوں نے کہا کہ جس اہل کی وجہ سے اور جن لوگوں کی وجہ سے میں اس عذاب میں بتلا ہوا تو اب میں نے ان کے بارے میں عہد کیا کہ میں اب ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزاروں گا، انہوں نے یہ کہا کہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔

وَإِنْ شَكَلَ هَذَا الْأَطْلَاقَ بِيَوْمِ اسْلَامِهِ لَالَّهُ مَرْعِلِهِ بَعْدَ أَنْ وَلَدَهُ أَمَهْ وَهُوَ خَيْرُ أَيَامِهِ، لِفَلِلَهِ هُوَ مُسْتَحْيى لِتَدْبِرِهِ وَأَنَّ لَمْ يُنْطِقْ بِهِ لِغَمْدِ عَلَيْهِ، وَالْأَحْسَنُ لِيَ الْجَوَابَ أَنْ يَوْمَ تُوبَتِهِ مُكْمَلٌ لِيَوْمِ اسْلَامِهِ، لِيَوْمِ اسْلَامِهِ بِدَأْيَةِ سَعَادَتِهِ وَيَوْمَ تُوبَتِهِ مُكْمَلٌ لِهَا لَهُ خَيْرٌ جَمِيعُ أَيَامِهِ، وَأَنْ كَانَ يَوْمُ اسْلَامِهِ خَيْرًا لِيَوْمِ تُوبَتِهِ الْمُضَافُ إِلَى اسْلَامِهِ خَيْرٌ مِنْ يَوْمِ اسْلَامِهِ الْمُجْرَدِ عَنْهَا۔ لِنَعْ الْمَارِيِّ، ج: ۸، ص: ۱۲۲

﴿لَهُمْ لَهُمْ أَبْشِرُ أَبْشِرُ أَبْشِرُ﴾، لَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿لَمْ تَأْبِ عَلَيْهِمْ لِيَغْرِبُوا﴾، دَلَمْ: ۱۰۰۸۷، ج: ۱، ص: ۱۹۰۳

”فَقُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِلَيْهِ مُعْلَجٌ بِالصَّدْقِ الْخَ“ پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے حق بولنے کی وجہ سے نجات پائی ہے، اب میں تمام زندگی کی بولوں گا، ”لَوَّاهُ مَا أَعْلَمُ  
أَهْدَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَهْلَهُ اللَّهِ فِي صَدْقَةِ الْخَ“ خدا کی قسم! میں مسلمانوں میں کسی کو نہیں جانتا کہ حق بولنے کی وجہ سے اللہ نے کسی پر ایسی مہربانی فرمائی ہو، جیسی مجھ پر کی ہے، اس وقت جب کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے  
چیزیں کہہ دی۔

”أَهْلًا“ کے معنی نعمت کے ہیں۔ ۱۷

”مَا تَعْمَدْتَ مِنْذَ ذَكْرِ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ إِلَيْهِ الْخَ“ پھر اس وقت سے جب میں اس بات کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا اس کے بعد اب تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی پھر خدا مجھے جھوٹ سے بچائے گا یعنی اب آئندہ بھی جب تک میں زندہ رہوں تو حق ہی بولوں گا۔  
”وَالْزَلْ أَنَّهُ عَلَى رَسُولِهِ“ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ پر یہ آیت نازل فرمائی یعنی ان حضرات کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع عمری اور ہلال بن امية ﷺ کی برأت میں سورۃ التوبہ کی جو آیات نازل ہوئیں:

﴿لَقَدْ أَبَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ  
وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي مَاعِنَةِ الْفُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ  
مَا كَادُ يَرِيْغُ لَلُّؤْبَ لَرِيْقَيْ مِنْهُمْ لَمْ تَأْبَ عَلَيْهِمْ<sup>۷</sup>  
إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ وَلَمْ تُرِحِّمْهُمْ ۵ وَعَلَى الْفَلَاقِ الَّذِينَ  
خَلَفُوا طَحْنَى إِذَا ضَالُّتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ  
بِمَا رَأَيْتَ وَضَالُّتْ عَلَيْهِمُ الْفُسْرَهُ وَظَلَّمُوا أَنَّ لَا  
مَلْجَأً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ۶ لَمْ تَأْبَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوَهَّمُوا  
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّوَابِ الرَّحِيمُ ۷ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
أَتَقْرَأُ اللَّهُ وَكُوْلُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۸﴾

ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسی مشکل گمراہی

۱۷ قوله: ((أَهْلًا اللَّهِ)), أى: أَنَّهُ عَلَيْهِ عَمَدةُ الْمَلَكِ, ج: ۱۸, ص: ۲۷

[العربیہ: ۱۱۴, ۱۱۸, ۱۱۹]

میں نبی کا ساتھ دیا، جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگنگا جائیں، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ یقیناً وہ ان کیلئے بہت شفیق، بڑا مہربان ہے۔ اور ان تینوں پر بھی (اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے) جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود بندگ ہو گئی، ان کی زندگیاں ان پر دو بھر ہو گئیں، اور انہوں نے سبھولیا کہ اللہ (کی بکری) سے خود اُسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی، تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا، تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی سے جو ع کیا کریں۔ یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈر، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔

”لَوْاَللَّهُمَا أَنْعَمْتَ اللَّهَ عَلَىٰ مِنْ نِعْمَةٍ لَطَّالَعَ“ پس اللہ کی قسم امیر سے اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے بڑھ کر میں نے کوئی انعام و احسان نہیں دیکھا کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے مجھے حج بولنے کی توفیق دے کر ہلاک ہونے سے بچا لیا۔

”أَنْ لَا إِكْرَانَ كَذَبَتْهُ فَاهْلَكَ الْخَ“ ورنہ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی تباہ و ہلاک ہو جاتا، جنہوں نے آپ ﷺ سے جھوٹ بولا، جھوٹے حلف اٹھائے۔ یعنی اگر میں بھی جھوٹا عذر پیش کر کے اس وقت اپنی جان چھڑوا لیتا تو شاید میں بھی ان منافقین کی طرح تباہ ہو جاتا جنہوں نے اپنے چیچپے رہ جانے پر جھوٹے بہانے تراشے تھے۔

”إِنَّ اللَّهَ عَالَىٰ قَالَ لِلَّدِينِ كَذَبُوا حِينَ الْخَ“ پیشک اللہ تعالیٰ نے نزول وحی کے زمانے میں جھوٹ بولنے والوں پر اتنی شدید و عیید فرمائی جتنی شدید کسی دوسرے کیلئے نہیں فرمائی یعنی جھوٹے بہانے تراشے والوں پر جس قدر شدید و عیید فرمائی وہ کسی اور کیلئے نہیں کی۔

”فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ“ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

﴿سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُغْرِضُوا  
عَنْهُمْ طَلَاغُرِ حُرْثًا عَنْهُمْ طَالِهِمْ رِجْسٌ وَمَارِهِمْ  
جَهَنَّمُ طَجَزَ آءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ يَخْلِفُونَ لَكُمْ﴾

لَتُرْضِيَ عَنْهُمْ فَلَمَّا تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَلَمَّا لَا  
تُرْضِيَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٣﴾

ترجمہ: جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، تاکہ تم ان پر درگذر کرو۔ لہذا تم بھی ان سے درگذر کر لینا۔ یقین جانو یہ سراپا گندگی ہیں، اور جو کماں یہ کرتے رہے ہیں، اُس کی وجہ سے ان کا نہ کانہ جہنم ہے۔ یہ تمہارے سامنے اس لئے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔

”قالَ كَعْبٌ: وَكَنَا تَخْلُفُنَا أَيْبَهَا الشَّلَالَةُ الْخُ“ یہاں پر حضرت کعب بن مالک رض اس شب کا ازالہ کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم میں تین حضرات کا ذکر ہے تو اس میں الفاظ یہ ہے ”وَعَلَى الشَّلَالَةِ الْمَدِينَ خَلَفُوا“ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب بھی اس پر قائم کیا ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ”خلفووا“ کے معنی وہ تین آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے یعنی غزوہ جو کسے پیچھے رہ گئے تھے، عموماً یہ معنی سمجھتے ہیں تو حضرت کعب بن مالک رض فرماتے ہیں کہ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ تین آدمی جن کے معاملہ کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔

”خلفووا - خلف“ کے معنی ہیں پیچھے کر دینا، جن کے معاملہ کو ملتوی کر دیا گیا تھا، مؤخر کر دیا گیا تھا یعنی منافقین کا معاملہ تو معاف کر کے چھوڑ دیا تھا ان کے معاملہ کو پیچھے رکھ دیا گیا تھا کہ تمہارے بارے میں جب اللہ کا فیملہ آئے گا تو تب دیکھیں گے تو خلفووا کے معنی یہ نہیں کہ غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔

حضرت کعب بن مالک رض نے یہ ایک بہت لطیف بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی تو بے قبول فرماتے ہیں تو اس عمل کو اس کے نامہ اعمال سے منادیتے ہیں، تو بے صرف یہ نہیں ہے کہ عذاب نہیں ہو گا بلکہ نامہ اعمال سے وہ عمل مست جاتا ہے اور جب مست جاتا ہے تو اس شخص کا ذکر کرتے ہوئے اس گناہ کا حوالہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سنت نہیں ہے۔ جس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا تو دنیا میں کسی کو جائز ہے کہ وہ اس گناہ پر کسی کو عارد لائے۔

کونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں مارتے جب تک کہ وہ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ ۴۷  
اتی سخت وعید ہے تو انسان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو عار دلائے، اس گناہ تو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، جب اس گناہ کو مٹا دیا تو اب اس گناہ کے حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

**لِهَذِكَّرِ قَالَ: هُوَ عَلَى الْفَلَاثَةِ الْذِينَ خَلَفُوا هُنَّ هُنَّ**

اس لئے یہ فرمایا کہ: اور ان تینوں پر بھی (اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے) جن کا فیصلہ ملتی کر دیا گیا تھا۔

”وَلَمَسْ اللَّهُ ذِكْرَهُ مَمَا خَلَقَنَا عَنِ الْفَزُورَةِ الْخَ“ اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو جان بوجہ کر غزوہ سے پچھے رہ گئے تھے، اگر پہلا دلائلی لیا جائے کہ غزوہ تبوک میں جو پچھے رہ گئے تھے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ توبہ کے باوجود ان کے گناہ کا کاذکر کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے۔

اس لئے خاص طور سے ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت کعب ﷺ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تین آدمیوں کے معاملہ کو ان لوگوں کے معاملے سے موخر کر دیا گیا تھا جنہوں نے قسمیں کھائیں، عذر بیان کئے، اور رسول اکرم ﷺ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور آپ نے ان سے بیعت کر لی، ان کیلئے استغفار کیا لیکن رسول کریم ﷺ نے ہمارے معاملہ کو موخر کر دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آگیا یعنی ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا۔

اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آیت میں جو ”خلفوا“ ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم غزوہ تبوک سے پچھے رہے بلکہ اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاملہ کو موخر کر دیا اور ان لوگوں کے مقابلے میں ہمارے معاملہ کو موخر کر دیا جنہوں نے قسمیں کھائی تھی اور جنہوں نے عذر پیش کئے تھے اور حضور اقدس ﷺ نے ان کا عذر قبول کر لیا تھا۔ حضرت کعب بن مالک ﷺ بڑی اہمیت کی بات بتا رہے ہیں کہ ”خلفوا“ کا معنی یہ مت سمجھنا بلکہ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے معاملہ میں فیصلہ موخر فرمادیا تھا۔

## حدیث کعب بن مالک ﷺ ادب کا شاہکار

یہ حدیث حضرت کعب بن مالک ﷺ ہے اور شاید ہی کوئی بڑے سے بڑا فصح و بلیغ اور بڑے سے بڑا

ادیب و شاعر وہ تأثیرات اپنے الفاظ میں بیان کر سکے جو حضرت کعب بن مالک رض نے اس میں بیان فرمائے اور اس واقعہ کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنی مؤثر انداز میں بیان کی ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ حضرت کعب بن مالک رض کی حدیث ادب کا بھی شاہکار ہے۔

**حدیث کعب بن مالک رض سے حاصل ہونے والے اسباق و رموز**  
 حضرت کعب بن مالک رض کی حدیث کے بارے میں چند باتیں بڑی اہم ہیں ان کو یاد رکھیں۔  
 یہ حدیث کافی طویل ہے، اس سے مسائل توبے شارٹکتے ہیں اور بڑی تعلیمات اس سے حاصل ہوتی ہیں لیکن چند باتوں کی طرف تنہبہ کرنا ضروری اور مناسب ہے۔

### صحابہ کرام رض کا عزم واستقامت

آپ حدیث میں یہ دیکھیں گے کہ پوری حدیث میں جو مرکزی واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تین بزرگوں کو غزہ جبوک سے پیچھے رہ جانے پر زبردست عتاب کا سامنا کرنا پڑا اور ایسی آزمائش سے گذرتا پڑا جو بڑی سخت آمازش تھی۔

اس سے بعض اوقات جو ہمارے دل میں احتقانہ سوال پیدا ہونے لگتا ہے کہ کاش ہم بھی حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں ہوتے تو اس احتقانہ خیال کی حادث بھی معلوم ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ و تبارک نے ہمیں کسی حکمت ہی سے اس دور میں پیدا کیا، ورنہ اگر اس دور میں ہوتے تو خدا جانے کس صفت میں ہوتے۔

یہ عزیمت، یہ استقامت، اطاعت اور ایمان کا یہ استحکام جو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو عطا فرمایا تھا انہی کا ظرف تھا کہ وہ جھیل گئے ہم جیسے کمزور اور ہم جیسے غفلت شعار اگر ہوتے تو خدا جانے کس صفت میں ہوتے۔ لیکن ساتھ یہ دیکھئے کہ آزمائش اتنی زبردست اور سزا بھی اتنی کڑی اس شخص کو جو سچ بول کر، نادم ہو کر آیا کہ واقعی یا رسول اللہ ! مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ندامت ہوئی اس کو بھی پچاہ دن تک ایسی سخت اذیت سے گذرا گیا کہ جس کو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ میرا دل مجھے پر ٹنک ہو گیا تھا یعنی اپنے اوپر مجھے اپنی جان ٹنک محسوس ہو رہی تھی۔

یہ اس وقت ہے کہ جب آپ ﷺ غزہ جبوک سے واپس تشریف لے آئے اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ غزہ جبوک میں کسی ایک کافر سے بھی لڑائی نہیں ہوئی، مقابلہ نہیں ہوا۔

لہذا اگر اس سفر میں کوئی نہیں گیا تو اس کے نہ جانے سے کوئی نقصان واقع نہیں ہوا اگر لڑائی ہوئی ہوتی

اور خدا نخواستہ اس میں تکست ہوئی ہوئی تو کہتے کہ آدمی کی کمی پڑ رہی ہے اور تم تین آدمی یہاں پر بیٹھ گئے، اس وجہ سے مسلمانوں کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا۔

لیکن یہاں سرے سے لڑائی ہی نہیں ہوئی اور ان کے نہ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ لڑائی بھی نہیں ہوئی اور دیسے ہی واپس آگئے تو اچھا ہوا میں نہیں گیا لیکن باوجود اس کے نہ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوا پھر بھی اتنی کڑی سزا۔

## دین کا مقصود اتباع ہے

چہلی بات جو اس سے نہ لٹکتی ہے وہ یہ کہ شریعت میں اصل چیز ہے اتباع، امر ربی کی اتباع، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے اطاعت اور اس کے آگے سر جھکا دینا یہ ہے قسمی چیز، اور یہی بذات خود مقصود ہے۔

فتح مقصود ہے اور نہ مال غنیمت مقصود ہے، نہ فوائد حاصل کرنا مقصود ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ جس وقت جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، وہ اگر کر لیا تو مقصود حاصل ہے چاہے تکست ہی ہو گئی، اگر جو کہا گیا اس کو پورا نہیں کیا تو مقصود حاصل نہیں ہو گا، چاہے فتح ہی کیوں نہ حاصل ہو گئی ہو۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا اصل چیز اتباع ہے۔

اب کوئی پوچھئے کہ ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے وہ تو کوئی باقاعدہ جنگ ہوئی ہی نہیں اور دیسے ہی لشکر لوث کر آگیا، تو ہمارے نہ جانے سے کیا نقصان پڑا؟

اس کا جواب یہی ہے کہ نقصان یہ ہے کہ ”خطاً اگر راست آیدِ ہم خطأ است“ خطاً اگر راست پر آجائے یعنی اگر اس کے انجام درست ہو جائے تب بھی خطاء، خطاء ہے۔

خطاء یہ تھی کہ جب حکم دیا گیا کہ نکلو اور نہیں نکلے تو یہ نافرمانی ہو گئی، تو سزا اس کی ہے، جنہیں اس پر ہے بائیکاٹ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے، چاہے نتائج کچھ بھی ہوئے ہوں۔

## عمل مقصود ہے، نتائج نہیں!

معلوم ہوا کہ نتائج مقصود نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اتباع، یہ نکتہ ذہن میں آجائے اور دل میں بیٹھ جائے (اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سب کے دل میں بھی بٹھا دیں۔ آمین) تو ہزار ہا اعتراف ہزار ہا گمراہیوں اور ہزار ہا غلط فہمیوں کا سد باب ہو جائے۔

اس لئے کہ سارے دین کی مقصود اتباع ہے جس وقت جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، نہ اپنا شوق پورا کرنا ہے، نہ اپنے جذبات کو تسلیم دینی ہے، نہ نتائج کی کامیابی اور ناکامی کو دیکھنا ہے۔

اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے بس وہ پورا کرو یہ ہے دین! اس حدیث کا سب سے اہم نکتہ ہی ہے۔ ورنہ عام دنیاوی تو انہیں کے لحاظ سے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ نہیں گئے تو نہیں گئے لڑائی ہی نہیں ہوئی۔

## حقوق واجبہ کی رعایت

دوسری بات جو بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ حضرت ہلال بن امیہ رض کے واقعہ میں آپ نے پڑھا کہ گھر والے سالہا سال میں جمع ہوئے تھے سوچا کہ ان کے ساتھ کچھ وقت گذارلوں، حضرت مرارہ بن رشیع عمری رض کے باغ پر کئی سال کے بعد تازہ تازہ پھل آیا تھا، افلاس کے دور سے گذر رہے تھے اور معیشت کا دار و مدار، سارے سال کی روزی کا دار و مدار اسی پر تھا۔ پھر بھی کہا گیا کہ عذر مقبول نہیں اور اس کے باوجود ان کو تنبیہ اور عتاب کا نشانہ بننا پڑا اور اس آزمائش سے گزرننا پڑا۔

اس کو بعض لوگ غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہنچا کر دین کا کام کرنے کے لئے اگر اپنے گھروں کے حقوق واجبہ کو بھی قربان کرنا پڑے تو کرو، ورنہ اتنی زبردست آزمائش۔

اور خصوصاً ہمارے بھائی تبلیغی حضرات، وہ ان کے واقعات بڑے سناتے ہیں اور سننا کہ اس سے ہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ حقوق واجبہ کو بھی قربان کرنا ضروری ہے، اگر بیوی پنج بھوک سے مر رہے ہیں تو مرنے دو اور نکل جاؤ اور نکلنے کے بعد اللہ میاں سے دعا مانگو کہ ان کی روزی کا سامان آپ فراہم کر دیجئے۔

عام لوگ جو پڑھ لکھے سمجھدار لوگ ہیں وہ نہیں کہتے لیکن بعض جو شیلے لوگ اور حقیقت نا آشنا کچھ کے لوگ اس قسم کی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ دیکھو غزوہ تبوک میں کھجور میں پک رہی تھی سارے سال کی معیشت کا دار و مدار اسی پر تھا پھر بھی کہا گیا کہ چھوڑوا اور جاؤ۔

تو خوب سمجھ لو کر دو قسم کی حالتیں ہیں اور دونوں قسموں کی حالتوں کے درمیان فرق ہے۔

ایک وہ حالت ہے کہ جب چہار کے لئے خروج فرض عین ہو جائے، ہر انسان پر فرض عین ہے کہ نکلے، اس وقت میں نکنا ہر شخص پر فرض ہے اور اس صورت میں حقوق واجبہ کی رعایت بھی ضروری نہیں، جیسے کہ حدیث باب ہے۔ اس میں نفیر عام تھی اور کسی کا استثناء نہیں تھا، نکلنے فرض عین ہو گیا تھا۔

اس وقت کے بارے میں فقہاء کرام رحمہم اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ "فِي خَرْجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مُولَاهِ وَالمرأة بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا الْخَ" یعنی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکل جائے اور رسولی بغیر اجازت آتا کے نکل جائے۔

اس صورت میں حقوق واجبہ کو ترک کرنا اجنب ہو جاتا ہے جبکہ فرض عین ہو اور یہاں نبی کریم صل نے

فرض عین فراردے دیا تھا۔ ۶۴

دوسری وہ حالت ہے کہ جہاں کوئی عمل فرض عین نہ ہوا اس حالت میں کچھ لوگ جا رہے ہیں تو اگر کوئی شخص بیوی کو بغیر نفقہ کے یا والدین کو بیمار چھوڑ کر جائے تو باوجود جہاد میں جانے کے تو گناہ گار ہو گا اور باوجود تبلیغ میں جانے کے کیوں گناہ گار ہو گا؟

اس واسطے کہ یہ عمل اس وقت تم پر فرض عین نہیں۔

تم پر اس وقت فرض عین ہے کہ اپنے اہل و عیال کی دلکشی بھال کرو، اس کے نفقہ کا انتظام کرو، اس کی بیماری کے علاج کا انتظام کرو وغیرہ یہ فرض عین ہے، وہ فرض عین نہیں۔

لہذا اس وقت چھوڑ کے جانا تمہارے لئے جائز نہیں اور یہی بات پچھے گزرا ہے کہ اصل نکتہ اتباع ہے، دین کا اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے نہ یہ کہ میرا کیا دل چاہ رہا ہے یا میرا جذبہ کیا ہورہا ہے، مجھے شوق کس چیز کا ہے، مطالبہ کیا ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے وہ ادا کرو۔

اگر اس وقت مطالبہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرو، تو اس کو پورا کرو۔

حضور اکرم ﷺ کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے جہاد میں شریک ہونے کا ارادہ کیا ہے اور آپ سے مشورہ کے لئے آیا ہوں لئے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ صحابی نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور ان کی خدمت کرو کیوں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ۶۵

نکتہ یہ ہے کہ اس وقت تم سے کیا مطالبہ ہے؟

اور یہ نکتہ کبھنا صحبت سے حاصل ہوتا ہے وہ بغیر صحبت کے حاصل نہیں ہوتا۔

جب ایک طرف کی اہمیت سوار ہے کہ میں تو مفتی ہوں گا، بعض اوقات طالب علم آتے ہیں کہ جناب مجھے تھخص کرنا ہے، اب حالات کی تفہیش کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ والدین کو بغیر کسی سہارے کے چھوڑ کے آگئے ہیں۔ ان سے کہا کہ خدا کے بندے تو مفتی بننے آگیا اور والدین تو رور ہے ہیں کہ ہمارا کوئی سہارا نہیں اور تم مفتی بننے آگئے کیونکہ مفتی بننے کا شوق ہے تو یہ مفتی بننا نہ ہوا بلکہ یہ گناہ کا ارتکاب ہے۔

واپس جاؤ! ارے اسی شوق کو کچلنے کا نام تو دین ہے، تو طبیعت میں خواہش پیدا ہو رہی ہے اسی خواہش کو اللہ کے لئے کچلو، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دوسرا کام بتایا ہے۔ ۶۶

۶۴) بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کتاب السیر، فصل فی بیان کیفیۃ فرضیۃ العجاد، ۲۰۰، ص: ۹۸

۶۵) سنن النسائی، کتاب الجهاد، باب الرخصة لى التحالف لمن له والدة، رقم: ۳۱۰۳

تبليغ کا شوق ہو گیا اور یہ نہ دیکھا گیا کہ اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟  
 جہاد کا شوق ہو گیا اور یہ معلوم نہیں ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟  
 اس لئے اس قسم کے واقعات کو جب کہ جہاد فرض عین تھا، ان حالات کو ایسے حالات میں قیاس نہیں  
 کیا جا سکتا جہاں جہاد فرض عین نہ ہونا یا تبلیغ کا فرض عین نہ ہونا یا علم دین کے حصول کا فرض عین ہونا ثابت نہ ہو۔  
 یہ دونیادی باتیں اس سبق سے متعلق تھیں:  
 دین کی ایجاد اور وقت کا تقاضہ۔ ۷۴

وَنَّ قَالَ الْحَاطِلُ فِي "الْفَتْح": قَالَ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ: يَحرِمُ الْجِهَادُ إِذَا مَنَعَ الْأَهْلَانَ، أَوْ أَحَدُهُمَا بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ أَسْلَمِينَ،  
 لَأَنَّ بِرْهَمًا فِرْضٌ عِينٌ، وَالْجِهَادُ فِرْضٌ كُلَّا يَةً لَمَّا تَعْنَى الْجِهَادُ فِلَانَ اذْنَ، وَيَشَهِدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبْنَ حِيَانَ، لِذِكْرِ الْحَدِيثِ  
 الْمُنْتَهَى. ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى جِهَادِ فِرْضِ الْعِينِ تَوْلِيقًا بَيْنَ الْعَدِيْدِيْنَ، وَهُلْ يَلْعَنُ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ بِالْأَهْلَيْنِ فِي ذَلِكَ؟  
 الْأَصْحُ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ نَعَمْ أَهْدَى (٩٨:٢) قَلَتْ: وَكَلَّا عَنْدَ الْحَنْفِيَّةِ، وَلَدَّ خَالِفُوا الشَّالِعَيْهِ لِيَ اشْتَرَاطُ الْإِسْلَامَ لِيَ الْأَهْلَيْنِ،  
 بِلَ الْحُكْمُ عَامَ لِلْكَافِرِ أَيْضًا إِذَا ذَكَرَهُ عَرْوَجَهُ مَخَالَةً وَمُشَقَّةً، وَالْأَبْلَى لِكَرَاهَةِ قَتْلِ الْأَهْلِ دِينِهِ، لِلْإِيْطَبِيهِ مَالِمٌ يَخْفِي عَلَيْهِ  
 الْغَبَّةُ، إِذَا لَوْ كَانَ مَعْسِرًا مَعْنَاجًا إِلَى خَدْمَتِهِ فَرِضَتْ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا. وَلَمَّا مَرَّ الصَّوَابُ تَرَكَ فِرْضَ عِينٍ لِيَتَرَأَصِلَ  
 إِلَى فِرْضِ كُلَّا يَةٍ. أَعْلَاءُ الْسَّنَنِ، ج: ١٢، ص: ١٣

وَنَّ السَّرْفُ الْجِهَادُ عَنْهَا أَوْ كُلَّا يَةً: ثُمَّ قَالَ: وَاخْتَلَفَ فِي جِهَادِ الْكُفَّارِ هُلْ كَانَ أَوْ لَا فِرْضٌ عِينٌ أَوْ كُلَّا يَةٌ؟ ثُمَّ قَالَ لِي بَابَ  
 رَجُوبِ التَّلِيرِ: فِيهِ تَرَلَانٌ مُشْهُورٌ أَنَّ الْعُلَمَاءَ، وَهُمْ فِي مَدْهُبِ الشَّالِعَيْهِ وَقَالَ الْمَارِوْدِيُّ: كَانَ عَنْهَا عَلَى الْمَهَاجِرِيْنَ دُونَ  
 غَيْرِهِمْ، وَبِرِيدَهُ وَجُوبُ الْهِجَرَةِ لِلْفَتْحِ فِي حُلُّ كُلِّ مَنْ أَسْلَمَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِنَصْرِ الْإِسْلَامِ. وَقَالَ السَّهْلِيُّ: كَانَ عَنْهَا عَلَى  
 الْأَنْصَارِ دُونَ غَيْرِهِمْ. وَبِرِيدَهُ مَبَايِعَتِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ لِمَلَةِ الْعَقْبَةِ عَلَى أَنْ يَزُورُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَيَنْصُرُوهُ فَيَخْرُجُ مِنْ لَوْلَهُمَا أَهْلَهُ  
 كَانَ عَنْهَا عَلَى الطَّائِفَيْنِ كُلَّا يَةً فِي حُلُّ غَيْرِهِمْ، وَمَعَ ذَلِكَ لِلَّذِي مَنْ فِي الطَّائِفَيْنِ عَلَى التَّعْبِيْمِ بِلَى حُلُّ الْأَنْصَارِ إِذَا طَرَقَ  
 الْمَدِينَةُ طَارِقًا، وَفِي حُلُّ الْمَهَاجِرِيْنَ إِذَا أَرِيدَ لَكَ أَحَدُ مِنَ الْكُلَّا يَةِ ابْتِدَاءً. وَقَلِيلٌ: كَانَ عَنْهَا فِي الْفَزُورَةِ الَّتِي يَخْرُجُ لَهَا  
 النَّبِيُّ ﷺ دُونَ غَيْرِهِمَا. وَالْتَّحْقِيقُ: أَنَّهُ كَانَ عَنْهَا عَلَى مِنْ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ لِمَلَةِ الْعَقْبَةِ حَقَّهُ وَانَّ لَمْ يَخْرُجْ. وَأَمَّا بَعْدُهُ ﷺ لَهُوَ لِفِرْضٍ  
 كُلَّا يَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، إِلَّا أَنْ تَدْعُرَ الْحَاجَةُ كَانَ يَدْهُمُ الْعَدُوَّ، وَيَتَعَمَّنُ عَلَى مِنْ عَنْهُ الْأَمَامُ. وَيَنْادِي فِرْضَ كُلَّا يَةٍ بِفَعْلِهِ فِي  
 السَّنَةِ مُرِيَّةً عَنْدَ الْجَمِيعِ. وَمِنْ حِجَّجِهِمْ أَنَّ الْجَزِيَّةَ تُجْبِي بَدْلًا عَنْهُ وَلَا تُجْبِي فِي السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ مَرَّةِ الْفَلَالِ لِمَنْ بَدَلَهَا  
 كَذَلِكَ، وَقَلِيلٌ: يَجْبُ كُلَّا يَةً وَهُوَ لَرِيٌّ. ثُمَّ: وَالْتَّحْقِيقُ أَنَّ جِنْسَ جِهَادِ الْكُفَّارِ مُتَعَمِّنٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَمَّا بَعْدُهُ وَاما  
 بِلَسَانِهِ وَاما بِمَالِهِ وَاما بِقَلْبِهِ انتَهَى (٧: ١٢). لَكَتْ: وَلَمْ يَقْلِ أَحَدُ الْهُدَى فَتَالَ الْكُلَّا يَةَ يَجْبُ بِدْرَنَ الْأَمَامِ، ثَبَّتَ أَنَّ وَجَرَبَ  
 الْجِهَادَ بِالْهُدَى مُشْرُوطَ بِبُرْجُودَهِ لِلْأَهْلِمِ. أَعْلَاءُ الْسَّنَنِ، ج: ١٢، ص: ٨، ٧

## ایک اشکال اور اس کا جواب

ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مرارہ بن ربع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما اصحاب بدر میں سے ہیں اور اصحاب بدر کے بارے میں ارشاد ہے کہ "اعملوا ما شتم لقد غفرت لكم" تو پھر عتاب کیوں ہوا؟ بلکہ بعض لوگوں نے اس وجہ سے ان کے بدری ہونے سے انکار کر دیا، اس لئے کہ اگر بدری ہوتے تو جس طرح حضرت حاطب بن أبي بکر رض نے غلطی کی تھی، لیکن حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ اصحاب بدر میں سے ہے اس واسطے ان کو کوئی سزا نہ دی، اسی طرح ان کو بھی نہ دیتے؟

جواب: یہ خیال بالکل غلط ہے، "مُهْفَوَّلَه" ہونا اور بات ہے اور کسی عمل پر دنیا کے اندر سزا دینا اور بات ہے، اگر بدر میں سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے جس پر دنیا دی اعتبار سے نبی کریم ﷺ سزا دینا ضروری سمجھتے تو سزا دیدیتے تو یہ ان کے "مُهْفَوَّلَه" ہونے کے منافی نہیں۔

"مُهْفَوَّلَه" ہونے کا تعلق آخرت سے ہے لیکن دنیا کے اندر کوئی کام ایسا ہو تو سزا دینا درست ہے۔

## (٨١) باب نزول النبي ﷺ الحجر آنحضرت ﷺ كامقام حجر میں قیام فرمانے کا بیان

حجر قوم شود کی بستی کا نام ہے جو حضرت صالح ﷺ کی قوم تھی اور یہ بستی مدینہ منورہ اور شام کے درمیان واقع ہے بلکہ مدینہ منورہ اور جبوک کے درمیان۔

حضور اکرم ﷺ جب جبوک کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو اس علاقہ کے پاس سے گزرے تھے اس گزرنے کا ذکر اس باب میں کیا گیا ہے۔ ۱۷

### ایک اشکال اور اس کا جواب

اس باب میں جو حدیثیں ہیں اس میں فقط مرور کا ذکر ہے نزول کا ذکر نہیں ہے؟

اسی واسطے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ترجمہ میں کسی سے غلطی ہو گئی ہے اصل ترجمہ تھا "باب مرور لبی بالحجر" یعنی نبی کریم ﷺ کا حجر سے گزرنے کا بیان۔

بعض نے یہ کہا کہ نزول یہاں پر مرور ہی کے معنی میں ہے، کیونکہ نزول سے مراد وہاں پر اتر کر اقامت اختیار کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے سواریوں کا ان علاقوں میں جا کر داخل ہونا ہے۔ ۲۸

٣٣١٩ - حدثنا عبد الله بن محمد الجعفی: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا عمر، عن الزهری، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي ﷺ بالحجر قال: ((لا تدخلوا مساكن الدين ظلموا أنفسهم أن يصيّكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين)). ثم لعن رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. [راجع: ٣٣٣]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ جب نبی ﷺ جنگ جبوک کو جاتے ہوئے مقام حجر سے گزرے تو فرمایا کہ ان ظالموں کے مکانات میں داخل نہ ہو، ان پر عذاب نازل کیا گیا تھا، ایسا نہ ہو

أَحْجَرُ الْحَجَرِ، بَكْرَ الْعَاهِ الْمَهْمَلَةِ وَسَكُونَ الْجَمِّ وَفِي آخِرِهِ رَاءٌ؛ وَهِيَ مَا زَلَ لِرَدِّ لَوْمِ صَالِحٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ،

بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ عِنْدَ وَادِيِ الْقَرَىِ، عَمَدةُ الْقَارِيِ، ج: ١٨، ص: ٤٩

٢٧ وَلَوْقَانٌ فِي التَّرْجِمَةِ: بَابُ مَرْوَرِ النَّبِيِّ ﷺ، بَالْحَجَرِ لِكَانَ أَصْوَابُ وَالرَّبِّ، عَمَدةُ الْقَارِيِ، ج: ١٨، ص: ٤٩

کتم پر بھی عذاب آجائے، لہذا اس مقام سے روتے ہوئے گزرو، پھر آپ ﷺ نے اپنے سرمبارک کو چھپا لیا، اور تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے اس جگہ سے نکل گئے۔

## قوم ثمود و صالح کے مقامات سے گزر

اس روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ مقام مجرم کے پاس سے گزرے تو آپ ﷺ نے فرمایا "لا تدخلوا مساکن الدین ظلموا أنفسهم" کہ ان لوگوں کے گھروں میں بالکل بھی مت داخل ہونا، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا تھا یعنی یہ ظالموں کی زمین ہے، جہاں ان کے گھروں میں مت داخل ہو۔

"أَن يصيِّكُمْ مَا أَصَابُهُمْ" ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اس عذاب کا کوئی حصہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا اس اگر داخل ہونا پڑے تو روتے ہوئے داخل ہوں۔

یہ معنی کرنا تو بہت بعید معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کا نشانہ ہو کہ وہی عذاب جو قوم صالح پر آیا تھا وہ عذاب تم پر آجائے کیونکہ وہ عذاب تو ایک خاص شکل میں حضرت صالح ﷺ کی قوم پر آیا تھا، وہ ایک صیحہ تھا، ایک چنگھاڑی اُثنی کی جس نے کلیجہ پھاڑ دیے۔ العیاذ بالله

لیکن وہی چیز دوبارہ گذرنے والے کے اد پر آجانا یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے، لہذا غالباً حضور اکرم ﷺ کا نشانہ تھا کہ ان لوگوں کے کفر و شرک اور باعث عذاب اعمال کے زہر پلے جراشیم و نخوسیت اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہوں گے جن کی بنا پر ان پر عذاب نازل ہوا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ زہر پلے جراشیم اور نخوسیت جو قوم ثمود کے اوپر عذاب لانے کا باعث ہوئے تھے وہ زہر پلے اثرات تمہارے اوپر بھی آ جائیں یہ معنی ہے۔

"إِلَّا أَن تَكُونُوا بِهَا كِينْ" پھر یہ فرمایا اگر مجبوراً اس جگہ سے گزرنا پڑ جائے یاد داخل ہونا پڑے تو روتے ہوئے داخل ہوں، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے وہاں سے گزری۔

"فَمَلَعِنْ رَأْسَهِ رَأْسُرِ السَّيْرِ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيِ" پھر آپ ﷺ نے اپنا سرمبارک کپڑے سے ڈھک لیا اور تیزی سے سوار یوں کو گزارا، یہاں تک کہ وادی سے نکل گئے۔

اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ جس علاقے میں کسی قوم پر عذاب آیا ہو، اس میں آدمی بلا ضرورت نہیں جائے اور اگر جانا بھی پڑ جائے تو جلدی جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے، بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا اور گز اگز اتا ہو ادا خل ہو۔

ہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے موقع پر جب دادی بھر سے گذرے تو ناقہ کو ایڈ لگائی تو وہ وہاں سے دوڑ گئی، تو وہاں بھی آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا کیونکہ وہ بھی عذاب کی جگہ تھی۔

## مقامِ عبرت ہے کہ نہ مقامِ سیاحت

اس واسطے یہ ایک عام اصول معلوم ہو گیا کہ آدی عذاب کی جگہ میں ایک تو بلا وجہ شوق و ذوق سے نہ جائے، اور اگر جائے تو جلدی سے جلدی نکل چلے۔

میں جب تبوک جارہا تھا تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ مجرم سے ہوتے ہوئے جائیں اور وہاں جو لوگ گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اب تک ان کے ہندرات جو باقی ہیں تو ان کے پہاڑوں کے اندر ان کے گھر بننے ہوئے ہیں اس کے جو مناظر ہیں وہ نظر آتے ہیں۔

ساتھیوں نے کہا کہ چل کر دیکھتے ہیں، میں نے کہا کہ مجھے تو ہمت نہیں ہوتی، جہاں سے حضور اکرم ﷺ سرڈھا لک کرتیزی سے تشریف لے گئے، آپ ﷺ نے اپنی سواریوں کو تیزی سے ڈوراتے ہوئے گزارا اور فرمایا کہ یہاں داخل نہ ہوں، اگر مجبوراً داخل بھی ہونا پڑے تو روتے ہوئے داخل ہوں، تو ایسی جگہ باقاعدہ شوق و ذوق اور اہتمام کے ساتھ جائیں اس کی تو مجھے ہمت نہیں ہوتی۔

میں نے جس راستے پر سفر کیا ہے وہ تبوک جانے کے لئے موجودہ راستہ ہے، اور یہ مقام میں اس راستے میں نہیں آتا تھوڑا سا نیچے اترنا پڑتا ہے پھر یہ مقامات آتے ہیں، تو میں راستے میں آجائے تو یہ الگ بات ہے لیکن عذاب الہی کی اس جگہ کو باقاعدہ مقصود بنا کر جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔

**۳۳۲۰۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر: حدثنا مالک، عن عبد الله بن دینار، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول الله ﷺ لاصحاب الحجر: ((لا تدخلوا على هؤلاء المعدبين إلا أن تكونوا بما كمن أن يصيّبكم مثل ما أصباهم)). [راجع: ۳۳۳]**  
 ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مجرم کے مقام پر لوگوں سے فرمایا تم اس جگہ مت داخل ہو یہاں کے لوگوں پر عذاب نازل ہوا تھا، مگر یہ کہ تم روتے ہوئے گزر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہو جائے، جو ان پر ہوا تھا۔

## اصحابِ مجرم سے مراد

”اصحابِ الحجر“ کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے، ویسے اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ مجرم کے باشندے۔

لیکن یہاں شراح حدیث یہاں پر اس کی تشریح یہ بیان کی ہے کہ "اصحاب الحجر" سے وہاں کے باشندے نہیں تھے بلکہ حضور ﷺ کے رفقاء تھے، جو حجر سے گذر رہے تھے ان کے اوپر لفظ حجر کا اطلاق کر دیا۔ ۳۳

## (۸۲) باب

### یہ باب ترجمۃ الباب سے خالی ہے۔

۳۳۲۱ - حدثنا يحيى بن بکیر، عن الليث، عن عبد العزیز بن أبي سلمة، عن سعد بن ابراهیم، عن صالح بن جبیر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة قال: ذهب النبي ﷺ لبعض حاجته فلقيت أسكتب عليه الماء - لا أعلم إلا قاتل: في غزوة تبوك - ففسل وجهه وذهب يفضل ذراعيه فضاق عليه كما الجبة فآخر جهها من تحت جنبه لفسلهما لم مسح على خفيه. [راجع: ۱۸۲]

ترجمہ: عروہ بن مغیرہ اپنے والد حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ رفع حاجت کیلئے تشریف لے گئے، واپس آئے تو میں وضو کیلئے پانی ڈالنے کے لئے کھڑا ہوا، عروہ کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے میرے والد مغیرہ ﷺ نے کہا کہ یہ واقعہ غزوہ تبوك کا ہے، پھر آپ ﷺ نے من کو دھویا اور جب کہنیوں تک ہاتھ دھونے کا ارادہ کیا تو جبہ کی آستین تنگ تھی، اس لئے دونوں ہاتھ باہر نکال لئے تھے، پھر موزوں پر مسح کیا۔

۳۳۲۲ - حدثنا خالد بن مخلق: حدثنا سليمان: حدثني عمرو بن يحيى، عن عباس بن سهل بن سعد، عن أبي حميد قال: أقبلنا مع النبي ﷺ من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: ((هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ولحبه)). [راجع: ۱۳۸۱]

ترجمہ: حضرت ابو حمید ساعدی ﷺ نے بیان کیا کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ غزوہ تبوك سے واپس جب مدینہ کے قریب پہنچ تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ طابة آگیا، (مدینہ کا نام) اور یہ جبل أحد ہے، جو کہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کرتے ہیں۔

۳۳) قوله: ((لاصحاب الحجر)) قال الكرماني: أي الصحابة الذين مع رسول الله ﷺ في ذلك المرض، فاضيفوا الى

الحجر بملائمة عبورهم عليهم. عمدة القارئ، ج: ۱۸، ص: ۷۹

٣٣٢٣ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا حَمِيدُ الطُّوْبَىْلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَلَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: ((إِنَّ الْمَدِينَةَ أَقْوَامًا مَا سَرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا لَطْفَتُمْ وَادِيًّا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: ((وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَسِبُهُمُ الْعَدْرَ)). [راجعاً: ۲۸۳۸]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے بیان کیا کہ ہم جنگ تبوک سے رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے ہمراہ لوٹے آ رہے تھے تو مدینہ کے قریب پہنچ کر آنحضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ میں رہ کر بھی جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے پار کیا وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ رہے۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مدینہ میں رہ کر؟ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا ہاں! ہاں مدینہ میں رہتے ہوئے بھی، وہ اپنے عذر کی وجہ سے رہ گئے تھے۔

### محور اپنے پیچے رہ جانے والے صحابہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے لئے بشارت

اس حدیث میں آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ان حضرات صحابہ کرام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ذکر کیا ہے کہ جو کسی عذر کی وجہ سے جانے سے رہ گئے تھے اور غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔

ان صحابہ کرام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ میں رہ کر بھی تمہارے ساتھ رہتے، جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے پار کیا وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ رہے گویا انکے دل تمہارے ساتھ رہتے، لیکن جو بھی آپ لوگ سفر کر رہے ہیں اس میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو مدینہ منورہ میں عذر کی وجہ سے رکے رہے ورنہ فی نفسہ انکے اندر بھی غزوہ میں شرکت کا جذبہ تھا۔

## (۸۳) باب کتاب النبی ﷺ ای کسری و قیصر نبی ﷺ کے ان خطوط کا ذکر جو کسری اور قیصر کو لکھے گئے

حضور اکرم ﷺ نے قیصر و کسری کے نام خط لکھے ہیں اور یہن چھ بھری میں غزوہ حدیبیہ کے بعد کا واقعہ

۔

اس وقت آپ ﷺ نے مختلف سلاطین کے نام خطوط سمجھے۔ ان میں سے ایک خط یہ ہے جس کا یہاں پڑکر ہے جو ایران کے بادشاہ کسری کے نام تھا۔

۳۳۲۲ - حدثنا إسحاق: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح عن ابن دهاب قال: أخبرنى عبد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله ﷺ بعث بكتابه إلى كسرى مع عبدالله بن حذافة السهمي. فامرءه أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدلله عظيم البحرين إلى كسرى، للعاقل رأه مزالة، فحسبت أن ابن المسيب قال: لدع على رسول الله ﷺ أن يمْزقوا كل ممزق. [راجع: ۶۳]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن حذافہ کی ﷺ کو خط دے کر کسری کے پاس بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اس خط کو بحرین کے عامل کو دے دیں، چنانچہ بحرین کے عامل نے وہ خط لے کر کسری کے پاس روانہ کر دیا، جب کسری نے اس خط کو پڑھا تو پھاڑ ڈالا۔ ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ ابن مسیب رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے لئے یہ بددعا فرمائی کہ اے اللہ! ان کو اسی طرح نکلے نکلے کر دے۔

### کسری کے نام خط سمجھنے کا واقعہ

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنا مکتب کسری یعنی ایران کے بادشاہ کے پاس حضرت عبد اللہ بن حذافہ کی ﷺ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔

”لامرہ ان یدفعه إلى عظیم البحرين“ اور نبی کریم ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن حذافہ کی  
کو حکم دیا کہ کہ یہ خط جا کر بحرین کے سردار کو دے دیں۔

کیونکہ اس وقت بحرین کا علاقہ کسری کے زیر سلطنت تھا اور اس وقت بحرین کا عامل منذر بن ساودی عبدی

تحا جو کہ کسری کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ ۳۴

”لَدْفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرِينَ إِلَى كَسْرِي“ تو آپ ﷺ کے قاصد نے وہ خط بحرین کے عامل کے حوالے کیا اور اس نے وہ خط کسری کے پاس بھجوادیا، ”لَمَّا قَرَأَهُ مَزْقٌ“ جب اس بدجنت کسری نے وہ خط پڑھا تو اس نے اس خط کو چاک کر دیا یعنی بھاڑ دیا۔

”لَحِسْبَتْ أَنْ أَبْنَى الْمُسِيبَ قَالَ“ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ سعید ابن مسیتب رحمہ اللہ نے بھی یہ بات فرمائی کہ جب رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر ملی کہ کسری نے خط کو چاک کر دیا ہے، ”لَدْعَاعَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَمْزُقُوا كُلَّ مَعْزَقٍ“ تو رسول اللہ ﷺ نے اس بدجنت کے لئے بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس طرح بلکہ یہ بلکہ ہے کر دے، یعنی جس طرح انہوں نے رسول کریم ﷺ کے مکتوب مبارک کے بلکہ یہ بلکہ ہے کئے اسی طرح ان کی سلطنت بھی بلکہ یہ بلکہ ہے ہو جائے۔

## سلطنت کسری کی تباہی

چنانچہ رسول کریم ﷺ کی یہ دعا قبول ہوئی اور کسری کی عظیم سلطنت پارہ پارہ ہوئی، اس وقت کسری کے جس بادشاہ کو خط لکھا تھا اس کا نام پرویز بن ہرمز بن نوشیروان تھا، سلطنت کسری کی تباہی اور زوال کا آغاز اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا۔

کیونکہ ایسے واقعات پیش آئے کہ شاید ہی کسی کے ساتھ پیش آئے ہوں کہ اس کا بیٹا تھا شیر و بیہ، وہ اس کی بیوی شیرین پر عاشق ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اس فکر میں رہنے لگا کہ کسی طرح باپ کو ہلاک کر دوں تاکہ شیرین میری دسترس میں آجائے اور اس نے ایک مرتبہ باپ کو زخمی بھی کر دیا، جب پرویز زخمی ہوا اور اس کو پتہ چلا کہ بیٹا میرے کو قتل کرنے کی تاک میں ہے تو باپ یعنی پرویز نے اپنی حفاظت کی جو بھی تدبیر ہو کی لیکن اس سے زیادہ یہ فکر کی کہ جب یہ مجھے ہلاک کر دے تو خود بھی ہلاک ہو جائے۔

اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک بڑا شدید زہر تھا، اس زہر کی شیشی کے اوپر لکھ دیا کہ یہ دوامقوی باہ ہے اور یہ لکھ کر اس شیشی کو اپنی مخصوص الماری میں رکھ دی۔ اس خیال سے کہ اگر میرا بیٹا مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ ضرور اس الماری کو کھو لے گا، اس کی تلاشی لے گا اور جب وہ یہ لکھا ہوا پائے گا کہ یہ قوت باہ کی دوائی ہے، جس کا وہ بڑا اشوفیں ہے، تو لازماً اس کو استعمال کرے گا۔

چنانچہ بھی ہوا کہ جب بیٹا اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے پرویز کی مخصوص الماری کو کھول کر تلاشی لی تو اس میں سے یہ شیشی بھی برآمد ہوئی، جس کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اور قوت باہ کی دوائی سمجھ کر پل گیا جس کے نتیجہ میں اسی وقت وہ بھی ہلاک ہو گیا یوں اس خاندان کی تباہی کا آغاز ہوا۔

اب ان دونوں باتیں کی ہلاکت کے بعد سلطنت کے مشیروں اور سرکردہ لوگوں نے شیرودیہ کی ایک نوجوان لڑکی جس کا نام بوران بنت شیرودیہ بن کسری بن پرویز تھا، اسکو تخت و تاج کا مالک بنادیا، وہ سلطنت کی حکمران بن بیٹھی، جبکہ اسکے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسکی بہن یعنی پرویز کی بیٹی آذرمیدخت کو بھی حکمران بنایا گیا۔ جب سلطنت کسری کی حکمرانی ایک عورت کو سونپے جانے کی اطلاع حضور اقدس ﷺ کو ہوئی جیسا کہ حضرت ابی بکرہ ؓ کی اگری روایت میں آرہا ہے "ان اهل فارس قد ملکوا علیہم بنت کسری" کہ اہل فارس نے کر رکھی تھی کو حکمران بنایا ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا "لن یفلح قوم ولو امرهم امراء" ہر گز کوئی قوم فلاخ نہیں پاسکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنایا۔ ۵

اور پھر یوں اس خاندان کی تباہی کے بعد کسری کی سلطنت کی تباہی بھی شروع ہو گئی اور بعد میں حضرت عمر ؓ کے دورِ خلافت میں جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کر لیا تو تب اس سلطنت کا مکمل خاتم ہو گیا۔

**٣٣٢٥ - حدثنا عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف، عن الحسن، عن أبي بكره قال:**  
لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ﷺ أيام الجمل بعد ما كدت الحق باصحاب  
الجمل فأتايل معهم. قال لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس قد ملکوا عليهم بنت  
کسری قال: ((لن یفلح قوم ولو امرهم امراء)). [النظر: ۹۹] ۶

۵) قوله: ((ملکوا علیہم بنت کسری)) ہی بوران بنت شیرودیہ بن کسری بن پرویز، وذلک ان شیرودیہ لما قاتل اباء کما تقدم کان ابہہ لیا عرف ان ابہہ قد عمل على تله احتمال على قتل ابہہ بعد موته فعمل في بعض خزانہ المختصہ به حقا مسموما وکتب عليه: حق الجماع، من تناول منه هذا جامع کلدا. فقرأه شیرودیہ، فتناول منه لکان له ملاکہ، فلم يعش بعد ابہہ سوى ست اشهر، للسممات لم يخلف أخلاقا له کان لکل اخوله حرما على الملك ولم يخلف ذکرا، وکثر هؤلء خروج الملك عن ذلك البيت فملکوا المرأة واسمها بوران بعض الموردة. ذکر ذلك ابن قتيبة في المغاری. وذكر الطبری أيضاً ان اختها اذر مددخت ملکت ابہہا. فتح الباری، ج: ۸، ص: ۱۲۸، رعدۃ القاری، ج: ۱۸، ص: ۸۳

۶) وسنن الترمذی، ابواب الفتن، رقم: ۲۲۶۲، وسنن النسائي، کتاب آداب القضاة، باب البھی عن استعمال النساء في الحكم، رقم: ۵۳۸۸، وسنن احمد، باب حدیث ابی بکرہ فتح بن العارث بن للادة، رقم: ۲۰۳۴۳، ۲۰۳۴۸، ۲۰۳۰۲

ترجمہ: حضرت ابی بکرہؓ نے بیان کیا کہ اللہ نے مجھے جنگِ جمل کے زمانہ میں رسول اللہؐ کے اس ارشاد سے بہت فائدہ پہنچایا، اس کے بعد کہ قریب تھا کہمیں اصحابِ جمل کے ساتھ شریک ہو کر لڑوں۔ حضرت ابی بکرہؓ نے فرمایا کہ جب آپؐ کو سری کی بیٹی کے تحت نشین ہونے کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا تھا کہ بھلا وہ قوم کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے جس نے عورت کو اپنا حکمران بنالیا۔

## ابو بکرۃؓ کی جنگِ جمل سے علیحدگی کا واقعہ

"لَقَدْ لَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلْمَةٍ سَمِعْتُهَا الْغُ" حضرت ابی بکرہؓ فرماتے ہیں کہ مجھے جنگِ جمل کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ سے نفع پہنچایا جو میں نے نبی کریمؐ سے سناتا۔

"ایامِ الجمل" یہ "لفعنی" کیلئے ظرف واقع ہوا ہے نہ کہ "سمعت" کے لئے، یعنی مجھے اس کلمہ نے فائدہ پہنچایا۔

ایامِ جمل کے زمانہ میں جب کہ میں قریب تھا کہ اصحابِ جمل کے ساتھ مل جاؤں اور ان کے ساتھ مل کر حضرت علیؓ سے اختلاف کروں یعنی میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اصحابِ جمل کے ساتھ تھیں اور حضرت علیؓ کے خلاف ان کی قیادت کر رہی تھیں تو اس واسطے میرے دل میں آیا کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مل کر لڑائی میں شریک ہوں اور حضرت علیؓ کے لشکر سے مقابلہ کروں لیکن مجھے نبی کریمؐ کا ایک ارشاد یاد آگیا جو میں نے سناتا تو مجھے اس نے بڑا فائدہ پہنچایا۔

آپؓ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ کسری کی بیٹی کو بادشاہ بنادیا گیا ہے تو آپؓ نے ارشاد فرمایا کہ "لَنْ يَفْلُحْ لَوْمٌ وَلَوْ أَمْرُهُمْ اُمْرَأٌ" بھلا وہ قوم کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے، وہ قوم کیسے فلاج پا سکتی ہے، پہنچ سکتی ہے؟، جو اپنا معاملہ کسی عورت کے حوالہ کر دیں یعنی جس قوم نے عورت کو اپنا حکمران بنالیا وہ قوم باقی نہیں رہ سکتی۔

جب مجھے یہ ارشاد یاد آیا اور خیال آیا کہ اصحابِ جمل نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنا سربراہ بنایا ہوا ہے تو یہ اس حدیث مبارک کے خلاف ہے، لہذا میں پھر ان سے الگ رہا۔

چنانچہ انہوں نے نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دیا اور نہ حضرت علیؓ کا ساتھ دیا بلکہ الگ رہے اور ان صحابہؓ میں سے ہے جنہوں نے دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کا بھی ساتھ نہیں دیا تھا۔

اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کیسے گوارا کر لیا پاوجو حضورؐ کے اس ارشاد کے، تو یہ ایک دریائے خون ہے جس میں داخل ہونا بڑا خطرناک ہے۔

جیسا کہ میں جگب صحن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ عجیب و غریب حالات تھے، ایسے ہی جگب جمل میں بھی ایسے واقعات پیش آئے، غلط فہمیوں کے دروازے کھلے، سازشی فتنہ پرور لوگوں نے بے بنیاد باتیں پھیلا دیں اور ادھر کی باتیں ادھر کی لگتیں، اس کے نتیجے میں یہ افسوسناک منظر سامنے آیا کہ ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فوج تھی اور ایک طرف حضرت علیؓ کی فوج تھی۔

یہ سب قضاۃ قدرت میں تھا کہ تکونی طور پر اللہ تعالیٰ کو اس سے بہت سی مصلحتیں نکالنی منظور تھی، باقی تشریحی اعتبار سے اس کے بارے میں الٰی السنۃ والجماعۃ کا مؤلف یہ ہے کہ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجتماعی غلطی ہوئی۔

اس کے بعد خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اعتراف کرتی تھیں اور جب یہ آیت پڑھتی تھیں **﴿وَلَرَءَةٌ**  
**فِي أَهْوَى مُكْنُنٍ﴾** تو بے تحاشہ روئی تھیں، یہاں تک کہ آپ کی اوڑھنی تر ہو جاتی تھی۔

نبی کریم ﷺ نے جمیۃ الوداع کے بعد اپنی ازواج سے فرمایا تھا کہ "هذه، ثم ظهور الحصر" اب یہ حج تو کر لیا اب آئندہ تمہارے لئے تمہاری چنائیوں کی پشت ہے یعنی اپنی چنائیوں کی پشت سے نہ المحسنا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اگر حضور ﷺ کے ارشاد پر عمل کرتی تو کبھی اس فتنہ میں جتلانہ ہوتی، لیکن میں گئی اور حالات ایسے پیش آئے۔

اللہ بچائے کہ جب چاروں طرف سے غلط فہمیاں پھیلائی جاری ہوں اور طرح طرح کے فتنے اور فتنہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ اچھے بھلے آدمی کے سامنے حق ملتبس ہو جاتا ہے، تو اس واسطے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ بڑی غلطی ہوئی، روئی تھیں اور اوڑھنی تر ہو جاتی تھی۔

یہ بات یاد رکھئے کہ جانشین میں سے کسی کا مقصد بدینی نہیں تھا، کسی کا بھی مقصد دنیا طلبی نہیں تھا، مقصد اللہ تعالیٰ ہی کو راضی کرنا تھا، اللہ کے احکام پر عمل ہیرا ہونا تھا تو اجتہادی غلطی ہو گئی، اسکی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔

## خلاصہ جنگ جمل

خلیفہ ہالث حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد امام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب مج

۱- الطبلات الکبری، ذکر ازواج النبی ۱۳۲۸، ۱۳۲۸؛ عالیۃ بنت ابی هکر الصدیق، ج: ۸، ص: ۲۳، والسنن الکبری للبیهقی، کتاب العج، باب المرأة تهیی عن کل سفر لابلز منها بهر محرم، رقم: ۱۰۱۳۲، ج: ۵، ص: ۳۷۲، ومسند ابی یعلی الموصی، حدیث زینب بنت جحش عن النبی ۱۵۳، رقم: ۱۵۳، ج: ۷، ص: ۱۳، ومسند

ابی یعلی الموصی، حدیث زینب بنت جحش عن النبی ۱۵۳، رقم: ۱۵۳، ج: ۷، ص: ۸۰

کو گئیں، تو بعض صحابہ کی جانب سے حضرت عثمان رض کے قصاص کا مطالبہ کیا گیا، جن میں حضرت معاویہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ وغیرہ رض شامل تھے۔

وہی قصہ جو حضرت معاویہ رض کے ساتھ پیش آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے جا کر شکایت کی کہ دیکھیں حضرت علی رض حضرت عثمان رض کا قصاص نہیں لے رہے ہیں، تو شروع میں حضرت علی رض سے کچھ مذاکرات ہوئے اور مذاکرات میں یہ طے پایا کہ جن لوگوں پر حضرت عثمان رض کے قتل کی تہمت ہے حضرت علی رض ان کو خود سے الگ کر دیں پھر یہ سب حضرات حضرت علی رض کے ہاتھ بیعت کر لیں گے اور پھر حضرت علی رض قوت پا کر ان کے سر کو بی کریں گے۔

اب جو قاتلین عثمان تھے ان کو پہنچ چل گیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کسی بھی دن یہ صلح ہو جائے گی تو آدھی رات کو ان کی ایک نولی نے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یکمپ پر حملہ کر دیا اور دوسری نولی نے جا کر حضرت علی رض کے یکمپ پر حملہ کر دیا اور اس کے نتیجہ میں حضرت علی رض کے حصے میں یہ مشہور ہو گیا کہ دوسرے فریق نے وعدہ خلافی کی اور قصاص کا مطالبہ کرنے والے فریق میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت علی رض نے وعدہ خلافی کی۔

اس سازش کے نتیجے میں جنگ چھڑ گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کا سربراہ بنادیا گیا اور دونوں لشکر مکڑا نے اور ہزار جانیں گئیں اور یہاں تک کہ اہل جمل کو نکلت ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی ہنگامہ میں اپنے اونٹ سے نیچے گرنے لگیں تو حضرت علی رض نے اسی موقع پر فوراً جنگ بندی کی اور خود آکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بڑے اکرام کے ساتھ واپس مدینہ پہنچایا۔  
یہ جنگ جمل کا مختصر خلاصہ ہے۔ ۸۷

## سکوت اختیار کرنے کی صورت

سوال: یہ جو کہا گیا کہ حضرت علی رض اور حضرت معاویہ رض کے مابین اختلاف میں، حضرت علی رض حق پر تھے اور حضرت معاویہ رض سے اجتہادی خطاء ہوئی یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس بارے میں اجتہادی خطاء ہوئی تھی تو کہنے کا مٹاٹی ہے کہ یہ جرم کے ساتھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟  
اگر سکوت اختیار کیا جائے تو اس میں کیا جرم ہے؟

جواب: اس بات کا جواب یہ ہے کہ سکوت اختیار کرنے میں بھی کوئی مضافات نہیں بلکہ صحابہ کرام ﷺ کی ایک بہت بڑی جماعت اُسی ہے کہ انہوں نے سکوت ہی اختیار کیا اور ہمارے علماء میں سے بعض علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ اس معاملے میں اس ارشاد باری تعالیٰ کا حوالہ دیا ہے کہ

**﴿إِنَّكَ أَمْتَأْذِنَدْ خَلَقَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ**

**مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنْهَا لَوْنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ۹۶**

ترجمہ: وہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اُن کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔

اس موقف کو کوئی اگر اختیار کرے تو فی نفسہ کوئی مضافات نہیں۔ لیکن جس وجہ سے زیادہ علماء اہل السنۃ نے یہ موقف اختیار کیا اور تعین کیا کہ حق کس کے ساتھ تھا اور خطاء اجتہادی کسی کی تھی اس کی دو وجہ ہیں:

پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ تعین نہ کی جائے اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت علی ﷺ کو خلیفہ راشد نہیں کہا جا سکتا۔

تعین طور پر حضرت علی ﷺ کو خلیفہ راشد کہنا مشکل ہے، اس صورت میں جب کہ حضرت علی ﷺ کا خلیفہ راشد ہوتا یہ بالکل اہل السنۃ والجماعت کے عقیدہ کا لازمی حصہ ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کی مشاجرات کی ایک تکونی حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے فقہاء کرام نے بہت سے نقیبی احکام نکالے ہیں، ان احکام کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ حضرت علی ﷺ کو حق پر سمجھا جائے۔ اگر یہ معاملہ بالکل سکوت عنہ چھوڑ دیں تو اس صورت میں ان احکام کا استنباط درست قرار نہیں پائے گا تو اس وجہ سے زیادہ علماء اہل السنۃ اس طرف گئے ہیں۔

لیکن اگر کوئی یہ سکوت کا موقف اختیار کرے تو تھیک ہے کہ حضرت علی ﷺ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور خلیفہ راشد سے بھی جزوی غلطی ہو سکتی ہے، مخصوص تو نہیں ہوتا، جزوی طور پر کوئی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے تو اگر کوئی شخص یہ موقف اختیار کرے کہ حضرت علی ﷺ کو خلیفہ راشد تو مانتے ہیں لیکن ہم سکوت اختیار کرتے ہیں۔

ہم یہ فصلہ کیوں کریں اور ہم کون ہوتے ہیں یہ فصلہ کرنے والے کہ ان حضرات میں سے بن حق پر تھے اور کون نہیں؟

ہم تو اس معاملہ کو اللہ پر چھوڑتے ہیں، تو اس صورت میں نہ صرف کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ یہ موقف بہت سلامتی کا موقف ہے۔

اہل صفين کے بارے میں کسی نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے ان کی رائے پوچھی تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا "تلک دماء طهر اللہ منها بدی فلا احباب ان اغضب بها سالی" جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں یعنی ہماری تکواروں کو ان حضرات کے پاکیزہ خون میں ملوٹ ہونے سے محفوظ رکھا تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس معاملہ میں اپنی زبانوں کو خراب کریں۔ میں اس لئے سلامتی اس میں بھی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے بشرطیکہ حضرت علیؓ کو خلیفہ راشد ہونے کو آدمی تسلیم کرے۔ ایک قوم ہے درحقیقت اس کا مقصد حضرت علیؓ کی خلافت راشدہ کا انکار ہے اور اس کیلئے یہ سب دعندے کرتی ہے۔

۳۲۲۶۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفیان قال: سمعت الزہری، عن الصالب بن یزید يقول: أذکر انی خرجت مع الفلمان إلی لنبی الوداع نلتفی رسول اللہ ﷺ، وقال سفیان مرة: مع الصیبان. [راجع: ۳۰۸۳]

ترجمہ: زہری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سائب بن یزیدؓ نے بیان کیا کہ میں اس بات کو بھولانہیں کہ میں کچھ لڑکوں کے ہمراہ شنبیۃ الوداع تک آنحضرت ﷺ کا استقبال کرنے آیا تھا، اور سفیان نے ایک مرتبہ اس حدیث میں غلام کی جگہ صیبان کہا ہے۔

۳۲۲۷۔ حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفیان، عن الزہری، عن الصالب: أذکر انی خرجت مع الصیبان نلتفی النبی ﷺ إلی لنبی الوداع مقدمہ من غزوۃ تبوک [راجع: ۳۰۸۳]

ترجمہ: زہری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سائب بن یزیدؓ نے کہا مجھے یاد ہے کہ میں بچوں کے ہمراہ شنبیۃ الوداع تک آنحضرت ﷺ کے استقبال کے لئے گیا تھا، جب کہ آپ ﷺ جنگ تبوک سے واپس تشریف لارہے تھے۔

## تبوک سے واپسی پر شنبیۃ الوداع میں استقبال

حضرت سائب بن یزیدؓ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں لڑکوں کے ساتھ شنبیۃ الوداع کی طرف نکلا

ہدیہ مہاج السنۃ النبویة، باب: الرد علی قول الرافعیان ابن مسعود و کان یطعن علی عثمان و بکفره رضی اللہ عنہما،

ج: ۲، ص: ۲۵۳ و التدرین فی اخبار قزوین، باب: حرف الاف فی آہالہم، ج: ۱، ص: ۱۹۲

قا، نبی کریم ﷺ کے استقبال کرنے کے لئے یعنی جب آپ ﷺ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو ہم بچہ شیعہ الوداع میں لگے تھے اور شیعہ الوداع میں کھڑے ہو کر نبی کریم ﷺ کا استقبال کیا تھا ایسا ہی واقعہ بھرت کے وقت میں بھی آتا ہے کہ بھرت کے وقت میں بھی استقبال کیا تھا اور اس وقت "طلع البدر علینا من شیعہ الوداع" یہ رانے پڑھے گئے تھے۔

لیکن شبہ یہ ہو رہا ہے کہ بھرت کے وقت آپ ﷺ آرہے تھے تو کہ کمر مکہ کی طرف سے یعنی جنوب کی طرف سے آرہے تھے اور تبوک سے جب آرہے تھے تو شمال کی جانب سے آرہے تھے۔ مدینہ منورہ جنوبی جانب سے شروع ہوتا ہے اور شمالی جانب ختم ہوتا ہے، یعنی شمال والی طرف تبوک اور جنوب کی طرف کہے۔ تبوک سے جب آتے ہیں تو شمال سے اور کہ سے آتے ہیں تو جنوب۔ اس صورت میں تو استقبال کی جگہ وہ ہونی چاہئے جہاں سے شہر شروع ہو رہا اور وہ مقام ہے یعنی جنوبی طرف یعنی مکہ کمر مکہ کی سمت میں۔

اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر شیعہ الوداع یہاں جنوب کی طرف ہے تو تبوک سے واپسی پر یہاں سے کیسے استقبال ہو گا؟

اگر شمال کی جانب ہے تو بھرت کے وقت کیسے استقبال ہو گا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف شیعہ الوداع تھی، یعنی شیعہ الوداع دو مقامات ہیں ایک شمال میں اور دوسرے جنوب میں، دونوں جگہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔

اہل مدینہ جب کسی کا استقبال کرتے تو جنوب سے آنے والے کا جنوب میں واقع شیعہ الوداع سے کرتے اور شمالی یعنی شام کی جانب سے آنے والے کا شمالی جانب واقع شیعہ الوداع سے کرتے، تو بھرت کے وقت جہاں استقبال کیا وہ قبایں کیا، وہاں پر بھی شیعہ الوداع موجود تھا۔

## اس باب کا غزوہ تبوک کے ساتھ ربط

اس باب کا اصل میں غزوہ تبوک سے تعلق ہے۔

چچے ساری احادیث غزوہ تبوک سے متعلق چل رہی تھیں۔ درمیان میں ایک باب لے آئے، کسری کی طرف خط لکھوانے کا اور اس میں قیصر کا لفظ بھی ہے، حالانکہ حدیث میں کہیں پر بھی قیصر کا ذکر میں نہیں ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ کسری فارس کا تو یہ انجام ہوا کہ اس کی سلطنت تباہ و برباد ہوئی، قیصر روم کے خلاف کارروائی کا آغاز غزہ تبوک سے ہوا تو اس واسطے اس کو سیاق میں ذکر کر کے پھر دوبارہ تبوک کے متعلق حدیث لے آئے۔ اع

.....  
.....  
**باب**  
**مرض النبي ﷺ ووفاته**  
.....  
.....

## (۸۲) باب مرض النبی ﷺ ووفاته،

## آنحضرت ﷺ کی بیماری اور وفات کا بیان

وقول الله تعالى: (إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مُّتَّمِثُونَ).  
اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔  
اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی کریم کے مرض اور وفات کے حالات کو بیان کیا ہے۔

## مرض الوفات کی ابتداء

اس میں اتنی بات سمجھ لیں کہ روایات کے مطابق حضور اکرم ﷺ کا مرض الوفات تیرہ دن جاری رہا، اس کا آغاز امام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے مکان سے ہوا تھا، جب حضور اقدس ﷺ بیمار ہوئے تھے تو ان کے مکان میں تھے اور اس کے بعد کئی دن تک حسب معمول آپ ازدواج مطہرات کے پاس باری کے حساب سے جاتے رہے، لیکن بعد میں آپ کو نفس کی تکلیف ہونے لگی تو خود ازدواج مطہرات نے پیش کش کی کہ آپ جس کے گھر میں چاہیں قیام فرمائیں ہم سب کی طرف سے اجازت ہے۔  
چنانچہ پھر حضور اقدس ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں قیام فرمایا اور وفات تک وہیں پر قیام فرمایا۔

## تاریخ وفات کے بارے میں اقوال

تاریخ وفات کے حوالے سے اتنی بات متفق علیہ ہے کہ ربیع الاول میں وفات ہوئی، لیکن ربیع الاول کی کون ہی تاریخ کو وفات ہوئی اس میں اختلاف ہے:  
پہلا قول یہ ہے کہ کیم ربیع الاول کے دن وفات ہوئی۔  
دوسرا قول یہ ہے کہ دور ربیع الاول برداز پیر کو وفات ہوئی۔

تیرا قول بارہ ربیع الاول کا ہے اور بارہ ربیع الاول کی روایت ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہے۔  
لیکن درست تحقیق یہ ہے کہ بارہ ربیع الاول کی تاریخ صحیح نہیں اور کسی طرح بھی صحیح نہیں بیٹھتی۔

اس واسطے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جمۃ الوداع میں جس دن آنحضرت ﷺ نے عرفہ میں وقوف فرمایا وہ نوذری الحجہ کی تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ جمعرات کو ہوئی اور پھر ذی الحجہ کی انتیس بھی جمعرات کو ہوئی، اب ذی الحجہ کا چاند چاہے انتیس کامانو یا تیس کامانو اور محرم اور صفر کا چاہے دونوں انتیس کے یا دونوں تیس کے یا ایک انتیس کا اور ایک تیس کا، کسی بھی حساب سے بارہ ربیع الاول کو دو شبہ یعنی پیر کا دن صحیح نہیں بیٹھتا۔

یعنی جتنے عقلی امکانات ہو سکتے ہیں سب حساب کر کے دیکھیں تو کہیں بھی بارہ ربیع الاول صحیح نہیں بیٹھتی، لہذا زیادہ تحقیقین کا رجحان یہ ہے کہ ان مختلف روایات میں دور ربیع الاول کی روایات زیادہ صحیح ہیں یعنی آپ ﷺ کی وفات دور ربیع الاول کو ہوئی۔

پیدائش کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ تین ربیع الاول کو ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ ۹ ربیع الاول اور کوئی کہتا ہے بارہ ربیع الاول، تو مختلف اقوال ہیں اس میں غالباً تین ربیع الاول کی روایت کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔

۳۳۲۸۔ وَقَالَ يُوسُفُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ: قَالَ عُرُوْةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لِي مِرْضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: ((يَا عَائِشَةَ مَا أَزَالَ أَجَدَ الْمَطْعَمَ الَّذِي أَكَلْتَ بِخِبْرِ فَهْدًا أَوْ أَنْ وَجَدْتَ الْقَطَاعَ أَبْهَرِيَّ مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ)).

ترجمہ: زہری روایت بیان کرتے ہیں کہ عروہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنے مرض الوفات میں فرماتے تھے کہ اے عائشہ! میں ہمیشہ اس زہر آلو دبکری کا گوشت کھانے کی تکلیف محسوس کرتا ہوں جو مجھے خیبر میں دیا گیا تھا، اس وقت میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ یہ درد میری رگیں کاٹ رہا ہے۔

## خیبر میں دئے گئے زہر کا اثر

حضرت عروہ بن زیر ﷺ فرماتے ہیں کہ امام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں نبی کریم ﷺ اپنے مرض الوفات میں، یعنی وہ مرض جس کی وجہ سے آنحضرت ﷺ اس دنیا سے وصال فرمائے، فرمایا کرتے تھے

"بِهَا عَائِشَةَ مَا أَزَالَ أَجْدَ الْمَطَاعَمِ الْخَ" اے عائشہ! میں اب تک اس کھانے کی تکلیف محسوس کرتا ہوں جو میں نے خیر میں کھایا تھا۔

"فَهَذَا أَوَانٌ وَجَدَتِ الْقَطَاعَ أَبْهَرِيَ مِنْ ذَلِكَ الْسَّمِّ" اب وقت ایسا آگیا ہے میں نے محسوس کیا ہے کہ میری رُگ و جان اس زہر کی وجہ سے کٹ گئی ہے، اس زہر کا اثر مسلسل چلتا رہا اور اس کی تکلیف بھی محسوس کرتا رہا لیکن اب ایسا وقت آگیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری رُگ و جان اس زہر سے کٹ گئی ہے۔ گویا پہلے ہی سے آپ ﷺ کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اب وقت رخصت قریب آ رہا ہے اور یہ اس "نَسَاء مَسْمُومَةٍ" یعنی وہ زہر میں بکری کا بھنا ہوا گوشت کا اثر تھا جو فتح خیر کے بعد ایک عورت نے مخلائی تھی، جس کا والغہ غزدہ خیر کے ٹھمن میں پچھے گزر چکا ہے۔

۳۳۲۹ - حدثنا یحییٰ بن مکیر: حدثنا الیث، عن عقیل، عن ابن شهاب، عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عن ام الفضل بنت الحارث قالت: سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفاً، ثم ما صلی لنا بعدها حتى قبضه اللہ.

[راجع: ۶۳]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے آخر نظرت ﷺ کو مغرب کی نماز میں سورہ المرسلات پڑھتے سن، اس کے بعد آپ ﷺ نے وفات تک کوئی نمازوں پڑھائی، گویا یہ آپ ﷺ کی آخری نمازوں تھی۔

## نبی کریم ﷺ کی امامت میں آخری نماز

ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہما بتاری ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز میں نبی کریم ﷺ کو سورہ المرسلات پڑھتے ہوئے سن، اس کے بعد آپ ﷺ نے نہیں کوئی نمازوں پڑھائی بھاگی یہاں تک آپ ﷺ کی وفات ہو گئی۔ اگرچہ اس نماز کے بعد بھی آپ ﷺ کا ایک نماز پڑھانا ثابت ہے، جس میں نماز کے دوران آپ ﷺ جمرو سے مسجد میں تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر ﷺ پچھے ہٹ گئے اور آپ ﷺ نے نماز مکمل فرمائی۔ وہ نماز اس روایت میں ذکر کردہ نماز کے بعد ہے، لیکن یہاں ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہما کی مراد اس سے یہ ہے کہ ایسی نمازوں پڑھائی جس میں قرأت سنی ہو اور اسی طرح پوری نماز بھی مراد ہو سکتی ہے یعنی اول تا آخر آپ ﷺ نے اس کے بعد دوبارہ نمازوں پڑھائی۔

۳۳۳۰ - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبۃ، عن أبي بشر، عن سعید بن جبیر،

عن ابن عباس قال: کان عمر بن الخطاب رض یدلی ابن عباس، فقال له عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله، فقال: أله من حيث تعلم. فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية «إذا جاء نصر الله والفتح» فقال: أجل رسول الله صل أعلم إیاہ، فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. [راجع: ۷۳۶۲]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رض ابن عباس کو یعنی مجھے اپنے پاس بٹھاتے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف رض نے کہا کہ ہمارے پچھے بھی اس جیسے ہیں، یعنی انہیں بھی اپنے پاس بیٹھائے، حضرت عمر رض نے فرمایا کہ ان سے میرا یہ سلوک جس وجہ سے وہ آپ جانتے ہیں یعنی اس لئے ہے کہ انہیں علم آتا ہے، پھر حضرت عمر رض نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے «إذا جاء نصر الله والفتح» کے متعلق معلوم کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس آیت میں وفات رسول اللہ صل کی طرف اشارہ ہے اور اس طرح آپ کو یہ بتا دیا کہ اب وفات کا وقت قریب ہے، حضرت عمر رض نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے جو تمہارا خیال ہے۔

## ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرآن فہمی

حضرت عمر بن خطاب رض حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے سے بہت قریب رکھتے تھے تو اس بات پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رض نے ان سے کہا کہ "إن لنا أبناء مثله" ہمارے بھی تو اس جیسے بیٹے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے کبھی آپ اس طرح محبت کا معاملہ نہیں کرتے، جتنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کرتے ہیں۔

حضرت عمر رض نے فرمایا کہ "أله من حيث تعلم" یہ اس وجہ سے ہے کہ جو آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کو زیادہ قریب رکھنا جس وجہ سے ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں یعنی ان کا علم وفضل اور ان کی قرآن فہمی، کیونکہ آپ صل نے ان کے لئے علم کی دعاء فرمائی تھی۔

پھر حضرت عمر رض نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت «إذا جاء نصر الله والفتح» کے بارے سوال کیا تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا "أجل رسول الله صل أعلم إیاہ" یہ رسول اللہ صل کی وفات کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم عطا فرمایا۔

حضرت عمر رض نے فرمایا کہ میں بھی اس آیت کا وہی مطلب جانتا اور سمجھتا ہوں جو آپ جانتے ہیں۔

۲۳۳۱ - حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير

قال: قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس، اشتده رسول الله ﷺ وجمعه فقال: ((العنى أكعب لكم كتاباً لن تضلو بعده أبداً)), فتنازعوا ولا ينبعى عنده لبني نزار، قالوا: ما شأنه أهجر؟ استفهموه فلذهبوا بيردون عليه فقال: ((دعوني فالله أباً ليه خير مما تدعونني إليه)), وأوصاهم بثلاث، قال: ((اخرجو المشركين من جزيرة العرب، واجزوا الوفد بنحو ما كنت أجيشه)), وسكت عن الشائكة أو قال: فنسيتهما.

[راجع: ١١٣]

ترجمہ: حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جمعرات کا دن، اور جمعرات کے دن کیا ہوا؟ اسی دن رسول اللہ ﷺ کے مرض میں شدت آئی، تو اس وقت آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے پاس لکھنے کا سامان لیکر آؤ، میں تمہارے واسطے ایک تحریر لکھوادوں کے اگر تم نے میرے بعد اس پر عمل کیا تو پھر گمراہ نہ ہو گے۔ وہاں پر لوگ تھے وہ اختلاف کرنے لگے اور نبی کے سامنے اختلاف کرنا اچھا نہیں ہے، کسی نے کہا بیماری کی شدت سے آپ ﷺ ایسا بول رہے ہیں، لہذا آپ ﷺ سے دوبارہ پوچھو، لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا، آپ ﷺ نے فرمایا ہے دو، میں جس مقام میں ہوں وہ اس سے اچھا ہے، جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے (زبانی) تین باتوں کی وصیت فرمائی، اول میرے بعد مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، دوسرے وفادو کو اسی طرح تحفہ تھائیف دیا کرو جس طرح میں انہیں دیا کرتا تھا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تیسرا بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان نہیں کی یا بیان کی ہوتی میں اس بات کو بھول گیا ہوں۔

## رسول اللہ ﷺ کی وصیت

اس روایت میں مشہور واقعہ قرطاس کا ذکر موجود ہے، جو کہ کتاب العلم میں بھی گزر رہے اور وہاں اس پر تفصیلی بحث بھی ہوئی ہے، اس واسطے یہاں بیان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں جو لفظ اس روایت میں مزید ذکر ہیں ان کو ذرا دیکھ لجئے یعنی جو خاص طور پر یہاں سے متعلق ہیں۔

”اووصاهم بثلاث“ تین وصیتوں کا ذکر ہے کہ رسول کریم ﷺ نے تین وصیتیں فرمائی۔

ایک وصیت آپ ﷺ نے یہ فرمائی کہ ”اخرجو المشرکین من جزيرة العرب“ یعنی مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو یعنی کوئی مشرک بھی جزیرہ العرب میں باقی نہ رہے۔

دوسری وصیت آپ ﷺ نے یہ فرمائی کہ ”واجزوا الوفد بنحو ما كنت أجيشه“ یعنی جو وفادو

آئے ہیں ان کا دیساہی انعام و اکرم کیا کرو جیسا کہ میں کیا کرتا تھا یعنی جو سیر یا ووفد آئیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

تیسرا وصیت جس پر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خاموش رہے اور کچھ بتایا نہیں یا سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بتائی تھی لیکن میں اس کو بھول گیا۔

وہ تیسرا وصیت بعض حضرات نے کہا ہے کہ "الصلوۃ و مامملکت ایمالکم" ہے اور بعض روایات میں ہے کہ "لَا تضريهوا رقاب بعض" ہے، اور بعض نے کچھ اور بیان کی ہیں۔ لیکن یہ وصیتیں مستقل ہیں جو رسول کریم ﷺ نے اس واقعہ قرطاس کے بعد بیان فرمائیں۔

### واقعہ قرطاس کا خلاصہ

اس روایت کو یہاں ذکر کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ اس واقعہ کے بعد بھی نبی کریم ﷺ نہ صرف تشریف فرمائے، بلکہ آپ ﷺ نے وصیتیں بھی فرمائی۔

تو اگر اس موقع پر جو آپ ﷺ لکھوانا چاہتے تھے وہ اتنی ہی کوئی ناگزیر چیز تھی کہ اس کے بغیر گزارنہیں تھا تو ان تین دنوں میں کیوں نہیں لکھوادی، اس لئے روافض کا جو اعتراض ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ بات وحال سے خالی نہیں ہے یا تو اس کا لکھوانا واجب تھا یا واجب نہیں تھا بلکہ اختیاری تھا۔

اگر واجب تھا تو رسول کریم ﷺ صرف حضرت عمر ﷺ کے کہنے سے ایک واجب کو ترک کر سکتے تھے؟ ایسا قطعاً ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی کے کہنے پر ایک امر واجب کو ترک کر دیتے۔ اور اگر لکھنا واجب نہیں تھا تو پھر اعتراض ہی فضول ہے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ بات پہلے سے معلوم تھی آپ ﷺ مغض تاکید اکوئی بات کہنا چاہتے تھے، اس واسطے کوئی اعتراض کا موقع نہیں۔

"ما شانہ اہجر ؟ الخ" کا کیا معنی ہے؟ یہ روافض کی مطاعن میں سے ایک بنیادی طعن ہے۔

### پہلا طعن

روافض کے مطاعن میں ایک طعن یہ تھا کہ حضرت عمر ﷺ نے حضور اقدس ﷺ کو، وصیت لکھانے سے روک دیا تھا، تو یہ امت کو ایک ایسی بات سے محروم کیا جو حضور ﷺ لکھوانا چاہتے تھے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت علیؓ کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے۔

## دوسرا طعن

اس جملہ کو انہوں نے حضرت عمرؓ کی طرف منسوب کیا کہ یہ جملہ حضرت عمرؓ نے کہا۔

”هجو“ کے معنی ہوتے ہیں ہریان بکنا، تو گویا حضرت عمرؓ نے یہ کہا کہ حضورؐ نے جو یہ بات کہ ہے کہ لکھنے کا سامان لا دتا کہ میں لکھوادوں، تو یہ حضرت عمرؓ نے حضورؐ کی طرف منسوب کیا۔ العیاذ بالله۔ تو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضور اکرمؐ کی طرف ہریان کی نسبت کی ہے۔

## جوابات

پہلے طعن کا جواب تو یہ ہے کہ اگر یہ وصیت کرنا واجب تھا تو آپؐ کبھی بھی حضرت عمرؓ کے کہنے سے نہ رکتے اور لازمی لکھوادتے، اور اگر واجب ہی نہیں تھا تو پھر کوئی اعتراض ہی نہیں۔

یہی واقعہ مسند احمد میں حضرت علیؓ سے بعینہ مقول ہے، حضرت علیؓ کو حضورؐ نے فرمایا کہ ذرائع کاغذ لے کے آؤ میں کچھ لکھوادوں، تو حضرت علیؓ نے کہا مجھے ذرہوا کہ مجھ سے یہ بات فوت نا ہو جائے اس لئے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کی طبیعت تھیک نہیں ہے، اس لئے آپ زبانی فرمادیجھے میں یاد رکھوں گا۔ تو حضورؐ نے فرمایا ”اوصلی بالصلة، والزکاة، ومالکت ایصالکم“۔ ۷

اگر حضرت عمرؓ پر اعتراض ہے کہ انہوں نے رکوایا، تو مسند احمد میں حضرت علیؓ کی روایت بھی موجود ہے اور حضور اقدسؐ کیلئے ممکن ہی نہیں تھا کہ جو چیز اور جس کی تعلیق آپؐ کے ذمہ واجب ہو اس سے محض حضرت عمرؓ کے کہنے سے رک جائیں۔

دوسرے طعن جو اس لفظ ”هجو“ کے بارے میں کیا جاتا ہے، ”هجر“ کے دو معنی آتے ہیں: ایک یہ کہ اس کا مادہ اگر ”هُجَر“ ہو، بضم الہاء تو اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں ہریان اور بے ربط بات کرنا۔

اگر یہ معنی لئے جائیں تو ظاہر ہے کہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ یہ حضرت عمرؓ نے کہا ہو۔ وہاں جو لوگ حاضر تھے انہوں نے کہا تو اگر یہ ”هُجَر“ سے ہے جیسے کہ شیعوں کا دعویٰ ہے تو یہ ہر زہ استفہام کے ساتھ ہے یعنی ”اھْجَرْ“، بعض روایتوں میں اور جیسا کہ یہاں موجود ہے اور بعض روایتوں میں محفوظ ہے ”هجر“ ذکر ہے۔

اس طرح عبارت مقدر یوں ہو گی ”افجر رسول اللہ ﷺ“ یعنی لوگوں جو میں اختلاف ہو گیا تھا کہ بعض صحابہ ﷺ کہہ رہے تھے کہ لے آؤ جیسے حضور ﷺ نکھوانا چاہ رہے ہیں تو نکھوا لیا جائے اور بعض صحابہ ﷺ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں لیکر آئیں کیونکہ اس سے حضور ﷺ کو قب ہو گا، مشقت ہو گی، اس لئے نہ نکھوا لیا جائے۔ جو چاہ رہے تھے کہ حضور ﷺ کے حکم کی تفصیل میں نکھوار دیا جائے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ آپ لوگ منع کر رہے ہیں کہ نہ نکھوا لیا جائے، تو کیا حضور ﷺ، معاذ اللہ، کوئی ہر یان کی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہ نکھوا لیا جائے تو یہ استفہام انکاری ہے یعنی آپ کے ہر یان نہیں ہے آپ ﷺ ایک حکم نجیدگی کے ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کی تفصیل کریں اور نکھیں۔

یہ ان لوگوں کا قول ہے تو یہ ہمزة استفہام انکاری کا ہے کہ کیا، معاذ اللہ، حضور ﷺ ہر یان میں ہیں کہ وہ ان کی بات پر عمل کرنا نہیں چاہ رہے ہیں؟ تو اس طرح تو کسی پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔

دوسرا یہ کہ اگر یہ جملہ مانا جائے ان لوگوں کا جو نکھوانے کے قائل نہیں تھے تو اس کو ”فجر“ سے کیوں نکالا جائے؟ بلکہ بفتح الہاء مراد لیا جائے اور ”فجر یہ فجر“ کے معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جب بیماری کی حالت میں اپنے اولاد سے یہ کہتا ہے کہ کاغذ قلم لا دتا کہ میں تمہیں وصیت لکھ دوں تو اولاد کی کیا حالت ہو گی وہ کہیں گے کہ کیا آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں کہ جو آپ وصیت نکھوانا چاہتے ہیں؟

تو اس صورت میں ”فجر یہ فجر“ سے کیا معنی مراد ہو گا؟

”افجر رسول اللہ ﷺ“ کیا رسول اللہ ﷺ کی جدائی کا وقت آگیا ہے، جو آپ ﷺ میں اس طرح وصیت نکھوانا چاہتے ہیں جس طرح کہ وصیت کرنے والا بات نکھوا لیا کرتا ہے؟ یہ صحابہ کرام ﷺ کی یہ کیفیت تھی۔

یہ روافض احمد کیا جائیں کہ صحابہ کرام ﷺ پر اس وقت کیا گزر رہی ہو گی، جب رسول کریم ﷺ کے وصال کا وقت قریب آرہا ہو گا اور صحابہ کرام ﷺ پر غم کے کیا کیا پھاڑٹوٹ رہے ہوں، تو اس رنج والم کے وقت ان کی زبان سے یہ نکلا کہ کیا رسول اللہ ﷺ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہ اس جملے کا اصل مقصد ہے۔ ۲

۳۲۳۲ - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا عمر، عن الزهرى، عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما حضر رسول

وَلِي الْبَيْتِ رَجُالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عِلِّمُوا أَكْنَتْ لَمْ كَتَابًا لَا تَضْلُوا بَعْدَهُ)), فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجْعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنَ، حَسِبْنَا كِتَابَ اللَّهِ، فَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاحْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِبَرَا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضْلُوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، لِلَّمَّا أَكْفَرُوا الْلَّهُرُ وَالْإِخْتِلَافُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قُرُومَا)).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الرِّزْقَيْهُ كُلُّ الرِّزْقَيْهِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَا خَتْلَالَ لَهُمْ وَلَا خَطْلَهُمْ. [راجع: ۱۱۳]

ترجمہ: عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ جب آنحضرت ﷺ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا آؤ میں تمہارے لئے ایک وصیت لکھ دوں، تاکہ تم اس کے بعد گراہ نہ ہو سکو۔ بعض حضرات نے کہا اس وقت آنحضرت ﷺ پر بیماری کا غالبہ ہے اور تم لوگوں کے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے لئے کتاب اللہ کافی ہے، پھر اس کے بعد حاضرین میں اختلاف ہو گیا اور سب جھگڑنے لگے، بعض کہنے لگے سامانِ کتابت قریب کروتا کہ تمہارے لئے ایسی وصیت لکھ دیں کہ جس کے بعد تم گراہ نہ ہو گے، اور بعض اس کی مخالفت کرنے لگے، پھر جب بحث و اختلاف زیادہ ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چلے جاؤ۔

عبد اللہ بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما افسوس فرماتے تھے کہ یہ کیسی مصیبت ہے کہ جو لوگوں نے آنحضرت ﷺ کے درمیان اور اس وصیت لکھوانے کے درمیان حائل کر دی اپنے اختلاف اور جھگڑے کی وجہ سے۔

## ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے

”فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الرِّزْقَيْهُ كُلُّ الرِّزْقَيْهِ“ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کو سنانے کے بعد کہا کرتے تھے کہ بڑی مصیبت ہوئی جو رسول اللہ ﷺ کے درمیان اور اس خط کے لکھنے کے درمیان جو لوگ حائل ہو گئے۔

اس واسطے کر لوگوں میں اختلاف اور شور و غل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ وصیت لکھنی نہیں جا سکی تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ بڑی مصیبت ہو گئی مطلب یہ ہے کہ اگر لکھوادیتے تو اچھا تھا۔

یہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ہے جو انہوں نے بعد میں ظاہر کی تھی لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی رائے دوسرے اکابر صحابہ ﷺ پر مقدم تھی۔

اس وقت اکابر صحابہؓ موجود تھے، حضرت صدیقؓ اکبرؓ موجود تھے، حضرت عمرؓ موجود تھے اور دوسرے اکابر صحابہؓ موجود تھے اور انہوں نے اسی موقف کو اختیار کیا کہ نہیں اس وقت حضور اکرمؐ کو تعب مشکل میں نہ ڈالا جائے اور خود آپؐ نے بھی پھر انہی کے قول پر عمل کرتے ہوئے نہیں لکھوا�ا، گویا ان حضرات کے عمل کی تقریر فرمادی۔

اس واسطے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ان اکابر صحابہؓ کرامؓ کے خلاف جھٹ نہیں۔

## لطیف نکتہ کی طرف اشارہ

ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو یہاں پر صحیل حدیث سے پہلے جو حدیث لائے ہیں کہ حضرت عمرؓ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بہت قریب رکھتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔

اس سے اشارہ اس بات کی طرف بھی کرنا مقصود ہے کہ اگر ابن عباس رضی اللہ عنہما واقعی وہ بات کچھ رہے تھے جو رواضن سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے امت کا نقسان کر دیا اور امت کو عظیم سرمایہ سے محروم کر دیا اور سارا معاملہ گڑ بڑ کر دیا تو وہ ان سے اتنی محبت اور قرب کا تعلق قائم نہ کرتے!

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ انہوں نے امت کو اتنے عظیم سرمایہ سے محروم کر دیا اور سارا معاملہ ہی گڑ بڑ کر دیا تو وہ پھر بھی جا کر ان کے اتنے قریب ہو اور وہ ان سے اتنی محبت کریں اور ان کو قرب سے نوازیں اتنی قریبی تعلقات ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔

٣٢٣٣، ٣٢٣٣ - حدثنا یسرة بن صفوان بن جمیل اللخمي: حدثنا ابراهیم بن سعید، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي ﷺ فاطمة في شکواه الذي قبض ليه لسارها بشيء لبكت، ثم دعاها لسارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك، فقالت: سارلي النبي ﷺ أله يقبض لي وجعله الذي توفي فيه لبكت، ثم سارلي لاخبرني ألي أول أهلہ يتبعه لضحكـت. [راجع: ۳۶۲۳، ۳۶۲۴]

ترجمہ: حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آنحضرتؐ نے قریب وفات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا یا اور سرگوشی میں کچھ باتیں کیں، جن کو سن کر وہ رونے لگیں اور پھر بلا یا سرگوشی میں باتیں کیں تو وہ ہنئے لگیں۔ ہم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی (یعنی وفات کے بعد) تو انہوں نے فرمایا کہ نبی ﷺ نے پہلے تو کہا تھا کہ میں اس بیماری میں ہی وفات پا جاؤں گا، یہ سن کر میں رونے لگی، پھر سرگوشی کی اور فرمایا کہ میرے اہل بیت سے سب سے پہلے تم ہی مجھے ملوگی، تو پھر میں میں پڑی۔

## فاطمہ رضی اللہ عنہا کا غم و حزن

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اسی مرض الوفات میں آپ ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا یا اور سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روپریں اس کے بعد کچھ اور سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نہیں پڑیں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس کی وجہ دریافت کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ شروع میں آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ جبراائل الحجۃ مجھ سے ہر سال رمضان میں قرآن کا ایک مرتبہ دو رکیا کرتے تھے، اس سال دو مرتبہ دو رکیا۔ اس لئے میرا خیال ہے کہ اسی علامت سے میری وفات ہو گی، یہ سن کر میں روپڑی۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والوں میں تم سب سے پہلے مجھ سے آملوگی، یہ سن کر میں نہیں پڑی۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا اور چھ ماہ کی مدت کے بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس دارفانی سے رحلت فرم گئیں۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے دوسری بار یہ فرمایا کہ تم بہشت کی تمام عورتوں کی سردار ہو گی۔ ۵

۳۳۳۵ - حدیثی محمد بن بشار: حدیثنا غندر: حدیثنا شعبة، عن سعد، عن عروة، عن عائشة قالت: كنت أسمع أله لا يموت النبي حتى يخبر بين الدنيا والآخرة، لسمعت النبي ﷺ يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: ﴿مَعَ الْدِيْنِ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ الآية، لظننت أله خير. [النظر: ۳۳۳۶، ۳۳۳۷، ۳۳۳۸، ۳۳۳۹، ۳۵۸۲، ۳۳۳۲]

ترجمہ: حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے ساتھا کہ ہر بھی کوموت سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو وہ اس جہاں میں رہے اور چاہے تو آخرت کے قیام کو پسند کرے، چنانچہ میں نے اس مرض میں جس میں آپ ﷺ کی موت واقع ہوئی آپ ﷺ کو فرماتے سنا، آپ کی آواز بھاری ہو گئی تھی اور آپ یہ آیت تلاوت فرمائی ہے تھے:

وَأَخْبَلَهَا لِمَا سَارَهَا بِهِ لَا لَا لِضَعْكَتْ، لَفِي رَوَايَةِ عُرُوْةَ أَنَّهُ أَخْبَارَ أَيَّاهَا بِالْهَا أَوْلَى أَهْلَهُ لِحَرْقَابِهِ، وَفِي رَوَايَةِ مُسْرُوقِ  
أَنَّهُ أَخْبَارَهُ أَيَّاهَا بِالْهَا سَمِدَّةَ نَسَاءَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَجَعَلَ كَوْنَهَا أَوْلَى أَهْلَهُ لِحَوْلَهُ مَضْمُرَهَا إِلَى الْأَوْلَى وَهُوَ الرَّاجِعُ. لِتَعْ

**(فَمَعَ الدِّينِ أَتَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ)**

پس میں جان گئی کہ آپ ﷺ کو اختیار دے دیا گیا ہے اور آپ ﷺ نے آخرت کو پسند فرمایا ہے۔

## ابنیاء علیہم السلام کو موت سے پہلے اختیار

”کنت أسمع الله لا يموت نبی الخ“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے ساتھا کہ ہر نبی کو اس کے مرض الموت میں دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔

”لَسْمَعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ الْخَ“ پھر فرماتی ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ مرض الوفات میں بستلاء ہوئے اور آپ ﷺ کی آواز ختم بھاری ہو گئی تو اس وقت میں نے سنا کہ آپ ﷺ کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری تھی کہ

**(فَمَعَ الدِّينِ أَتَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ)**

ان لوگوں کے ساتھ کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔

ان الفاطم سے میں سمجھ گئی کہ آنحضرت ﷺ کو دنیا و آخرت میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار دے دیا گیا ہے اور آپ ﷺ نے دنیا کے بجائے آخرت کی زندگی کو اختیار فرمایا ہے۔

۳۲۳۶ - حدتنا مسلم: حدثنا شعبة، عن سعد، عن عروة، عن عائشة قالت: لما

مرض النبي ﷺ المرض الذي مات فيه جعل يقول: ((في الرفق الأعلى)).

[راجع: ۳۲۳۵]

ترجمہ: حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ امام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب آنحضرت ﷺ اس مرض میں بیمار ہوئے جس میں آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ ﷺ فرماتے تھے، اعلیٰ مرتبہ کے رفیقوں میں رکھنا۔

۳۲۳۷ - حدثنا أبو الممان: أخبرنا شعيب، عن الزهرى: أخبرنى عروة بن الزبير

أن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ وهو صحيح يقول: ((إله لم يقبض نبى لط حتى يرى مقعده عن الجنة لم يحيها أو يحيير)، للما اشتكتى وحضره القبض ورأسه على الخد عائشة غشى عليه للما أفاق شخص بصره لحومقف البيت ثم قال: ((اللهم في

الرفیق الأعلی)، لفقلت: إِذَا لَا يَجِدُونَا، فَعُرِفَتْ أَنَّهُ حَدِيْثَهُ الَّذِي كَانَ يَحْدُثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ. [٣٣٣٥]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے تدرستی اور صحیتیابی کی حالت میں فرمایا کرتے تھے کوئی نبی اس وقت تک انقال نہیں کرتا جب تک کہ جنت میں اس کی جگہ اسے نہیں دکھائی جاتی، پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت کو پسند فرمائے، آنحضرت ﷺ جب یہاں ہوئے اور وفات کا وقت قریب آیا اور آپ ﷺ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر تھا تو آپ ﷺ پرشی طاری ہو گئی، پھر جب افاقہ ہوا تو آپ ﷺ کی انکھیں گھر کی چھٹ کی طرف اٹھ گئیں اور فرمایا اے اللہ! میں رفق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ ہم لوگوں کے پاس نہیں رہیں گے میں اور میں سمجھ گئی کہ آپ ﷺ نے جوبات تدرستی کے زمانہ میں فرمائی تھی وہ پوری ہو رہی ہے۔

## ملائکی اور قرب خداوندی کی دعاء

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ ﷺ نے چھٹ کی طرف اپنی نگاہ فرمائی اور پھر فرمایا کہ "اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى" اے اللہ! میں رفق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں۔

"لفقلت: إِذَا لَا يَجِدُونَا" تو میں نے کہا یعنی میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جب آپ ﷺ کو اختیار دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں یا نہیں باقی رہیں تو اب وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے ہمارے قریب نہیں رہیں گے بلکہ رفق اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہیں گے۔

"لعُرِفَتْ أَنَّهُ حَدِيْثَهُ الَّذِي كَانَ يَحْدُثُنَا" تو مجھے پڑھ چل گیا کہ وہی بات ہے جو آپ ﷺ نے اس کا کرتے تھے "وَهُوَ صَحِيحٌ" جب کہ آپ تدرست تھے۔

یعنی تدرستی اور صحیتیابی کی حالت میں جوبات آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی نبی کی وفات کا موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیتا ہے کہ چاہے تو وہ موت کو اختیار کریں یا حیات، جیسا نبی اختیار کرتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں تو اس وقت آپ ﷺ کو اختیار دیا گیا۔

جس کے نتیجے میں آپ ﷺ نے سرا شاکر فرمایا "اللَّهُمَّ رَفِيقِ الْأَعْلَى" رفق اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہیں گے، پھر وہی بات ظاہر ہوئی یعنی آپ ﷺ کو بھی اختیار دیا گیا۔

٣٣٣٨ - حدیثنا محمد: حدیثنا عفان، عن صخر بن جويرية، عن عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي ﷺ القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي ﷺ

وَالْمَسْنَدُ إِلَى صَدْرِي وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَوَاكَ رَطْبٍ يَسْتَعْنُ بِهِ فَأَبْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ  
بَصَرَهُ فَأَخْذَتِ السَّوَاكَ لِقَضْمَتِهِ وَنَفْضَتِهِ وَطَبَيْتِهِ لَمْ دَلَعْتَهُ إِلَى النَّبِيِّ  
رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ  
فَاسْتَنَ اسْتَنًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، لِمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ  
رَفِعَ بِهِ أَوْ  
إِصْبَعَهُ لَمْ قَالَ: ((لِنِي الرَّفِيقُ الْأَعْلَى)), لِلَّاتِي، لَمْ قُضِيَّ، وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ وَرَأْسُهُ بَيْنَ  
حَاقِنَتِي وَذَاقَنَتِي. [راجع: ۸۹۰]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ کی بیماری میں آپ ﷺ میرے  
سینے سے نیک لگائے ہوئے تھے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر تازہ سواک سے دانت صاف کرتے ہوئے داخل ہوئے،  
تو آنحضرت ﷺ نے اس سواک کو دیر نیک دیکھا چنانچہ میں نے ان سے سواک لے لی اور دانتوں سے  
چبا کر اچھی طرح جھاڑنے اور صاف کرنے کے بعد آنحضرت ﷺ کو دے دی، آپ ﷺ نے اچھی طرح سواک  
کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس سے عمدہ طریقہ سے سواک کرتے پہلے نہیں دیکھا تھا، پھر جب آنحضرت ﷺ  
اس سے فارغ ہوئے تو آسمان کی طرف اپنا ہاتھ یا انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں رفیق اعلیٰ میں  
جانا چاہتا ہوں، یہ آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا، اور اس کے بعد آپ ﷺ کا انتقال ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ رضی  
اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں کہ دفات کے وقت آپ ﷺ کا سر مبارک میری ہنلی اور تھوڑی کے درمیان لکا ہوا تھا۔

## دارِ فانی سے کوچ

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما یعنی  
میرے بھائی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ”وَالْمَسْنَدُ إِلَى صَدْرِي“ جبکہ میں نے نبی کریم  
ﷺ کو سینے کا سہارا دیا ہوا تھا یعنی آپ ﷺ میرے سینے سے نیک لگائے ہوئے تھے، ”وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
سَوَاكَ رَطْبٍ يَسْتَعْنُ بِهِ“ جب عبد الرحمن آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تازہ سواک تھی جس سے وہ اپنے  
دانت صاف کر رہے تھے۔ ”فَأَبْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ  
بَصَرَهُ“ رسول کریم ﷺ نے اس کو اپنی آنکھ کا ایک حصہ دیا۔  
یہ لفظی معنی ہے یعنی جب دیکھ رہے تھے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر سواک کر رہے تھے تو ان کی طرف دیکھنا  
شروع کیا یعنی وہ اشارہ تھا کہ اس سواک کی طرف اشتیاق ہے۔

”فَأَخْذَتِ السَّوَاكَ لِقَضْمَتِهِ وَنَفْضَتِهِ وَطَبَيْتِهِ“ تو میں نے وہ سواک اپنے بھائی سے لی اور  
اس کو میں نے زم کرنے کے لئے اپنے دانتوں سے چبایا اور اس کو جھاڑا اور صاف اچھی طرح سے۔  
”لَمْ دَلَعْتَهُ إِلَى النَّبِيِّ  
فَاسْتَنَ بهُ“ پھر میں نے وہ سواک آپ ﷺ کو دی تو آپ ﷺ نے اس

سے دانتوں کو صاف فرمایا، "لما رأيت رسول الله ﷺ استن استانا قط أحسن منه" اور میں نے نبی کریم ﷺ کو اس سے پہلے کبھی بھی اتنے بہتر طریقے سے سواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔

"لما عدا أن فرغ رسول الله ﷺ أرفع يده أو إصبعه" پھر جب رسول اللہ ﷺ سواک کر کے فارغ ہوئے تو آپ ﷺ نے اپنادست مبارک اٹھایا یا انگشت مبارک اٹھائی۔

"لِمْ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى لِلَّاتِي لَمْ لُضِيَّ" اور پھر آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا کہ "لِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى" میں رفت اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ ﷺ کی روح پرواز کرنی۔

آخر میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ "مات و راسہ بین حالتی و ذاتی" حضور ﷺ کا وصال اس حالت میں ہوا کہ آپ کا سر مبارک میری ہنسی اور ٹھوڑی کے درمیان تھا۔

"ذالنَّه - ذاقُن" ٹھوڑی سے بیچھے اور "حالتِ ذاقُن" پسلی کے بیچھے جو گڑھا ہے اس سے اوپر کا حصہ۔

بیچھے روایت میں آیا ہے کہ سینے سے لگایا ہوا تھا اور بعض جگہ آیا ہے کہ ران پر سر مبارک رکھا ہوا تھا، تو اس میں نقطہ آسان ہے کہ شروع میں سر مبارک ران پر ہو گا اور کسی مرحلہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ران سے اٹھا کر سینہ سے لگایا ہو گا اور یہ صورت ہنسی اور ٹھوڑی کے اندر داخل ہے۔ ۴

۳۳۳۹ - حدیثی حبان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يوسف، عن ابن شهاب: أخبرنا عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى لفت على نفسه بالمعوذات، ومسح عنه بيده. فلما اشتكى وجعه الذي توفى فيه طفت أنفط على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيده النبي ﷺ عنه. [الظر: ۱۶، ۵۰، ۵۷۵۱، ۵۷۵]

بعض عمدة الفتاوى، ج: ۱۸، ص: ۹۳، وفتح الباري، ج: ۸، ص: ۱۳۹

والم مسحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب استخلاف الامام اذا عرض له عند من مرض وسفر وظیرهما الخ، رقم: ۳۱۱، وكتاب الآداب، باب اصحاب رفيحة العريض، رقم: ۲۱۲، ۱۲۹۱، وباب كرهة الدارى باللدرد، رقم: ۲۲۱۲، وسنن أبي داود، كتاب الطه، باب كيف الرقى، رقم: ۳۹۰۲، وسنن الترمذى، أبواب الصلاة، باب منه، رقم: ۳۶۲، وسنن النسائي، كتاب الامامة، باب صلاة الامام خلف رجل من رعيته، رقم: ۷۸۶، وكتاب الجنائز، باب شدة الصوت، رقم: ۱۸۳۰، ومن ابن ماجه، كتاب الامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاه لى صلاة رسول الله ﷺ على مرضه، رقم: ۱۲۳۲، وكتاب الطه، باب النفح لى الرقبة، رقم: ۳۵۲۹، وملوطا مالك، كتاب فصر الصلاة لى السفر، باب جامع الصلاة، رقم: ۸۳، (بقية ما ذكرنا لكتاب شمس).

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ بیمار ہوئے تو معذات پڑھ کر دم کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں کو تمام جسم پر پھیر لیا کرتے تھے، پھر جب آپ ﷺ اس بیماری سے بیمار ہوئے جس میں آپ ﷺ نے وفات پائی، تو میں آپ پرمعدات پڑھ کر دم کرتی، جن سے آپ دم کیا کرتے تھے اور میں آپ ﷺ کے ہاتھوں پر دم کر کے، آپ کے جسم مبارک پر پھرا دیا۔

## معدات سے دم

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں "کان إذا اشتكتى لفت على نفسه بالمعوذات" رسول اللہ ﷺ کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی، تو آپ ﷺ اپنے اوپر معدات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، معدات سے مراد یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔

"ومسح عنه بيده" اور اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر اپنے بدن مبارک پر اس کو پھیرا کرتے تھے۔ "للّهُمَا اشتكى وجعه الذي توفى فيه" جب آپ ﷺ کو اس درد اور بیماری کی تکلیف ہوئی جس میں آپ ﷺ کی وفات ہوئی یعنی مرض الوفات میں ہوا۔

"طفقت ألمت على نفسه بالمعوذات التي كان ينفك" تو میں معدات پڑھ کر آپ ﷺ کے اوپر دم کرنے لگی، وہی معدات جس کو آپ ﷺ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔

"وامسح بيدي النبي ﷺ عنه" کیونکہ آپ ﷺ تو اس وقت بیماری کی حالت میں تھے اس واسطے پڑھ نہیں سکتے تھے تو میں پڑھ کر خود رسول کریم ﷺ کے دست مبارک پر پھونکتی اور پھر آپ کے ہاتھ لے کر آپ کے اوپر مسح کرتی یعنی پھرتی تھی۔

٣٢٣٠ - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا عبد العزيز بن مختار: حدثنا هشام بن عروة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أخبرته أنها سمعت النبي ﷺ وأغاث إليه

﴿گز شے پورت﴾ ..... وکتاب العین، باب الصعود والرقبة من المرض، رقم: ۱۰.

ومسلم احمد، باب مسند المذيلة عائشة بنت الصدیق رضی اللہ عنہا، رقم: ۲۲۲۱۲، ۲۲۱۹۹، ۲۲۱۰۳، ۲۲۲۵۲، ۲۲۳۵۲، ۲۲۲۴۳، ۲۲۳۸۸۳، ۲۲۳۷۲۸، ۲۲۳۷۵۱، ۲۲۳۷۲، ۲۲۳۷۲، ۲۲۳۸۳۱، ۲۲۳۸۵۸، ۲۲۳۸۷۰، ۲۲۳۸۵۸، ۲۵۲۵۶، ۲۵۲۵۲، ۲۵۲۵۵، ۲۵۱۱۳، ۲۳۹۹۵، ۲۳۹۳۵، ۲۳۹۲۲، ۲۳۹۰۵، ۲۳۸۹۱

**قبل ان یموت و هر مسند الى ظهره یقول:** ((اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق)). [الظر: ۵۶۷]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے ان کی وفات سے پہلے میں کان لگا کر سنا، اس حال میں کہ آپ اپنی پشت مبارک سے میرا سہارا لئے ہوئے تھے، آپ فرمادیں کہ اے اللہ! میری مفترت فرمادی اور مجھ پر حرم فرمادی اور مجھے ساتھی سے ملا دیجئے۔

**۳۳۲۱ - حدیث الصلت بن محمد:** حدیث ابو عوانة، عن هلال الوزان، عن عروة بن الزبیر، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قال النبي ﷺ فی مرضه الذي لم یقم منه: ((لعن الله اليهود الخدوا القبور أبیا لهم مساجد)), قالت عائشة: لو لا ذلك لأبرز قبره، خشی أن یتخد مسجداً. [راجع: ۳۳۵]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے اس بیماری میں جس سے صحتیاب ہو کر نہیں اٹھ سکے، یعنی وفات سے قبل فرمایا کہ اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر اس کا اندیشہ ہوتا کہ لوگ آپ ﷺ کی قبر کو سجدہ گاہ بنالیں گے تو آپ ﷺ کی قبر کو کھول دیا جاتا۔

## قبور پر مزارات بنانے پر ممانعت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ نے مرض الوفات کی حالت میں ارشاد فرمایا کہ "لعن الله اليهود الخدوا القبور أبیا لهم مساجد" اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا یعنی مزارات بنانے کرنا پر سجدے اور دیگر شرک و مکرات کا گڑھ بنالیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں "لو لا ذلك لأبرز قبره، خشی أن یتخد مسجداً" اگر آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نہ ہوتا کہ قبر کو سجدہ گاہ بنالیا جائے تو آپ کی قبر مبارک کو باہر کھول دیا جاتا۔

یعنی ابھی تو مجرہ مبارکہ میں ہے، تو اس مجرہ کو ختم کر دیتے اور کھلے میدان میں کر دیتے، لیکن اس بات کا اندیشہ کیا گیا یعنی صحابہ کرام ﷺ نے اندیشہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی مسجد بن بنالیا جائے، اس واسطے مجرہ میں ہی رکھا اور اس عمارت کو برقرار رکھا۔

**۳۳۲۲ - حدیث سعید بن عفیر قال:** حدیثی اللیث: حدیثی عقیل، عن اہن شہاب: اخیر لی عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عائشة زوج النبی ﷺ قالت: لما قل

رسول الله ﷺ واشتد به وجعه استاذن أزواجه أن يمرض في بيته فلذن له، فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبدالمطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله: لما خبرت عبد الله بالذى قال عائشة فقال له عبد الله ابن عباس: هل تدرى من الرجل الآخر الذى لم تسم عائشة؟ قال: قلت: لا، قال ابن عباس: هو على بن أبي طالب، وكانت عائشة زوج النبي ﷺ تحدث: أن رسول الله ﷺ لما دخل بيته واشتد به وجعه قال: ((هريقوا على من سبع قرب لم تحل أو كيتمن لعلى أعهد إلى الناس)). فاجلسناه في مخصوص لحفصة زوج النبي ﷺ لم طفنا نصب عليه من تلك القراء حتى طفق يشير إليها بيده أن قد فعلتن. قالت: لم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. [راجع: ١٩٨]

٣٢٣٣، ٣٢٣٣ - وأخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس ﷺ قالا: لما نزل به رسول الله ﷺ طرق يطرح خميسة له على وجهه، فإذا اغترم كشفها عن وجهه فقال: وهو كذلك ((لعنة الله على اليهود والنصارى الخد والقبور أبيانهم مساجد)), يحدرك ما صنعوا. [راجع: ٣٣٦، ٣٣٥]

٣٢٣٥ - أخبرنى عبيد الله أن عائشة قالت: لقد راجعت رسول الله ﷺ في ذلك وما حملنى على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجل قام مقامه أبداً ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاء م الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله ﷺ عن أبي هريرة. راوه ابن عمر وأبو موسى وأبن عباس ﷺ عن النبي ﷺ. [راجع: ١٩٨]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوج نبی ﷺ نے بیان کیا کہ جب آنحضرت ﷺ بیمار ہوئے اور مرض نے شدت اختیار کر لی تو آپ ﷺ نے دوسری سب بیویوں سے اس بات کی اجازت چاہی کہ آپ ﷺ کی تیارداری میرے گھر میں کی جائے تو سب نے اس بات کی اجازت دے دی تو آپ ﷺ دو آدمیوں کا سہارا لیکر تکلے اس حال میں کہ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھست رہے تھے آپ حضرت عباس بن عبدالمطلب ﷺ اور ایک دوسرے شخص کا سہارا لئے کر تکلے تھے۔ راوی حدیث عبيد الله کا بیان ہے کہ میں نے جب یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو دوسرے شخص کو جن کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں لیا تھا، وہ کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ وہ حضرت علی ﷺ تھے۔

پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر میں آکر رسول اللہ ﷺ کی تکلیف

مزید بڑھنی، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے اوپر سات مشکلزوں کا پانی ڈالو، جن کی رسیاں کھولی نہ گئی ہوں، شاید میں اس قابل ہو جاؤں کہ کچھ وصیت کر سکوں تو ہم نے حضرت خصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک بڑے برتن میں آپ کو بٹھایا اور ہم آپ پر ان مشکلزوں سے پانی بہانا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ نے اشارہ سے ہمیں منع فرمایا تو ہم رُک گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اسکے بعد آپ ﷺ لوگوں کی طرف تشریف لے گئے، اور انہیں نماز پڑھائی اور پھر کچھ وصیتیں فرمائیں۔

عبداللہ بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے تھے کہ جب آنحضرت ﷺ بیمار ہوئے تو اپنے چہرے کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیتے تھے اور جب دل گھبراتا تو چہرے سے ہٹادیتے تھے اور پھر آپ ﷺ اسی حالت میں اس طرح ارشاد فرماتے کہ یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ آپ ﷺ لوگوں کو اس عمل سے ڈراتے تھے جو یہود و نصاریٰ نے کیا۔

زہری کہتے ہیں کہ عبد اللہ نے مجھے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے فرمایا کہ میں نے اس معاملہ میں (جب ایام مرض میں میرے والد ابو بکر ﷺ کو آپ ﷺ نے امامت کا حکم دیا) کافی مرتبہ اس بات کو آنحضرت ﷺ سے پوچھا اور میں بار بار آپ سے اس لئے پوچھ رہی تھی کہ میرا خیال تھا کہ جو شخص آپ ﷺ کی جگہ قائم مقام بنے گا لوگ اسے کبھی بھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ اسے بر اخیال کریں گے، لہذا میں چاہتی تھی کہ آپ ﷺ ان سے اس معاملے میں اعراض کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبد اللہ بن عباس ﷺ نے بھی آنحضرت ﷺ سے روایت کیا ہے، گویا اس میں متفق ہیں۔

## مرض الوفات کے احوال

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی متعدد احادیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، اور یہ سب احادیث حضور اکرم ﷺ کے مرض الوفات سے متعلق ہیں۔

**مرض کی ابتداء اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مجرہ میں منتقلی**

چہلی حدیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں "لِمَا لَقِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَشْتَدَ بِهِ وَجْهُهُ أَزْوَاجُهُ أَنْ يَمْرُضَ فِي بَيْتِي فَأَذْنُ لَهُ" جب آپ ﷺ کی طبیعت میں گرانی پیدا ہوئی اور بیماری میں مزید شدت پیدا ہوئی تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری

میرے گھر میں یعنی حضرت عائشہؓ کے گھر میں کی جائے، تو انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی۔ اس کا طریقہ یہ ہوا کہ آپؓ نے آخری وقت میں بھی ازوادج مطہرات سے صراحةً نہیں فرمایا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، بلکہ یوں ہوتا تھا کہ ہر روز پوچھتے کہ ”ابن انا غدا؟“ کل مجھے کہاں جانا ہے؟ ازوادج مطہرات نے خود محسوس کیا کہ آپؓ پر ایک جگہ سے دوسری جگہ بار بار جانا مشکل ہو رہا ہے اور آپؓ کیلئے شاید حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کے گھر میں زیادہ آرام ہو گا، لہذا سب نے متفقہ طور پر خود ہی کہہ دیا کہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ آپ ہماری بہن عائشہؓ کے گھر میں مقیم ہو جائیں، چنانچہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گے۔ چند احادیث کے بعد یہ حدیث آئے گی۔

”لِخُرُجٍ وَهُوَ بْنُ الرِّجَلَيْنِ تَخْطُرُ جُلَاهُ فِي الْأَرْضِ“ آپؓ جب میرے گھر پہ آئے تو اس حالت میں آئے کہ آپؓ دوآدمیوں کا سہارا لیکر نکلے اور آپؓ کے دونوں پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھست رہے تھے۔

”بَيْنَ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ أَخْرِ“ دو صاحبان جن کا سہارا لیکر آرہے تھے، ان میں ایک تو حضور ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ تھے اور دوسرے کوئی اور صاحب تھے۔ دوسرے صاحب حضرت علیؓ تھے، نام نہ لینے کی وجہ یہ بیان کی کہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کے دل میں علیؓ کی طرف ذرا نقیاض تھا اس لئے نام کی صراحةً نہیں کی بلکہ کہا کہ ایک اور شخص کے ساتھ آئے۔ بعض لوگوں نے اس کی وجہ اور بھی بیان کی ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ نقیاض کی وجہ سے چھوڑا ہو بلکہ یہ وجہ ہے کہ دوسری جانب بھی لوگ باری باری آتے رہے کبھی حضرت علیؓ اور کبھی حضرت اسماء بن زیدؓ اور کبھی کوئی اور صحابی، تو اس واسطے ان کا نام معین طور پر نہیں لیا اور یہ شاید ان کے اخلاق کریمہ سے زیادہ مطابق بات ہو۔

”لَا خَبْرٌ عَبْدُ اللَّهِ بِالْذِي قَالَتْ عَائِشَةُ“ اس حدیث کو حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے روایت کرنے والے حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ روایت سنائی کہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا نے ایسے بیان کیا۔

بن لولہ: ((وهو على)) ای: ابن ابی طالب اللہی لم نسمعه عالیة، قال الكرماني: قلن لله: لم قالت رجل آخر وما سمعته؟ قلت: لأن العباس كان دائمًا يلازم أحد جالبيه وأما الجانب الآخر فعارة كان على فيه، ونارة أسامي، للعدم ملازمته لذلك لم تذكره لا لعداوة ولا لمحارها، حاشاها من ذلك. عمدة القارئ، ج: ۱۸، ص: ۹۶، وفتح الباری،

”هل تدری من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟“ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ دوسرے آدمی کون تھے، جن کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے نہیں لیا؟ ”قلت: لا، قال ابن عباس: هو على بن أبي طالب“ راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم کہ کون تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ وہ دوسرے شخص حضرت علی بن ابو طالب ﷺ تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما یہ سنایا کرتی تھیں کہ ”ان رسول اللہ ﷺ لما دخل بيتي واشتده وجده“ جب رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کے مرض میں شدت ہو گئی۔

”هريقوا على من سمع قرب لم تحل أو كيتهن لعلى أعاده إلى الناس“ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے اوپر سات مشکیزے پانی ڈالوایے مشکیزے جن کی رسیاں کھولی نہ گئی ہوں یعنی سات مشکیزوں کی مقدار میں تازہ پانی میرے اوپر ڈالو شاید میں لوگوں کو کچھ وصیت کر سکوں۔ مطلب یہ ہے کہ پانی ڈالنے سے طبیعت میں کچھ نشاط پیدا ہو تو پھر جا کے لوگوں کو کچھ نصیحت کی بات، وصیت کی بات کر سکوں۔ ”فاجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي ﷺ“ تو ہم نے نبی کریم ﷺ کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے ایک بڑے برتن میں بٹھا دیا۔

”مخضب“ رنگنے کو کہتے ہیں یعنی وہ بڑا برتن جس میں کپڑے وغیرہ رنگے جاتے ہیں، اس کے اندر ہم نے آپ ﷺ کو بٹھا دیا۔

”فِمْ طَفَقَنَا نَصْبٌ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقُرْبِ“ پھر ہم نے آپ ﷺ پر دہ پانی کے مشکیزے ڈالنے شروع کئے۔ اب یہ ایک علاج تھا جو نبی کریم ﷺ نے کروایا، بخار بھی نبی کریم ﷺ کو آتا ثابت ہے، تو بخار کی شدت میں پانی ڈالنا مفید ہوتا ہے تو اس لئے آپ ﷺ نے ڈالوایا۔

”حَتَّىٰ طَفَقَ يَشِيرَ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنْ تَدْلِعْنَ“ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرنا شروع کر دیا کہ بس تم لوگوں کو جو کام کہا تھا وہ ہو گیا اب چھوڑ دو۔

”قالت: لَمْ خُرُجْ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى بَهُمْ وَخَطَبَهُمْ“ پھر فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ باہر لوگوں کے پاس تشریف لے گئے ان کو نماز پڑھائی اور خطبہ دیا یعنی وعظ و نصیحت فرمائی۔

”أَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسَ هَذَا الْخَ“ یہ دوسری حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مردی ہے کہ دونوں نے بتایا۔

”لَمَّا لَزَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ“ جب آنحضرت ﷺ پر بیماری نازل ہوئی یعنی جب حضور اقدس ﷺ مرض الوقات میں مبتلا ہوئے، ”طَفَقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةَ لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَ كَشْفَهَا عَنْ وَجْهِهِ“ تو اپنے چہرے کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیتے تھے اور پھر جب گرفتاری کی وجہ سے دل کھبرا تا تو چہرے سے ہٹا

دیتے تھے۔

اس سے آگے جو بات ہے وہ پچھلی حدیث میں پہلے گذر چکی ہے۔

### حضرت ابو بکر صدیق رض کی امامت کا حکم

تیسرا حدیث ایام مرض میں حضرت ابو بکر صدیق رض کی امامت کے متعلق ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں "لقد راجعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک" میں نے اس معاملہ میں یعنی جب ایام مرض میں کمزوری کی وجہ سے آپ نماز پڑھانے پر قادر نہ رہے تو میرے والد حضرت ابو بکر رض کو آپ رض نے امامت کا حکم دیا، تو میں نے کمی مرتبہ اس بات کو آنحضرت رض سے پوچھا۔ یہ بھی ایک حدیث کا نکٹا ہے جس سے پہلے یہ آیا ہے کہ مرض الوفات کے دوران نماز کا وقت آیا تو حضور رض نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جا کر ابو بکر کو پیغام بھجوادو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔

انہوں نے عرض کیا کہ شاید میرے والد ابو بکر نماز پڑھانے پر قادر نہ ہو کیونکہ ریقق القلب ہیں اور جب وہ آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کو تین بار کہا، تیسرا بار جب کہا تو آپ رض نے فرمایا کہ تم تو یوسف کی سہیلیوں کی طرح ہو جب یوسف کو انہوں نے بہکایا تھا، ابو بکر کو پیغام بھجوادو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ۱۱

یہ وہ روایت ہے جو کتاب الاذان میں ہے اور یہاں پر جو حدیث ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وضاحت فرمائی کہ وہ کس وجہ سے حضرت ابو بکر رض کے امامت نہ کروانے پر اصرار فرمائی ہیں تھیں۔

اب اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں کہ "وَمَا حَسِمْتُنِي عَلَى كُثُرٍ - مَرَاجِعَتِهِ" مجھے جس چیز نے کثرت مراجعت پر آمادہ کیا تھا، "إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْعُدْ فِي قَلْبِي أَنْ يَحْبُّ النَّاسُ بَعْدَهُ" وَ جَلَّ قَوْمًا مَقَامَهُ أَبْدَا" وہ اس بات کے سوا کچھ نہیں تھی جو شخص آپ رض کی جگہ قائم مقام بننے والوگ اسے کبھی بھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔

یعنی اصل میں میرے دل میں یہ بات تھی کہ حضرت ابو بکر رض اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں قائم مقام ہو کر نماز پڑھائیں گے اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا تو لوگ یہ کہیں گے - معاذ اللہ - ابو بکر کی یہ نبوست ہے یہ کیا آئے مصلی پر کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت آئی ہو گئے۔

”ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا شاء الناس به“ تو میں نہیں چاہتی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رض کے بارے میں لوگ اس قسم کی باتیں کریں بلکہ انہیں بر اخیال کریں گے۔ فاردت ان یعدل ذلك رسول الله ﷺ عن ابی بکر“ اس واسطے بار بار میں نے اصرار کیا کہ آپ ﷺ ان کو نہ سمجھیں بلکہ کسی اور کو صحیح دیجئے یعنی میں چاہتی تھی کہ آخر پر حضرت ﷺ سے اس معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق رض سے اعراض کریں۔

۳۳۳۶ - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثنا ابن الهداد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: مات النبي ﷺ والله لبيك حالي توفي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي ﷺ. [راجع: ۸۹۰]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم رض کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ نبی کریم رض میرے حلق اور سینے کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے، نبی کریم رض کے بعد کسی کی موت کی تھی کوئی نہیں سمجھا۔

۳۳۳۷ - حدثنا إسحاق: أخبرنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة: حدثني أبي، عن الزهرى قال: أخبرنى عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى و كان كعب بن مالك أحد الشلاة الذين تب عليهم: أن عبد الله بن عباس أخبره: أن على بن أبي طالب رض خرج من عند رسول الله رض لي وجده الذى توفى فيه فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله رض? فقال: أصبح بـسُـمـعـنـدـهـ بـأـلـهـ وـلـأـرـىـ رسـوـلـهـ سـوـفـ يـتـوـفـىـ مـنـ وـجـعـهـ هـذـاـ،ـ إـلـىـ لـأـعـرـفـ وـجـوـهـ بـنـىـ عـبـدـ الـمـطـلـبـ عـنـ الـمـوـتـ. الـأـهـبـ بـنـاـ إـلـىـ رسـوـلـهـ لـلـنـسـأـلـهـ فـيـمـ مـاـ الـأـمـرـ؟ـ أـنـ كـانـ فـيـنـاـ عـلـمـنـاـ ذـلـكـ،ـ وـإـنـ كـانـ فـيـ غـيـرـنـاـ عـلـمـنـاـ فـأـرـصـىـ بـنـاـ.ـ لـقـالـ عـلـىـ إـنـاـ وـالـلـهـ لـنـ سـأـلـنـاـهـ رسـوـلـهـ لـمـنـعـنـاـهـ لـأـ يـعـطـيـنـاـهـ النـاسـ بـعـدـهـ،ـ وـإـنـاـ وـالـلـهـ لـأـ أـسـالـهـ رسـوـلـهـ. [الظر: ۲۲۲۶]

ترجمہ: زہری کہتے کہ مجھے عبد اللہ بن کعب بن مالک انصاری نے بیان کیا اور کعب بن مالک رض ان تین حضرات میں سے ایک تھے جن کی توبہ قبول کی گئی، انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہم نے خبر دی کہ مرض وفات کے وقت حضرت علی بن ابی طالب رض رسول اللہ رض کے پاس ۔ باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا اے ابو الحسن!

رسول اللہ ﷺ نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے کہا الحمد للہ! آج آپ کی طبیعت میں بہتری ہے۔ پھر حضرت عباس بن عبدالمطلب ﷺ نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا اللہ کی قسم اتنی دن بعد تم لاٹھی کے غلام بنو گے، کیوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ اس بیماری میں وفات فرماجائیں گے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اولاد۔ عبدالمطلب کا چھرہ موت کے وقت کیسا ہو جاتا ہے۔ لہذا تم ہمارے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس چلوتا کہ ہم معلوم کر لیں کہ آپ کے بعد یہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہو گا؟ اگر آپ ﷺ ہمارے ہاتھ میں دیں تو نحیک ہے اور اگر کسی دوسرے کو دیں تو وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا، تو پھر اس کو ہمارے ساتھ اچھے برداود کی وصیت فرمادیں گے۔ تو حضرت علی ﷺ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم! میں ہرگز رسول اللہ ﷺ اس بات کے بارے میں میں سوال نہیں کروں گا، کیوں کہ اگر آپ نے منع کر دیا تو پھر لوگ ہم کو کبھی خلیفہ نہیں بنائیں گے، لہذا میں آپ ﷺ سے ایسی بات معلوم نہیں کروں گا۔

## حضرت عباس ﷺ کی فہم و فراست

حضرت کعب بن مالک ﷺ ان تین حضرات میں سے تھے جن پر غزوہ تبوك کے بعد ان کی توبہ سورۃ براء یعنی سورۃ التوبہ نازل ہوئی تھی، ان کے بیٹے عبد اللہ بن کعب روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عبد اللہ بن کعب کو حدیث بیان کی کہ "ان علی ہم ابھی طالب ﷺ الخ" ایک روز حضرت علی ﷺ حضور اقدس ﷺ کے پاس سے باہر نکلے، اس بیماری کے دوران جس میں آپ کی وفات ہوئی یعنی مرض الوقات کے دنوں میں۔

"یا ابا الحسن، کیف أصبح رسول اللہ ﷺ؟" جب باہر نکلے تو لوگ تو آپ ﷺ کی خیریت جاننے کو بیتاب تھے لوگوں نے ان سے پوچھا اے ابو الحسن! رسول اللہ ﷺ کی کس حالت میں صبح ہوئی؟ اور ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ابو الحسن حضرت علی ﷺ کی کنیت ہے۔

"اصبح بحمد اللہ ہارلا" تو حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ الحمد للہ حضور ﷺ کی صحت کی حالت میں صبح ہوئی ہے یعنی اچھی حالت میں ہیں۔

"فأخذ بيده عباس ابن عبد المطلب" اس موقع پر حضرت عباس ﷺ نے ان کا ہاتھ پکڑا، پڑے تھے اور پچھا تھے حضور ﷺ کے بھی اور حضرت علی ﷺ کے بھی، "أَلْتَ وَاللَّهُ بِعْدَ لِلَّاثْ هَدَى الْعَصَا" پھر حضرت علی ﷺ سے کہا اللہ کی قسم! میں دن کے بعد تم لاٹھی کے بندے ہو جاؤ گے، لاٹھی کے غلام بن جاؤ گے۔ مطلب یہ یہے کہ نبی کریم ﷺ کا وصال قریب ہے اور اب خلافت کسی اور کی طرف منتقل ہو گی اور گویا

خلافت مُقلٰ ہوئی تو تم ان کے تابع فرمان ہو جاؤ گے۔

”وَإِنِّي وَاللَّهِ وَلَا رَبَّ لِرَبِّنِي وَسُوفَ يَتَوَلِّي مِنْ وَجْهِهِ هَذَا“ اور اللہ کی قسم! میراً گمان یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ عنقریب اسی بیماری کی حالت میں وفات پا جائیں گے، ”إِنِّي لَا عُرْفٌ وَجْهَهُ بَنِي عَبْدٍ الْمُطَلَّبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ“ اور میں اولاً عبد المطلب کے چہروں کو پھیاتا ہوں کہ موت کے وقت ان کے چہرے کیسے ہو جاتے ہیں۔

حضرت عباس بن عبد المطلب ﷺ کا قیافہ، فہم و فراست تو زبردست تھی ہی اس داسٹے ان کو اندازہ تھا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم ﷺ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں اور ابھی اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھنی لیتی چاہئے اس لئے کہتے ہیں کہ ”اذهب بنا إلی رسول الله ﷺ لِلنَّاسَ لِيَعْمَلَ هَذَا الْأَمْرُ؟“ رسول اللہ ﷺ کے پاس چلتے ہیں تو آپ سے جا کر پوچھ لیتے ہیں کہ یہ معاملہ کس کو دیا جائے گا؟ معاملہ سے آپ کی مراد خلافت ہے تو وہ کس کو ملے گی اور کون خلیفہ ہو گا؟

”أَنْ كَانَ لِي نَا عَلِمْنَا ذَلِكَ“ اگر خلافت ہمارے خاندان یعنی بنوہاشم میں ہوگی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، ”وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصِنَا بِهَا“ میں اور ہمارے خاندان کے علاوہ اور کسی کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے تو اس کا بھی ہمیں علم ہو جائے گا اور اس کو ہمارے بارے میں کوئی وصیت فرمائیں گے کہ آپ ﷺ کے بعد وہ ہمارا خیال رکھے۔

”فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّا وَاللَّهِ لَنَنْ سَأَلُنَا هَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ“ حضرت علیؑ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کی قسم! اگر ہم نے رسول اللہ ﷺ سے خلافت کے بارے میں آج سوال کر لیا، ”لَمْ نَعْلَمْنَا هَا لَا يَعْطِنَا هَا النَّاسَ بَعْدَهُ“ اور ہمارے پوچھنے پر آپ نے منع کر دیا یعنی یہ کہا کہ نہیں بنوہاشم کو خلافت نہیں ملے گی تو آپ ﷺ کے بعد لوگ کبھی بھی یہ خلافت ہمیں اور ہمارے خاندان نہیں دیں گے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے منع فرمادیا۔

کہنے کا فشار یہ ہے کہ اگر آپ کی طرف سے سکوت رہا تو ٹھیک ہے پہلے نہ کسی بعد میں ہمارے خاندان میں خلافت آسکتی ہے اور اگر حضور ﷺ نے منع فرمادیا تو پھر کسی بھی مرحلہ پر آنے کی توقع باقی نہیں رہے گی۔

”وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ“ اور میں اللہ کی قسم! رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔

مقصد دنیا نہیں بلکہ دین ہے!

دیکھو! صحابہ کرام ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اوپنے مقام پر سرفراز فرمایا تھا لیکن جب بھی صحابہ کرام ﷺ کی

حالات پر غور کیا جائے تو اس بات سے قطع نظر نہیں کرنا چاہئے کہ وہ بھی آخر بشر تھے اور ایک بشر کے ذہن میں جو طبعی و فطری تقاضے ہوتے ہیں، وہ ان کے دلوں میں بھی پیدا ہوتے تھے۔

فرق یہ ہے کہ ہمارے بشری تقاضے کھلمنا گناہوں اور نافرنیوں پر آمادہ کر دیتے ہیں، جبکہ ان حضرات کو ان تقاضوں نے نافرمانی پر آمادہ نہیں کیا، الاماشاء اللہ۔

تو یہ سب بشری تقاضے ہیں ان میں کسی تاویل و توجیہ کی ضرورت نہیں ہے۔

دیکھو! حضور اکرم ﷺ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو جس شخص کا بھی حضور ﷺ سے تعلق ہو گا اس کو یہ فکر بھی ہو گی کہ بعد میں معاملہ کیا ہو گا اور ایک مقتداء کے جوالیں بیت میں سے ہوتے، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہونا کہ یہ جو نعمت جو ہمارے گھر میں تھی وہ ہمارے گھر ہی میں رہے۔

یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو حرص اور طمع سے تعبیر کی جائے کہ یہ ایک بشری تقاضہ ہے کہ بھی یہ ہمارے گھر کی دولت، صراحت دنیا وی دولت، گھر ہی میں رہے اچھا ہے۔ یہ خواہش پیدا ہونا کوئی بعید بھی نہیں ہے اور کسی کے تلقی ہونے کے اور عابد وزاہد ہونے اور بزرگ ہونے کے منافی بھی نہیں۔

ہاں اس غرض کے لئے آدمی طریقہ ایسا اختیار کرے کہ جو غیر مشرع ہو تو وہ منع ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے ایسا کیوں کہہ دیا کہ اگر آج انکار ہو گیا تو پھر ہمیں کبھی نہیں ملے گی؟ ایسا ہو گا ویسا ہو گا وغیرہ وغیرہ؟

جواب یہ ہے کہ یہ بشری تقاضے ہیں جو ان کے دل میں پیدا ہو رہے تھے اور جو دل میں پیدا ہوئے ہیں ان کو زبان سے ارشاد بھی فرمادیا تو گناہ کی کوئی بات ہے، ہی نہیں کہ گناہ کا کوئی کام کیا ہو، ایک خیال ہے وہ ظاہر کیا جو دل میں آیا اور بتا دیا۔

۳۳۳۸ - حدثنا سعید بن عفیر قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك عليه السلام أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلى لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلوات الله عليه وسلم قد كشف سترا حجرة عائشة فنظر إليهم وهو في صفو الصلاة لم تبسم بضم حك، لهم أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلوات الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلوات الله عليه وسلم وأشار إليهم بيده رسول الله صلوات الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأخرى الستر. [راجع: ۶۸۰]

ترجمہ: ابن شہاب رحمہ اللہ درایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک عليه السلام نے بیان کیا کہ مسلمان ہر کے دن حضرت ابو بکر عليه السلام کے پیچے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلوات الله عليه وسلم نظر آئے کہ آپ نے

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مجرے کا پردہ اٹھا کر صحابہ کرام کی طرف دیکھا کہ وہ سب نماز میں مشغول ہیں، پھر آپ مسکرا دیئے، حضرت ابو بکر رض نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لارہے ہیں، تو انہوں نے ایڑیوں کے مل یچھے ہنا شروع کیا۔ حضرت انس رض کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی وجہ سے اپنی نماز کے بارے میں فتنے میں پڑ جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز کو پورا کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجرہ میں داخل ہو گئے اور پردہ کو چھوڑ دیا۔

## وصال کے دن مسجد میں تشریف آوری

حضرت انس رض فرماتے ہیں مسلمان کہ پیر کے دن بغیر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ وہی دن ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اور مسلمان حضرت ابو بکر رض کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔

"لَمْ يَفْجُّهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِصلی اللہ علیہ وسلم كَشْفُ سُرُوجَةِ عَائِشَةَ" ان کو کسی اور چیز نے گہانہ نہ پہنچی یعنی مسلمانوں کی توجہ کسی اور طرف نہیں گئی نماز کے دوران سوانی اس بات کے کہ اچاک حضور الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مجرے کا پردہ کھولا۔

"فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صَفَوْفِ الصَّلَاةِ فَمِنْ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ" تو آپ نے صحابہ کرام رض کی طرف نظر ڈالی اور اس وقت وہ نماز کی صفوں میں کھڑے تھے پھر ان کو دیکھ کر تبسم فرمایا۔

گویا زبان حال سے اس بات پر پتہ جانے کیا جذبات ہوں گے ساری عمر کی محنت کا صد، ساری زندگی کی قربانیوں اور جدوجہد کا صد، یہ نظر آرہتا کہ مسلمان کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رض کی اقامت میں نماز ادا کر رہے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔

"فَنَكَصَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقْبَيْهِ لِيَصُلِّ الصَّفَ" حضرت ابو بکر صدیق رض یہ دیکھ کر اپنے ایڑیوں کے بل سے یچھے ہٹنے لگئے تاکہ صاف میں پہنچ جائیں یعنی ایڑیوں کے بل اس وجہ سے یچھے ہنا شروع کیا تاکہ تبلہ سے انحراف نہ ہو سکے۔

"وَظِنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِصلی اللہ علیہ وسلم يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ" اس وجہ سے یچھے ہٹنے لگے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لارہے ہیں۔

حضرت انس رض کہتے ہیں کہ "وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَنُوا فِي صَلَاتِهِمْ لِرَحْمَةِ رَسُولِ اللَّهِصلی اللہ علیہ وسلم" قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان فتنہ میں مبتلا ہو جاتے نماز کے اندر خوشی کے مارے یعنی اچاک اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے تشریف لے آنا اس سے اس قدر خوشی ہوئی کہ صحابہ کرام رض قریب تھا کہ

نماز میں فتنے میں بٹلا ہو جاتے اور حضور ﷺ کو دیکھ کر نماز توڑ دیتے۔  
 ”فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَسْمَوَا صَلَاتِكُمْ“ یہ دیکھ کر کہ کہیں صحابہ نماز نا توڑ دیں  
 اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ تم لوگ اپنی نماز کو مکمل کرو۔  
 ”لَمْ دُخُلُ الْحِجْرَةَ وَأَرْغَى الستِرَّ“ پھر رسول اللہ ﷺ واپس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے  
 جمیرہ میں تشریف لے گئے اور پردہ ڈال دیا۔

۳۳۲۹ - حدیثی محمد بن عبید: حدثنا عیسیٰ بن یوسف، عن عمر بن سعید قال:  
 أخبرنى ابن أبي مليكة: أن أبا عمرو ذکوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول: إن  
 من نعم الله على أن رسول الله ﷺ تولى في بيتي وفي يومي وبين سحرى ونحرى وأن الله  
 جمع بين ريقى وريقه عند موته. ودخل على عبد الرحمن، وبهذه المسوأك وأنا مسندة  
 رسول الله ﷺ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب المسوأك. فقلت: آخذك لك؟ فأشار  
 برأسه أن نعم. فتناولته فاشتد عليه وقلت: أينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. فلبيته فامر  
 وبين يديه رکوة أو عليه - يشك عمر - فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح  
 بهما وجهه يقول: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ الْمَوْتَ سَكْرَاتٌ)), لم نصب بده فجعل يقول: ((لَهُ الرَّفِيقُ الْأَعُلَى))، حتى لبس ومالت يده. [راجع: ۸۹۰]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ اللہ کی نعمتوں سے ایک نعمت اور عنایت مجھ پر یہ  
 بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے گھر میں اور میری باری کے دن میں اور میرے سینہ اور ہنلی کے درمیان ٹیک  
 لگائے ہوئے وفات پائی، اور وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میر العابد، ہن حضور ﷺ کے عابد و ہن سے بھی ملا  
 دیا۔ بہت یہ ہوئی کہ عبد الرحمن میرے پاس آئے تو ان کے ہاتھ میں مسوأک تھی لئے ہوئے اور آخر حضرت ﷺ  
 میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ اس مسوأک کی طرف دیکھ رہے ہیں تو مجھ جان  
 گئی کہ آپ مسوأک چاہتے ہیں، اس لئے میں نے عرض کیا کہ کیا میں آپ کے لئے یہ مسوأک لے لوں؟ آپ  
 ﷺ نے سرمبارک کے اشارہ سے ہاں فرمایا، لہذا میں نے ان سے مسوأک لے لی، آپ اسے چنانہ سکے تو میں نے  
 پوچھا کہ آپ کے لئے زم کر دوں؟ آپ ﷺ نے سرمبارک کے اشارہ سے ہاں فرمایا، چنانچہ میں مسوأک چلائی  
 اور زم کر کے دی۔ آپ ﷺ کے سامنے چڑی کا لکڑی کا یک بڑا پیالہ تھا، راوی حدیث عمر کو اس میں شک  
 تھا، اور اس میں پانی تھا۔ آپ ﷺ اپنے ہاتھ بار بار پانی میں ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے، اور فرماتے اللہ  
 کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف  
 اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لہی الرفق الأعلى، اس کے بعد آپ ﷺ رحلت فرمائے، اور ہاتھ نیچے آگیا۔

## آخری عمل

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی کا آخری عمل جو تھا وہ مساک کرنا ہے یعنی اس قدر پسند تھا یہ عمل کہ آکری لمحات میں بھی مساک کرنا پسند فرمایا اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ﷺ حاضر ہونا تھا تو اس لئے مساک فرمائی۔

۳۲۵۰ - حدتنا اسماعیل: حدثنا سليمان بن بلال: حدثنا هشام بن عروة: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: ((أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟)) يزيد يوم عائشة، فإذا ذُن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيته عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة:untas في اليوم الذي كان يدور على ليه في بيته، فقبضه الله وإن رأسه لم بين نحره وسحري وخالف طريقه ريفي. ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه مساك يستن به فنظر إليه رسول الله ﷺ فقلت له: أعطني هذا المساك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقضيته لم مضته فأعطيته رسول الله ﷺ فاستن به وهو مستند إلى صدره. [راجع: ۸۹۰]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے مرض الموت میں بار بار یہ دریافت فرماتے، کہ این ہذا، این ہذا، یعنی کل میں کہاں ہوں گا؟ کل میرا قیام کہاں ہوگا؟ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کے منتظر تھے، یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی ازوابِ مطہرات نے اجازت دیدی کہ آپ جہاں مناسب صحیح قیام فرمائیں، چنانچہ آپ تا وقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر مقیم رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب وفات ہوئی تو وہ میری ہی باری کا دن تھا اور رحلت کے وقت آپ ﷺ کا سر مبارک میرے سینے اور ہنلی کے درمیان تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لعاب دہن مبارک کو میرے لعاب دہن کے ساتھ شامل کر دیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بات یہ ہوئی کہ عبد الرحمن میرے پاس ہاتھ میں ایک مساک لئے ہوئے داخل ہوئے تو انحضرت انے اس مساک طرف دیکھا تو میں نے کہا اے عبد الرحمن یہ مساک مجھے دے دو، اس نے مساک مجھے دے دی، میں نے اس مساک کو لیکر اسے تراشنا اور اپنے دانتوں سے اسے چبا کر زم کیا اور پھر رسول اللہ ﷺ کو دی، تو آپ ﷺ نے میرے سینے سے نیک لگائے ہوئے مساک فرمائی۔

۳۲۵۱ - حدثنا سليمان بن خرب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي

ملیکہ، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت: توفی النبی ﷺ فی بیتی و فی یومی، وہین مسحري ولحری، و کالت إحدا تعالوڑہ بدعاۓ إذا مرض فذهبت أعوده لرفع رأسه إلى السماء وقال: ((فِي الرَّفِيقِ الْأَعُلَىٰ فِي الرَّفِيقِ الْأَعُلَىٰ)). و مر عبد الرحمن بن أبي بکر و فی يده جریدہ رطبة لنظر إلیه النبی ﷺ فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضفت رأسها ولفضتها فدفعتها إلیه فاستن بها کا حسن ما کان مستنا. ثم ناولنيها فسقطت يده او سقطت من يده

لجمع اللہ بین ریقی و ریقه فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرة. [راجع: ۸۹۰]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں، میری باری کے دن، میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے فوت ہوئے، ہمارا معمول تھا کہ جب آپ ﷺ بیمار ہوتے تو ہم آپ کی صحت کے لئے دعائیں پڑھتے، چنانچہ میں نے آپ ﷺ کے لئے دعاء کرنی شروع کر دی۔ پھر رسول اکرم ﷺ نے آسان کی طرف نظر میں اٹھائیں اور فرمایا کہ فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، اتنے میں عبد الرحمن بن ابو بکر آگئے، ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسوک تھی، آنحضرت ﷺ نے اس کو دیکھا، میں جان گئی کہ آپ ﷺ کو اس کی ضرورت ہے، اس لئے میں نے فوراً ان سے مسوک لے لی، پھر اس کا سرا چیبا یا اور جھاڑ کر آپ ﷺ کو دیدی، پھر آپ ﷺ نے اچھی طرح مسوک کی جس طرح آپ پہلے مسوک کیا کرتے تھے اس سے اچھی طرح سے کی۔ پھر وہ مسوک آپ مجھے دینے لگے تو آپ ﷺ کا دہ ہاتھ گر پڑا یادہ مسوک آپ کے ہاتھ سے گر پڑی، تو اللہ کا فضل دیکھو کہ اس نے آپ کی دنیا کی زندگی کے آخری دن اور آخرت کی زندگی کے پہلے دن میں میر العاب ورہ، میں آپ ﷺ کے لعاب وہن سے ملا دیا۔

۳۲۵۲، ۳۲۵۳ - حدثنا يحيى بن بکير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرنى أبو سلمة: أن عائشة أخبرته: أن أبا بكر ﷺ أقبل على فرس من مسكنه بالسخ حتى نزل للدخول المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة لتيمم رسول الله ﷺ وهو مغشى بهنوب حبرة. الكشف عن وجهه لم أكب عليه فقبله وبكى. ثم قال: يا بني أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتين. أما الموته التي كتبت عليك فقد متها.

[راجع: ۱۲۳۲، ۱۲۳۱]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر ﷺ اپنے گھر خے مدنیہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، تو مسجد میں داخل ہوئے، پھر لوگوں سے کوئی بات کئے بغیر خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جھرے میں آئے اور رسول اللہ ﷺ کی طرف گئے آپ ایک لمبی چادر سے ڈھکے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے آپ ﷺ کا چہرہ انور کھولا اور جھک کر بوسہ دیا اور رونے لگے۔ پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ

ر قربان ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو دو مرتبہ موت نہیں دے گا۔ بس ایک رحلت ہے جو آپ کے لئے لکھی گئی وہ واقع ہو چکی ہے۔

## یارِ غار کا رحلت کے بعد آخری دیدار

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ "ان اباہ کر وَهُوَ أَقْبَلَ عَلَى فُرْسٍ مِّنْ مَسْكَنِهِ بِالسَّخْنِ"

حضرت ابو بکر صدیق وَهُوَ أَبْنَى مَغْوُثَةً پر سوار ہو کر اپنے گھر سے تشریف لائے، جو کہ سخن میں واقع تھا۔

ایک گھر تو حضرت ابو بکر صدیق وَهُوَ أَبْنَى مَغْوُثَةً کا نیمیں پر تھا جس کا خونہ یاروشن و ان آپ وَهُوَ نے کھلا رکھنے کی اجازت دی تھی اور ایک اہمیر ان کی سخن میں آباد تھیں، جو مدینہ منورہ ہی کے ایک محلہ کا نام ہے اور وہ مسجد بنوی سے تقریباً یاد ریڑھ دو میل کے فاصلہ پر واقع ہو گا اور اب بھی جانے والے جانتے ہیں۔

"حتیٰ نزل قددخل المسجد فلم يكلم الناس" یہاں تک کہ اپنے گھوڑے سے اترے پھر مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں سے کوئی بھی بات نہیں کی، "حتیٰ دخل على عائشة لتعمم رسول الله وَهُوَ" یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مجرہ میں داخل ہوئے یعنی ان کے پاس آئے، کیونکہ آپ وَهُوَ وہی پر موجود تھے، پھر رسول اللہ وَهُوَ کا قصد کیا یعنی انکی طرف گئے۔

"وَهُوَ مُهْشَى بِثُوبِ حِبْرَةٍ" آپ وَهُوَ ایک لمبی چادر سے ڈھکے تھے یعنی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ چادر ڈال دی ہو گی، "لِكَشْفِ عنِ وجْهِهِ لِمَا أَكْبَرَ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ وَبَكَى" پھر انہوں نے آپ وَهُوَ کا چیرہ انور کو کھولا یعنی چادر ہٹائی اور نیچے جھک کر آپ وَهُوَ کو بوس دیا اور رونے لگے۔

"بَاهِي أَنْتَ وَامِي، وَاللَّهُ لَا يَجْمِعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مُوتَيْنَ" پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر تربان ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو دو مرتبہ موت نہیں دے گا، وہ موتیں جمع نہیں کرے گا، "أَمَا الْمَوْتُهُ التِّي كَثُبَتْ عَلَيْكَ لَقَدْ مَتَهَا" بس ایک موت ہے جو آپ کیلئے لکھی گئی تھی اور پیشک وہ موت واقع ہو چکی ہے۔

## رواموات کی نفی سے مراد

اس کے معنی میں لوگوں نے مختلف تشریع کی ہیں۔

جو بات زیاد صحیح لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اگلی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وَهُوَ جب آرہے تھے باہر سے، تو حضرت عمر بن خطاب وَهُوَ تواریخ کر کھڑے تھے کہ حضور وَهُوَ انتقال نہیں فرماسکتے اور ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ حضور وَهُوَ اس وقت دنیا سے تشریف لے جائیں گے جب سارے منافقین اور

سارے یہود و نصاریٰ کو ختم کر دیں۔

وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ حضور ﷺ اس دنیا سے تشریف لے جائے گے ہیں، اس لئے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے؟ حالانکہ ابھی منافقین باقی ہیں اور جب تک منافقین مرنہیں جائیں گے، ان کو ہلاک نہیں کر دیا جائے گا اس وقت تک حضور ﷺ دنیا سے نہیں جائیں گے، آپ ﷺ پر غشی طاری ہے، سکتہ طاری ہے آپ ﷺ کی وفات نہیں ہوئی۔

محرہ میں تشریف لے جاتے وقت حضرت صدیق اکبر ﷺ نے حضرت عمر ﷺ سے کوئی تعارض نہیں کیا بلکہ سید ہے چلے آئے اور جب دیرار کیا تو اس وقت یہ جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دمتوں کو جمع نہیں کر سکتے یعنی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ منافقین کو فنا کر کے جائیں گے جبکہ ایک موت تو اب طاری ہو گئی ہے، پھر آپ زندہ ہوں اور زندہ ہونے کے بعد دوسری بار آپ ﷺ کو موت آئے تو اللہ تعالیٰ آپ پر دمتوں کو جمع نہیں فرمائیں گے۔

بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک موت تو آہی گئی اور اس کے بعد آپ پر کوئی ایسا صدمہ کہ جس مقصد بعثت کیلئے آپ ﷺ دنیا میں تشریف لائے تھے وہ مقصد بعثت محروم ہو جائے ایسا صدمہ آپ کو پہنچے ایسا نہیں ہوگا، اور اس کو موت سے تعبیر کیا۔ واللہ اعلم۔

٣٢٥٣ - قال: وحدلني أبو سلمة، عن ابن عباس: أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال: اجلسن يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فاقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدًا عليه السلام فلان محمدًا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي ولا يموت، قال الله تعالى: هُوَ مَنْ مَحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ فَذَخَلَتْ مِنْ أَلْبَلِيهِ الرُّسُلُ إِلَى قَوْلِهِ: (الشَّاكِرِينَ) وقال: والله لكان الناس لم يعلموا أن الله انزل هذه الآية حتى بلاها أبو بكر لعلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشرًا من الناس إلا يتسلوها. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلامها

قال قول: ((موتین))، المقال ذلك أبو بكر حين قال عمر حين مات النبي ﷺ: ان الله سمیت نبیه لقطع ابدی رجال للرواۃ مات لم یموت آخر الزمان، لازم ابوبکر رد کلامہ، ای: لا یکون ذلك فی الدلیل الامورہ واحدة. وقال الداردی: ای لا یموت فی البره موتة اخرى، کمالیل فی الكافر والمنافق بعد ان ترد الیه روحہ فیم تقبض، وتلیل: لا یجمع الله علیک کرب هذا الموت، لدعصمک من عذابه ومن احوال یوم القيمة، وقیل: اراد بالموتة الاخرى موت الشریعة، ای: لا یجمع الله علیک موتك وموت ذریعتک. عمدة القاری، ج: ۱۸، ص: ۱۰۲، ولیح الباری، ج: ۸،

لغيرت حتى مالقلنى وجلائى و حتى أهربت إلى الأرض حين سمعته للاها أن النبى ﷺ قد  
مات. [راجع: ۱۲۳۲]

ترجمہ: زہری کہتے ہیں مجھ سے ابوسلہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت  
یہاں کی ہے کہ حضرت ابو بکر رض جب باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عمر رض یہ لوگوں سے باتیں کر رہے  
تھے (یعنی جوش میں کہہ رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی ہے)، تو حضرت ابو بکر رض نے حضرت عمر رض  
کو خاموش کرانا چاہا اور کہا بینہ جاؤ، مگر حضرت عمر رض نہیں مانے، پھر لوگ حضرت ابو بکر رض کے پاس جمع  
ہو گئے اور حضرت عمر رض کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق رض نے فرمایا اے لوگو سنوا تم میں سے جو کوئی محمد کی  
عبادت کرتا تھا، تو (وہ سن لے) محمد فوت ہو گئے، اور جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتا تھا، بے شک تو اللہ  
تعالیٰ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقْتَ مِنْ نَارِ**  
**الرُّسُلِ** صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہاں ہے کہ اللہ کی قسم! جب حضرت ابو بکر رض نے یہ آیت  
خلافت کی تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی کو اس آیت کی خبر ہی نہیں ہے اور سب نے آپ سے یہ آیت سمجھی، تو جسے  
دیکھو وہ یہی آیت پڑھ رہا ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ سعید بن میتب نے کہا کہ حضرت عمر رض نے فرمایا کہ اللہ کی  
قسم! جب حضرت ابو بکر رض نے اس کی خلافت کی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے علم میں یہ آیت تھی، تھی نہیں،  
پھر اس وقت میں کا اپ انھا اور میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں انھاتے تھے اور میں زمین پر گرد پڑا جس وقت میں نے  
حضرت ابو بکر رض کو اس کی خلافت کرتے سنا اور معلوم ہوا کہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمائے گئے۔

### صحابہ رض کا اضطراب اور صدیق اکابر رض کا صبر و حوصلہ

یہ حدیث صحیل حدیث کا ہی اگلا حصہ ہے، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رض کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک  
کی زیارت کرنے بعد باہر آ کر لوگوں کے سامنے خطاب کرنے کا ذکر ہے۔

”ان ابا بکر خرج و عمر بن الخطاب يکلم الناس“ جب حضرت ابو بکر صدیق رض  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے بعد باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عمر رض لوگوں سے جو شیئے انداز  
میں بات کر رہے تھے اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ خبردار جو کسی نے کہا تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں  
اس کی گردن اڑادوں گا۔

”اجلس یا عمر، فابی عمر ان مجلس“ حضرت ابو بکر صدیق رض نے حضرت عمر رض کو حکم دیا  
کہ وہ بینہ جائیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رض کا ہی مقام اور رتبہ تھا کہ حضرت عمر رض کو یوں حکم دے رہے ہیں کہ

بیخو جاؤ، تو حضرت عمرؓ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغلوبیت کی انتہا پر تھے حضرت فاروق اعظمؓ کہ وہ صدیق اکبرؓ کی اتنی عزت کرتے تھے اس کے باوجود کہ انہوں نے کہا کہ بیخو تو نہیں بیٹھنے۔

"فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا أَعْمَرًا" جب حضرت ابو بکر صدیقؓ کھڑے ہو گئے تو سب لوگ حضرت عمرؓ کو چھوڑ کر ان کے پاس جمع ہو گئے اور اس وقت آپ نے یہ خطبہ فرمایا۔

یہ حضرت صدیق اکبرؓ کا مقام و مرتبہ ہی ہے، اللہ اکبر!

یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جس شخص کو محبت زیادہ ہوتی ہے اس کے انتقال کے وقت اس کے اوپر اتنی ہی سکینت اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق اکبرؓ سورۃ النصر یعنی ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ کے نازل ہونے پر تو وہ زار و قطار رورہے ہیں کہ حضور اکرمؐ کے جانے کا وقت آگیا اور جب وصال کا واقعہ پیش آگیا تو یہ الفاظ اور اس قدر صبر و اطمینان کا مظاہرہ!

یہ حضرت صدیق اکبرؓ ہی کہہ سکتے ہیں یعنی عام حالات میں تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور اکرمؐ کا ذکر کر اس طرح کریں، لیکن یہ مقام انہی کا ہے اگر اس موقع پر یوں ڈٹ کر بات نہ کرتے، تو صحابہؓ کے کیجے پہنچ گئے ہوتے۔

حضرت عمرؓ جیسے عظیم انسان! وہ اس قدر مغلوب ہو گئے ہوں جذبات کی وجہ سے، حالانکہ یہ وہ عمر بن خطابؓ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہؐ نے فرمایا کہ اے ابن خطاب! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلنا دیکھتا ہے تو راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے یعنی جن سے شیطان بھاگتا ہے اور جن کی عقل ہمیشہ محبت پر غالب رہی، لیکن اس وقت وہ بھی جذبات کی شدت کی وجہ سے مغلوب ہو گئے۔ ۲۱

اگر حضرت صدیق اکبرؓ اس طرح ڈٹ کر سینہ تاں کریہ بات نہ کرتے تو نجانے کتوں کے عقائد خراب ہو گئے ہوتے اور کتنے دین سے پھر گئے ہوتے۔

روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمرؓ جب کھڑے ہو کر وہاں یہ باتیں کر رہے تھے تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے اور اکثر لوگوں نے انہی کی تائید شروع کر دی۔

مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت عمر اور حضرت مغیرہ بن شعبہ مجھ سے اجازت لیکر مجرہ میں آئے، میں نے آپ کے جسد مبارک پر چادر دالی تھی اسکو

چہرہ انور سے ہٹایا تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ آپ پر غشی یا سکتہ سکتہ طاری ہوا ہے۔

جب زیارت کر کے دونوں باہر جانے لگئے تو دروازے کے قریب حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ واقعی حضورؐ کی وفات ہو گئی ہے۔

حضرت عمرؓ نے ان سے کہا کہ تو فتنہ پرداز آدمی ہے، تم مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو، اس طریقہ سے حضرت عمرؓ نے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کو ڈالا۔ پھر وہی بات کہی کہ جب تک منافقین ختم نہیں ہو جاتے اس وقت آپؐ کی وفات نہیں ہو سکتی۔

اس دوران مزید لوگ بھی جمع ہو گئے تو کچھ حضرت عمرؓ کے ساتھ ہو گئے کہ یہ تھیک کہہ رہے ہیں اور کچھ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے ساتھ ہو گئے۔

روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ حضرت عمرؓ کے ساتھ تھے کہ یہ تھیک کہہ رہے ہیں اور مغیرہ بن شعبہؓ کا غلط کہہ رہے ہیں، تو زیادہ اکثریت ان کے ساتھ رہی۔ ہاں

یہ حالت ہے! جس کا ہم اور آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، اس قیامت کا جو صحابہ کرامؐ پر ثبوت گئی تھی، اس واسطے یہ حضرت صدیق اکبرؓ کا ہی حوصلہ تھا، انہی کا مقام تھا کہ اس حالت میں امت کو سنجالا اور یہ خطبہ فرمایا۔

## صدیق اکبرؓ کا خطبہ

محرہ سے باہر تشریف لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کے بعد!

”من کان منکم یعبد محمدؐ فلما: محمد قد مات“ جو کوئی شخص تم لوگوں میں سے محمدؐ کی پرستش کرتا تھا تو وہ یہ بات غور سے من لے کر محمد اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔

فِي وَعْدِ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ بَاهِنِوسْ عَنْ عَائِلَةِ مَتْصَلًا . . . اذْكُرْتُهُ فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَى الْعَدْبِثِ الثَّامِنِ هُنَاءً دَارَ  
بَنِ الْمَغِيرَةِ وَعُمَرَ . طَلَبَهُ بَعْدَ قُولُهَا ((الْمُجِيَّةُ لِوَهَا: لِجَاءَ - مَرَّ الْمَغِيرَةُ بْنَ شَعْبَةَ لَمَسَأَذْنَانِ فَاذْتَلَتْ لَهُمَا، وَجَدَتِ  
الْحِجَابَ لِنَظَرِ عُمَرَ إِلَيْهِ لِلَّالِ: وَاغْشَيْنَاهُ، ثُمَّ قَامَ، لِلَّامَادُوا مِنَ الْبَلْبَلِ)) قَالَ الْمَغِيرَةُ: يَا عُمَرَ مَاتَ، قَالَ: كَلِمَتَ، بَلْ أَنْتَ  
رَجُلٌ تَعْوِشُكَ فَتَنَهَّى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْوِتُ حَتَّى يَلْفَسِ اللَّهُ الْمَتَّالِفِينَ. ثُمَّ جَاءَ أَبْرَكَ لِرَفْعَتِ الْحِجَابِ، لِنَظَرِ إِلَيْهِ  
لِلَّالِ: إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)) مَسْنَدُ أَحْمَدَ، مَسْنَدُ الصَّدِيقَةِ عَائِلَةُ بَنْتِ الْفَدِيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،  
رَدِّمٌ: ۲۸۵۳۱، وَلِتَحْمِيلِ الْمَأْرِيِّ، ج: ۸، ص: ۱۳۶

”وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَلَمَنِ الْحَيٌّ وَلَا يَمُوتُ“ اور جو کوئی شخص تم لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کی پرستش اور عبادت کرتا تھا وہ سن لے کر بے شک اللہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئی ہے۔ پھر یہ آیات تلاوت فرمائی:

﴿وَمَا مَحْمَدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ إِلَّا خَلَقَ مِنْ قَبْلِهِ  
الرُّسُلُ ۖ أَفَإِنْ تَأْكُلُ أَوْ لَيْلَ الْفَلَاثِيمُ عَلَىٰ  
أَغْقَابِكُمْ ۝ وَمَنْ يَنْقِلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ  
شَيْئًا ۝ وَسَبَّاجُزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾

ترجمہ: اور محمد ایک رسول ہی تو ہیں؛ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم اُلٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اُلٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت کی حالت یوں بیان کرتے ہیں کہ خطبہ کے دوران جب حضرت ابو بکر صدیق رض نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو ”وَاللَّهُ لَكَانَ النَّاسُ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ“ اللہ کی قسم! لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پہلے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اور قرآن میں موجود ہے۔

یعنی اس آیت سے لوگ اس طرح غافل تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ یہ آیت بھی اللہ نے نازل کر رکھی ہے اور قرآن میں موجود ہے۔

”عَتَىٰ تِلَاهَا أَبُو بَكْرَ فَتَلَقَاهَا النَّاسُ مِنْهُ كَلِّهِمْ، فَمَا أَسْمَعَ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا  
يَعْلُمُوهَا“ جب حضرت صدیق اکبر رض نے یہ تلاوت کی تو سب نے آپ رض سے یہ آیت سمجھی، اب جس کو دیکھو یہی آیت پڑھ رہا تھا۔

یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کسی کو یاد نہیں تو سب نے وہی تلاوت کرنی شروع کر دی یا یہ کہ جس آیت میں ان کو تسلی کا سامان ملا تو ہر آدمی نے یہی تلاوت کرنی شروع کر دی۔

حضرت سعید بن میتب رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ "ان عمر قال: والله ما هو إلا ان سمعت ابا بکر تلاها لغيرت حتى ما قلني رجالی" حضرت عمر رض فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں نے یہ آیت میرے علم تھی ہی نہیں۔ میں نے جب حضرت صدیق اکبر رض کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سناتو دہشت زدہ ہو گیا، یہاں تک کہ میرے پاؤں انہ نہیں رہے تھے یعنی اب تک تو اپنے آپ کو تسلی دیئے ہوئے تھا وہ تو خود سے دھوکہ تھا۔

تھا تو دھوکہ! لیکن دھوکہ سے آدمی تسلی میں تھا کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں اور جا بھی نہیں سکتے تیس دو بارہ زندہ ہوں گے لیکن جب حضرت صدیق اکبر رض نے یہ آیت تلاوت کر دی تو پڑھ چلا کہ حقیقتاً ایسا واقعہ پیش آچکا ہے، اب جو صد مردوں کو تھا اچانک وہ صد مرد مجھ پر آن پڑا تو میں دہشت زدہ رہ گیا اور میرے پاؤں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اٹھنیں رہے۔

"وَحْسِي أهْوَيْت إِلَى الْأَرْضِ حِينْ سَمِعْتَهُ تَلَاهَا أَنَّ النَّبِيَّ قَدْ مَاتَ" یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا، جب میں نے حضرت صدیق اکبر رض کی تلاوت کو سنایا اور یقین ہو گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔

یعنی اب تک تو اپنے آپ کو دھوکہ دیئے ہوئے تھے اور مختلف خیالات ذہن میں تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رض کے اس آیت کے تلاوت کرنے بعد یہ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اب وہ صد مرد میرے سامنے بھی کھل گیا اور اس کے نتیجہ میں اپنے آپ پر قابو نہ پاس کا اور زمین پر گر پڑا۔

٢٣٥٥، ٢٣٥٦، ٢٣٥٧—حدیثی عبد اللہ بن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة وابن عباس رض: أن أبا بكر رض قبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد موته. [راجع: ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، وانظر:

[ ۵۷۰۹ ]

ترجمہ: حضرت یاکثیر رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رض نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا بوس لیا۔

٢٣٥٨—حدیثنا علی: حدثنا يحيى و زاد: قالت عائشة: لددناه في مرضه لجعل بشير إلينا أن لا تلدوني، فقلنا: كراهة المريض للدواء للما أفاق قال: ((ألم ألهكم أن تلدوني؟)) قلنا: كراهة المريض للدواء، فقال: ((لا يبقى أحد في البيت إلا لدوانا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم)). رواه ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عن

النبی ﷺ۔ [الظر: ۱۲، ۵۷۱۲، ۲۸۸۲، ۲۸۹۷] [۱]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے حالتِ مرض میں رسول اکرم ﷺ کے مذ میں دواؤالی، تو آپ ﷺ اشارہ سے منع فرمائے تھے کہ مت ڈالو، مگر ہم نے سوچا کہ یہ منع کرنا تو ایسا ہے جیسے: مریض کرتا ہے، لہذا ہم نے پلاہی دی۔ جب آپ ﷺ کو افاقہ ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو مرن نہیں کرتا رہا کہ دوائی مت ڈالو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہمارا خیال تھا کہ آپ ﷺ کا منع کرنا ایسا ہی ہے جیسے عموماً بنا دوائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اچھا اب تم لوگوں کی سزا یہ ہے کہ گھر میں جتنے آدی ہیں سب کے منہ میں میرے سامنے دواؤالی جائے، صرف عباس کو جھوڑ دو کہ وہ دوائی ڈالنے وقت حاضر نہ تھے۔ اس حدیث محدث الرحمٰن بن ابی الزناد نے ہشام سے، اور انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا۔

## لدو د کے پلاۓ جانے کا واقعہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم نے رسول کریم ﷺ کے مرض الوقات میں آپ کو "الد" دیا۔ "الد" یہ لفظ "لدو" سے نکلا ہے اور "الد" کہتے ہیں اس دواء کو جو منہ کے ذریعہ پکائی جائے، یعنی منہ کے ہوتوں کے درمیان سے پکائی جائے اس کو "لدو" کہتے ہیں اور "الددلہ" کا معنی اس طرح منہ میں دواؤالناء۔ ۱

لما وفى صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأداب، باب ثواب الملون فيما يصاحبه من مرض او حزن او لعنة ذلك الشوكه بشاكها، رقم: ۲۵۷۰، وسنن ابى داود، كتاب الجب، باب كهف الرقى، رقم: ۳۹۰۲، وسنن الترمذى، ابواب الصلاة، باب منه، رقم: ۳۶۲۲، وابواب الموعودات، باب، رقم: ۳۳۹۶، وابواب العناقب، باب، رقم: ۳۶۷۲، وسن النسائي، كتاب الامامة، باب صلاة الامام ضعف اجل من رعيته، رقم: ۷۸۶، وكتاب الجنائز، باب شدة الموت، رقم: ۱۸۳۰، وسنن ابى ماجد، كتاب الامة الصلاة والستة لهاها، باب ماجاء فى صلاة رسول الله ﷺ فى مرضه، رقم: ۱۲۲۲، وموطأ مالك، كتاب قصر الصلاة فى السفر، باب جامع الصلاة، رقم: ۸۳، ومسند احمد، مسند عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، رقم: ۱۵۳۱، ومسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، رقم: ۲۳۱۰۳، ۲۳۰۲۱

۲۳۲۶۳، ۲۳۲۱۶، ۲۳۱۹۹

۱) قوله: ((الددلہ)), ای جعلنا فی جانب فمه دواه بغير اختباره، وهذا هو اللدو. عمدۃ القاری، ج: ۱۸، ص:

۱۰۳، وفتح الباری، ج: ۸، ص: ۱۳۷

یہ واقعہ حضور ﷺ کے مرض الوفات کے آغاز کا ہے جو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں شروع ہوا تھا تو جب آپ کو تکلیف ہوئی، تو جو خواتین اور جو اہل بیت وہاں موجود تھے ان کو گمان یہ ہوا کہ حضور ﷺ کو "ذات الجم" کی تکلیف ہے یعنی نموذیاً اور "ذات الجم" کی تکلیف میں عام طور سے لد کیا جاتا تھا، یعنی وہ دواء جو منہ سے ڈالی جاتی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ "لجعل پشیر إلينا أن لا تلدوني" آپ ﷺ میں اشارہ کرتے رہے کہ اس دواء کو مت استعمال کرو۔

"قلنا: كراهة المريض للدواء" تو ہم نے سوچا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ مریض لوگ دواء سے اعراض اور دواء استعمال کرنے سے انکار کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں تو حضور ﷺ بھی جو منع کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے کہ بیماری کی حالت میں لوگ عام طور سے کیا کرتے ہیں۔ ۶

لہذا اس میں ان کی بات ماننی کوئی ضروری نہیں اور یہ اس مریض کی خیرخواہی میں ہوتا ہے تو اس واسطے ہم نے باوجود آپ ﷺ کے منع کرنے کے دوام ڈال دی۔

"للهم أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟" جب آپ ﷺ کو فاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں لد کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟

"قلنا: كراهة المريض للدواء" ہم نے کہا کہ مریض جیسے دواء کو برائحتے ہیں اس طرح آپ نے بات کہی ہے۔

"لا يبقى أحد في البيت إلا لد" تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ گھر میں جتنے آدمی ہیں سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے، "وأنا أظر إلا العباس فلا له لم يشهد كم" یہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے سب کو لد کیا جائے سوائے عباس کے کیونکہ یہ تمہارے ساتھ اس عمل میں شامل نہیں تھے تو اس واسطے ان کو تو یہ کیا جائے باقی جتنے ہیں ان کو تو لد کیا جائے یعنی گھر میں کوئی باقی نہ رہے کہ جس کو لد نہ کیا جائے۔

مطلوب یہ ہے کہ تم سے اس کا بدلہ لوں گا اور سزا دوں گا اور سزا یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو لد کیا جائے چنانچہ جتنے لوگ تھے ان سب کو لد کیا گیا۔

٣٣٥٩ - حدثنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا أزهراً ابن عون، <sup>عین</sup> إبراهيم، عن الأسود قال: ذكر عند عائشة أن النبي ﷺ أوصى إلى على فقالت: من قاله؟ لقدر أية النبي ﷺ وإلى لمسنده إلى صدرى فدعى بالطمث فانحنى فمات لما شعرت، لكيف أوصى إلى على؟ [راجع: ۳۴۳]

ترجمہ: حضرت اسود رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے کسی نے

بات کہی کہ حضور ﷺ نے حضرت علی ﷺ کو اپنے بعد اپنا جانشین اور وصی بنایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کون کہتا ہے؟ میں نے تو خود دیکھا کہ آنحضرت ﷺ میرے سینے سے نیک لگائے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے کلی کرنے کے لئے طشت طلب کیا اور ایک طرف جھک گئے پھر آپ ﷺ انتقال کر گئے اور مجھے بھی معلوم نہ ہوا کہ تو کب حضرت علی ﷺ کو وصی اور جانشین بنادیا؟

## علی ﷺ کو وصی بنانے کے شبہ کا ازالہ

بعض لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے یہ کہا کہ حضور ﷺ نے حضرت علی ﷺ کو اپنا جانشین اور وصی بنایا ہے۔

"او صی إلی علی" یعنی ہے وصی بنانا یعنی حضرت علی ﷺ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر فرمایا۔

تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا "من قاله؟" ایسا کون کہتا ہے؟

"لقد رأیت النبی ﷺ ولی لمسنده إلی صدری" میں نے خود نبی کریم ﷺ کو دیکھا یعنی میں اس وقت خود آپ ﷺ کے پاس موجود تھی، اور اس حالت میں کہ آپ ﷺ نے میرے سینے سے نیک لگائی ہوئی تھی یعنی میں آپ ﷺ کے اتنا قریب موجود تھی۔

"لَدُعَا بِالْطَّسْتَ لِالْخُتْ لِمَاتْ" آپ ﷺ نے طشت منگوایا تھا تھوکنے کے لئے پھر آپ ذہلیے پڑ گئے یعنی ایک طرف کو جھک گئے اور اسی حالت میں آپ ﷺ کی وفات ہو گئی۔

"لَمَا شَعِرَتْ" مجھے پتہ بھی نہیں لگا جس وقت وفات ہوئی یعنی مجھے پتہ بھی نہیں لگا اور آپ ﷺ اس دنیا تشریف لے گئے۔

"فَكَيْفَ أَوْصَى إِلِي عَلِيٍّ؟" تو ایسے وقت میں حضرت علی ﷺ کو کیسے وصی بناسکتے ہیں؟ یعنی اس وقت کہاں موقع تھا کہ کسی کو وصی بناتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقصد یہ تھا کہ وفات تک میں آپ کے پاس رہی اور آپ کا انتقال اس حال میں ہوا کہ میں آپ کو اپنے سینے سے نیک لگا کر بیٹھی تھی تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی ﷺ کے بارے میں وصیت کی ہو اور مجھے اتنا قریب ہونے کے باوجود معلوم نہیں ہے۔

۳۳۶۰ - حدثنا أبو نعيم: حدثنا مالك بن مهول، عن طلحة قال: سألت عبد الله

ابن أبي أولى رضي الله عنهما: أو صي النبي ﷺ فقال: لا، قلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمرها بها؟ قال: أو صي بكتاب الله. [راجع: ۲۷۳۰]

ترجمہ: طلحہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن ابی اویسؓ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہؐ نے وصیت کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ کہتے میں نے کہا پھر لوگوں پر کس طرح وصیت کرنا فرض ہے؟ یا وصیت کرنے کا کیسے حکم دیا گیا؟ حضرت عبد اللہ بن ابی اویسؓ نے فرمایا آپؓ نے کتاب اللہ پر عمل کرنی کی وصیت کی۔

## وصیت نبویؓ؛ قرآن پر عمل

تابعی حضرت طلحہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن ابی اویسؓ سے میں نے پوچھا کہ کیا نبی کریمؓ نے وفات کے وقت کوئی وصیت فرمائی تھی؟

تو حضرت عبد اللہ بن ابی اویسؓ نے کہا کہ نہیں آپؓ نے کوئی وصیت نہیں فرمائی۔

”لَقِيلَتْ كَفَ كَثُبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أَمْرُوا بِهَا؟“ تو حضرت طلحہ رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن کریم میں تو حکم ہے کہ لوگوں پر وصیت کرنا فرض ہے؟

ان کا یہ بات کہنے کا مقصد اس آیت کو دیکھتے ہوئے تھا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿كَجِيبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِّلْوَاجِهَةِ لِلْأَرَدِينَ وَالْأَلْرَبِينَ بِالْمَغْرُوفِ عَخْفًا عَلَى الْمُغْفِقِينَ﴾ ۹۸

ترجمہ: تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آجائے، وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متنی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔

”قَالَ: أَوْصَى بِكِتابِ اللهِ“ حضرت عبد اللہ بن ابی اویسؓ نے حضرت طلحہ رحمہ اللہ کی یہ بات سن کر جواب دیا کہ کتاب اللہ کی وصیت کی ہے یعنی آپؓ نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ ساتھ اشارہ بھی دیا کہ جو ”کتب عليکم“ حکم آیا ہے، وہیں ساتھ میں ”ان ترک خیر الوصیۃ“

اگر کچھ مال چھوڑ کے گیا تو توب وصیت کرے، اگر کوئی مال و اسباب نہیں تو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم ﷺ کے پاس تو مال و اسباب کچھ بھی نہیں تھا، ہاں البتہ قرآن چھوڑ کے گئے ہیں اور مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔

۳۳۶۱ - حدیث الفتنیہ: حدیثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله ﷺ دینارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بفلته البيضاء التي كان يبرك بها وسلامه، وأرضًا جعلها لابن السبيل صدقة. [راجع: ۲۷۳۹]

ترجمہ: طلحہ ابو اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن حارث رض نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ تو دینار چھوڑا تھا نہ کوئی درہم، اور نہ ہی کوئی غلام چھوڑا تھا، ہی کوئی باندی، سوائے اپنے سفید خچر کے جس پر آپ ﷺ سواری کرتے تھے اور اپنے ہتھیاروں کے اور وہ زمین جس سے آپ ﷺ مسافروں یعنی غریب مسلمانوں کو صدقہ دیا کرتے تھے۔

۳۳۶۲ - حدیث سليمان بن حرب: حدیثنا حماد، عن ثابت، عن أنس رض قال: لما نقل الشی ﷺ جمل يعفشاء، فقالت لاطمة: وأكرب أباها، فقال: ((ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم)). فلما ماتت قالت: يا أباها أجياب ربا دعاه، يا أباها من جنة الفردوس مأواه، يا أباها إلى جبريل نسعاه. فلما دلفت لاطمة: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله ﷺ العراب؟

ترجمہ: حضرت انس رض فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ مرض کی زیارتی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روتے ہوئے کہا، ہائے میرے والد کو بہت تکلیف ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے والد کو پھر کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر جب آپ ﷺ کی وفات ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہہ کر دیئیں کہ ہائے میرے والد آپ نے اللہ کے بلاوے کو قبول کر لیا ہے، ہائے میرے والد آپ کا مقام جنت الفردوس ہے، ہائے میرے ابا جان ہم آپ کی وفات کی خبر حضرت جبریل کو سناتے ہیں۔ جب آپ ﷺ کی تدفین ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اے انس! تم لوگوں نے کیسے گوارہ کر لیا کہ اللہ کے رسول ﷺ کوئی میں چھپا دو۔

۱) ولی سنن المسائب، کتاب الجنائز، باب فی البکاء علی المیت، رقم: ۱۸۳۳، وسنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ذکر ولاده ﷺ، رقم: ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ومسند احمد، مسند انس بن مالک رض، رقم: ۱۳۰۳۱، ۱۲۳۳۲، ۱۳۱۱۷، وسنن الدارمی، کتاب دلائل البراءة، باب فی ولادة النبي ﷺ، رقم: ۸۸

## صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حالت

جب آپ ﷺ مرض کی شدت اور تکلیف کی وجہ سے بے چین تھے تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہیں تھیں "واکر ب آبہ" تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا کہ ہائے میرے والد کتنے بے چینی میں ہیں؟

تو اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ "لیس علی ایس کرب بعد هذا الیوم" آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی کرب نہیں ہوگا۔

کیا جملہ ارشاد فرمائے یعنی اس وقت جو کرب رتکلیف ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اگر تم اس بات کی جانب دیکھو کہ ساری عمر امت کی غم میں، امت کے کرب ہی میں گزری اور قربانیوں میں گزری، اب تو وہ منزل آگئی ہے کہ اس کے بعد تمہارے باپ کو کوئی کرب و غم نہیں ہوگا۔

صد شکر کہ آپ پہنچا باب گور جنازہ

لوک بحر محبت کا کنارہ نظر آیا

پھر جب آپ ﷺ کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت یہ الفاظ بے ساختہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے نکل رہے تھے۔

"یا ابناه اجب ربا دعاہ" ہائے میرے ابا جان! ان کے رب نے ان کو پکارا تو ان کی دعوت قبول کر لی۔

"یا ابناه من جنة الفردوس ماواہ" ہائے میرے ابا جان! آپ کا مقام جنت الفردوس ہے، یعنی

اللہ کی اس دعوت اور بلاوے کو قبول کرنے کے بعد آپ کا مقام جنت الفردوس میں ہے۔

"یا ابناه إلى جهنم نعاه" ہائے میرے ابا جان! ہم آپ کی وفات کی خبر جریل کو پہنچاتے ہیں۔

حضور ﷺ کی تدبین کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت انس ﷺ سے کہا "یا انس، اطابت نفوسکم ان تحثوا على رسول الله ﷺ العراب؟" اے انس! کیا تمہارے دل نے اس بات کو کیسے گوارا کر لیا کہ رسول اللہ ﷺ کے اوپر مٹی ڈالو؟ یعنی جذبات کے عالم میں یہ بات فرمائیں تھیں کہ تمہارا دل کیسے آمادہ ہوا اور کس دل سے تم نے رسول اللہ ﷺ کی تدبین کی کہ آپ ﷺ پر مٹی ڈال دی اور پر دخاک کر دیا۔

آپ ﷺ کا انتقال ہو گیا تو اس غم وحزن پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے منہ سے یہ شعر نکلے۔

مَاذَا عَلَى مَنْ نَمَّ ثُمَّ تُرَبَّةً أَخْمَدَ إِنْ لَمْ يَشْمَ مَذْيَ الرِّزْقَانِ غَرَّاً لَهَا

صَبَّثَ عَلَى مَصَانِيبَ لَوْ أَنَّهَا صَبَّثَ عَلَى الْأَيَامِ مِنْزَنَ لَيَالِهَا

جو شخص احمد کی تربت کی مٹی ایک بار سونگھے اس پر لازم ہے کہ پھر کبھی کوئی خوبصورت سونگھے۔

مجھ پر جو مصیبتیں آپ پر اگر وہ دنوں پر پڑتیں تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ۱۷

## (۸۵) باب آخر ما تکلم به تکلم به النبی ﷺ آنحضرت ﷺ کے وفات سے قبل آخری کلام کا بیان

۳۳۶۳ - حدثنا بشر بن محمد: حدثنا عبد الله: قال يووس: قال الزهرى: أخبرنى سعيد بن المسئب فـى رجال من أهل العلم أن عائشة قالت: كان النبـى ﷺ يقول وهو صحيح: ((إله لم يقبض نبـى حتى يرى مقعده من الجنة لم يخـير)، فـلما نزل به ورأـه على فـعلـى غـشـى عـلـيـهـ لـمـ أـفـاقـ، فـأـنـحـضـ بـصـرـهـ إـلـىـ سـقـفـ الـبـيـتـ لـمـ قـالـ: ((الـلـهـمـ الرـفـيقـ الـأـعـلـىـ)). فـقلـتـ: إـذـا لـاـ يـخـتـارـنـاـ، وـعـرـفـتـ أـنـهـ الـحـدـيـثـ الـذـىـ كـانـ يـحـدـثـنـاـ بـهـ وـهـ صـحـيـحـ. قـالـتـ: فـكـانـ آـخـرـ كـلـمـةـ تـكـلـمـ بـهـاـ: ((الـلـهـمـ الرـفـيقـ الـأـعـلـىـ)). [راجع: ۳۳۳۵]

ترجمہ: امام زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب رحمہ اللہ نے مجھ سے کئی اہل علم حضرات کی موجودگی میں بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ آنحضرت ﷺ حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کو جنت میں اس کا شہکارہ اور مقام وکھادیا جاتا ہے اور پھر اسے یہ اختیار دیا جاتا ہے (کہ وہ اگر چاہیں تو دنیا کو پسند کر لیں، اگر چاہیں تو آخرت کو پسند کر لیں)، جب رسول اللہ ﷺ جب بیمار ہوئے تو آپ ﷺ کا سر مبارک میری ران پر تھا، آپ پر غشی طاری ہوئی پھر جب افاق ہوا تو آپ ﷺ نے آنکھیں کھولیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا اے اللہ! مجھے بلند مرتبہ رفقاء میں شامل فرمائے۔ میں سمجھ گئی کہ آپ ﷺ کو اختیار دیا گیا ہے اور آپ ہم لوگوں میں رہنا پسند نہیں فرماتے اور مجھ کو وہ حدیث یاد آگئی جو آپ ﷺ تدرستی میں فرمایا کرتے تھے اور آپ کا آخری کلام بھی یہی تھا کہ اے اللہ! مجھے بلند رفیقوں میں رکھنا۔

## نبی کریم ﷺ کے آخری کلمات آخری کلمہ جو نبی کریم ﷺ کی زبان سے جاری ہوا وہ "اللهم رفيق الاعلى" ہے۔

اس بات سے یہ پتہ چلا کر حدیث میں جو آتا ہے کہ "من کان آخر کلام لا إله إلا الله، دخل الجنة"، جس شخص کا موت سے قبل آخری کلام، بات "لا إله إلا الله" ہو، وہ جنت میں داخل ہو گا۔ ۲۷  
محمد شین علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اس سے خاص کلمہ "لا إله إلا الله" مقصود نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ کا جو بھی ذکر ہو وہ مقصود ہے، تو اللہ جل جلالہ کے کسی بھی ذکر پر خاتمہ ہو اور آخری کلمہ ذکر ہو تو انشاء اللہ وہ فضیلت اس سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس واسطے کہ حضور اکرم ﷺ کی زبان مبارک پر جو الفاظ جاری تھے وہ بھی ذکر اللہ تھا "اللَّهُمَّ لِي الرَّفِيقُ الْأَعْلَى" اے اللہ! میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں۔

## رفیق الأعلى

"رفیق الأعلى" سے کیا مراد ہے؟

لفظ "رفیق" اسم جنس ہے کہ جس میں اس کا اطلاق فرد واحد پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی۔

رفیق سے یہاں کون مراد ہے اس بارے میں علمائے کرام کے مختلف اقوال ہیں:

ایک قول: "رفیق الأعلى" سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام ہیں جو اعلیٰ علیین میں پہنچ چکے ہیں۔

اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں اس دعاء کے یہ الفاظ بھی مذکور ہیں کہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کہ وہی لوگ "رفیق الأعلى" ہیں۔

دوسرًا قول: بعض حضرات کے نزدیک "رفیق الأعلى" سے مراد ملائکہ اعلیٰ اور عالم ملکوت یعنی آسمانوں میں رہنے والے فرشتے وغیرہ ہیں۔

تیسرا قول: بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ "رفیق الأعلى" سے مراد اللہ رب العزت ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پر بھی رفیق کا اطلاق منقول ہے۔ ۲۸

۲۷) مسن ابن داود، باب فی التلقین، رقم: ۳۱۱۶

۲۸) قوله: ((فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى)) قال الجوهري: الرفيق الأعلى الجنّة، وكذا روى عن ابن اسحاق، وتليل: الرفيق اسم جنس يشمل الواحد والملائكة والمراد به الأنبياء (تفہیم)، ومن ذكر في الآية، وقال الخطابي: الرفيق الأعلى هو الصاحب العرالق، وهو هنا بمعنى الرفقاء، يعني: الملائكة، ولآل الكرماني: الظاهر أنه معهود من قوله تعالى: (وَخَنَّ أَوْتَكَ رَفِيلَكَ) (الساعة: ۶۹)  
أى: أدع لى في جملة أهل الجنّة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والحديث المطرد بشهد بذلك، وتليل:  
المراد بالرفيق الأعلى الله سبحانه وتعالى لأن رفيق بمعاده. كما ذكره العنی في: عمدة الفاری، ج: ۱۸، ص: ۹۱

## (۸۶) باب وفاة النبي ﷺ

## آنحضرت ﷺ کی عمر مبارک اور وفات کا تذکرہ

۳۳۶۳، ۳۳۶۵۔ حدثنا أبو لعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة و ابن عباس : أن النبي ﷺ لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشرًا. [الظر: ۲۹۷۸] [۳]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و آنوس سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نبوت کے بعد دس سال کے مظہر میں مقیم رہے، اس عرصہ میں قرآن کریم آپ ﷺ پر برابر نازل ہوتا رہا، پھر بھرت فرماء کہ مدینہ تشریف لائے، اور دس برس قیام فرمایا۔

## نزول قرآن کا زمانہ

اس روایت میں نزول قرآن کے بارے میں جو دس سال کا عرصہ کہا ہے یہ یا تو کبی زندگی کے حیرہ سال میں سے تصریح کر دیا ہے یا تین سال جو فطرت کا عرصہ تھا وہ نجع میں سے نکال دیا تو تسلسل کے ساتھ جو قرآن نازل ہوا وہ دس سال ہوا۔

۳۳۶۶۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ توفى وهو ابن ثلاث وسبعين. قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. [راجع: ۳۵۳۶]

ترجمہ: عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آپ ﷺ نے ۶۳ برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ابن شہاب کا بیان ہے کہ سعید بن مسیب نے بھی اسی طرح کی روایت مجھ سے بیان کی ہے۔

وَلِي صَحْدَقَ مُسْلِمُ، بَابُ كَمِ الْأَمْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةِ وَمَدِينَةِ، رَلْم: ۲۳۹۱، وَسْنَنُ الْعَرْمَلَى، أَبْرَاهِيمُ الْمَنَالِ، بَابُ فِي مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ، وَابْنُ كَمِ كَمِ حَمِنْ بَعْثَ؟ رَلْم: ۳۶۱۲، ۳۶۲۲، بَابُ فِي مَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَابْنُ كَمِ كَمِ حَمِنْ مَاتَ؟ رَلْم: ۳۶۵۰، وَسْنَدُ أَحْمَدَ، سَنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلَّبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، رَلْم: ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۲۰۳۵، ۲۰۱۲، ۱۹۵۳

## رسول اللہ ﷺ کی عمر مبارک

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی کریم ﷺ کی رحلت ہوئی اس وقت آنحضرت ﷺ کی عمر مبارک تر یہ سال تھی۔

یہی جمہور علماء کا قول ہے، زیادہ مشہور صحیح یہی قول ہے۔

جبکہ اس کے علاوہ بعض حضرات کے نزدیک ہنسنہ اور بعض کے نزدیک سانہ سال عمر ہے۔ ۴۵

### (۸۷) باب

#### یہ باب ترجمۃ الباب سے خالی ہے

۳۳۶۔ حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: تولى النبي ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بشلاتين، يعني: صاعغا من شعير. [راجع: ۲۰۶۸]

ترجمہ: اسود رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم ﷺ کی کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرع ایک یہودی (ابو اشم) کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی تمیں صاع ایاج کے عوض میں۔

## فقر کونین ﷺ نہ در ہم چھوڑ اند دینار

اس حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ایک زرہ جس کا نام ذات الفضول تھا، ایک یہودی ابو اشم کے پاس گروئی تھی، اس لئے کہ آپ ﷺ نے اپنے اہل و عیال کے لئے اس یہودی سے تمیں صاع جو یا اس سے کم قرض لیا تھا۔

وَأَكْثَرُ مَا تَبَلَّلَ لِيْ عَمَرَهُ أَنَّهُ خَمْسٌ وَسِرْوَنْ سَدْسُهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَمَارٍ بْنِ أَبِي هُمَارٍ عَنْ أَبِي عَمَاسٍ، ... إِلَيْهِ  
وَلِيَ رَوَى يَحْيَى بْنُ شَمَانَ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ أَبِي عَمَاسٍ ((لَهُ بِمَكَّةَ لِلَّاثْ عَشْرَةَ وَبِعْثَ لِأَرْبَعِينَ وَمَاتَ وَهُوَ أَبْنَانَ لِلَّاثْ  
وَسِرْبَنَ)) وَهُدَا مَوْالِقَ لِقُولِ الْجَمَهُورِ. فَعَلَى الْبَارِيِّ، ج: ۸، ص: ۱۵۱

یہ زرہ ایک سال تک گردی رہی پھر حضرت صدیق اکبر ہے نے اس یہودی کا قرض ادا کر کے آپ کی  
زرہ چھڑایا۔<sup>۲۶</sup>

## (۸۸) باب بعث النبی ﷺ اسامة بن زید رضی اللہ عنہما فی مرضہ الدی توفی فیه

آنحضرت ﷺ کا مرض وفات میں حضرت اسامة بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو  
بغرض جہاد امیر لشکر بنا کر روانہ فرمانے کا بیان

۳۳۶۸ - حدتنا أبو عاصم الطحاک بن مخلد، عن الفضل بن سليمان: حدتنا  
موسی بن عقبة، عن سالم، عن أبيه: اسْعَمْلَ النَّبِيَّ ﷺ أَسَامِةً فَقَالُوا لَهُ، لَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:  
((لَدَّبَلْهَنِي الْكَمْ لَلَّمْ فِي أَسَامِةَ، وَإِلَهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ)). [راجیع: ۳۷۳۰]  
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت اسامة بن  
زید رضی اللہ عنہما کو امیر بنا کر روانہ کیا، تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، لہذا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں جانتا ہوں  
جو کچھ تم لوگ اسامة کے بارے میں کہہ رہے ہو، حالانکہ اسامة مجھ کو سب لوگوں سے زیادہ پسند ہے۔

۳۳۶۹ - حدتنا اسماعیل: حدثنا مالک، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن  
عمرو رضي الله عنهم: أن رسول الله ﷺ بعث بعثا وأمر عليهم أسامه بن زيد لطعن الناس  
لى إمارته لقام رسول الله ﷺ فقال: ((ان تطعنوا على امارته، فقد كنتم تعطون في امارته  
أبيه من قبل، و ايهم الله إن كان لعليها للإمارة و ان كان لمن أحب الناس إلى، وإن هذا المن  
أحب الناس إلى بعده)). [راجیع: ۳۷۳۰]

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے اسامة بن زید رضی اللہ عنہما کی  
امارت میں لشکر روانہ فرمایا تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، تو رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا  
کہ تم اس کی امارت پر اعتراض کرتے ہو، تم اس سے پہلے اس کے باپ پر بھی اعتراض کر چکے ہو، اللہ کی قسم اود

<sup>۲۶</sup> من اراد التفصیل فلیرجع : العام الہاری، کتاب الہیجۃ، باب شراء النبی ﷺ بالنسبة، ج: ۶، ص: ۱۱۰، رقم: ۲۰۶۸

امیر بنائے جانے کے لائق تھا اور مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اسی طرح یہ بھی اب اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔

### سریہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما

۲۶ صفرن ۱۱ ہجری، دو شنبہ کے روز آپ ﷺ نے رومیوں کے مقابلہ کے لئے مقام اپنی کی طرف لشکر کشی کا حکم دیا، یہ وہ مقام ہے، جہاں غزوہ موتہ واقع ہوا اور جس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے والد حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبد اللہ بن رواحہ وغیرہ تم ﷺ شہید ہوئے۔ یہ آخری سریہ تھا جسکے بھینجنے کا حکم رسول اللہ ﷺ نے دیا تھا اور اس کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بنایا۔

یہ لشکر درحقیقت آنحضرت ﷺ حضرت زید بن حارث اور ان کے رفقاء ﷺ کا بدله لینے کے لئے بھیجا چاہتے تھے، غزوہ موتہ، جس کی تفصیل پیچے گزر چکی ہے، اس میں حضرت زید بن حارث، جعفر طیار اور حضرت عبد اللہ بن رواحہ شہید اور دیگر صحابہ کرام ﷺ ہوئے تو اس کے جواب میں حضور اکرم ﷺ نے ایک لشکر بھیجا چاہتے تھے۔

اس لشکر کا امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بنایا تھا، جو اس وقت سترہ سال کے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کو امیر اس لئے بنایا تھا کیونکہ حضرت زید بن حارث ﷺ کے صاحبزادے تھے اور جیسے حضرت زید بن حارث ﷺ حضور اکرم ﷺ کو محبوب تھے، اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بھی بہت محبوب اور عزیز تھے۔

آپ ﷺ کی علالت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، علالت کے باوجود آپ ﷺ نے خود اپنے دست مبارک سے نشان بنا کر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو دیا اور فرمایا کہ:

”اغز باسم الله في سبيل الله، فقاتلوا من كفربالله“

یعنی اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اللہ کا کفر کرنے والوں سے مقابلہ مقاتله کرو۔

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نشان لیکر باہر تشریف لائے اور حضرت بریہہ اسلامی ﷺ کے پرد کیا اور لشکر کو مقام جوف پر جمع فرمایا۔

اس کم عمر امیر کی مگر انی میں آنحضرت ﷺ نے بڑے بڑے اور تجربہ کار مہا جرین اور الصارحابہ کرام ﷺ کو ان کی زیر قیادت صحیح بنے کا ارادہ فرمایا تھا تو اس پر بعض لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کم عمر ہیں اور ان سے زیادہ تجربہ کا رلوگ بھی ہیں جن کو امیر بنایا جا سکتا ہے۔

حضورِ اقدس ﷺ تک ان باتوں کی خبر پہنچی، تو آپ ﷺ خطبہ کرنے کھڑے ہوئے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ "ان ناطعنوا لی امارتہ، فلقد کنتم ناطعون لی امارتہ ابیه من قبل" مجھے خبر ملی ہے کہ تم لوگوں نے اسامہ کی بارے میں با تمس بنا شروع کر دی ہیں اور تمہاری یہ روشن کوئی نئی بات نہیں ہے اور قابل تعبیر نہیں ہے، تم اس سے پہلے اس کے باپ یعنی زید بن حارث ﷺ کی امارت پر بھی اعتراضات کر چکے ہو۔

"وَإِيمَانُهُ أَنْ كَانَ لِعَلِيٍّا لِلإِمَارَةِ" اللہ کی قسم ازید بن حارث امارت کے حق دار شخص تھے۔

"وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبَ النَّاسَ إِلَيْيَ" اور ان لوگوں میں سے تھے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، "وَإِنْ هَذَا لِمَنْ أَحَبَ النَّاسَ إِلَيْ بَعْدِهِ" اسی طرح یہ اسامہ بن زید بھی اب کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے یعنی جیسے زید بن حارث میرے کو محبوب تھے، اسی طرح اسامہ بن زید بھی مجھے بہت محبوب اور عزیز ہے۔

## (۸۹) باب

### یہ باب ترجمۃ الباب سے خالی ہے

۲۳۷۰ - حدیث اعمیخ قال: أخبرنى ابن وهب قال: أخبرنى عمرو، عن ابن أبي حبيب، عن أبي الخبر، عن الصنابحة أله قال له: متى هاجرت؟ قال: خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له: الخبر؟ فقال: دفنا النبي ﷺ منذ خمس. لللت: هل سمعت لى ليلة القدر شيئاً؟ قال: نعم، أخبرنى بلال مؤذن النبي ﷺ أله لى السبع في العشر الاواخر. ۸

ترجمہ: ابو الحیر نے کہا میں نے حضرت منا بھی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ نے کب ہجرت کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم یمن سے کچھ لوگ ہجرت کی نیت کر کے نکلے اور جب ہم جھے مقام پر پہنچے تو ہم کو ایک سوار

آتا ہوا ملا، جب ہم نے اس سے حالات پوچھے تو اس نے کہا کہ ہم نے پانچ دن پہلے نبی کریم ﷺ کو فون کیا ہے۔ راوی ابو الحیرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ نے شبِ قدر کے متعلق کچھ سنائے؟ تو انہوں نے کہا ہاں! مجھے نبی کریم ﷺ کے موزون حضرت بلاں ﷺ نے خبر دی کہ شبِ قدر رمضان کے اخیر عشرہ کی ستائیسیں رات ہوتی ہے۔

### ضابھی رحمہ اللہ کی مدینہ ہجرت

**”عن الصنابھی“** تابیٰ حضرت عبد اللہ بن عسیلہ ضابھی رحمہ اللہ، ان کا تعلق یمن سے تھا ان کے متعلق سنن ترمذی میں تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ ۲۹

ان سے اُنکے شاگرد ابو الحیرہ نے سوال کیا ”معنی ہجرت؟“ کہ آپ نے کب ہجرت کی؟

”قال: خرجنا من الیمن مهاجرین فقدمنا الجحفة فا قبل را کب“ انہوں نے کہا کہ ہم یمن سے ہجرت کر کے آرہے تھے جب جھٹ کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار سامنے سے آرہا تھا یعنی مدینہ کی جانب سے آرہا تھا، ”لقللت له: الخبر؟“ تو میں نے اس سے کہا کوئی خبر ہے تو بتاؤ؟

اس زمانے میں آج کی طرح خبر سانی کے تیز ترین ذرائع تو نہیں تھے اس لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے والے قافلوں کے ذریعہ خبریں پہنچا کرتی تھیں کہ جہاں سے آرہے ہو وہاں حال احوال سناؤ۔

”لقال: دفنا النبي ﷺ منذ خمس“ تو اس گھر سوار نے کہا کہ ہم نے پانچ دن پہلے رسول اللہ ﷺ کی تدفین کی ہے یعنی اپنے ہجرت کے وقت کا بتایا کہ آپ ﷺ کی وفات کے وقت میں نے ہجرت کی تھی۔

آگے پھر ابو الحیرہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ضابھی رحمہ اللہ سے میں نے پوچھا کہ ”هل سمعت لی ليلة القدر شيئاً؟“ کیا لیلۃ القدر یعنی شبِ قدر کے بارے میں آپ نے کوئی حدیث سنی ہے؟

”قال: نعم“ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اس بارے حدیث سنی ہے، ”أخبرنى بلال موزون النبي ﷺ أله لى السبع فى العشر الاواخر“ مجھے حضرت بلاں ﷺ نے جو تصور ﷺ کے موزون تھے یہ خبر سنائی کہ شبِ قدر رمضان کے عشرہ آخرہ کی ساتویں رات ہے یعنی ستائیسیں شب ہے۔

۲۹ والصنابھی: وهو عبد الله بن عسیلہ مصادر المسألة - بالمهملین: ابن علی بن عمال الشامي، واصله من المعن ویہتہ الى صنابع بن راهب بن عامر بطن من مراد، رحل الى النبي ﷺ، لقض وموه بالجحفة، ثم نزل الشام ومات بدمشق. ولم يأتى البخاري سوى هذا الحديث. عمدة الظارى، ج: ۱۸، ص: ۱۱۰.

## (۹۰) باب کم غزا النبی ﷺ؟

آنحضرت ﷺ کے جہاد اور اس کی تعداد کا بیان ہے

۳۳۷۱ - حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا اسرائيل، عن أبي اسحاق قال: سالت زيد بن أرقم ﷺ: کم غزوات مع رسول الله ﷺ؟ قال: سبع عشرة، قلت: کم غزا النبی ﷺ؟ قال: تسعة عشرة. [راجع: ۳۹۳۹]

ترجمہ: ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم ﷺ سے دریافت کیا کہ آپ کو رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ کتنے غزوہات میں شریک ہونے کا موقع ملا؟ انہوں نے کہا کہ ستر ہزار غزوہات میں شرکت کی۔ میں نے پوچھا کہ آپ ﷺ نے کتنے غزوہات میں شرکت فرمائی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ کل انہیں غزوہات میں آپ ﷺ نے شرکت فرمائی۔

۳۳۷۲ - حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا اسرائل، عن أبي اسحاق: حدثنا البراء  
قال: غزوات مع النبي ﷺ خمس عشرة. اے  
ترجمہ: حضرت براء بن عازب ﷺ نے بیان کیا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ پندرہ غزوہات میں شرکت کی ہے۔

۳۳۷۳ - حدثی احمد بن الحسن: حدثنا احمد بن محمد بن حنبل بن هلال:  
حدثنا معتمر بن سليمان، عن كهمس، عن ابن بریدة، عن أبيه قال: غزا مع رسول الله  
ست عشرة غزوة. ۲۲

حجتی کریم ﷺ کے غزوہات کی تعداد پر تفصیل - العام الباری، کتاب المغاری، ج: ۹ - کے شروع میں لاحظ فرمائیں۔

۱۔ ولى مسند احمد، حدیث البراء بن عازب، رقم: ۱۸۵۵۹، ۱۸۵۶۱، ۱۸۵۸۲، ۱۸۶۶۹

۲۔ ولى صحیح مسلم، کتاب الجهاد، والسر، باب عدد غزوہ النبی ﷺ، رقم: ۱۸۱۳، ومسند احمد، حدیث البریدۃ الاسلامی، رقم: ۲۲۹۵۳، ۲۲۹۵۴

ترجمہ حضرت ابن بریدہ رحمہ اللہ نے بیان کی کہ میرے والد حضرت بریدہ رض فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم کے ساتھ سترہ غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے۔

### اللَّهُمَّ اخْتِمْ لَنَا بِالْخَيْرِ

کمل بعوون اللہ تعالیٰ الجزء العاشر  
من "بِإِنْشَاءِ الْبَارِحَى" ویلیہ ان شاء اللہ  
تعالیٰ الجزء أحد عشر : أولہ "كتاب التفسير" ،  
رقم الحديث: ۴۴۷۴ .

لسم اللہ الاعالہ والتوفیق لا تمامہ .  
والصلوۃ والسلام علی خیر خلقہ مسیدا و  
مولانا محمد خاتم النبییت و امام المرسلین  
وقائد الغر المحققین وعلی الله وأصحابہ  
اجمعین وعلی کل من تعلم باحسان  
الی یوم الدین .  
آمين نر آمين، ما درب العالمین .

# (نَعَمُ الْبَارِي) شرح صحيح البخاري

- كتاب بدء الوحى، كتاب الإيمان  
انعام البارى جلد ١:
- كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب الفسل، كتاب الحيض، كتاب التيمم.  
انعام البارى جلد ٢:
- كتاب الصلاة، كتاب موافىت الصلاة، كتاب الأذان.  
انعام البارى جلد ٣:
- كتاب الجمعة، كتاب الخوف، كتاب العيدلين، كتاب الوتر، كتاب الاستسقاء، كتاب الكسوف، كتاب سجود القرآن، كتاب تفصير الصلاة، كتاب التهجد، كتاب فضل الصالقى مسجد مكة والمدينة، كتاب العمل في الصلاة، كتاب السهو، كتاب الجنائز.  
انعام البارى جلد ٤:
- كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب المحرر، كتاب جزاء الصيد،  
كتاب فضائل المدينة، كتاب الصوم، كتاب صلاة التراويح، كتاب فضل ليلة القدر،  
كتاب الاعتكاف.  
انعام البارى جلد ٥:
- فقه المعاملات (حصه اول): كتاب البيوع، كتاب السلم، كتاب الشفعة، كتاب الإجارة، كتاب الحالات، كتاب الكفالات، كتاب الوكالة كتاب الحرف والمزارعة.  
انعام البارى جلد ٦:
- فقه المعاملات (حصه دوم): كتاب المساقاة، كتاب الإسقراض واداء الديون والحجر والتفليس، كتاب الخصومات، كتاب في اللقطة، كتاب المظالم،  
كتاب الشركة، كتاب الرهن، كتاب العق، كتاب المكاتب، كتاب الهبة وفضليها والتحريض عليها، كتاب الشهادات، كتاب الصلح، كتاب الشروط، كتاب الوصايا،  
كتاب الجهاد والسير، كتاب فرض الخمس، كتاب الجزية والمرادعة.  
انعام البارى جلد ٧:
- كتاب بدء الخلق، كتاب احاديث الانبياء، كتاب المناقب، كتاب فضائل اصحاب النبي ﷺ، كتاب مناقب الانصار.  
انعام البارى جلد ٨:
- كتاب المغازي (حصه اول): غزوة العثيرة أو العصيرة - غزوة الحديبية.  
انعام البارى جلد ٩:
- كتاب المغازي (حصه دوم): باب قصة عكل وعرينة - باب كم غزا النبي ﷺ؟  
انعام البارى جلد ١٠:
- كتاب التفسير (حصه اول): سورة الفاتحة - سورة النور  
انعام البارى جلد ١١:
- كتاب التفسير (حصه دوم): سورة الفرقان - سورة الناس، كتاب فضائل القرآن  
انعام البارى جلد ١٢:

## تصانیف

**شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثائی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ**

عدالتی فصلے	☆	العام الباری شرح صحیح البخاری - ۱۲ جلد	☆
فرد کی اصلاح	☆	اندھس میں چند روز	☆
نقشی مقالات	☆	اسلام اور جدید میمیزت و تجارت	☆
تاڑ حضرت عارفی	☆	اسلام اور سیاست حاضرہ	☆
میرے والد میرے شیخ	☆	اسلام اور جدت پسندی	☆
ملکیت زمین اور اس کی تحدید	☆	اصلاح معاشرہ	☆
نشری تقریریں	☆	اصلاحی خطبات	☆
نقوش رفتگان	☆	اصلاحی مواعظ	☆
نفاذ شریعت اور اس کے مسائل	☆	اصلاحی مجلس	☆
نمایز میں مت کے مطابق پڑھئے	☆	احکام اعکاف	☆
ہمارے یا کل مسائل	☆	اکابر دیوبند کیا تھے؟	☆
ہمارا معاشری نظام	☆	آسان نیکیاں	☆
ہمارا تعلیمی نظام	☆	بائل سے قرآن تک	☆
تکملہ فتح الملهم (شرح صحیح مسلم)	☆	بائل کیا ہے؟	☆
ماہی النصرانی؟	☆	پُر نور دعائیں	☆
نظرۃ عابرة حول التعليم الاسلامی	☆	تراث	☆
احکام الذبائح	☆	تقلید کی شرعی حیثیت	☆
بحوث فی قضایا فقیہہ المعاصرہ	☆	جهان دیدہ (بیس ملکوں کا سفرنامہ)	☆
☆ An Introduction to Islamic Finance		حضرت معاویہ اور تاریخی حقوق	☆
☆ The Historic Judgement on Interest		جیت حدیث	☆
☆ The Rules of I'tikaf		حضور ﷺ نے فرمایا (انتخاب حدیث)	☆
☆ The Language of the Friday Khutbah		حکیم الامت کے سیاسی انکار	☆
☆ Discourses on the Islamic way of life		دریں ترنی	☆
☆ Easy good Deeds		دنیا میرے آگے (سفرنامہ)	☆
☆ Sayings of Muhammad ﷺ		دینی مدارس کا نصاہب و نظام	☆
☆ The Legal Status of following a Madhab		ذکر و فخر	☆
☆ Perform Salah Correctly		ضبط ولادت	☆
☆ Contemporary Fatawa		ہمسایت کیا ہے؟	☆
☆ The Authority of Sunnah		علوم القرآن	☆